

ردِ قادریانیت

رسائل

حضرت مولانا مخدوم عبدالرحیم میر پیاکنوئی

حضرت مولانا عبد اللطیف رحمانی

حضرت مولانا ظہور احمد صاحب گبوی

احساب قادریانیت

نہدیدم

عَالَمِي مَحَلِّسْرَ تَحْفِظُ خَمْرَ بَهْوَةٌ

مضبوطی باغ روڈ، ملتان - فون: 4514122

ردِ قادریانیت

رسائل

حضرت مولانا مخدوم ابراهیم میر شاہ کوئی

حضرت مولانا عبد اللطیف رحمنی

حضرت مولانا ظہور احمد صاحب بگوئی

الخطاب قادریانیت

منہدم

علیٰ حَلِیٰ حَفَظْ حَنْدَمْ

مضبوطی باغ روڈ، ملتان - فون: 4514122

بسم الله الرحمن الرحيم!

## عرض مرتب

لیجیئے احصاً بقادیانیت کی انیسویں جلد پیش خدمت ہے۔ اس جلد میں مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کے بارہ (۱۲)، مولانا مفتی عبداللطیف رحمانی کے تین (۳) اور حضرت مولانا ظہور احمد گوئی کا ایک رسالہ یعنی کل سولہ (۱۶) رسائل و کتب شامل ہیں۔ پہلے نمبر پر حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کے رسائل شامل اشاعت ہیں۔

ہمارے مخدوم و مదوح حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی معروف اہل حدیث راہنماء تھے۔ مزاجاً معتدل اور صاحب طبیعت کے انسان تھے۔ ایک اچھے انسان کی تمام خوبیوں کے حامل تھے۔ حق تعالیٰ نے ان کو خلوص دلہیت کی نعمت سے بھر پور نواز اتا۔

تحریر و تبلیغ کی طرح فن مناظرہ کے بھی شناور تھے۔ قرآن و حدیث اور دیگر علوم دینیہ پر بھر پور درسترس رکھتے تھے۔ اپنے زمانہ میں روقادیانیت کے امام تھے۔ آپ نے روقادیانیت پر ”شهادت القرآن فی اثبات حیات عیسیٰ علیہ السلام“ کے نام پر دو حصوں میں کتاب لکھی۔ جو مرزاقادیانی کی زندگی میں آپ نے شائع کی۔ مرزاقادیانی اس کا جواب نہ دے پایا۔ حالانکہ اسے جواب دینے کے لئے لکھا را گیا تھا۔ یہ کتاب نایاب ہو گئی تو اسے پھر قطب الارشاد حضرت شاہ عبدال قادر رائے پوری کے حکم پر جاہد ملت حضرت مولانا محمد علی جalandhri نے مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی شعبہ نشر و اشاعت سے شائع کیا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب امیر سلسلہ عالیہ قادریہ کے شیخ المشائخ حضرت سید نقیس الحسینی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ”میں اس مجلس میں موجود تھا جس مجلس میں حضرت رائے پوری نے حضرت جalandhri سے اس کتاب کی اشاعت کے لئے فرمایا۔ مگر کتاب کا حصول اور طباعت کی اجازت کا مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کے ورثاء سے مرحلہ در پیش تھا۔ چونکہ میرا (سید نقیس الحسینی مدظلہ) آبائی تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ اس لئے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ یہ مرحلے میں طکروں گا۔ چنانچہ علی اصلاح اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سیالکوٹ چل لکا۔ مولانا ابراہیم میر کی نزینہ اولاد نہ تھی۔ آپ کے بھتیجے مولانا محمد عبد القیوم میر (والد ماجدیر و فیسر ساجد

میر) آپ کے وارث تھے۔ ان نے دروازہ پر دستک دی۔ باہر تشریف لائے۔ میں (سید نفیس الحسینی مدظلہ) نے ان سے حضرت رائے پوری کی خواہش کا اظہار کیا۔ کتاب اور اجازت اشاعت طلب کی، وہ ائمہ پاؤں گھر گئے۔ لاہبری یہی سے وہ کتاب اٹھالائے اور یہ وہ نسخہ تھا جس پر مصنف مرحوم (مولانا محمد ابراہیم میر) نے ضروری اضافے و تراجمیں کی تھیں۔ لیکن اس نسخہ کے سرورق پر مصنف مرحوم کا نوٹ لگا تھا۔ ”بد لحاظ بن جاؤ لیکن کتاب کو لاہبری یہی سے مت باہر جانے دو“ یہ نوٹ پڑھ کر کتاب کے حصول کی بابت مایوسی ہوئی۔ لیکن قدرت کا کرم کہ اگلے ہی لمحہ میں میر عبدالقیوم نے فرمایا کہ چھپوانا مطلوب ہے اور حضرت رائے پوری کا حکم ہے۔ یعنی کتاب بھی حاضر اور چھاپنے کی بھی اجازت ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کتاب لے کر خوشی خوشی دو پھر تک لاہور حضرت رائے پوری کی خدمت حاضر ہو گیا۔ حضرت نے اس کارروائی پر بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور دعا میں دیں اور کتاب کی کتابت اپنی نگرانی میں کرانے کا حکم دیا۔ مناظر اسلام، مولانا لال حسین اختر نے اپنے ذاتی نسخہ سے کتابت کی اجازت دی اور مصنف مرحوم کے نسخہ جس میں تراجمیں و اضافے تھے۔ اسے سامنے رکھا گیا۔ جتنی کتابت ہوتی جاتی وہ میر عبدالقیوم صاحب کو بھجوادی جاتی۔ وہ پروف پڑھتے رہے یوں مختصر عرصہ میں کتاب چھپنے کے لئے تیار ہو گئی۔ جسے علمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے شائع کیا اور اس نسخہ کے پھر کئی بار ایڈیشن مجلس نے شائع کئے۔ اب اسے سرگودھا کا ایک الہجہ یہ ادارہ شائع کر رہا ہے۔

اس کتاب کے علاوہ مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کے رد قادیانیت پر کئی رسائل بھی شائع ہوئے۔ کس طرح اپنے دلی درد کا اظہار کیا جائے کہ وہ تمام رسائل میسر نہ آئے۔ بہت ساری لاہبری یوں کوچھ ان ما ربعض حضرات کو خطوط بھی لکھے۔ لیکن سوائے خاموشی کے کوئی جواب نہ ملا۔ دنیا کو کیا ہو گیا ہے۔ فالی اللہ المشتكی!

حضرت مولانا پروفیسر ساجد میر خوب آدمی ہیں۔ عرصہ ہوا اپنے مخدوم مولانا نحمد ابراہیم میر سیالکوٹی کی لاہبری دیکھنے کے لئے اجازت طلب کی۔ کئی بار خطوط کا جواب نہ ملا۔ پھر خود تاریخ مقرر کر کے حاضری کا فقیر نے اعلان پر مشتمل عریضہ لکھا۔ جواب ملا لاہبری بن رہی ہے۔ کچھ عرصہ بعد قابل استفادہ ہو گی۔ چنانچہ چھ ماہ بعد خود جا دھکا۔

پروفیسر صاحب تو موجود نہ تھے۔ ان کے بعد جو صاحب لاہوری سے استفادہ کی اجازت کے مجاز تھے انہوں نے مولانا شناع اللہ امرتسری کے رسائل پر مشتمل احصاب قادیانیت کی جلد دیکھ رکھی تھی۔ یہ نسبت کام کر گئی۔ انہوں نے آنکھوں پر بھایا (افسوس کہ اس محسن کا نام یاد نہیں ہے۔ جس حالت میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھیں) لاہوری سے میں داخلہ کی اجازت مل گئی۔ تمام تحکماوٹ دروازہ سے باہر کہ کرتا زہدم اندر قدم رکھا۔ متعلقة حصہ لاہوری دیکھا تو پھر کرنٹوٹ گئی کہ مکمل رسائل وہاں بھی موجود نہیں تھے۔ جو موجود تھے انہوں نے فون کرادی سے۔ غالباً اس سفر میں حضرت مولانا فقیر اللہ اختر کی ہمراہی کا مجھے شرف حاصل تھا۔ اب سالہاں بعد میر آجائے والے رسائل کی اشاعت کی باری آئی ہے۔ مala يدرك کلہ لا یترك کلہ کے فارمولہ کے تحت ان رسائل کو شامل اشاعت کر رہے ہیں۔ لیکن ”آج میرے دل میں درد سوائے“ کے تحت جان لکھی جا رہی ہے کہ کاش تمام رسائل مل جاتے۔ ہمیں کل بارہ رسائل میر آئے۔

رسالہ فض ختم الدیوۃ پر سلسلہ تبلیغ نمبر ۲۸ درج ہے۔ باقی کہاں؟ ایک رسالہ پر کھلی چھپی نمبر ۲ ہے۔ پہلی چھپی نہیں مل سکی۔ ایک رسالہ ترددید مخالفات مرزاںی نمبر ۲ درج ہے۔ پہلا نمبر اور اس کے بعد والے نہیں سکے۔ مل جاتے تو سونے پر سوہاگہ ہوتا۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد کوئی کرم فرماتا ہے کہ ریکارڈ کو توڑ دے تو وہ بھی کسی جلد میں شائع کر دیں گے۔ ورنہ کم ترک الاولون للآخرین ہی پر معاملہ چھوڑتے ہیں۔ جو بارہ رسائل ملے وہ یہ ہیں۔

۱..... فبہت الذی کفر : یہ فروری ۱۸۹۸ء میں شائع ہوا۔ صدر بازاریاں لکوٹ میں قادیانی عبادت گاہ کے ابو یوسف مبارک قادیانی سے آپ کی گفتگو ہے۔ قادیانی امام کو چاروں شانے چت کیا گیا ہے۔ پڑھیں گے جھوم انھیں گے۔

۲..... الخبر الصحيح عن قبر المسيح : ۱۹۰۸ء میں شائع ہوا۔ مرزا قادیانی کا دعویٰ کہ مسیح علیہ السلام کی قبر سری نگر شہیر میں ہے۔ یہ ایسا دعویٰ بدیہہ البطلان ہے کہ تنہوں ساوی مذاہب کے پیروکاروں میں سے ایک شخص بھی اس کا قائل نہیں۔ مولانا مرحوم نے قرآن و سنت اور حالات و مشاهدات سے اس دعویٰ کو باطل قرار دیا ہے۔ مختصر مگر جامع، ہقامت کہتر و تہمت بہتر، کام صدقائے۔

۳..... قادیانی مذہب بمعضیمہ خلاصہ مسائل قادیانیہ: یہ رسالہ تمبر ۱۹۲۸ء میں شائع ہوا۔ پاکستان بننے کے فوری بعد مرزا محمود قادیانی..... ۳۱ نومبر، ۱۹۲۸ء کو کوئی گیا۔ اس دور میں مرزا محمود پر بلوچستان کو احمدی صوبہ بنانے کا بھوت سوار تھا۔ مرزا محمود کی تکمیل معلم الملکوت نے تھام رکھی تھی وہ کسی کو پڑھے پر ہاتھ نہ دھرنے دیتا تھا۔ تب مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی اسے لگام ڈالنے کے لئے کوئی جادھکے۔ آپ کے بیانات ہوئے، علماء بلوچستان کی درخواست پر ایک رات میں یہ رسالہ مرتب ہوا۔ متذکرہ تاریخوں میں قادیانی جلسہ گاہ میں یہ تقسیم کیا گیا۔ مرزا محمود دم دبا کر بھاگ آیا اور بلوچستان میں قادیانیوں کے پاؤں نہ لکھنے پائے۔ آج بلوچستان میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے دولتی دفاتر اور مدرسہ قائم ہیں۔ جب کہ قادیانیوں کی پورے صوبہ میں ایک بھی عبادت گاہ نہیں۔ اقتدار کا نشہ ہرن ہوا۔ قادیانی بھی عنقاء ہوں گے۔ انشاء اللہ!

۴..... صدائے حق: ایک مسلمان خاتون کی درخواست پر مختصر رسالہ جس میں قادیانیت کے کفر کو واضح کیا ہے، ترتیب دیا۔

۵..... فیصلہ ربانی برمرگ قادیانی: ایڈیشن دوم جو مارچ ۱۹۳۳ء بہار پر لیں ملتان سے شائع ہوا۔ پنجابی اشعار میں مرزا کی موت کی حالت واقعی دیکھائی گئی ہے۔

۶..... ختم نبوت اور مرزا قادیان: مرزا قادیانی کے مزعومہ تحریفات کے جوابات پر مشتمل ہے۔

۷..... فص ختم النبوة بعموم وجامعية الشريعة: قرآن وسنت سے صاحب ختم نبوت کی آفاقی و عالمگیر نبوت کے دلائل کو پیش کر کے قادیانی نظریات کے لغوپر کوآ شکار کیا ہے۔

۸..... کشف الحقائق یعنی روئیداد مناظرات قادیانیہ: مئی ۱۹۳۳ء میں قادیانیوں کے ساتھ سیالکوٹ میں چار مسائل۔ ۱... نکاح محمدی بیگم والی پیش گوئی۔ ۲... حیات حضرت مسیح علیہ السلام۔ ۳... تقدید صدق و کذب مرزا۔ ۴... ختم نبوت بر آنحضرت ﷺ، پر قادیانیوں سے علماء اسلام کے مختلف نشتوں میں مناظرے ہوئے۔ ان علمائے اسلام میں مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی، مولانا لال حسین اختر اور دیگر حضرات شامل تھے۔ ان مناظرات کی جامع رپورٹ ہے۔

۹..... امام زمان، مهدی منتظر، مجدد دوراں: سکندر آباد، حیدر آباد دکن میں جنوری ۱۹۳۷ء میں مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کے متذکرہ تین عنوانات پر بیانات ہوئے۔ جس میں مرزا کے دعویٰ، امامت، مهدویت، مجددیت کے تجھے ادھیرے گئے۔ ان بیانات کو انہم اہل حدیث نے شائع کیا۔

۱۰..... کھلی چٹھی نمبر ۲: معروف قادریانی مناظر غلام رسول راجیکی کے نام مولانا میر ابراہیم صاحب کا مکتوب مفتوح۔

۱۱..... تردید مغالطات مرزا سیہ نمبر ۲: ایک قادریانی مناظر کے جواب میں یہ رسالہ تحریر فرمایا۔

۱۲..... مسئلہ ختم نبوت: مولانا سیالکوٹی کی تفسیر تبصیر الرحمن سے نساء: ۳۲ کی تفسیر میں مسئلہ ختم نبوت پر مولانا کے تفسیری نوٹ کو مولانا عبدالجید سوہروی نے پمپلفٹ کی شکل میں شائع کیا۔

احساب قادریانیت کی اس انیسویں جلد میں حضرت مولانا مفتی عبداللطیف صاحب رحمانی کے تین رسائل شامل اشاعت ہیں۔ حضرت مولانا مفتی عبداللطیف رحمانی، حضرت مولانا علی مونگیری، بانی خانقاہ رحمانیہ مونگیر شریف کے دست و بازو اور عاشق صادق تھے۔ اس وجہ سے اپنے نام کے ساتھ انہوں نے رحمانی کا لاحقة جزو نام بنالیا تھا۔ ۱... اغلاط ماجدیہ۔ ۲... متذکرہ یونس علیہ السلام۔ ۳... چشمہ ہدایت کے علاوہ رد قادریانیت پر مزید رسائل پر اطلاع ہوتا ہے میں بھی سرفراز فرمایا آسکا۔ اس جلد کی اشاعت کے بعد کسی کرم فرما کو مزید رسائل پر اطلاع ہوتا ہے میں بھی سرفراز فرمایا جائے تاکہ کسی اور جلد میں ان کو شامل کر کے مرحوم کے رخمات قلم کو حفظ کیا جاسکے۔  
وہ تین رسائل یہ ہیں۔

۱۳..... اغلاط ماجدیہ: صوبہ بہار میں قادریانی جماعت کا مبلغ عبدالماجد قادریانی تھا۔ اس نے مرزا قادریانی اور قادریانیت کی حمایت میں ایک رسالہ "القاء" نای لکھا۔ حضرت مولانا مفتی عبداللطیف رحمانی نے اس رسالہ میں قادریانی رسالہ القاء کے ایک ورق میں بتیں غلطیاں ثابت کر دیں۔ گویا عبدالماجد قادریانی کی بتیں نکال دی۔ بہار میں قادریانی جماعت کا مایہ ناز مبلغ نے مدت کی محنت اور دیدہ ریزی کے بعد اہل اسلام کے مقابلہ میں ایک رسالہ لکھا اور اس کے ایک ورق میں بتیں غلطیاں اس سے سرزد ہوئی۔ ان تفصیلات پر مشتمل یہ رسالہ ہے۔

۱۲..... تذکرہ سیدنا یونس علیہ السلام: متبی پنجاب مرزا غلام احمد قادریانی نے متعدد پیش گوئیاں کیں۔ جو پوری نہ ہوئیں۔ مرزا غلام احمد قادریانی نے اپنے کذب اور افتراء کی خوبست دو۔ کرنے کے لئے جواب گھڑا کہ انبیاء علیہم السلام کی پیش گوئیاں بھی پوری نہ ہوئیں۔ غلام احمد قادریانی کا انبیاء علیہم السلام پر یہ صریح الزام اور اتهام سراسر قرآن و سنت کے منانی تھا۔ جن انبیاء علیہم السلام پر مرزا قادریانی نے الزام لگایا ان میں ایک نبی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام بھی ہیں کہ معاذ اللہ ان کی پیشیں گوئی پوری نہ ہوئی۔ اس رسالہ (تذکرہ سیدنا یونس علیہ السلام) میں نہایت صفائی کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے کہ مرزا قادریانی کا یہ اتهام دروغ بے فروغ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی ایسی پیش گوئی نہ کی جو پوری نہ ہوئی ہو۔

۱۵..... چشمہ ہدایت: (معجم قادریانی پر اقراری ڈگریاں) اس رسالہ میں مرزا قادریانی کی کتب سے اسے جھوٹا ثابت کیا گیا ہے۔

۱۶..... احتساب قادریانیت کی اس جلد میں آخری کتاب ”برق آسمانی برخربن قادریانی“ شامل اشاعت ہے۔ یہ کتاب حضرت مولانا ظہور احمد گبوئی کے رشحات قلم کی مرہون منت ہے۔ حضرت مولانا ظہور احمد گبوئی کی پیدائش ۱۹۰۰ء میں اور وفات ۱۹۲۵ء میں ہے۔ بھیرہ ضلع سرگودھا میں گبوئی خاندان بہت بڑا علمی خاندان ہے۔ اس کے اکابر ہمیشہ علم و فضل کا نشان تھے۔ مولانا ظہور احمد گبوئی کاروباری رشتہ خانقاہ سراجیہ کندیاں کے بانی حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان سے تھا۔ حضرت مولانا نے اپنے رسالہ ماہنامہ شمس الاسلام بھیرہ میں مرزا قادریانی کے رو میں اعمال نامہ مرزا کے نام سے لکھنا شروع کیا۔

۱۹۳۲ء میں مرزا محمود قادریانی کی ہدایت پر ضلع شاہ پور (اب یہ ضلع سرگودھا میں شامل ہے) سرگودھا کے علاقے میں قادریانی مبلغین کی ٹیکم کو بھیجا۔ مولانا ظہور احمد گبوئی اپنی جماعت حزب الانتصار بھیرہ کی جانب سے علماء کرام کی ایک جماعت لے کر قادریانیوں کے مقابلہ کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔ قادریانیوں کو کہیں نہ نکلنے دیا۔ ان کے ناک میں دم کر دیا۔ ان قادریانیوں سے بھیرہ، سلانوالی، چک ۲۷ جنوبی میں مناظرے بھی ہوئے۔ قادریانی گروہ نے منہ کی کھائی۔ پوری روئیدا اس کتاب میں موجود ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ان مناظروں اور قادریانی تاریخ پوکھیرے نے کی جدوجہد میں آپ کے دست و لیڈ و حضرت مولانا عبدالرحمٰن میاں اویٰ تھے۔ جوان دنوں حزب

الانصار کے ناظم تبلیغ تھے۔ مولانا عبدالرحمن میانوی مجلس تحفظ ختم بوت کے بانیوں میں سے تھے۔ اسی طرح مناظرین میں حضرت مولانا لال حسینؒ اختر بھی تھے۔ یہ بھی مجلس کے نہ صرف بانی رہنماؤں میں سے تھے بلکہ مجلس کے چوتھے امیر مرکز یہ بھی منتخب ہوئے۔

اس کتاب میں مولانا ظہور احمد گبویؒ، مولانا لال حسینؒ اختر، مولانا مفتی محمد شفیع سرگودھویؒ، حضرت مولانا محمد اسماعیل دامانی خوشابی اور دوسرے اکابر کی جہاد آخیں دو ماہ کی جدو جہد کی سرگذشت قلببند کی گئی ہے۔ مولانا ظہور احمد گبویؒ نے اس روئیداً تو تحریر فرمایا اور یوں اعمال نامہ مرزا اور مناظروں و جلوسوں کی روئیداً پر مشتمل یہ کتاب ہے۔

مولانا نے مناظروں کی روئیداً پہلے حصہ میں بیان فرمادی اور ان مناظروں، قادیانیوں کے اعتراضات اور مسلمانوں کے جوابات و دلائل کو بیجا ابواب قائم کر کے دوسرے حصہ میں شائع کیا۔ اس کتاب کے دوسرے حصہ میں باب اول حیات مسح علیہ السلام شائع ہوا۔ اس میں حیات مسح علیہ السلام پر قرآن و سنت سے چالیس دلائل بیان کئے اور ان پر قادیانی اعتراضات کے جوابات تحریر فرمائے۔

افسوں کہ دوسرے باب ختم بوت اور تیسرا باب کذب قادیانی اس کتاب میں شامل نہیں۔ نہ معلوم کہ آپ تحریر نہ کر پائے۔ یا یہ کہ وہ اشاعت پذیر نہ ہوئے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا اس لئے کہ شش الاسلام بھیرہ کے فائل چھان مارے۔ پوری لاہوری یونی ٹکھاں ڈالی ان کے خاندان کے حضرات کے دروازہ پر بھیرہ میں عالمی مجلس کے فاضل مبلغ مولانا عبد الحکیم نعمانی تشریف لے گئے۔ مگر کوئی مسودہ نہیں۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ جتنا لکھا وہ شائع ہو گیا جو ہمارے مشعل راہ ہے۔ باقی دو باب نہ لکھے سکے، زندگی نے وفا نہ کی۔ اتنی ایمان پر ور جدو جہدان حضرات کا ہی حصہ تھی۔ پڑھئے اور سرد ہنئے، میں نے احتساب قادیانیت کی کسی جلد میں کسی خاص کتاب کو پڑھنے کے لئے عندر پہنچ دیا۔ اس لئے کہ وہ سب پڑھنے کی چیزیں ہیں۔ البتہ مناظروں کی روئیداً اور قادیانیوں کے تعاقب کی کہانی جو اس کتاب میں ہے، پڑھنے کے لئے مناظرین و مبلغین سے ضرور درخواست کرتا ہوں۔ چلو آپ پڑھیں نہ پڑھیں میں اسی پر اجازت چاہتا ہوں۔

خاکپائے! مولانا حافظ محمد ابراهیم میر سیا لکوئی  
مولانا مفتی عبد اللطیف رحمانی، مولانا ظہور احمد گبویؒ<sup>۱</sup>  
العارض! فقیر اللہ و سایا، ۱۳۰۷ء

بسم الله الرحمن الرحيم

## اجمالي فهرست ..... احساب قاديانیت جلد ۱۹

رقم	عنوان	عرض مرتب
۱۱	حضرت مولانا حافظ محمد ابراهیم میرسیاکلوئی	..... فہٹ الذی کفر
		..... الخبر الصحيح
۲۱	"	عن القبر المسيح عليه السلام
۳۹	"	بعض صور جات خلاصہ مسائل قادیانیہ
۵۵	"	صدائے حق
۶۷	"	فیصلہ ربانی برمرگ قادیانی
۷۷	"	ختم نبوت اور مرزاۓ قادیانی
		..... فص خاتم النبوة
۸۷	"	بعلوم و جامعۃ الشریعۃ
۱۰۷	"	کشف الحقائق روئیدا مناظرات قادیانیہ
۱۸۷	"	امام زمان، مجددی منتظر، مجدد دوڑاں
۲۵۱	"	کھلی پنچھی نمبر ۲
۲۶۵	"	تردید مغالطات مرزا نمبر ۲
۲۷۱	"	مسئلہ ختم نبوت
۲۸۳	حضرت مولانا مفتی عبداللطیف رحمانی	..... اغلاط ماجدیہ
۳۱۵	"	تذکرہ سیدنا یوس علیہ السلام
۳۲۷	"	چشم بہایت
۳۹۱	حضرت مولانا ظہور احمد گوئی	..... برق آسمانی برخمن قادیانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ

# فِيهِتُ الذِّي كَفَرَ

(ابو یوسف مبارک علی قادریانی سے مناظرہ)

مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوئی

## فِيهِتِ الَّذِي كَفَرَ

ابویوسف مبارک علی قادریانی صدر بازار اسیا کلکٹ سے اتفاقی  
مباحثہ تاریخ ۲ رشوال المکرم ۱۳۱۵ھ برابطاق ۲۲ فروری ۱۸۹۸ء

رقم ..... الہ سنت، الہ تشیع کو کیوں بر جانتے ہیں؟

صدر بازاری ..... چونکہ الہ تشیع، صحابہ کے شان میں گتابخ ہیں۔ اس لئے الہ سنت جوان کے مقیمین یہں ان کو حکم ”وَمِنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ وَهُمُ الْفَاسِقُونَ (النور: ۵۰)“ فاسق اعتقد کرتے ہیں۔

رقم ..... چند روز سے کچھ آپاں بنیاتِ میرے دل میں آ رہی ہیں جن سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ الہ تشیع جادہ ہدایت سے برا حل بعید ہیں۔ امید ہے کہ آپ بھی سن کر ان پر صاد کریں گے اور وہ یہ ہیں۔

”فَإِنْ أَمْنَوْا بِمِثْلِ مَا أَمْنَتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تُولُوا فَإِنْبَا هُمْ فِي شَقَاقٍ (بقرہ: ۱۳۷)“ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی صحت کے لئے صحابہؓ کی موافقت کو لازم شہریا ہے۔ پس جو کوئی ان محبوبین رب العالمین سے بغض و عداوت رکھے اس کا ایمان، کہاں اور اسلام کہاں۔

”وَمَنْ يَشَاقِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ

الْمُؤْمِنِينَ نُولَهُ مَا تَوَلَّ وَنَصْلُهُ جَهَنَّمُ وَسَأْلُهُ مَصِيرًا (نساء: ۱۱۵)“

اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب نبی ﷺ کی اتباع کو ایسا لازمی کر دیا کہ درصورت خلاف ورزی باب ہدایت مسدود ہو جاتا ہے اور جہنم (جس کے عذاب سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے) جگد ہوتی ہے۔

”وَالسَّابِقُونَ إِلَّا وَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِالْحَسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (توبہ: ۱۰۰)“ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اپنی رضا ان کے اتباع کے لئے خاص کر لی۔ کیونکہ جب ان کی اتباع میں بحرضوان الہی موجود زن ہوتا ہے تو ان کی مخالفت میں غصب الہی جوش میں آتا ہے۔

”وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنَوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لِيُسْتَخْلِفُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَمْكُنَنْ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيَبْدُلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ إِنَّمَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشَرِّكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدِ

ذالک فاؤلئک هم الفاسقون (نور: ۵۰) اس آیت میں اللہ جل شانہ نے صحابہ کے ہاتھوں سے اس پاک دین کو پا کرنے کا وعدہ دیا ہے اور جو کوئی اس پیچے بھی کفر کریں تو وہ پر لے درجہ کے نافرمان ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ ہمارا دین عقائد و اعمال کا مجموعہ ہے یہ پس جو نا عقیدہ کہ ان کے عہد سعادت مہد میں رانج و شائع نہیں ہوا وہ مستحدث ہے۔ ولہذا غیر مقبول!

ان آیات اربعہ سے ایک اور بڑا عجیب نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں صحابہ کے نقش قدم پر چلانا چاہئے۔ خصوصاً ایمانیات و معتقدات میں۔

صدر بازاری ..... (بڑی خوشی سے) وہ جی عجیب استدلال ہیں۔ خوب آپ انہیں مہر نیروز کی طرح مکان مرتفع پر چڑھ کر بیان کریں کسی کو مجال و مزون نہ ہوگی۔

اس کے بعد کچھ دیر تک خاموشی رہی بعدش صدر بازاری نے مجھ سے قادیانی کی نسبت کچھ سلسلہ گفتگو ہلانا چاہا۔ جس پر میں نے کہا کہ میں یہاں بحث کے ارادہ پر نہیں آیا۔ اتفاقاً آگیا ہوں۔ اس لئے آپ مجھے معاف فرمائیں اور نیز بحث سے خدا و تعصّب برداشت ہے۔ لہذا مناسب بھی نہیں۔ ہاں اگر آپ چاہیں تو کچھ دلائل نزول نبی اللہ، مسیح بن مریم علیہ السلام کے جو اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو سمجھائے ہیں۔ آپ پر پیش کرتا ہوں۔ آپ بوقت فراغت اس پر اپنے فکر سا و نبر کے بعد مجھ کو مطلع کرنا۔

صدر بازاری ..... اچھا تو وہ مجھ کو لکھا دو۔

رقم ..... لکھنے کی کچھ حاجت نہیں۔ آپ ان کو یاد رکھ سکتے ہیں۔

صدر بازاری ..... نہیں جی ضرور لکھا دو۔ لکھی بات بوقت تدرستخضرا رہتی ہے۔

رقم ..... اچھا لکھنے! پہلی دلیل تو وہی اتباع صحابہ ہے۔ جو آپ بڑی خوشی سے مان چکے ہیں۔ اگر صحابہ مسیح نبی اللہ مذکور فی القرآن کے نزول کو مانتے تھے تو بس ہمیں بھی وہی مانا چاہئے اور اگر کسی مثلیں کے منتظر تھے تو اس کی دلیل درکار ہے۔

صدر بازاری جیران رہ گیا اور بڑی تندی اور چالاکی سے کہنے لگا کہ نہیں میں نے تو اجہا طور پر کہا تھا۔ تفصیلی طور پر نہیں مانا تھا۔ اگر مجھے آپ کا یہ پیچ پہلے معلوم ہوتا تو میں کچھ مستثنیات بیان کر لیتا۔ اچھا تینی وہی پھیر میں لا کر مجھے قابو کرنا چاہتے ہو۔ مگر میں بھی تمہارے قابو نہیں آنے کا۔ کبھی ادھر دلتا مار کر نکل جاتا ہوں کبھی ادھر، اور پیروں سے اشارہ بھی کیا۔

رقم ..... بڑے افسوس سے عرض کرتا ہوں کہ آپ بات کر کے پھر پھر جاتے ہیں۔ شان الہ علم سے بہت بعيد ہے، بازاری لوگ بھی تو اسے عادت قیحہ جانتے ہیں۔ معلوم نہیں آپ کو اس پھر جانے کی قیامت میں کیوں تردد ہے اور نیز یہ عرض ہے کہ آپ اپنی مثال تو اچھی بیان کریں۔ ایسی بری مثالیں نہیں چاہئیں۔

صدر بازاری نے بھکم۔

چو جحت نماند جفا جوئے را

ب پر خاش درہم نہد روئے را

اپنی امامت کے گھنٹہ میں آ کر مجھے گرم گرم باتیں کیں تاکہ میں دب کر ٹل جاؤں۔ مگر چونکہ صید دردام کا معاملہ تھا۔ میں نے نہایت ہی لیت سے کیا اچھا اگر آپ ایسے ہی مغلوب الغضب ہیں تو مجھے معاف فرمائیں۔ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ بحث سے فائدہ کوئی معتد بہانہیں ہوا کرتا۔ آپ بعد تبر و تکر کے مجھے اطلاع دیں۔

صدر بازاری..... نہیں میں غصے نہیں ہوتا۔ میری طبیعت جوش والی ہے۔ کلام جوش سے کرتا ہوں۔ آپ پر خفگی کی وجہ سے نہیں آپ جب تک مسیح علیہ السلام کا صعود الی السماء بجسده العنصری ثابت نہ کریں تب تک نزول پر بحث نہیں کر سکتے۔ کیونکہ جب مسیح علیہ السلام کی حیات ہی ثابت نہ ہو تو ان کا نزول کس طرح متصور ہو سکتا ہے اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں تو بس مثیل کا آنا ثابت ہو گیا۔ کیونکہ فوت شدہ پھر نہیں آتے۔

رقم..... اس مسئلہ میں نزول اصل ہے نہ کہ فرع اور حیات مماثل فرع ہے نہ اصل۔ اس لئے اصل یعنی نزول پر بحث کرنی چاہئے۔

صدر بازاری..... جب صعود ہی ثابت نہیں تو نزول کس طرح ثابت ہو گیا۔

رقم..... مسیح علیہ السلام کا فوت ہو کر بھی دنیا میں آنا تحت قدرت الہی داخل ہے یا نہیں؟۔

صدر بازاری نے جواب بلا غم اپنے پیر و مرشد قادریانی کی طرح نہ دیا اور ایک لمبی تقریر اس مضمون کی شروع کر دی کہ یہ سنت اللہ کے خلاف ہے۔ وہ تقریر میں اول ہماری آخرا چونکہ میرے سوال کا جواب نہ تھی۔ اس لئے میں نے سختی چاہی۔ مگر وہ بے تکی ہائکتے گئے۔ بعدش میں نے کہا کہ میں نے سنت اللہ سے سوال نہیں کیا میں تو قدرت اللہ پوچھتا ہوں۔ آپ اپنی تقریر دل پذیر والپس لیوں اور میرے سوال کا جواب دیویں۔ اس پر ایک اور تقریر شروع کر دی۔ پھر بھی میں نے منع کیا۔ پھر بازنہ آئے اور وعدہ کیا کہ ایک منٹ تک انتظار کرو جواب آ جاتا ہے۔ قریباً چھ منٹ تک صبر سے بیٹھا رہا۔ ہرگز جواب نہ ملا پر نہ ملا اور سمجھا کہ اب اس کا جواب تو بے تقلید مسیح خود دیں گے نہیں۔ لہذا ان کو کسی اور ڈھنگ پر چڑھانا چاہئے۔

رقم..... اختلاف مسئلہ امکان نظری کے وقت غالباً آپ امکان ہی کے قابل ہوں گے۔

صدر بازاری..... ہاں۔

رقم ..... خلق نظیر بنی پراللہ ذوالجلال قادر تھا اور مسح علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھینے سے کیا اب عاجز ہو گیا ہے۔

صدر بازاری ..... امکان ہی مانتے تھے۔ یہ تو نہیں کہ آئے گا بھی ضرور۔

رقم ..... نظیر بنی کا نہ آنے عبارۃ و خاتم النبیین ثابت ہے۔ اگر مسح علیہ السلام کے دوبارہ نہ آنے پر بھی کوئی ایسی دلیل ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں۔

صدر بازاری ..... ہاں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”وَحَرَامٌ عَلَى قُرْيَةٍ أَهْلَكَنَا هَا إِنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (انبیاء: ۹۵)“ اور ”اللَّهُ يَتَوَفَّ إِلَيْهِ الْأَنفُسُ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَا مَهَا فِيمَسْكُ التَّقْضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسَلُ إِلَيْهِ أَخْرَى إِلَى أَجْلِ مَسْمَى (زمر: ۴۲)“ ان آئیوں سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ مسح علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے۔

رقم ..... آپ کتب اصول مطالعہ کریں کیا عبارۃ انص اسے ہی کہتے ہیں۔ ذرا سوچیں تو سہی۔

صدر بازاری ..... یہ آئیتیں عام ہیں۔ لہذا مسح بھی آن میں داخل ہیں۔

رقم ..... عام اپنے افراد میں مفید ظن ہوا کرتا ہے۔ ”وَإِنَّ الظُّنُنَ لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (النجم: ۲۸)“ لہذا آپ مسح علیہ السلام کو یقینی طور پر ان میں داخل نہیں کر سکتے اور بحکم وما من عام الا وَخَصْ مِنْهُ الْبَعْضُ مُمْكِنٌ ہے کہ مسح علیہ السلام اس آیت سے مستثنی ہوں۔

صدر بازاری ..... اچھا ہی نہیں تو آیہ ”يَعِيسَى انِي مَتَوْفِيكَ (آل عمران: ۵۵)“ تو عبارۃ انص ہی ہے۔ لوایب تو کچھ محل زراع ہی نہیں۔ و خاتم النبیین میں بھی خاتم اسم فاعل کا صیغہ ہے اور انی متوفیک میں بھی متوفی اسم فاعل کا۔

رقم ..... خاتم اسم فاعل کا صیغہ نہیں ہے۔ ذرا ہوش سے بولیں۔

صدر بازاری نے اس پر ضد کی اور قرآن شریف منگوانا چاہا۔ اس پر میں نے کہا کہ مجھے دھیان رکھئے۔ میں نے خوب واضح طور پر پڑھا۔ خاتم فاعل کیا ان دونوں کا ایک ہی وزن ہے؟۔ پھر بھی سن کر حیرت نہ اڑی۔ میں نے مکر ربا اور بلند پڑھا۔ خاتم فاعل تب جا کر ہوش کھلی اور کہنے لگئے کہ ہاں ہاں یہ اس کا صیغہ نہیں ہے۔ کچھ اور ہو گا۔ چونکہ اس میں فاعل کا مسئلہ خارج از بحث تھا۔ اس لئے میں اس کی طرف متوجہ ہوا، اور اصل مطلب کی طرف رخ کیا اور کہا آیتے یا عیسیٰ انی متوفیک دوبارہ نہ آنے کے لئے کوئی سی بھی دلیل نہیں ہو سکتی۔ چہ جائے کہ عبارۃ النص ہو آپ ذرا ہوش سے بولا کریں۔ کیسی بے تکلی ہاں ک دیتے ہیں۔ کیا عبارۃ انص اسی کو کہتے ہیں کہ مدعا کا اس میں ذکر نہ ہو۔

صدر بازاری ..... (سخت ناچار ہو کر) اچھا اُر میں تک علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا امکان مان لوں تو اس میں تمہارا کیا مطلب ہے کہتے۔

رقم ..... (بڑی بے پرواہی سے) کچھ نہیں آپ پازینوی مان لیویں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اقرار کرنے میں آپ کا کیا بگزتا ہے اور انکار کرنے سے کیا سخوت تھا ہے۔ آپ صاف طور پر کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہاں مسح علیہ السلام کا فوت ہو کر بھی دنیا میں آنا تھت قدرت الہی داخل ہے۔

صدر بازاری ..... اچھا میں مانتا ہوں کہ مسح علیہ السلام کا فوت ہو کر بھی دنیا میں آنا دائرہ امکان تے باہر نہیں۔ اچھا کہتے کہا کہنا چاہتے ہیں۔

رقم ..... الحمد للہ! جب مسح علیہ السلام فوت ہو کر بھی دنیا میں آسکتے ہیں تو پہلے مند حیات ممات پر گفتگو کرنے کی کیا ضرورت بفرض حال اگر ثابت ہو بھی گیا کہ مسح علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تو پھر بھی بصورت امکان رجوع جو آپ مان چکے ہیں۔ نزول ہی کی طرف رخ کرنا پڑے گا۔ اس لئے پہلے ہی نزول پر بحث کیوں نہ ہو۔ اگر آنے والا مسح علیہ السلام مثل ثابت ہو تو مہاشت کی شرائط دیکھ جائیں گے۔ ورنہ وہی نبی اللہ مسح بن مریم علیہ السلام ہی نازل ہوں گے۔ جس پر کہ اس امت مرحومہ کا اجماع منعقد ہو چکا ہے اور جو جمہور مسلمین کا عقیدہ ہے توارث میں بدء الاسلام الی یوم نہاد اچلا آیا ہے۔

اتنے میں نماز عصر کا وقت آ گیا۔ چونکہ مرا نیوں کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ اس لئے میں نے خود علیحدہ جماعت کر کر نماز پڑھی۔ بعد ادائے صلوٰۃ صدر بازاری نے مجھے اپنی بینچک میں بلوایا۔ جس پر میں نے بہ سبب روزہ دار ہونے کے رخصت کی درخواست کی۔ مگر صدر بازاری نے نہ مانا اور گفتگو شروع ہوئی۔

صدر بازاری ..... اچھا جی چلتے۔

رقم ..... بس وہی سوال ہے کہ صحابہؓ کا ایمان مسح نبی اللہ کے نزول پر تھا۔ یا وہ کسی مثل کے منتظر تھے۔ جو کچھ کتب معتبرہ ہے ثابت ہوا اس پر فصلہ۔

صدر بازاری ..... اچھا میں تزلیل نزول کی بحث کو تسلیم کرتا ہوں۔ مگر اس شرط پر کہ آپ مسح بن مریم علیہ السلام کا نزول احادیث صحیح سے ثابت کریں۔

رقم ..... انشاء اللہ تعالیٰ ثابت کروں گا اور یہ میر افرض ہے۔ آپ اپنا دعوے مہاشت ثابت کریں۔

صدر بازاری ..... (بخاری نکال کر) حدیث کیف انتم اذ انزل ابن مریم فیکم واما مکم منکم سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل مسح نہیں آئیں گے۔ کوئی امتی ہی ان کا مثل ہو کر آئے گا۔

رقم ..... میر اس وال صحابہؓ کے نہب کی بابت تھا۔ آپ نے حدیث مرفوع نکال دی ہے۔ جس سے کسی صحابیؓ کا نہب بھی ثابت نہیں ہوتا۔

صدر بازاری ..... جب رسول اللہ ﷺ کے کلام مبارک کا مفہوم یہ ہے تو صحابہؓ کا ایمان بھی  
سہی ہو گا نہ کہ غیر۔

رقم ..... یہ مفہوم تو آپ کا ہی اختراع کیا ہوا ہے۔ آپ کی مراد توبہ برآ وے اگر صحابہؓ بھی یہی  
معنی مراد لیں۔ یہی تو میں پوچھتا ہوں کہ آیا صحابہؓ نے بھی اس حدیث کے یہی معنے کئے ہیں اور اگر  
کئے ہیں تو کس نے کئے ہیں۔

صدر بازاری نے اس سوال کا جواب پچھنہ دیا (اور حقیقت میں وہ دے بھی نہیں سکتا تھا  
اور نہ اب دے سکتا ہے اور نہ کوئی اور دے سکتا ہے) اور انہی اس واقعہ پر اپنے لگا۔

رقم ..... یہ واقعہ تفسیری نہیں ہے کیونکہ تفسیر ہمیشہ بعد اجمال کے واقع ہوتی ہے اور یہاں کوئی  
اجمال وابہام نہیں ہے۔ جس کی توضیح یا تفسیر ہوئی چاہئے۔

صدر بازاری ..... ابن مریم مجمل ہے اور امام مکمل بعلت اضافت مبین اس لئے امامکم ابن مریم  
کی تفسیر ہے۔

رقم ..... سبھاں اللہ کیا کہنے ہیں۔ ابن مریم کنیت جس میں علیست پائی جائے وہ تو ہو مجمل  
اور امام جو اسم نکرہ ہے وہ اس کی تفسیر ہے اور ہمیں سبحان اللہ اگر امامکم بعلت اضافت  
مبین ہے تو کیا ابن مریم مضافِ مضاف یہ نہیں ہے۔

صدر بازاری ..... عطف کبھی خاص کا عام پر لاتے ہیں اور کبھی عام کا خاص پر اور فائدہ  
تفصیل کا ہوتا ہے۔ جیسے آیۃ تلک آیتِ الکتاب و قرآن مبین میں ہے۔

رقم ..... ان دونوں صورتوں میں سے آپ اس حدیث و امامکم متنکم میں کون سی صورت مراد  
رکھتے ہیں۔ عطف عام کا خاص پر یا خاص کا عام پر۔

صدر بازاری ..... یہاں عطف عام کا خاص پر مراد ہے۔ یعنی (ابن مریم معطوف علیہ خاص  
ہے اور امامکم متنکم عام ہے۔)

رقم ..... بس جب امامکم عام ہو گیا اور ابن مریم خاص تو آپ مرادِ مماثلت سے تو نامراد، ہی  
رہے اور نیز اگر واقعہ تفسیری اس صورت میں مانی بھی جائے تو کچھ چند اس فائدہ معتقد بھانظر نہیں  
آتا۔ لہذا خلاف فصاحت ہے۔

صدر بازاری ..... نہیں نہیں میں چوک گیا یہاں عطف خاص کا عام پر ہے۔

رقم ..... آپ کہتے ہیں ابن مریم عام ہے۔ اگر عام ہے تو عام تو ذوی الافراد ہوتا ہے۔ اب  
مریم کے افراد کون کون سے ہیں۔

صدر بازاری ..... این مریم عام باعتبار صفات ہے نہ باعتبار اشخاص کہ اس کے افراد ہوں۔ رقم ..... (ان کی اس تقسیم پر بہس کر) صفات کا اعتبار مشتقات میں ہوا کرتا ہے۔ نہ کئی غیر مشتقہ میں اور اگر ہو بھی تب بھی قادر یانی کے مثل مسح ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس صورت میں غایت الامر آپ بھی کہیں گے کہ قادر یانی ان کے افراد صفاتیہ میں سے ایک فرد ہے اور آگے میں آپ کو تسلیم کر اچکا ہوں کہ عام اپنے افراد میں مفید ظن کا ہوا کرتا ہے۔ وَ إِنَّ الظُّنُونَ لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ شیئاً لِهُذَا قَادِيَانی کا مثل مسح ہونا ایک ظنی امر ہے اور اتباع ظن بنیطوقات قرآنیہ و حدیثیہ مذموم شیع ہے۔

اس کے جواب میں بھی صدر بازاری نے اس پر اనے جوش کو بھڑکایا اور سخت زبانی سے پیش آیا۔ بازاریوں کی طرح لعن طعن کرنے لگا اور کہنے لگا کیا تو میرے سامنے مبرد آیا ہے کیا تو سیبو یہ ہے کہ میں تجھے ترکیب کر کے سناؤں۔ تم لوگ جان بوجہ کر کجروی اختیار کرتے ہو۔ میں تم سے گفتگو کرنا فضول جانتا ہوں۔

رقم ..... چونکہ میں آپ کے مکان پر آیا ہوا ہوں اور لھر بلائے کو آپ کا جو جی چاہے کہہ لینا آپ کا حق ہے۔ خیر اگر اتنی میں کچھ کسر رہ گئی ہو تو کچھ اور کہہ لو اور مجھے اجازت دو۔

صدر بازاری ..... نہیں میں کچھ تم پر تو تھوڑا ہی غصہ ہوا ہوں۔ تمہارا تخل و حوصلہ مجھے اب تک کلام کرنے پر مجبور کر رہا ہے تم سے پہلے بہت مولوی میرے پاس آئے۔ مگر آخراں ہوں نے بہب تھب کسی بات کو پورا نہ ہونے دیا۔ مولوی ہدایت اللہ صاحب نو شہروی حال امام مسجد صدر را ولپنڈی سے بھی گفتگو ہوئی۔ مگر انہوں نے بھی جلد بازی کی اور لڑ کر ہی گئے۔ غصہ صرف تعف و کجروی پر بھڑکتا ہے کہ جس شخص کی مماثلت کی دلائل مہر نیروز کی طرح چمک رہے ہوں۔ اس کے ماننے میں کیا شک و تردید ہے۔

رقم ..... آپ کا مہر تو بہب سوف کے کا لایا ہو گیا ہے اور آپ سے اس کی مماثلت ثابت کرنے کے لئے کچھ بھی بن نہیں آیا۔ ایک ہی ترکیب آپ نے کی اور وہ بھی غلط۔

صدر بازاری ..... کیا میں سب ترکیبیں پیش کر چکا ہوں؟ کیا سوائے اس کے کوئی اور ترکیب نہیں ہو سکتی جو ہمارے مدعائے موافق ہو۔

رقم ..... اچھا جو کچھ اور ہو وہ بھی حاضر کرو انشاء اللہ تعالیٰ اس کا بھی یہی حال ہو گا۔ مگر پہلے اتنا مان لیوں کہ واو کو یہاں تفسیری کہنا غلط ہے۔

صدر بازاری کا مخالف کے سامنے غلطی کا اقرار کرنا مشکل تھا۔ اس لئے ضد کی اور پھر

جو شد کھایا۔ جس پر راقم نے کلام سے اعراض کیا اور کہا کہ جب تک آپ اپنی غلطی کا اقرار نہ کر لیں میں ہرگز کلام نہیں کروں گا۔

صدر بازاری ..... (بڑے اصرار کے بعد) اچھا میں جانتا ہوں کہ یہ ترکیب غلط ہے۔ یعنی (واما مک منکم) میں واؤ غلط تفسیری نہیں ہے۔ اس میں میری کیا کسر شان ہے لواس حدیث سے اوپر کی حدیث میں تو صرخ طور پر مہماں ت ثابت ہو رہی ہے۔  
رقم ..... اچھا دکھائیے۔

صدر بازاری ..... (بخاری نکال کر) حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث پڑھنے لگا۔ عبارت صحیح نہ پڑھی گئی اور بار بار دو ہر آکر مرتبے مرتے وہ حدیث نصف تک ختم کی اور آگے نہ پڑھی۔  
رقم ..... آپ بے کھلکھل پڑھتے جائیں میں اس وقت غلطیوں کی اصلاح نہیں کروں گا۔ کیونکہ یہ بات خارج از مبحث ہے اور مہربانی کر کے ذرا آگے بھی پڑھیں۔ لا تقربوا الصلوة کا معاملہ نہ کریں۔ چونکہ آگے حضرت ابو ہریرہؓ نے صاف طور پر کہہ دیا ہوا ہے کہ تج موعود وہی نبی اللہ ہے۔ اس لئے صدر بازاری نے وہ عبارت پڑھنے سے انکار کیا مگر میں پڑھائے بغیر کب چھوڑتا تھا پڑھا ہی لمی۔ (ایک واعظ نے کسی بے نماز کو کہا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے خود نماز سے قرآن شریف میں منع کیا ہے۔ واعظ نے کہا کہ ہیں! قرآن میں کہاں منع ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ یا ایہا الذين امنوا لا تقربوا الصلوة واعظ نے کہا کہ آگے بھی تو پڑھ۔ آگے کیا ہے۔ کہنے لگا کہ سارے قرآن پر تیرے باپ نے عمل کیا ہے۔ یہی حال ان مرزا یوں کا ہے۔ ایک لفظ لے کر اپنی خواہش نفسانی کے موافق اس کے معنے تراش لیتے ہیں اور آگے پچھے دھیان نہیں کرتے۔ فافهم منہ!

صدر بازاری ..... یہ ابو ہریرہؓ کی اپنی رائے ہے اور ابو ہریرہؓ صحابہؓ میں بے اعتبار تھا۔  
رقم ..... استغفار اللہ آپ کی بے اعتبار تھے تو علم حدیث ہی بے اعتبار ہے۔ کیونکہ سب سے زیادہ روایت حضرت ابو ہریرہؓ بے اعتبار تھے تو علم حدیث ہی بے اعتبار ہے۔ کیونکہ سب سے زیادہ روایت حضرت ابو ہریرہؓ کی ہے۔ آپ مہربانی کر کے ثابت کریں کہ حضرت ابو ہریرہؓ کو کس نے بے اعتبار کہا ہے۔ کیا قاعدة الصحابة کلهم عدول (حاشیہ مشکوہ ص ۵۵۳، ۵۵۲، باب مناقب صحابہؓ) آپ کو یاد نہیں آپ برا غصب ذھاتے ہیں۔

ل۔ قال في الالفيه ابو ہریرہؓ اکثرہم یعنی ابو ہریرہؓ صحابہؓ میں سے سب سے زیادہ روایت والے ہیں اور اس کے حاشیہ پر فتح الباقی سے نقل کیا ہے اور انہے روی خمسہ الاف حدیثاً و ثلاثمیة واربعہ وسبعين حدیثاً یعنی انہوں نے ۵۴۷ حدیث روایت کی ہے۔

صدر بازاری ..... اچھا اس کے لئے آٹھو دن کی مہلت درکار ہے۔  
رقم ..... لے لو۔

اس کے بعد صدر بازاری نے اپنا الحق ہکال کر کہا دیکھو امام مسلم آپ کے عطف  
مغارت کو کیسے میں طور پر درکار ہے ہیں۔ آگر آپ کو یقین نہ ہو تو صحیح مسلم لاوں۔  
رقم ..... چونکہ صحیح مسلم میں میرے مطلب کے موافق بہت سی حدیثیں تھیں میں نے کہا کہ جی  
ہاں مسلم ضرور لا یعنے۔

صدر بازاری ..... مسلم اس وقت حاضر نہیں ہے۔ مگر آپ نے صحیح مسلم پڑھی ہو گی۔ اس  
لئے آپ کو اتنا تواہ ہو گا کہ یہ روایات صحیح مسلم میں ہیں۔  
رقم ..... ہاں بفضل تعالیٰ میں نے صحیح مسلم پڑھی ہوئی ہے اور یہ جگہ اس وقت بھی میری آنکھوں  
کے سامنے ہے باہمیں صفحہ پر شروع سے آخر صفحے تک یہ سارا بیان ہے۔ مگر چونکہ اس میں میرا  
مطلوب ہے۔ اس لئے صحیح مسلم کا ہونا ضروری تھجتا ہوں۔

صدر بازاری ..... دیکھو بخاری ہی میں ابن عباس متفویک کے معنی ممیتک لکھتے ہیں۔  
رقم ..... ممیتک معنی کرنے سے یہ تو ثابت نہیں ہو گیا کہ ان کا نہ ہب مثل کے آنے کا تھا۔  
باوجود ممیتک معنی کرنے کے ابن عباس تو فرماتے ہیں۔ رفع عیسیٰ من روزنة فی الیت  
اللی السما (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۹۸، زیر آیت بل رفعه اللہ الی) اور دوبارہ آنے کی  
بابت بھی انکاوی اعتماد ہے۔ جو سب مسلمانوں کا ہے۔ اب ایک صحابی کے نہ ہب کا پتہ لگ گیا  
کہ اصل نبی اللہ سنت اُن مریم کے آنے پر ہے اور صحابیوں کا نہ ہب جب تک اس کے خلاف ثابت  
نہ ہو تک آپ اپنی ممتازت کو چھپائے رہیں۔ درصورت عدم ثبوت خلاف اوروں کا بھی یہی  
نہ ہب مانا جائے گا۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہؓ سب کے سامنے بیان کرتے تھے اور کوئی بھی انکار نہ  
کرتا تھا۔ اب شام کا وقت ہو گیا میں رخصت کا خواستگار ہوں۔

صدر بازاری نے آج تک اپنی بے اعتباری کا ثبوت نہیں دیا۔ ۱۸۹۸ء انکو  
پھر اتفاقی ملاقات ہوئی ایک جم غیر حاضر تھا۔ سب کے سامنے استدعاۓ مبادیہ کیا،  
صدر بازاری نے انکار کیا۔

صدر بازاری نے اب لوگوں میں مشہور کیا ہوا ہے کہ رقم میرے پاس جواب لینے نہیں  
آتا اور لگریز کرتا ہے۔ بھلا میں وباں اس کے گھر میں جواب لینے کیوں جاؤں جواب دینا اس کا  
ذمہ ہے۔ وہ مجھے شہر میں آ کر کیوں جواب نہیں دیتا۔ جواب لینا لازم ہے یا جواب دینا واجب  
ہے۔ کچھ تو النصاف چاہئے۔

لَا يَنْهَا النَّسِيْنَ لَا يَنْهَا بَعْدَهُ

# الخبر الصحيح

عليه السلام  
عن قبر المسيح

مولانا حافظ محمد ابراهیم میرسیا الکوئٹی

يَا اِيَّهَا الَّذِينَ امْنَوْا اَنَّ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَّئِافْتَبِينَا!

## الخبر الصحيح عن قبر المسيح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين . ممحصى كل شئ في كتاب مبين الذي جعل ابن مريم وامه اية وأوهما الى ربواه ذات قرار ومعين والصلة والسلام الا تمان الاكملان على رسوله محمد خاتم النبيين الذي اخبرنا بخروج الدجاجلة الكاذابين قريباً من ثلاثين وانباء نا بنزول عيسى بن مريم من السماء الى الارض قبل يوم الدين وقال في مدحه معي في قبره فاقومانا وعيسى ابن مريم في قبر واحد بين ابي بكر وعمر يوم يقوم الناس لرب العالمين وعلى الله الطاهرين الطيبين واصحابه الصديقين الفارقين وازواجه امام اهل اليقين“

### سبب تأليف

مرزا غلام احمد قادریانی نے جب سے دعویٰ میسیحیت کیا۔ نئے نئے مسائل نکال کر ہندوستان میں شور برپا کر دیا اور بہت سی خلق خدا کو حق سے گمراہ کر دیا۔ ان نئے مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں بتائی۔ جس کے باہر میں نہ تو کوئی آیت ہی آئی ہے اور نہ انحضرت ﷺ نے کوئی حدیث فرمائی اور نہ ہم نے صحابہؓ کوئی روایت پائی۔ قادریانی نے محض اپنا مطلب سیدھا کرنے کے لئے اوہراہن سے طوارتوہمات جمع کیا اور اپنے ماننے والوں کو جوان کی تقلید میں پھنس کر دین و ایمان کو ان کے ہاتھ بچ چکے ہیں پر چالیا۔

مرزا قادریانی کی عام عادت تھی کہ اپنے مریدوں کو قائم رکھنے کے لئے اپنے غلط دعاوی اور ہاطل اقوال کی تائید میں بھی تو موضوع منکر رواتین پیش کیا کرتے تھے اور کبھی قرآن شریف کی آیات میں لفظی و معنوی تصرف کر کے اپنی رائے وہوائے سے تفسیر کر کے لوگوں کو دھوکا دیتے تھے۔ اس لئے خاکسار نے ضروری سمجھا کہ قادریانی کے اس فاسد خیال کا فساد اور ہاطل قول کا بطلان آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ اور آثار سلفیہ سے ظاہر کر کے عام مسلمانوں کو غلطی سے نچائے اور قادریانیوں پر جنت پوری کر کے ان کو حق و باطل میں تمیز کرنے کا موقع دے۔

اگر اب بھی نہ وہ سمجھے  
تو اس بت سے خدا سمجھے

یہ رسالہ کتاب شہادت القرآن باب ثانی کے زمانہ تصنیف ۱۳۲۵ھ ہی میں تصنیف کیا گیا تھا۔ اسی لئے اس کتاب میں کسی جگہ اس کی بابت نوٹ بھی لکھ دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد کثرت سے متواتر سفر و اور دیگر مشاغل اور کئی عوائق کے سبب اس کی طبع کا موقع نہیں مل سکا۔ کل امر مرحون بوقته ہر کام کے لئے خدا کے علم میں ایک وقت مقرر ہے۔ طبع اول ختم ہونے پر اب پھر اس کے طبع کا خیال آیا اور خدا کا نام لے کر مضمون پر نظر ثانی کر کے طبع کروادیا۔ ”وان ارید الا لا صلاح ما استطعت وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب“  
**مرزا قادیانی کی تحریر پر تزویر**

مرزا قادیانی نے اپنے رسالہ (الہدی والتبصرة لمن یرى) کے ص ۱۰۹، ج ۱۸، ج ۳۶۰، ۳۶۱) میں لکھا ہے کہ ”وثبت بثبوت قطعی ان عیسیٰ ہا جرالی ملک کشمیر بعد مانجاه اللہ من الصليب بفضل کبیر ولبث فيه الى مدة طولية حتى مات ولحق الاموات۔ وقبره موجود الى الان فى بلدة سری نکرالیتی هی من اعظم امصار هذا الخطہ“ اور عطفی طور پر (مگر صرف مرزا قادیانی کے نزدیک) ثابت ہو چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ملک کشمیر کی طرف ہجرت کی۔ بعد اس کے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے فضل سے نجات دی اور اس ملک میں بہت مدت تک بنتے رہے۔ حتیٰ کہ مر گئے اور مردوں کو جامے اور آپ کی قبر شہر سری نگر میں جو اس خطہ کے سب شہروں سے بڑا ہے۔ اب تک موجود ہے۔“

اور پھر اس کے بعد کتاب اکمال الدین کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں کہ ”تسلی واطمینان“ کے لئے اس کتاب کو پڑھنا چاہئے۔ کیونکہ اس میں یہ بیان تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔“  
**مرزا قادیانی کا یہ سارا بیان بالکل غلط اور مغضض بہتان ہے۔ جیسا کہ اس کتاب کے مطالعہ سے ظاہر ہوگا۔**

اس بیان سے مرزا قادیانی کا مدعای صرف یہ ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور فوت شدہ لوگ پھر دنیا پر نہیں آتے تو حدیث میں جس مسیح کی بشارت سنائی گئی ہے۔ اس سے خواہ خواہ کوئی مثل مسیح مراد ہے اور وہ مسیح موعود بحسب اذاعاء خود مرزا قادیانی ہیں۔ مرزا قادیانی کے اس بیان کا تاریخ پود بالکل باطل اور خلاف واقع ہے اور قرآن و حدیث کے سراسر مخالف ہے۔ کیونکہ نہ تو حضرت روح اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائے گئے اور نہ ان کے لئے کوئی

مرہم تیار کی گئی اور نہ وہ شیئری طرف کو بھاگے اور نہ وہ وہاں فوت ہوئے۔ نہ ”کتاب اکمال الدین و اتمام العصمة“ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر لکھا ہے اور نہ احادیث نبویہ کا مصدقہ کوئی مثلی ہے نہ مرزا قادیانیؒ مسح موعود ہو سکتے ہیں۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ عزیز و حکیم نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغ سے آسمان پر اٹھالیا اور یہودیوں کے ہاتھوں کو آپ تک نہ پہنچنے دیا اور آپ آخری زمانہ میں قیامت سے پہلے زمین پر نزول فرماؤں گے اور مدینہ طیبہ میں آنحضرت ﷺ کے پہلو میں دفن ہوں گے اور قیامت کو آنحضرت ﷺ اور آپ اسی جگہ سے اٹھیں گے۔ واللہ علی ما نقول شهیدا!

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت واقع صلیب کی تردید اور آپ کے رفع جسمانی و حیات جسمانی و حیات آسمانی کا ثبوت اور ان تیس آیات کے جوابات جو مرزا قادیانیؒ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قبل النزول کے بارے میں اپنے ازالہ میں لکھی ہیں ہمارے رسالہ صدق مقاہل شہادت القرآن میں جو اس امر میں آپ اپنی نظر ہے۔ ایسے زبردست اور محکم دلائل سے بیان ہو چکے ہیں کہ آج تک مرزا قادیانیؒ اور ان کے حواری اس کے جواب سے عاجز ہیں۔ اب اس رسالہ ”الخبر الصحيح عن قبر المسيح“ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر اور آپ کے مدن مقدس کے متعلق مدلل بحث کر کے مرزا قادیانیؒ کے قول کی تردید کی جاتی ہے۔ تاکہ مرزا قادیانیؒ سے رنگ ممائش کافور ہو جائے اور ملمع مشابہت اتر جائے اور مرزا قادیانیؒ اپنی اصلی رنگت میں لوگوں کو نظر آئیں اور وہ دھوکے سے نجی جائیں۔ ”هذا بالله اعتصم عمایضم و ان اريد الا اصلاح ما استطعت وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب“

### مرزا قادیانیؒ کی نئی اور پرانی تصانیف میں اختلاف

مرزا قادیانیؒ کی مختلف کتابوں کو غور و تحقیق سے مطالعہ کرنے والے لوگ خوب جانتے ہیں کہ ان کی اکثر عبارات میں تعارض و تناقض ہوتا اور ان کی بات بات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس طرح ان کی نئی اور پرانی تصانیف حضرت مسح علیہ السلام کی قبر کے متعلق بھی متفق نہیں ہیں۔ چنانچہ اور پر گزر چکا ہے کہ آپ (الہدی ص ۱۵، خزانہ ح ۱۸ ص ۲۲۵) میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشیر میں بتاتے ہیں۔ لیکن (ازالہ او بام ص ۲۷۴، خزانہ ح ۳۳ ص ۳۵۲) میں فرماتے ہیں کہ: ”سچ ہے کہ مسح علیہ السلام اپنے دلن گلیں میں جا کر فوت ہو گیا۔ لیکن یہ ہرگز سچ نہیں کہ وہی جسم جو دفن ہو چکا تھا۔ پھر زندہ ہو گیا۔“

دنیا کے نقشہ پر نظر کرنے والے خوب جانتے ہیں کہ گلیل اور سری نگر میں مشرق و مغرب کا فرق ہے اور یہ مختلف مقامات ہیں۔ کہاں ولایت کشمیر اور کہاں علاقہ شام؟۔

اگر یہ عذر کیا جائے کہ ازالہ اور ہام کا بیان پادری صاحبان کے مقابلہ میں لکھا ہے اور انہیں انجلی حوالہ سے جواب دیا ہے۔ تو یہ عذر درست نہیں۔ کیونکہ اول تو انجلی کی عبارت سے ایسا مفہوم نہیں ہوتا اور اگر مرزا قادیانی نے اپنی عنی منطق سے انجلی سے ایسا ہی سمجھا ہے تو پھر بھی عذر صحیح نہیں۔ کیونکہ اس عبارت کو آپ اس طرح شروع کرتے ہیں۔ ”یوچ ہے“ کہ جس سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی مضمون بعد کی تصدیق کرتے ہیں اور اگر کہیں کہ یوچ انجلی یوچ ہے نہ کہ نفس الامری تو یہ بھی معقول نہیں۔ کیونکہ اسی اپنے ازالہ اور ہام میں آپ نے انجلی کے مسئلہ صلیب اور موت مسیح پر اپنی تحقیق لکھی ہے کہ ”حضرت مسیح صلیب پر کھینچنے تو گئے۔ مگر اس پر مرے نہ تھے۔ بلکہ نیم حان اتارے گئے تھے۔“ پس اس کے بعد مرزا قادیانی کا حضرت مسیح علیہ السلام کو زندہ مانا اور پھر گلیل میں جا کر غوت شدہ جاننا ثابت کر رہا ہے کہ مرزا قادیانی اس عبارت میں اپنا ذاتی خیال ظاہر کر رہے ہیں۔ گواں کی بنا انجلی پر ہے۔ دیگر یہ کہ مرزا قادیانی اس موقع پر انجلی کا مطالعہ اضطراری طور پر کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے پاس واقع صلیب کے ثبوت کے لئے سوائے بیان انجلی کے کوئی دستاویز نہیں ہے اور ان میں سے بعض امرؤں کو جو آپ کے خیال کے موافق ہوں تسلیم کر لیتے ہیں اور مخالف ہوں انہیں روکرتے ہیں۔ یا تاویل کرتے ہیں۔ اس سے اتنا ثابت ہے کہ مرزا قادیانی ان کتابوں کو بالکل حق اور سراسر است قرار نہیں دیتے۔ پس حق کو حق سمجھنے اور باطل کو باطل قرار دینے کے لئے ان کے پاس انجلی کے علاوہ کوئی اور معیار چاہئے اور یہ مسلم ہے کہ وہ معیار مسلمانوں کے پاس قرآن شریف اور حدیث بنوی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تورات و انجلی کے ذکر کے بعد قرآن شریف کا ذکر فرمایا اور اس کی یہ صفت بیان کی و مہیمنا علیہ یعنی اے پیغمبر ہم نے یہ قرآن شریف تم پر پہلی کتاب (یعنی جنس کتاب خواہ توریت ہے۔ خواہ زبور خواہ انجلی) پر مہیمن کر کے نازل کیا ہے۔ یعنی اختلاف کو دور کر کے محکم رائے سے فیصلہ کرنے والا اور (حق کی) حفاظت کرنے والا اور اسی طرح آنحضرت ﷺ نے بھی فرمایا کہ پچھلی کتابوں کا بیان جو کتاب اللہ یعنی قرآن شریف کے موافق ہو۔ وہ (بوجہ تحریف سے محفوظ رہنے کے) کے قبول کرلو اور جو موافق نہ ہو۔ اسے چھوڑ دو۔

پس مرزا قادیانی پر واجب ہے کہ واقعہ صلیب کے اثبات کے لئے قرآن و حدیث میں سے کوئی دلیل پیش کریں اور بیان انجلی پر جن کو وہ خود محرف مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ

مصنفین اناجیل نے کئی امور از خود بڑھا دیئے ہیں یا صرف حسن ظنی سے لکھ دیئے ہیں۔ یا پچھلی نسلوں میں سے کسی نے لکھ دیئے ہیں۔ کفایت نہ کریں کیونکہ ان پر سے امان مرفاع ہے۔ اور کہا جائے کہ ازالہ اور اہام کی تصنیف کے وقت بے شک مرزا قادیانی کی تحقیق یہی تھی کہ صحیح علیہ السلام کلیل میں فوت ہوئے اور اب یہ تحقیق ہے کہ ان کی قبر کشیر میں ہے اور اس کے متعلق آپ کو وحی بھی ہو چکی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی تحقیق میں نقص ہوتا ہے اور بات بات میں وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں اور الزام سے بچنے کے لئے پچھلی عبارت کو وحی قرار دے لیتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پیشتر کی تحریر بھی وحی یا بمنزلہ وحی مانی جاتی تھی۔ چنانچہ ازالہ اور اہام کا یہی حال ہے۔

اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کو وحی نہیں ہوتی تھی۔ کیونکہ ان کے ازالہ اور اہام کی تصنیف اور رسائل الہدی وغیرہ کی تصنیف میں کئی برسوں کا عرصہ ہے۔ اگر آپ صاحب وحی ہوتے تو اللہ تعالیٰ علیم و خبیر آپ کو اتنے سال تک اس غلطی کے اندر ہر یہ میں نہ پڑا رہنے دیتا۔ کیونکہ پغمبر ان خدا اپنی غلطی کے بعد بلا مہلت متذہب کے جاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن شریف اور کتب حدیث اور کتب عقائد کے مطالعہ کرنے والوں پر مخفی نہیں ہے اور یہ امر عرف شرع میں عصمت کی تعریف میں داخل ہے۔ چنانچہ طوالع الانوار میں عصمت کی تعریف میں یہ بھی لکھا ہے کہ: ”وَتَأكِيدُ النَّبِيَّاَ بِتَتَابُعِ الْوَحْيِ عَلَى التَّذَكُّرِ وَالاعتراضِ مَا يَصْدِرُ عَنْهُمْ سَهْوًا“

”اوینهمَا إلَى رَبِّوْةٍ (مومنون: ۵۰)،“ کی صحیح تفسیر مرزا قادیانی کی عام عادت تھی کہ اپنے مریدوں کو قائم رکھنے کے لئے اپنے غلط دعاویٰ واقوال کی تائید میں بھی تو موضوع وضعیف روایتیں پیش کیا کرتے تھے اور کبھی قرآن شریف کی آیتیں جن کو آپ کے مدعا سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا۔ اس سے آپ کی حدیث تفسیر دانی بخوبی معلوم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشیر میں ہونے کے متعلق اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو (اپنی قدرت کا) ایک نشان بنایا اور ان دونوں ”وجعلنا ابن مریم و امه آیۃ واوینهمَا إلَى رَبِّوْةٍ ذاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (مومنون: ۵۰)،“ کو ایک اوپنی جگہ پر جو ظہرنے کے قابل شاداب بھی تھی لے جا کر پناہ دی۔ اس آیت سے مرزا قادیانی اس وجہ سے استدلال کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس میں خبر دی ہے کہ ہم نے صحیح کو اور اس کی ماں مریم علیہما السلام کو ایک ایسی جگہ پر نہ پناہ دی۔ جو اوپنی ہے اور شاداب ہے اور چونکہ کشیر ان ہر دو صفتوں سے موصوف

ہے۔ اس لئے اس آیت میں ولایت کشمیر کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ واقعہ تب ہی ہوا جب عیسیٰ علیہ السلام واقعہ صلیب کے بعد مرہم پڑی کر اک راس طرف بھاگ آئے۔

اس آیت کی تفسیر صحیح بیان کرنے سے پہلے ناظرین کی توجہ اس طرف کرانی ضروری ہے کہ اس آیت میں کشمیر وغیرہ کسی ولایت کا نام مذکور نہیں۔ بلکہ ایسے دو حصے مذکور ہیں۔ جو دنیا میں بہت سے مقامات و ولایات میں پائے جاتے ہیں اور وہ جغرافیہ دانوں سے پوشیدہ نہیں۔ پس اس مقام کی تخصیص کے لئے کسی خارجی دلیل کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جو امر کئی ایک میں مشترک ہواں کے متعلق یہ حکم لگانا کہ اس مقام پر فلاں مقصود ہے اور فلاں مراد نہیں ہے۔ بغیر دلیل کے مقبول نہیں ہو سکتا اور مرزا قادیانی کی تحریر میں ہم نے اس آیت کے سوا کوئی آیت یا حدیث یا کسی صحابیٰ یا مفسر کا قول نہیں دیکھا۔ جو آپ کے اس خیال کی تائید کرے۔

دوم یہ کہ مرزا قادیانی کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیاحت کشمیر کے لئے آپ کا صلیب پر چڑھایا جانا ضروریات میں سے ہے اور جب ثابت ہو چکا کہ واقعہ صلیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیست با آیت قرآنی وما قتلواه وما صلبوه (یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تقتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا) بالکل باطل اور غلط ہے تو اس کے بعد کشمیر کی طرف ہجرت کرنے کے کیا معنے؟۔

اب ہم اس آیت کی صحیح تفسیر بیان کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق ایک امر کا اشارہ ہے اور اس مقام سے مراد بیت المقدس ہے۔ جہاں حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت پناہ لی تھی۔ اس امر کی دلیل کہ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ہے کہ اس کے شروع میں فرمایا کہ: ”وَجَعَلْنَا أَبْنَى مُرِيمَ وَأَمَّهَا إِيَّهُ“ یعنی ہم نے ابن مریم علیہم السلام کو اور اس کی ماں کو (اپنی قدرت کا) ایک نشان بنایا اور ان کا یہ یہ نشان ہونا عیسیٰ علیہ السلام کے بے باپ ہونے کے اعتبار سے ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ: ”وَإِنَّهُمَا إِلَى رِبِّوَةٍ ذَاتِ قَرْأَرٍ وَمَعِينٍ“ یعنی ہم نے ان دونوں کو ایک اوپنجی جگہ میں جو قرار کے قابل اور شاداب بھی تھی پناہ دی۔ اور ان دونوں جملوں کو حرف عطف سے وصل کیا اور لفظ آیہ کو مفرد ذکر کیا۔ حالانکہ ذکر ان دونوں کو نشان بنانے کا ہے تو جب تک دونوں کھٹے ایک ہی امر میں نشان نہ ہوں۔ تب تک ان کو ایک نشان نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ پھر دونشان کہنا پڑے گا۔ جیسا کہ فرمایا کہ: ”وَجَعَلْنَا الْيَلَ وَالنَّهَارَ أَيْتَيْنِ (بَنِي إِسْرَائِيلَ: ۱۲)“ بنایا ہم نے رات اور دن کو (اپنی

قدرت و انتظام کے) دو نشان۔

اور وہ امر جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ دونوں اکھٹے ایک نشان ہیں۔ سوائے آپ کی ولادت بلا پدر کے اور کون سا ہے چنانچہ اسی کے موافق سورہ انبیاء میں بھی فرمایا کہ: ”وَجَعَلْنَاهَا أَيْةً لِّلْعَالَمِينَ (انبیاء: ۹۱)“ ہم نے مریم کو اور اس کے بیٹے کو (اپنی قدرت کا) ایک نشان بنایا۔

سورت مؤمنون کی آیت میں مقصود عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس لئے اس مقام پر آپ کا ذکر پہلے کیا اور آپ کی ماں حضرت مریم کا ذکر پیچھے لیکن سورہ انبیاء میں مقصود حضرت مریم کا ذکر ہے۔ اس لئے جگہ ان کا ذکر پہلے کیا اور حضرت عیسیٰ کا پیچھے۔

اسی طرح سورہ مریم میں مذکور ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بلا پدر کی بشارت کے وقت بھی سنایا گیا تھا۔ (کہ اس کے بلا پدر پیدا کرنے میں یہ حکمت ہے) کہ اس کو لوگوں کے لئے (اپنی قدرت کا) نشان بنایا چاہتے ہیں۔

”ولنجعله آية للناس (مریم: ۲۱)“ اور اس طرح سورہ زخرف میں بھی کفار کے جواب میں فرمایا کہ: ”وَجَعَلْنَا هُنَّا مُثُلاً لِّبْنِ إِسْرَائِيلَ (زخرف: ۵۹)“ ہم نے اس کو (ابن مریم کو) بنی اسرائیل کے لئے (اپنی قدرت کا) ایک نشان بنایا۔

اس سارے بیان سے واضح ہو گیا کہ دوسری آیات قرآنی کی طرح اس آیت زیر بحث میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بلا باب پیدا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس قدر بیان کے بعد شاید میرے ناظرین یہ کہا تھیں کہ دلیل تو اس امر کی دینی تھی کہ جملہ واوینہما حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بلا پدر کے متعلق ایک واقعہ کا اشارہ ہے اور تقریر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بلا پدر ہونے کی چیزیرو تھی تو آپ کو حیرانی کو دور کرنے کے لئے اب اصل مطلب کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ یہ سارا بیان اصل مقصود کے ثابت کرنے سے پہلے ذکر کیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ضرور ہے اور وہ حکمت یہ ہے کہ سورہ مریم میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ: ”فَحَمَلْتَهُ فَأَنْتَبَذْتَ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَاجْءَاهَا الْمَخَاضُ إِلَى جَذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلِيقُنِي مَتْ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتْ نَسِيًّا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مَنْ تَحْتَهَا إِنْ لَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكَ سَرِيًّا وَهَذِي الِّيْكَ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ تَسَاقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا (مریم: ۲۰، ۲۲)“ پس جہاں کیل علیہ السلام کے بشارت سناتے ہی (خدائی قدھیت سے) اس نے پیٹ میں اس بیٹے کو اٹھایا۔ جس کی بشارت سنائی گئی تھی۔ پس اس کو دردزہ

کھجور کے تنے کی طرف لے پہنچا۔ کہنے لگی اے کاش! میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس پر اس کو اس کے نیچے سے آواز دی تو کوئی اندر یشنا نہ کر۔ دیکھو تو تیرے پر دردگار نے تیرے نیچے ایک چشمہ بہادیا ہے اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف بلا۔ وہ تجھ پر کمی کمی تازہ کھجور میں جھاڑے گی۔

سورت مریم کی ان آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے ذکر میں چشمہ کا ذکر صاف طور پر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اس وقت کرامت فرمایا تھا۔ پس آیت زیر بحث یعنی وَجَعَلْنَا أَبْنَى مُرِيْمَ وَإِمَّهُ أَيْةً وَأَوْيَنْهُمَا إِلَى رِبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے ذکر کے بعد اسی کے متعلق ایک واقعہ کا ذکر ہے جو نہایت اختصار سے بیان کیا گیا ہے۔

اب ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ خوشگوار پانی والا اونچا قطعہ زمین وہی علاقہ شام ہے۔ جس کی نسبت خدا تعالیٰ دوسرا جگہ فرماتا ہے کہ: ”وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعِفُونَ مِشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارَبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا“ (اعراف: ۱۳۷) اور وارث کیا ہم نے ان لوگوں کو جو ضعیف شمار کئے جاتے تھے۔ اس زمین کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔

اسی سورۃ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا کہ: ”سْبَحَانَ الَّذِي أَسْرَى بَعْدَهُ لِيَلَّا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ“ (بنی اسرائیل: ۱) پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کوئی اپنے بندے کورات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔

سورۃ مائدہ میں اس مبارک زمین کو ارض مقدسہ بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ: ”يَا قَوْمَ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمَقْدُسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ“ (مائده: ۲۱) اے میری قوم داخل ہو اس زمین پاک میں جو خدا نے تمہارے لئے لکھی ہے۔

اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ: ”وَلِسْلِيمَنَ الرَّيْحَانَ عَاصِفَةَ تَجْرِي بِامْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا“ (انبیاء: ۸۱) سلیمان کے لئے زور کی ہوا بھی چلتی تھی۔ اس کے حکم سے اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ ان آیات مذکورہ بالا سے صاف واضح ہو گیا کہ اس زمین کو خدا تعالیٰ نے قرآن شریف

میں ارض مبارکہ اور ارض مقدسہ فرمایا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ نے روحانی و جسمانی ہر طرح کی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ روحانی یہ کہ اس میں بہت پیغمبر پیدا کئے۔ جسمانی یہ کہ اس میں پیشی نہریں چلتی ہیں۔ باغات بکثرت ہیں۔ میوه جات بافراط ہیں اور ہر دوام رائیے ہیں کہ تجھ بیان نہیں لے۔ پس اس آیت زیر بحث میں بھی اس جگہ سے یہاں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جگد ملی۔ یہی زمین مبارک مراد ہے۔ کیونکہ اس کی صفات دوسرے مقامات پر قرآن شریف میں مذکور ہیں۔ جو ہم نے بیان کر دیں۔ تفسیر (ابن کثیر ج ۵ ص ۲۱۵) میں اس قول کو اقرب اور اظہر اور موید بالقرآن کہہ کر لکھا ہے۔

”وَاقْرَبُ الْأَقْوَالِ فِي ذَالِكَ مَا رَوَاهُ الْعَوْفِيُّ عَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَأَوْيَنْهُمَا إِلَى رِبْوَةِ ذَاتِ قَرْأَرِ وَمَعِينٍ قَالَ الْمَعِينُ الْمَاءُ الْجَارِيُّ وَهُوَ النَّهَرُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكَ سَرِيرًا وَكَذَا قَالَ الضَّحَّاكُ وَقَتَادَةُ إِلَى رِبْوَةِ ذَاتِ قَرْأَرِ وَمَعِينٍ هُوَ بَيْتُ الْمَقْدَسِ فَهَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ هُوَ الظَّاهِرُ لَا نَهُ المَذْكُورُ فِي الْآيَةِ الْآخِرَةِ وَالْقُرْآنُ يَفْسِرُ بَعْضَهُ بَعْضًا“ اور سبقوں سے اقرب وہ ہے جو عومنی نے ابن عباس سے اس آیت و اوینہما کے بابت روایت کیا ہے کہ معین جاری پائی کو کہتے ہیں اور اس سے وہ نہر مراد ہے۔ جس کی بابت دوسری جگہ فرمایا کہ: ”قد جعل ربك تحتك سريا (مرريم)“ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر جو حضرت مریم کے لئے خدا نے ظاہر کی اور اسی طرح ضحاک اور قاتدہ نے کہا کہ ربوبہ ذات قرار معین سے مراد بیت المقدس ہے اور یہی قول اظہر ہے۔ کیونکہ یہ دوسری آیت میں مذکور ہے اور قرآن کی بعض آیتیں بعض کی تفسیر کرتی ہیں۔“

مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ اس زمین سے مراد ملک کشمیر ہے نہ تو قرآن مجید سے اور نہ حدیث شریف سے ثابت ہے اور نہ اقوال صحابہؓ اس کی تائید کرتے ہیں۔ پس ان کی اپنی رائے قرآن شریف کی آیات اور آثار صحابہؓ و تابعین کے مقابلہ میں ہرگز پیش نہیں ہو سکتی۔

ثانیاً یہ کہ اوینہما سے تحقیق موت ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ جملہ صرف اس امر کا مفید ہے کہ خدا نے ان کو جگدی۔ اس سے موت کس طرح ثابت ہو سکتی ہے؟۔

### شاہزادہ یوڈ آسف کا قصہ

چونکہ مرزا قادیانی نے کتاب اکمال الدین و انتمام العجمۃ کا ذکر کر کے کہا ہے سہ شمیری قبر کی تصدیق کے لئے اس کتاب کا مطالعہ کرتا چاہئے اور اس سے انہوں نے خلق خدا کو سخت دھوکا

---

۱۔ چنانچہ خاکسار بتوفیق الہی ۱۳۳۰ھ کے سفر جمیں پکشمش خود کیہا آیا ہے۔

دیا ہے اور یوڈ آسف کو یوسع بنا کر اپنا مطلب سیدھا کرنا چاہا ہے۔ اس لئے ہم اس کتاب کا پچھوڑ جسے بطور خلاصہ درج کرتے ہیں۔ تاکہ ناظرین کو معلوم ہو جائے کہ اصل کتاب میں کسی اور شخص کا ذکر ہے اور مرزا قادیانی حسب عادت دھوکے سے اسے حضرت عیسیٰ کہہ کر اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں۔

شیخ ابن بابویہ کتاب اکمال الدین و اتمام النعمۃ میں بند خود محمد بن زکریا سے نقل کرتے ہیں کہ: ”مماکہ ہندوستان میں ایک بادشاہ تھا۔ جس امر کو امور دنیا سے چاہتا تھا۔ آسانی میسر ہوتا تھا۔ اس کی مملکت میں دین اسلام ہو چکا تھا۔ جب یہ تخت پر بیٹھا تو اہل دین سے بعض رکھنے لگا اور ان کوستا نے لگا۔ بعض کو قتل کروادیا اور بعض کو جلاوطن کرو دیا اور بعض اس کے خوف سے روپوش ہو گئے۔ ایک دن بادشاہ نے ان لوگوں میں سے جو اس کے نزد یک نظر عزت سے دیکھے جاتے تھے۔ ایک شخص کی نسبت سوال کیا تو وزراء نے جواباً عرض کیا کہ وہ چند ایام سے تارک دینا ہو کر گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے اس کی طلبی کا حکم دیا اور اسے لباس زہاد و عباد میں دیکھ کر بہت خفیٰ ظاہر کی۔ اس بادشاہ کے ساتھ بادشاہ کی بہت باتیں ہوئیں اور اس نے بہت حکمت آموز باتیں کیں۔ لیکن بادشاہ کو پچھھا اثر نہ ہوا اور اسے اپنی مملکت سے نکلوادیا۔ بعد اس واقعہ کے تھوڑا عرصہ نہ گزرا تھا کہ بادشاہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اس کا نام یوڈ آسف رکھا۔ شہزادے کی ولادت پر منجموں نے اس کے طالع کی نسبت بالاتفاق کیا کہ یہ شہزادہ فرزندہ طلعت نیک اختر نہایت اقبال مند ہو گا۔ لیکن ایک بوڑھے منجم نے کہا اس کا مطالع و اقبال دینیوی جاہ و حشم کے متعلق نہیں بلکہ وہ سعادت مندی عاقبت کی ہے اور مگان قویٰ ہے کہ شہزادہ پیشوایاں زہاد و عباد سے ہو گا۔“<sup>1</sup>

بادشاہ یہ سن کر نہایت حیران گئیں ہوا اور اس کی تربیت کے لئے حکم دیا کہ ایک شہر و قلعہ خالی کرایا جائے۔ جس میں صرف شاہزادہ اور اس کے خادم سکونت کریں اور سب کو نہایت تاکید کی آپس میں کوئی تذکرہ دین حق اور مرگ و آخرت کا ہرگز نہ کریں۔ تاکہ یہ خیالات اس کے کان میں نہ پڑیں۔

اس کے بعد کئی سو صفحوں تک شاہزادے کی تربیت اور دین حق کی طرف اس کی رغبت اور علم دین کی تعلیم اور تریک سلطنت اور اختیار فقر کا ذکر ہے۔

اس بیان سے صاف واضح ہے کہ شہزادہ یوڈ آسف مماکہ ہندوستان کے شہزادوں میں سے ایک بادہایت و با ایمان شاہزادہ ہوا ہے۔ جسے خدا تعالیٰ نے اپنے دین کی راہ دکھائی۔ نہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پیغمبر ملک کشمیر میں آئے اور یہاں فوت ہوئے۔

ہم مرزاقادیانی کے مقلدوں کو پکار کر کہتے ہیں کہ وہ کتاب اکمال الدین و اتمام النعمۃ کو نکال کر ہمارے سامنے کسی مجلس میں اس میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر خدا کا ذکر نکال کر دکھاویں۔ ورنہ جھوٹ کا اقرار کر لیں اور کہیں۔

### جھوٹ پر خدا کی لعنت

یہ کتاب اکمال الدین و اتمام النعمۃ لندن کے سرکاری کتب خانہ میں بربان فارسی موجود ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالقدار صاحب بیرسٹر کا ایک خط جوانہوں نے سفر ولایت کے ایام میں لندن سے لکھا تھا۔ پیشہ اخبار لاہور میں شائع ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے اس کتاب کے دیکھنے کا ذکر کیا تھا اور اس کی بعض عبارتیں اصل فارسی زبان میں نقل کی تھیں۔ جن کا ترجمہ ہماری عبارت منقولہ بالا میں آگیا ہے اور اب اس تمام کتاب کا اردو ترجمہ بنام تنبیہ الغافلین مطبع صحیح صادق میں چھپ چکا ہے۔ لاہور وغیرہ سے دستیاب ہو سکتا ہے۔ مزید اطمینان کے لئے شائقین خود کتاب مغلوا کرتلی کر لیں۔

### مدفن عیسیٰ

”اثم یموت فید فن معی فی قبری فاقوم انا و عیسیٰ بن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر“، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مدفن مدینہ طیبہ داخل جگہ نبوی ﷺ ہے۔ جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول کے نبوت ہوں گے اور رسول ﷺ کے روضہ شریفہ میں آپ کے ساتھ شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور عمرؓ کے درمیان مدفون ہوں گے۔

یہ حدیث (بروایت عبداللہ بن عمر و تبخریج ابن الجوزی دركتاب الوفاء مشکوٰۃ ص ۴۸، باب نزول عیسیٰ علیہ السلام) میں موجود ہے۔ اس سے منصوصاً اور منطقاً ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مدفن مقبرہ نبی ﷺ ہے نہ کوئی اور موضع۔

اس حدیث کے متعلق ہم علاوہ امر مقصود کے دیگر امر بھی ذکر کرتے ہیں۔ جن سے مرزاقادیانی کی میسیحت ان کی اپنی زبانی بالکل درہم برہم ہو جاتی ہے۔

مرزا قادیانی اپنی مشہور کتاب (ضمید انجام آنحضرت ۵۲، خزانہ حج امس ۳۲۷۶ حاشیہ) پر اس حدیث کو اپنی میسیحت کی دلیل گزارتے ہیں۔ اس تقریب سے کہ اس حدیث کا شروع اس طرح ہے۔

”ینزل عیسیٰ بن مریم الٰی الارض فینز وچ ویولدله ویمکث فی الارض خمساً واربعین سنة ثم یموت“ اتریں گے عیسیٰ بن مریم زمین پر پس نکاح کریں گے اور ان کے ہاں ادا دیدا ہو گی اور زمین میں پینتالیس سال رہیں گے۔ پھر فوت ہوں گے۔ اس حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نکاح کا جو ذکر ہے۔ اس کی بابت مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مرزا حمد بیگ ہوشیار پوری کی لڑکی محمدی بیگم کے میرے نکاح میں آئے اور پھر اس سے اولاد کے ہونے کی بشارت ہے۔ چنانچہ (ضمیر الحجامت آنحضرت کے ص ۵۲، خزانہ حج اص ۷۳) پر فرماتے ہیں کہ: ”حدیث میں اس نکاح کو صحیح موعد کی صداقت کی علامت خود حضور ﷺ نے فرمایا ہے۔“

پھر اسی حدیث کا ذکر کیا ہے۔ جو ہم نے اوپر لکھی ہے۔

اول! یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب مرزا قادیانی اس حدیث کو اپنے دعوے کے دلائل میں شمار کرتے ہیں تو یہ حدیث ان کے نزد یک صحیح اور قابل استناد ہے۔ پس جب اسی حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامدن میں طیبہ داخل مجرہ شریفہ ہے تو مرزا قادیانی کا آپ کی قبر کی بابت یہ کہنا کہ وہ کشمیر میں ہے باطل ہے۔

دوم! یہ کہ اس حدیث میں صحیح موعد کے لئے بتایا گیا کہ وہ مدینہ طیبہ میں مدفن ہوں گے اور سب پر واضح ہے کہ مرزا قادیانی لاہور میں فوت ہوئے اور وہاں سے ریل پر سوار کر کے قادیان میں دفن کئے گئے۔ پس جب مطابق حدیث کے آپ کا دفن نہ ہوا تو آپ کو دعویٰ مسیحیت بھی باطل ہوا۔

سوم! یہ کہ مرزا قادیانی نے اس حدیث کے رو سے محمدی بیگم کے نکاح کو اپنی مسیحیت کا نشان قرار دیا اور معلوم ہے کہ مرزا قادیانی دنیا سے اس کے نکاح سے محروم رخصت ہوئے تو جس امر کو انہوں نے مسیحیت کا نشان قرار دیا تھا وہ پورا نہ ہوا تو مرزا قادیانی کا دعویٰ مسیحیت غلط ہوا۔ مولوی محمد احسن قادیانی نے اس حدیث نبوی پر یہ اعتراض کیا کہ اس سے اہانت نبی ﷺ کی لازمی آتی ہے۔ کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کی قبر مبارک میں دفن کئے جائیں تو بالضرور قبر رسول ﷺ کا کھودنا لازم آئے گا۔ یہ بے ادبی ہے جناب اقدس رسول کریم ﷺ کی خدمت میں۔

مولوی محمد احسن قادیانی نے لیاقت علمی اور قوت نظری سے بالکل کام نہیں لیا اور تقویٰ اور ادب کو بالائے طاق رکھ دیا۔ یہ اعتراض تو رسول اللہ ﷺ ناطق بالوہی کے کلام ہدایت الیتام پر

ہوانہ کہ اہل سنت کے اعتقاد پر۔ کیونکہ اہل سنت تو صرف کلمات نبویہ کے ناقل ہیں اور ان کے مطابق اعتماد رکھنے والے فصح انصحاء ناطق بالوجہ ﷺ کے کلمات جامعہ خود اس شبہ وہی ورد کرتے ہیں اور تصریح ہیں ابی بکر و عمرؓ اسی لئے ہے کہ کسی متجہل کوشہ قبر کے کھودنے کا نہ پڑے۔ کیونکہ مرکب اضافی ہیں ابی بکر و عمرؓ متعلق ہے۔ فعل یہ فن کے نہ اقوام کے کیونکہ نقشہ روضہ پاک اس کا انکار کر رہا ہے۔ جب یہ صاف بتلا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام شیخین حلیفتینؓ کے درمیان مدفن ہوں گے تو شبہ کھودنے قبر کا جاتا رہا اور یہی تخصیص ہیں ابی بکر و عمرؓ مفید ہے۔ اس امر کی کہ قبر بمعنی مقبرہ ہے اور فی بمعنی من ہے۔ (فانہم) اس حدیث میں قبر بمعنی مقبرہ اور فی ثانی بمعنی من کی تصریح ماعلیٰ قاریؓ نے اسی حدیث کی شرح میں کی ہے۔

روضہ مطہرہ بنی ﷺ کا نقشہ حسب ذیل ہے۔ منقول از جذب القلوب!

### نقشہ

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ

حضرت ابو بکر صدیق

موضع قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام

حضرت عمرؓ فاروق

اس کیفیت سے کہ سرمبارک حضرت ابو بکر صدیقؓ کا محاڑی معدن اسرارِ منبع انوار صدر شریف حضرت رسول مقبول ﷺ کے ہے اور سرمبارک حضرت غلیفہ ثانیؓ کا بمقابلہ سید حضرت خلیفہ اولؓ اور قدم مبارک حضرت رسول ﷺ کے ہے اور قدم حضرت عمرؓ کے دیوار کے نیچے میں ہیں۔ اس کیفیت سے جو موضع حضرت خلیفہ ثانیؓ فاروقؓ اعظم حضرت عمرؓ کے سرہانے خالی پچی ہوئی ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی جگہ جو قادریانی کو بھی بھی نصیب نہ ہوگی۔ ان اللہ لا یخالف المیعاد!

یہ کیفیت قبور شلاشہ کی شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلویؓ نے جذب القلوب میں درج فرمائی اور اسی وضع کو صحیح کہا ہے۔ بچ اکرامہ میں یہ قل اہن خلد ون از کندی ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مدینہ میں فوت ہوں گے اور حضرت عمرؓ کے پاس وفن کئے جائیں گے۔ یہ بھی مردی ہے کہ

۱۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مرتضیٰ قادریانی ۲۶ ربیعی ۱۹۰۸ء کو بروز منگل سہ شنبہ لاہور میں بعارضہ مرض ہیضہ فوت ہو گئے اور فریض حج ادا نہ کیا۔ جو بوجہ تمول آپ پر فرض تھا اور بوجہ دعویٰ مسیحیت ہونا ضروری تھا۔

ابو بکرؓ و عمرؓ و پیغمبر و کے درمیان سے محشور ہوں گے۔

..... ۲ ”عن عائشہ قالت قلت یا رسول اللہ انی اری انی اعیش بعدک فتساذن ان ادفن الی جنبک فقال وانی لی بذاالک الموضع ما فيه الاموضع قبری و قبرابی بکر و عمر و عیسیٰ بن مریم (كنز العمال ج ۱۴ ص ۶۲۰ حدیث نمبر ۳۹۷۲۸) ”وسری حدیث کنز العمال میں تجزیع ابن عساکر نقل کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا کہ میں نے جناب اقدس ﷺ سے عرض کیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں آپؐ کے بعد زندہ رہوں گی۔ پس آپؐ اجازت فرمائیں کہ میں آپؐ کے پہلو میں دفن کی جاؤں۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ اس جگہ کی نسبت میرا کچھ اختیار نہیں ہے۔ وہاں تو سوائے میری قبر اور ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمرؓ اور عیسیٰ بن مریم کی قبر کے کسی کی جگہ نہیں۔ چونکہ حضرت عائشہؓ کا آئینہ قلب بوجہ اکتساب انوار نبویہ از بس محلہ تھا۔ اس لئے آپؐ پر کرامۃ مکشف مشہود ہو گیا کہ آپؐ رسول اکرم ﷺ کے بعد زندہ رہیں گی۔ پس تمنا کی کہ آپؐ کی جب مبارک میں مدفون ہوں۔ اس پر آپؐ نے جواب فرمایا کہ اللہ مدبر السموات والارض کی طرف سے یہی امر مقدر ہے کہ میرے مقبرہ میں سوائے میری قبر اور ابو بکرؓ و عمرؓ اور عیسیٰ بن مریم کی قبر کے اور کسی کی قبر نہ ہو۔ پس یہ میرا اختیاری امر نہیں ہے۔

اللہ اکبر! جس امر کو رسول اکرم ﷺ اس وضاحت اور صفائی سے مصرح بیان فرمائیں۔ مظلومین منکرین اس میں تردیدات و شبہات وارد کرتے ہیں اور صراط مستقیم کی طرف توجہ نہیں کرتے یہ صرف بداعتقادی کا نتیجہ ہے۔

تیسرا حدیث امام ترمذی نے عبد اللہ بن سلامؓ سے روایت کیا اور اس حدیث کو حسن کہا کہ توریت میں محمد رسول ﷺ کی صفت ہوئی ہے۔

..... ۳ ”عن عبد الله بن سلام قال مكتوب في التوراة صفة محمد و عيسى بن مریم يدفن معه قال ابو مودود قدبقي في البيت موضع قبر (رواه الترمذی، مشکوٰة ص ۵۱۵، فضائل سید المرسلین) ”اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہر دو پیغمبر ان صلوٰۃ اللہ علیہما السلام کی خبر توریت میں دی تھی اور یہ بھی کہ ان دونوں کا مدفن ایک ہو گا اور الفاظ مبارکہ کے یہ دو مدفن سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عیسیٰ بن مریم کی موت وفات رسول اکرم ﷺ سے متاخر ہو گی۔ کیونکہ مقام وصول پُلحق ہے، ملحق سے متقدم ہوتا ہے۔

۲ ..... فیصلہ ابن کثیر میں یتخریج ابن عساکر عن بعض السلف ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم رسول اللہ ﷺ کے جھروہ میں آپ کے پاس مدفون ہوں گے۔ ”ذکر الحافظ ابوالقاسم بن عساکر فی ترجمۃ عیسیٰ بن مریم من تاریخہ عن بعض السلف انه یدفن مع النبی ﷺ فی حجرتہ (ابن کثیر ج ۲ ص ۱۵، بذیل آیت وان من اهل الکتب)“

۵ ..... طبرانی اور ابن عساکر اور امام الحمد شیعیان امام بخاری نے اپنی تاریخ میں عبد اللہ بن سلام سے روایت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن مریم رسول اللہ ﷺ اور صاحبین یعنی حضرت ابو بکر اور عمرؓ کے ساتھ مدفون ہوں گے۔

”یدفن عیسیٰ بن مریم مع رسول اللہ ﷺ واصحابیہ فیکون قبرہ رابعاً (در منثور ج ۲ ص ۲۴۶)“ پس آپ کی قبر چوتھی ہوگی۔

اور اسی طرح امام زرقانی راکنیؒ نے (شرح مواہب الدین ج ۵ ص ۳۵) میں کہا کہ ابن عساکر نے ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات مدینہ طیبہ میں ہوگی۔ پس اسی جگہ آپ کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ اور جھروہ نبوی ﷺ میں دفن کئے جائیں گے۔

ان احادیث و اخبار سے عیسیٰ علیہ السلام کا اب تک زندہ ہونا اور پھر زمانہ میں نازل ہونا اور کئی سال کے بعد فوت ہو کر مدینۃ الرسول ﷺ میں آپ ﷺ کے پاس دفن کیا جانا صاف ثابت ہے کہ اور اس امر پر امت مرحومہ کا اجماع ہے۔ پس چونکہ ان سے مرتضیٰ قادری کی عمارت میسیحیت بالکل متہدم اور ان کی بخش رسالت کھوکھلی ہو جاتی ہے اور دام بیعت کا سارا تانا بانا ٹوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ مرتضیٰ قادری کا مدینہ منورہ میں پہلوئے نبی ﷺ میں مدفون ہونا تو درکنار ان پر دخول حریم بھی حرام ہے۔ اس لئے ان الزامات سے بچنے کے لئے ایک دروغ بے سر و پا کھڑا کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی تبرکشمیر میں بتادی۔

چونکہ مرتضیٰ قادری کا خروج وقت نہ ہبی پہلو میں ہے اور ان کا اذعاع مسلمانوں کی امامت کا ہے۔ اس لئے ان کو خواہ مخواہ قرآن و حدیث میں تصرف کر کے مسلمانوں کے سامنے کچھ نہ پکھ پیش کرنا پڑا ہے۔ ورنہ ان کے مسائل مخصوصہ میں ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہوتی جو قابلِ اعتبار ہو۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ قرآن مجید میں صاف طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب نہ ہونے کا ذکر موجود ہے اور پھر انہوں نے اپنے مطلب کو سیدھا کرنے کے لیے عیسائیوں کی کتابوں کی پیروی کی اور قرآن شریف کی آیت کے معنی ہی بدلتے۔ حالانکہ وہ معنے نہ تولغت

کی رو سے درست ہیں اور نہ سلف و خلف میں سے کسی سے منقول ہیں۔ اسی طرح اس آیت اوینہما الی ربؤہ کو انہوں نے محض مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے پیش کیا ہے اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کا کشمیر میں ہونا بتایا ہے۔ حالانکہ اس میں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے نہ قبر کا اور نہ ملک کشمیر کا۔

علاوہ بریں یہ کہ اس آیت میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا ذکر نہیں۔ بلکہ آپ کی والدہ حضرت مریم کا بھی ساتھ ہی ذکر ہے اور صیغہ تثنیہ کے یہی معنی ہیں کہ ایک کے ساتھ دوسرا بھی اس حکم میں شامل ہے۔ پس اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ بعد مصلوب ہونے کے کشمیر کو بھاگ آئے تو حضرت مریم بھی ساتھ ہی ہوں گی اور ان کی قبر بھی کشمیر ہی میں چاہئے۔ کیونکہ اس آیت میں دونوں کا ذکر ہے۔ لیکن بیان بالا سے معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مدینہ طیبہ میں آنحضرت ﷺ کے روضہ پاک میں ہو گی اور حضرت مریم کی قبر تو بیت المقدس میں ہے۔ جہاں وہ بعد رفع عیسوی فوت ہوئیں اور دفن کی گئیں۔ پس مرزاقادیانی کا قول سرازیر باطل ہے۔

### مولوی شناء اللہ صاحب کے ساتھ مرزاقادیانی کا آخری فیصلہ

قبر صحیح یا حیات صحیح وغیرہ کے مضامین گوایک حد تک مفید ہیں۔ لیکن پوری طرح ازالہ فساد کرنے کو یہی مضمون ہے جس کا نام آخری فیصلہ ہے۔ حقیقت اس کی یہ ہے کہ مرزاقادیانی نے ایک اشتہار بطور آخری فیصلہ کے دیا تھا۔ جس میں آپ نے دعا کی تھی کہ الہی ہم دونوں (مرزا قادیانی اور مولوی شناء اللہ) میں سے جو تیرے نزدیک جھوٹا ہے اس کو پچ کی زندگی میں مار دے۔ چنانچہ وہ اشتہار یہ ہے۔

”بخدمت مولوی شناء اللہ صاحب السلام علی من اتبع الہدی!“ امّت سے آپ کے پرچہ اہل حدیث میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ مجھے آپنے اس پرچہ میں مردود کذاب دجال مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری اور کذاب اور دجال ہے اور اس شخص کا دعویٰ صحیح موعود ہونے کا سراسرا فراء ہے۔ میں نے آپ سے بہت دکھا لیا اور صبر کرتا رہا۔ مگر چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں حق کے پھیلانے کے لئے مأمور ہوں اور آپ بہت سے افتراء میرے پر کر کے دنیا کو میری طرف آنے سے روکتے

۱۔ چنانچہ خاکسار سن ۱۳۳۰ھ میں پچش مخدود آیا ہے۔

ہیں اور مجھے ان گالیوں، ان تہتوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ جن سے بڑھ کر کوئی لفظ سخت نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں۔ جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر ایک پرچہ مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا..... یہ کسی الہام یا وحی کی بناء پر پیش گوئی نہیں محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بصیر و قدیر جو علیم و خبیر ہے۔ جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے۔ اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا حکم میرے نفس کا افتراہ ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن، رات افتراہ کرنا میرا کام ہے تو اے میرے پیارے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی شاء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کرو اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے۔ آمین!..... میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملت جی ہوں کہ مجھ میں اور شاء اللہ میں سچا فیصلہ فرمایا اور وہ جو تیری نگاہ میں درحقیقت میں مفسد اور کذاب ہے۔ اس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھائے یا کسی اور نہایت سخت آفت میں جو موت کے برابر ہو بنتا کر۔ اے میرے پیارے مالک تو ایسا ہی کر۔ آمین! ثم آمین! ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خير الفاتحين . آمين!

(راقم عبد اللہ الصمد مرزا غلام احمد مسیح موعود عافاہ اللہ وايد)

(مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۷۸، ۵۷۹)

اس دعا کی بابت اخبار بدر ۲۵ راپریل ۱۹۰۷ء میں مرزا قادریانی کا قول لکھا ہے کہ ”شاء اللہ کی بابت جو ہم نے دعا کی ہے۔ خدا نے اس کے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔“ چنانچہ وہ قبول ہو گئی کہ مرزا قادریانی اس دنیا سے رخصت ہوئے اور مولوی صاحب تعالیٰ زندہ سلامت ہیں۔ الحمد للہ کیا چجھے۔

لکھا تھا کاذب مرے گا پیشتر  
کذب میں پکا تھا پہلے مر گیا

المرتب خاکسار! حافظ محمد برائیم میر سیالکوئی!

نوٹ! مولانا شاء اللہ مرتری قیام پاکستان کے بعد سرگودھا رہائش پذیر ہوئے۔

فقیر مرتب! ارشوال ۱۹۳۷ء کے بعد انتقال فرمما۔

الحمد لله رب العالمين

# قادیانی مذهب

بمع

ضمیمه خلاصہ مسائل قادیانیہ

مولانا حافظ محمد ابراہیم میرسیا لکوٹی

بسم الله الرحمن الرحيم!

مرزا محمود خلیفہ قادریانی پر واجب ہے کہ وہ اس رسالہ کا جواب اپنے علماء کو مطالعہ کرانے کے بعد حکماً تحریر کرائیں۔ کیونکہ یہاں کی اپنی خود کاشتہ جھاڑی کا بے خلش کا نتایج ہے۔

یہ رسالہ صدق مقاہلہ اول ماه ستمبر ۱۹۲۸ء میں مولانا مددوح نے اپنے اور مرزا محمود قادریانی کے ایام قیام کوئٹہ بلوچستان میں صرف ایک شب کی ایک نشست میں علمائے کوئٹہ کی فرمائش پر لکھا تھا۔ جنہوں نے اس کو وہاں کوئٹہ میں طبع کرا کے تقسیم کیا اور یہاں سیالکوٹ میں ۳۱ راکتوبر و ۲ کیم رنومبر ۱۹۲۸ء کو قادریانیوں کے جلسے میں بھی تقسیم کیا گیا۔ آج تک اس کا جواب نہ کوئٹہ والی انجمن نے اور نہ سیالکوٹ والی انجمن قادریانی نے اور نہ مرزا محمود قادریانی نے مرزا سے دیا۔ اب تیری باراں کو قدیم انجمن اہل حدیث سیالکوٹ میانہ پورہ طبع کرا کے شائع کر رہی ہے۔ ناظم انجمن اہل حدیث میانہ پورہ سیالکوٹ

## قادیانی مذہب

### بجواب قادریانی اشتہارات ”ہمارا مذہب وغیرہ“

بسم الله الرحمن الرحيم . نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔  
 مرزا محمود قادریانی جب سے وارد کوئٹہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے تبلیغ قادریانیت میں کئی ایک پہنچت اور اشتہارات شائع کرائے ہیں۔ جو سیاسی نقطہ نگاہ سے حکومت پاکستان کے وقت مفاد کے لئے سخت خطرناک ہیں۔ کیونکہ ان کے مندرجہ مسائل ایسے ہیں۔ جو مسلمانوں کے سب فرقوں کے نزدیک کفر والحاد اور ضلالت ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ ختم نبوت کا ہے کہ قادریانی لوگوں کے نزدیک مرزا غلام احمد صاحب قادریانی (والد مرزا محمود قادریانی) بنی اور رسول ہیں اور جو کوئی ان کو بنی اور رسول نہ ہانے وہ کافر و جہنمی ہے۔

اس کے جواب میں علمائے اسلام نے ایک پلک جلسہ میں ختم نبوت کا مسئلہ قرآن و حدیث اور خود مرزا قادیانی مدعا نبوت کی ابتدائی تحریرات سے روز روشن کی طرح ثابت کر دیا کہ آنحضرت ﷺ سلسلہ نبوت کے آخری نبی ہیں اور آپؐ کے بعد کوئی جدید نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات علماء کے ان وعظوں کا اثر اہل شہر پر بے حد ہوا۔ قادیانی گروہ سے جب ان دلائل کا جواب نہ ہو سکا تو انہوں نے پہلو بدل کر ایک اشتہار شائع کیا کہ ”علمائے اسلام نے ایسے عقائد جماعت احمدیہ کی طرف منسوب کئے ہیں۔ جن سے ہم خود بیزار ہیں اور ایسے عقائد برکھنے والے کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔“ (دیکھو قادیانی اشتہار ہمارا نہ بس اس طریقہ (۲۰۲۰ ص)

نیز لکھا ہے کہ ”علماء نے ہمارے متعلق اپنی تقاریر میں یہ کہا ہے کہ ہم نعمود بالله من ذالک حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو خاتم النبیین نہیں مانتے اور یہ کہ حضرت مرزا صاحب بانی سلسلہ احمدیہ کو ہم تمام انبیاء سے افضل جانتے ہیں۔“ (دیکھو اشتہار نہ کورس اسٹریچ ۲۰۲۰) نیز اس اشتہار میں اردو ترجمہ (تلیغ ص ۳۹۶، آئینہ کمالات ص ۳۸۷، خزانہ ج ۵ ص ایضاً) سے جو عبارت مرزا غلام احمد قادیانی مدعا نبوت کی طرف سے نقل کی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں ”اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مجرمات انبیاء حق ہیں۔“ (اشتہار نہ کورس ۳۳ صفحہ ۲)

اس کے جواب میں عرض ہے کہ ہمارا مقصود بھی یہی ہے کہ آپ عقائد کفریہ سے بیزار ہو کر توبہ کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص زبان سے توبہ کہے کہ میں کفر سے بیزار ہوں اور باوجود اس کے دل میں عقائد کفریہ رکھے اور ان کا اقرار بھی کرے تو اس کا کیا علاج؟۔

نمبر وار ملاحظہ فرماتے جائیے اور اپنے ضمیر میں سوچتے جائیے کہ امور ذیل کفر و ضلالت ہیں یا نہیں۔ لیکن باوجود اس کے آپ ان کو اسی طرح مانتے ہیں یا نہیں؟۔

اول! یہ کہ علمائے اسلام نے اپنے وعظوں میں یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ لفظ ختم نبوت سے انکار کرتے ہیں۔ بلکہ یہ کہا کہ خاتم النبیین کے معنے (از روئے کتب لغت و احادیث نبویہ و کتب تفسیر و شروح احادیث) آخری نبی ہیں۔ (دیکھو سان العرب ج ۲ ص ۲۵) لیکن آپ قادیانی لوگ اس کے معنی نہیں کرتے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی مہر تصدیق سے مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہیں اور یہ تحریف معنوی ہے۔ دیکھئے کہاں خاتم الانبیاء کے معنی آخری نبی اور کہاں یہ معنی کہ آپؐ کی مہر تصدیق سے سلسلہ نبوت کا اجراء قائم ہے۔ دیکھئے آپؐ کے خلیفہ اول ان حکیم

نور الدین صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ”ہمارا یہ مذہب ہے کہ اگر کوئی شخص آنحضرت ﷺ کو خاتم النبیین یقین نہ کرے تو بالاتفاق کافر ہے۔ یہ جدا امر ہے کہ اس کے کیا معنی کرتے ہیں اور ہمارے مخالف کیا۔“ علمائے اسلام نے اس کا جواب دو طریق پر دیا تھا۔  
اول..... احادیث رسول ﷺ سے۔

دوم ..... مرزا قادیانی کی اپنی تحریرات سابقہ سے۔

اگر آپ (قادیانی) لوگ خاتم الانبیاء کے معنی آخری کرتے ہیں اور بعد آنحضرت ﷺ کے کسی جدید نبوت کے مدعا کو مرزا قادیانی سمیت جھوٹا جانتے ہیں۔ جیسا کہ خود آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ تو بسم اللہ ول ما شاد و چشم مارو شن، مرزا محمود قادیانی سے دستخط کرووا بھیجئے۔ ہم اس خوشی میں ایک عام جلسہ کر کے پلک کو مرشدہ سنادیں گے اور اگر آپ نے خاتم کے معنی کچھ اور کئے تو سمجھا جائے گا کہ آپ لفظوں کی آڑ میں عقائد کفر یہ چھپانا چاہتے ہیں۔

دیکھئے خاتم النبیین کے معنی خود حضور سرور کائنات ﷺ نے کیا فرمائے ہیں اور آپ کے بعد امتی کہلا کر دعوے نبوت کرنے والے کے حق میں کیا فتویٰ صادر فرمایا ہے۔

پہلی حدیث: (جامع ترمذی ج ۲ ص ۲۵) میں ایک مفصل حدیث ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ”رسول ﷺ نے فرمایا۔ میری امت میں تیس کذاب ہوں گے۔ ہر ایک ان میں کا زعم کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔“

امام ترمذی اس حدیث پر فرماتے ہیں کہ ”هذا حدیث صحيح یعنی یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ حدیث (مشکوٰۃ شریف کی کتاب الفتن باب الملاحم ص ۳۶۵ بار دوایت ترمذی والی داؤد) منقول ہے۔ جو نبی کتاب میسر ہوئے اس میں یہ لیجھے۔

آئیے اس پر مرزا قادیانی کے بھی دستخط دیکھ لیجھے۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب (از الادب امام س ۱۱۲ بخارائن ج ۳ ص ۳۳۱) میں ”ماکان محمد ابا احمد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین“ کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ ”یعنی محمد ﷺ تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں۔“ مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا۔“ اور لانہی بعدی کے متعلق (ایام اصلح اردو ص ۱۳۶ بخارائن ج ۱۲ اس ۳۹۳) میں فرماتے ہیں کہ ”حدیث لا نبی بعدی میں بھی لا نبی عام ہے۔ پس یہ کس قدر دلیل ہی گستاخی ہے کہ خیالات رکھنے کی پیروی کر کے نصوص صریح قرآن کو عدماً

پھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے اور بعد اس کے جو وحی منقطع ہو چکی ہے۔ پھر سلسلہ وحی نبوت کا جاری کر دیا جائے۔“

اور حضور سرور عالم ﷺ کے بعد مدعاً نبوت کو جو کذاب کہا گیا ہے۔ اس کی نسبت بھی مرزا قادیانی کی تصریحات ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں۔ ”ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعاً نبوت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔“ (اشتہار ۲۰ اکتوبر ۱۸۹۱ء، مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۲۳۰)

نیز فرماتے ہیں کہ: ”مجھے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں۔“ (جمالتہ البشری ص ۹۷، خزانہ حج ۲۹ ص ۲۹۷)

مرزا قادیانی کے ان حوالہ جات سے اس حدیث شریف کی تینوں باتیں ثابت ہو گئیں۔ یہ بھی کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہیں اور یہ بھی لانبی بعدی میں لائفی عام ہے اور یہ بھی کہ آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت کا مدعاً کذاب اور کافر ہے۔

دوسری حدیث، (مسند امام احمد حج ۲۹ ص ۲۹۷) میں حضرت اُنسؓ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا۔ ”ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى“ (یعنی بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے۔ پس میرے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں ہو گا۔) اب مرزا قادیانی کے دستخط بھی انہی کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیجئے۔ آپ ازالہ اوہام میں خاتم النبیین کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت تا بقیامت منقطع ہے۔“ (از ال اوہام ص ۲۱۲، خزانہ حج ۳۳ ص ۲۳۲)

تیسرا حدیث: صحیحین (بخاری و مسلم) کی حدیث میں مذکور ہے کہ ”آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کے متعلق ہوتی تھی۔ ایک نبی نبوت ہو جاتا تو اس کا خلیفہ بھی نبی ہوتا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔ ہاں خلیفے ہوں گے اور بہت ہوں گے۔“ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۰، کتاب الامارة، القضاۃ)

اس کے متعلق بھی مرزا قادیانی کے دستخط ملاحظہ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں۔

مکتب مرزا قادیانی ”وحی رسالت ختم ہو گئی۔ مگر ولایت اور امامت و خلافت کبھی ختم نہیں ہو گی۔“ (مکتبات احمد یعن دنبر د ص ۲۶۶)

## مرزا قادیانی کی ترقی کا دوسرا دور

حوالہ جات مندرجہ بالا کے خلاف نومبر ۱۹۰۱ء میں جب مرزا قادیانی کو کھلے طور پر دعویٰ نبوت کا شوق ہوا تو سب تحریرات پلٹ گئیں۔ ختم نبوت کے معنے پہلے اور تھے، اور اب اور کرنے پڑے۔ جو چیز پہلے کفر تھی اور دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی تھی۔ اب اسے ایمان کی اہم جزو اور دین میں داخل ہونے کی ضرورتی شرط قرار دیا گیا اور پہلے ایمان کو لغو اور باطل ٹھہرایا گیا۔ چنانچہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:

..... ۱ ..... ”یہ کس قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد آنحضرت ﷺ کے وحی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی امید نہیں۔“ (ضیغمہ برائین احمد یہ حصہ چشم ص ۱۸۲، خزانہ حج ص ۲۵۲)

..... ۲ ..... اور اپنے دعویٰ کی ضرورت کے لئے خاتم الانبیاء کے معنے یہ کئے گئے۔ آنحضرت ﷺ کو جو خاتم الانبیاء فرمایا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ آپ کے بعد دروازہ مکالمات، مخاطبات الہیہ بند ہے۔“ (ضیغمہ برائین احمد یہ حصہ چشم ص ۱۸۲، خزانہ حج ص ۲۵۲) نیز فرماتے ہیں کہ: ”وہ نبوت پلیں سکے گی جس پر آپ کی مہر ہو گی۔“

(ضیغمہ برائین احمد یہ ص ۱۸۱، خزانہ حج ص ۲۵۲، چشم ص ۲۵۳) دیکھئے ختم نبوت کے معنے کس سہولت و سادگی سے بقول! چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد بدلتے گئے ہیں اور جس امر کو فرجانتے تھے۔ اسے ایمان بنایا گیا۔

اب بتائیے ازالہ اور ہام وغیرہ کی مندرجہ بالا عبارتوں اور نومبر ۱۹۰۱ء کے بعد کی عبارتوں میں تناقض ہے یا نہیں؟۔ اہل منطق کا قول ہے کہ: ”نقیض کل شیئی رفعہ“ سبقاً جس چیز سے جن الفاظ میں انکار تھا۔ اب اسی چیز کو انہی الفاظ میں ثابت کر رہے ہیں۔

..... اس تناقض کے متعلق خود مرزا قادیانی کا فتویٰ بھی سن لیجئے۔ ہم کہیں گے تو شکایت ہو گی۔ آپ فرماتے ہیں۔ ”جو ٹو کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔“

(ضیغمہ برائین احمد یہ حصہ چشم ص ۱۱۱، خزانہ حج ص ۲۵۱)

اور لیجئے آپ فرماتے ہیں کہ: ”ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو تناقض باتیں

نہیں نکل سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا مناس۔

(ست پچھن ص ۲۱، خزانہ نج ۱۰ ص ۱۳۳)

۳..... اور مجھے آپ فرماتے ہیں کہ: ”اس شخص کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک خلا کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔“

(حقیقت الوجی ص ۱۸۶، خزانہ نج ۲۲ ص ۱۹۱)

۴..... اور مجھے آپ فرماتے ہیں ”کسی چیز عقلمند اور صاف دل انسان کے کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی پاگل یا مجنوں یا ایسا منافق ہو کہ خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہو۔ اس کا کام بے شک تناقض ہو جاتا ہے۔“ (ست پچھن ص ۳۰، خزانہ نج ۱۰ ص ۱۳۲)

ان حوالہ جات سے صاف ثابت ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک تناقض کلام والا مخبوط الحواس پاگل اور مجنوں ہے یا منافق۔

ان ہر دو فتوؤں کی حقیقت بھی ملاحظہ فرمائیجئے کہ مرزا قادیانی کو مرض مراق تھا۔ جو مالیخولیا کی قسم ہے۔ نہ صرف مرزا قادیانی کو بلکہ آپ کی زوجہ محترمہ کو بھی (والدہ خلیفہ محمود قادیانی) (کتاب منظور الہی ص ۲۳۳) اور خود خلیفہ محمود قادیانی کو بھی مراق ہے۔ ملاحظہ ہوں (رسالہ ریویو قادیانی ج ۲۵ نمبر ۸ ص ۱۱، اگست ۱۹۲۶)، سیرۃ المبدی حصہ دوم ص ۵۵، روایت ۳۶۹) اس کے بعد مالیخولیا کے اثرات بھی ملاحظہ فرمائیجئے۔ شرح اسباب میں ہے کہ:

۱..... یہ خیال ہو جانا کہ میں غیب داں ہوں۔

۲..... میں فرشتہ ہوں۔

ب..... اور مجھے (اکیرا عظیم نج اص ۱۸۸) میں ہے۔ ”مریض صاحب علم ہوتا بغیری اور معجزات اور کرامات کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ خدائی کی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتا ہے۔“

دوسرافتوئی: مرزا قادیانی کا یہ ہے کہ تناقض کلام والا منافق ہے۔ سو یہ بھی درست ہے کہ مرزا قادیانی پہاڑ مسلمانوں کو اپنے ساتھ مانوس رکھنے کے لئے ختم نبوت کے معنی وہی کرتے رہے۔ جو ساری امت محمدیہ میں مسلم ہیں۔ لیکن جب دیکھا کہ لوگ پھنس گئے ہیں تو کھلم کھلا دعویٰ

نبوت کر دیا اور منافق کی حقیقت یہی ہے کہ باطن میں کچھ اور ظاہر میں کچھ اور۔ یعنی باقی کے دانت دکھانے کے اوپر کے اور۔

دیکھئے ایسے منافقانہ ایمان و اقرار کی حقیقت خدا کے نزدیک کیا ہے۔ منافق آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آ کر کتبے۔ ”نشهد انک لرسول اللہ (المنافقون: ۱)“ (یعنی ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔)

باؤ جو داں کے خدا تعالیٰ نے ان منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ: ”والله یشہد ان المنافقین لکذبوبن (المنافقون: ۱)“ (یعنی خدا تعالیٰ شہادت دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔) یعنی یوگ مخفی زبان سے ایسا کہتے ہیں۔ ان کے دل میں اس پر ایمان نہیں ہے۔

اسی طرح سودۃ بقرہ کے شروع میں فرمایا کہ: ”وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمْنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (البقرة: ۸)“ (یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور پچھلے دن (یعنی روز قیامت پر ایمان لے آئے ہیں اور وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔)

دیکھئے باؤ جو خدا پر اور روز قیامت پر ایمان کا اظہار کرنے کے خدا تعالیٰ صاف الشاظ میں فرماتا ہے کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔

اس کی کیا وجہ ہے؟۔ سواس کی نسبت فرمایا کہ: ”يَخْدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا (البقرة: ۹)“ (یعنی خدا تعالیٰ سے اور موننوں سے فریب کاری کرتے ہیں۔)

اسی طرح مرزا قادیانی نے ازراہ منافقت مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے آنحضرت ﷺ کی تعریف کی اور آپ ﷺ کو لفظاً خاتم الانبیاء بھی لکھا اور خاتم الانبیاء کے معنے اپنے دل میں چھپا کرے۔ جب کھلا دعویٰ کر دیا۔ تو اس کے معنے پڑت دیئے۔ پس پہلا لفظی اظہار ایمان بحکم قرآن مجید کذب اور فریب ہے۔

منافرت کا جواب: اور جو ریزو لیوشن آپ لوگوں نے اپنی نام نہاداً جمیں احمد یہ میں پاس کر کے شائع کیا ہے اور اس میں حکومت پاکستان کو توجہ دلائی ہے کہ علمائے اسلام ہمارے برخلاف منافرت پھیلاتے ہیں۔ سواس کے جواب میں گذارش ہے کہ منافرت کی بنیاد اس صوبہ بلوچستان میں آپ کے خلیفہ محمود نے رکھی۔ جو انتر کروڑیا کم و بیش مسلمانوں کو

ایک جھوٹے مدعی نبوت کے نہ ماننے کے سبب کافر قرار دینے والے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ مرزا محمود قادریانی اپنی کتاب آئینہ صداقت میں مولوی محمد علی قادریانی امیر جماعت احمد یہ لاہور کے جواب میں فرماتے ہیں۔

”تبدیلی عقیدہ مولوی (محمد علی قادریانی) تین امور کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ: اذل یہ کہ میں نے مسح موعود کے متعلق یہ ذیال پھیلا دیا ہے کہ آپ فی الواقع نبی ہیں۔ دوم یہ کہ آپ ہی آئیہ اسمہ احمد کی پیش گوئی مذکورہ قرآن مجید کے مصدق ہیں۔ سوم یہ کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔ خواہ حضرت مسح موعود کا نام بھی نہیں سن۔ وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے یہ عقائد ہیں۔ لیکن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ ۱۹۱۷ء یا اس سے تین چار سال پہلے سے میں نے یہ عقائد اختیار کئے ہیں۔“

(آئینہ صداقت ص ۲۵)

### خلیفہ اول مولوی حکیم نور الدین قادریانی کا فتویٰ

”اخبار الحجم بابت ۷ اگست ۱۹۰۸ء میں ہے حکیم قادریانی مددوح کی ایک فارسی رباعی چھپی تھی۔ جو نون عروض و ادب کے لحاظ سے اس پاپیکی معلوم ہوتی ہے کہ اگر مرزا غالب مر جنمہ ہوتے تو اس پر سرد ہستے۔ آپ فرماتے ہیں کہ:

اسم او اسم مبارک ابن مریم میں نہند۔ آں غلام احمد است و مرزاۓ قادریان گر کے آرڈنیشن درشان اداں کافر است۔ جائے او باشد جہنم بے شک و ریب و گماں ..... ۲ ”ایک شخص نے حضرت خلیفۃ المسیح (مولوی نور الدین قادریانی) سے سوال کیا کہ حضرت مرزا قادریانی کے ماننے کے بغیر نجات ہے کہ نہیں فرمایا۔ اگر خدا کا کلام سچا ہے تو مرزا قادریانی کے ماننے بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔“ (کمۃ الغصل ص ۳۶۹، تحریک الاذہان قادریانی ج ۹ نمبر ۱۹۱۲ء، بابت ماہ نومبر ۱۹۱۲ء، و اخبار بدرج ۱۲ نمبر ۲، ہور جمادی ۱۹۱۳ء)

### خلیفہ ثانی مرزا محمود قادریانی کا فتویٰ اور تعلیٰ

مرزا محمود قادریانی جنہوں نے بلوجستان میں آ کر مسلمانوں میں بے چینی پیدا کی۔ اپنی شان میں فرماتے ہیں کہ: ”جس طرح مسح موعود کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے۔ اسی طرح میرا انکار

انبیاءے بنی اسرائیل کا انکار ہے۔ جنہوں نے میری خبر دی۔ میرا انکار رسول اللہ کا انکار ہے۔ جنہوں نے میری خبر دی۔ میرا انکار شاہ نعمت اللہ ولی کا انکار ہے۔ جنہوں نے میری خبر دی۔ میرا انکار صحیح موعود کا انکار ہے۔ جنہوں نے میرا نام محمود رکھا اور مجھے موعود بیٹا شہر اکرم میری تعین کی۔“

(تقریر میرا محمود قادریانی مندرجہ الفضل، قادریان ح ۵۳، ۲۳ ستمبر ۱۹۷۱ء)

..... ۲۔ مرزا محمد قادریانی بوجہ مرض مراق کے اپنی زبانی توجہ کچھ چاہیں بنیں۔

کیونکہ وہ ایسے ہی پاپ کے فرزند ہیں اور حدیث پاک میں ہے کہ: ”الولد سر لابیہ“ لیکن قادریانی اخبارات مضمون نگاران کو اس سے بھی بڑھ کر بناتے ہیں۔ چنانچہ (اخبار الفضل قادریان ح ۱۲ ش ۹۵، موری ۲۸ فروری ۱۹۲۵ء) میں ایک مضمون ان کے بہم صفت موصوف ہونے کے متعلق چھپا تھا۔ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ”جو کمالات خدا تعالیٰ نے مختلف اہل کمال (انبیاء وغیر انبیاء) کو الگ الگ طور پر بخشے۔ وہ سب امام جماعت احمد یہ مرزا محمد قادریانی میں جمع کر دیئے ہیں۔ ان اوصاف حمیدہ میں مضمون نویس نے حسن یوسف کا بھی ذکر کیا ہے۔ گویا خلیفہ محمود قادریانی ظاہری حسن صورت میں یوسف ثانی ہیں۔“ (ماشاء اللہ چشم بد دور) یہ شعر شاید کسی نے انہی کی شان میں کہا ہو گا۔ شعر کا مضمون یہ ہے کہ اے مخاطب تم پر خدا نے رشت روئی ایسی ختم کر دی ہے۔ جیسے یوسف پر خوب روئی۔

## مولوی محمد علی قادریانی لاہوری اور ان کی جماعت

لاہوری جماعت ہڑے زور سے ڈھنڈو رہ چکتی ہے۔ ہم قادریانی جماعت کی طرح مرزا قادریانی کو نبی اور ان کے انکار کے سب مسلمانوں کو کافرنہیں جانتے اور اسی وجہ سے ہم ان سے الگ ہو گئے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ بلکہ مرزا قادیانی کی زندگی میں اور پھر مولوی نور الدین قادریانی کی خلافت میں یہ سب مرزا قادریانی کو نبی اور مسلمانوں کو ان کے انکار کے سب کافر سمجھتے تھے۔ کیونکہ نومبر ۱۹۰۱ء میں جب مرزا قادریانی نے حکملم کھلا دعویٰ نبوت کیا تو اس وقت احمدی رہتے ہوئے ان کو انکار کی گنجائش نہ تھی اور مولوی نور الدین قادریانی، مرزا قادریانی کی زندگی میں بھی اور اپنے عہد خلافت میں بھی اسی اعتقاد پر تھے۔ اختلاف کی صورت یہ بنی کہ مولوی نور الدین قادریانی کی وفات پر مولوی محمد علی قادریانی کو امیدی تھی کہ قرعہ خلافت ان کے نام کا نکلے گا۔

لیکن مرزا محمود قادریانی نے جن کا ہاتھ اندر تھا۔ نہایت ہی ہوشیاری سے پیش قدمی کر کے چالیس آدمیوں یا زیادہ کی منظوری جیسا کہ مرزا قادریانی رسالہ الوصیت نہیں تحریر کر گئے ہیں۔ بیعت خلافت لے لی اور مولوی محمد علی قادریانی اور ان کے رفقاء دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔

ایسے حال میں اس ناکام جماعت کے لئے سوائے قادریان دارالامان سے بھرت کرنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ بس انہوں نے لاہور میں آکر اپنا اڈہ جمالیا اور دیگر شہروں میں گشت کر کے یہ بیان کرنے لگے کہ ہم قادریانی جماعت سے اس لئے الگ ہوئے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو کافر جانتی ہے۔ اگر یہی وجہ تھی تو مرزا قادریانی کی زندگی میں اور پھر مولوی نور الدین قادریانی کی خلافت میں کیوں الگ نہ ہوئے۔ حالانکہ بیان کردہ سبب اس وقت بھی موجود تھا۔

زابد ن داشت تاب وصال پری رخال  
کنجے گرفت وترس خدارا بہانہ ساخت

ہم اس جگہ لاہوری جماعت کے وہی اقتباس نقل کریں گے۔ جو اختلافات سے پہلے کے ہیں۔ کیونکہ اختلاف کے وقت کی تحریرات کسی فریق کو بھی مفید نہیں ہو سکتیں اور ان سے اصل مبحث کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔

..... ”اگر انبیاء کی ایک الگ جماعت ہے جو دنیا کے دوسرے لوگوں سے متاز ہے تو یقیناً ہمارا احمد (علیہ الصلوٰۃ والسلام) اسی جماعت کا ایک متاز فرد ہے۔ اگر زردشت ایک نبی، اگر بدھ اور کرشن نبی تھے اور اگر حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح خدا کی طرف سے نبی ہو کر دنیا میں آئے تو یقیناً احمد ایک نبی ہے۔ کیونکہ جن علمتوں کے ذریعے زردشت اور دیگر انبیاء کا نبی ہونا ہمیں معلوم ہوا اور وہ تمام علمائیں میں مرزا غلام احمد قادریانی فداوالبی و امی علیہ السلام میں موجود ہیں۔“ (مضمون مولوی محدث صاحب امیر جماعت لاہور، مندرجہ یو یا اف رٹچنر ۱۹۱۰ءا بات جولائی ۷ نمبر ص ۲۲۸)

..... ۲ ”ہم خدا کو شاہد کر کے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت مسیح موعود، مہدی موعود اللہ تعالیٰ کے چے رسول تھے اور اس زمانہ کی ہدایت کے لئے نازل ہوئے اور آج آپ کی متابعت میں ہی دنیا کی نجات ہے۔“

(لاہوری جماعت کا اخبار پیغام صلح اول نمبر ۲۵، مورخ ۲۷ ستمبر ۱۹۱۳ء)

..... ۳ ”ہم حضرت مسیح موعود مہدی موعود کو اس زمانہ کا نبی رسول اور نجات دہنده مانتے ہیں۔“ (لاہوری جماعت کا اخبار پیغام صلح نمبر ۳۲، مورخ ۲۶ اگست ۱۹۱۳ء)

”سلسلہ احمد یہ مانتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نبیوں کی مہر ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ ساتا۔ سو اس کے جو روحانی طور پر آپ کا شاگرد ہے اور انعام نبوت کے ذریعہ سے پاتا ہے۔ یہ صرف ایک سچا مسلم ہی ہے۔ جو نبی مدرس کی پیروی کر کے نبی بن سکتا ہے۔“ (انگریزی رسالہ الحمد عکس موجود، مؤلف محمد علی ایم۔ اے،)

### نتیجہ الكلام و خلاصہ المرام

تفصیل مذکورہ بالا سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی خود اور کیا ان کے خلیفہ اول حکیم نور الدین قادیانی اور کیا خلیفہ محمود اور کیا مولوی محمد علی قادیانی لا ہوری اور ان کی جماعت سب ایک ہی تھیں کے چڑھے ہیں۔ دیگروں کا خدا جانے۔ لیکن مرزا قادیانی کی تحریریات کے مطالعہ سے ایک گہری نظر والا تین شخص آسانی سے اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کا کوئی تھیہ نہ ہب نہیں تھا۔ آنحضرت ﷺ کی نبوت کا اقرار صرف اپنی مصنوعی رسالت کا اعتبار جمانے کے لئے تھا۔ کیونکہ وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ مسلمان آنحضرت ﷺ کے بعد کسی جدید نبوت کو کبھی نہیں مان سکتے۔ اس لئے انہوں نے اپنی نبوت کی یہ صورت اختیار کی کہ میں کوئی دوسرا شخص نہیں ہوں۔ بلکہ میں عین محمد ہوں۔ پس میں جدید بھی نہیں ہوں اور میری نبوت کے بغیر (معاذ اللہ) آنحضرت ﷺ کی ہٹک ہوتی ہے اور اسلام ایک مردہ مذہب ثابت ہوتا ہے۔

غرض منافرت کی ابتداء مرزا محمود نے رکھی۔ جنہوں نے ایسے عقائد کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو مرزا قادیانی کی نبوت کے قبول کرنے کی دعوت دی۔ نہ کہ مسلمانوں نے، جنہوں نے مسلمہ ختم نبوت کو ثابت کر کے آنحضرت ﷺ کی شان اور فضیلت ثابت کی۔ جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”خدا تعالیٰ نے مجھے چھ چیزیں ایسی عطا کی ہیں کہ وہ پہلے انہیاً کو عطا نہیں کیں۔ ایک ان میں یہ بتائی کہ ختم بی النبیوں ختم کے گئے میرے آنے پر انہیاً علیہم السلام“ اور اپنے دعوے سے پیشتر مرزا قادیانی بھی ختم نبوت کے یہی معنی لیتے تھے۔ جیسا کہ سابقہ بیان ہو چکا ہے۔

تبہیہ تفصیل بالا میں اس خط اور زیریکث کا جواب بھی آ گیا ہے جو ایک مقامی لا ہوری احمدی ملازم گورنمنٹ عبدالرحمن (سینیوٹ مشفر صاحب بہادر کوئٹہ) نے ایک حاشیہ لشیں کے نام سے ایک مقامی عالم اہل سنت معاوی عبد المکریم ساحب مدرسہ عربیہ برادری روڈ کوئٹہ کو بھیجا ہے کہ

---

1۔ بس یہ بھی باطل ہے۔ پس مرزا قادیانی کا دعویٰ عینیت رسول کریم ﷺ کفر والحاد ہے اور باطل ہے۔ (میریاً تَوْلَى فَغَنِي عَنْهُ)

”زمانہ کے امام کو پہچانو۔“ سو گذارش ہے کہ ہم نے آپ کے مشارا ایہ امام کو پہچان لیا اور خوب پہچان لیا کہ وہ ضرور ضرور امام کفر ہے اور ان تمیں کذابوں میں سے ہے۔ جن کی بابت آنحضرت ﷺ نے خبر دی کہ ”وہ میری امت سے ہوتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔“ (جامع ترمذی ج ۲ ص ۲۵)

### مجازات کا بیان

قادیانی اشتہار ”ہمارا نہ ہب“ میں مرزا غلام احمد قادریانی کی طرف سے مجازات انبیاء کے ماننے کی جو عبارت نقل کی گئی ہے وہ عبارت بھی مغض و حکما ہے۔ مرزا قادریانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجازات کے قائل ہرگز نہ تھے اور اس کی یہ وجہ تھی کہ جب خود دولت کا دعویٰ میسیحیت کا تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل مسیح نے تو یہ مجازات کئے۔ مثلی مسیح نے کون سے مجازات دکھائے؟ تو لامحالہ مرزا قادریانی کو یہ طریق جواب اختیار کرنا پڑا کہ جب اصل مسیح کے مجازات حقیقی نہیں تو مثلی مسیح سے مجازات کا مطالبہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ وہ ازالہ اور ہام کے نہایت شروع میں اسی عنوان سے سوال پیدا کر کے پھر خود اس کا جواب دیتے ہیں اور اس کے ضمن میں مجازات عیسویہ کی حقیقت یوں بتاتے ہیں۔

۱..... ”بعض لوگ موحدین کے فرقہ میں سے بحوالہ آیت قرآنی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح ابن مریم انواع و اقسام کے پرندے بنانے کا اور ان میں پھونک مار کر زندہ کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی بناء پر اعتراض کیا ہے کہ جس حالت میں مثلی مسیح ہونے کا دعویٰ ہے تو آپ بھی کوئی مٹی کا پرندہ بنانے کر پھر اس کو زندہ کر کے دکھائیے..... ان تمام اور ہام کا جواب یہ ہے کہ وہ آیات جن میں ایسا لکھا ہے متشابہات میں سے ہیں..... اور موحد صاحب کا یہ عذر کہ ہم ایسا اعتقاد تو نہیں رکھتے کہ اپنی ذاتی طاقت سے حضرت عیسیٰ خالق طیور تھے۔ بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ طاقت خدا تعالیٰ نے اپنے اذن اور ارادہ سے ان کو دے رکھی تھی..... یہ سراسر مشرکانہ باتیں ہیں اور کفرست بدتر۔“ (از الادب امام حسین ج ۲۹۶ ص ۳۲۵)

۲..... ”سوچ کچھ تعجب کی جگہ نہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح کو عقلی طور پر ایسے طریق پر اطلاع دے دی ہو۔ جو ایک مٹی کا لختونا اسی کل کے دے بنے یا کسی پھونک مارنے کے طور پر ایسا پرواز کرتا ہو۔ جیسا پرندہ پرواز کرتا ہے۔“ (از الادب امام حسین ج ۳۰۳ ص ۲۵۸)

۳..... ”اور مادرزاد اندھوں کو بحکم خدا چینگا کرنے سے متعلق فرماتے ہیں کہ: ”ممکن ہے کہ آپ نے معمولی تدبیر کے ساتھ تین شب کو نیہرہ کو اچھا کیا ہوا۔ یا کسی اور بیماری کا

غلانج کیا ہو۔ مگر آپ کی قسمتی سے اسی زمانہ میں ایک تالاب بھی موجود تھا۔ جس سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے۔ دنیاں بولتا ہے کہ اس تالاب کی بھی آپ بھی استعمال کرتے ہوں گے۔ اسی تالاب سے آپ کے مجذبات کی پوری حقیقت خلائق ہے اور اسکی تالاب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر آپ پست کوئی مجذب بھی ظاہر ہوا ہو تو وہ مجذب آپ کا نہیں بلکہ اس تالاب کا مجذب ہے اور آپ کے باقاعدہ میں سوانح مکر و فریب کے اور پچھنیں تھا۔“

(شمید انجم آختمس ۷۱ خاٹی، خزانہ نج اص ۲۹۱۶ عاشیر)

فرمائیے یہ مجذبات پر ایمان ہے یا کفار کی طرح انکار؟۔

قرآن شریف تو ان امور کو حضرت ﷺ علیہ السلام کی نبوت کے ثبوت میں پیش کرے۔ درمرزا قادریانی اسے مسمر یزم اور عملی صنعتیں اور عمومی تدبیریں اور مکر و فریب قرار دیں۔ یہ کمال کا ایمان ہے؟۔

سب انبیاء پر خصوصاً سرور کائنات پر فضیلت کا دعویٰ

من بعرفان نہ کفترم زکسے داد آں جام راما بر تمام ہر کہ گوید دروغ هست لعین	انبیاء گرچہ بودہ اند بسے آنچہ داد است هر نبی راجام کم نیم زان همه بروئے یقین
--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

(نول امسیح ص ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، خزانہ نج اص ۲۸۱، ۲۸۲)

نیز فرماتے ہیں۔

زندہ شد هر نبی به آمدنم

هر رسولے نهار بہ پیراہنم (ایضاً)

اس سے زیادہ دیکھئے کہ خود آنحضرت سرور کائنات کے مقابلہ میں کہتے ہیں۔

”یعنی نبی کریم کے لئے (صرف) چاندے گرہن کا نشان ظاہر کیا گیا اور میرے لئے چاند اور سورج دونوں کا گرہن کیا گیا۔ اب بھی تو انکار رہے۔“

(کتب انجیل احمدی ص ۱۸۲، خزانہ نج اص ۱۸۳)

اس میں آنحضرت ﷺ سے مقابلہ کرنے کے فضیلت کا دعویٰ بھی کیا ہے اور مجذبہ شق القمر سے انکار بھی کیا ہے۔ اسی طریقے (اخبار بدلتہ دیانہ نج ۷۱ ش ۲۰۰۱، موروثہ ۲۷۷، متنی ۱۹۰۸، ملفوظات نج ۱۰ ص ۲۸۵) میں لکھا ہے۔

”ایک صاحب نے مرزا قادریانی سے پوچھا کہ: شق القمر کی نسبت حضور کیا فرماتے

ہیں۔ فرمایا ہماری رائے یہ ہی ہے کہ وہ ایک قسم کا خسوف تھا۔ ہم نے اس کے متعلق اپنی کتاب چشمہ معرفت میں لکھ دیا۔ ”فرمائیے یہ مجموعہ کا اقرار ہے یا انکا؟“

۳..... نیز فرماتے ہیں کہ: ”تین بزار مجموعات ہمارے نبی ﷺ سے ظہور میں آئے۔“ (تحفہ گواڑو ص ۱۵۲، خزانہ حج ۷۰ ص ۱۵۳)

لیکن اپنے نشانات کے متعلق فرماتے ہیں اور جو میرے لئے نشانات ظاہر ہوئے ”وہ تین لاکھ سے زیادہ ہیں۔“ (حقیقت الوجی ص ۶۷، خزانہ حج ۲۲ ص ۷۰)

۴..... پھر یہ کہ احمدی جماعت کا اعتقاد ہے کہ حضرت مسیح موعود کا ذہنی ارتقاء آنحضرت ﷺ سے زیادہ تھا۔ استغفار اللہ رب ما الصلمک!

(دیکھو مضمون ڈاکٹر شاؤڈ از صاحب قادر یانی منہ رجہ رسائل روپیو بابت ماہ مئی ۱۹۳۹ء) اسی طرح اور بھی حوالہ جات بکثرت ہیں۔ لیکن ابطور مشتہ نہون از خوار اے انہی چند ایک پر اتنا کیا جاتا ہے۔ خاتمة الرکاام: کیا اب بھی احمدی جماعت کوئی کہہ سکے گی کہ علمائے اسلام نے ہماری طرف وہ اعتقاد منسوب کئے ہیں۔ جن سے ہم بیزار ہیں؟۔ اچھا اگر آپ بیزار ہیں تو توبہ نامہ شائع کر دیجئے۔ ہم یہ سب باقیں آپ کی طرف سے واپسی لے لیں گے۔ و ما علینا امبلغین علمائے اسلام کوئی (بلوچستان) الال بلاغ!

### ضمیمه خلاصہ مسائل قادر یانیہ

قادر یانی مذہب کے بنیادی مسائل چار ہیں اور چاروں ہی نعلط ہیں۔

پہلا مسئلہ: یہ کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی دلوادیا اور وہ نیم جاں اتارے گئے اور پھر خفیہ طور پر مزہم پی کرواتے رہے اور آخر پوشیدگی میں کشیمیر کی طرف بھاگ آئے اور وہاں آ کر گرفوت ہو گئے۔

جواب: یہ بالکل باطل ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ: ”وما قاتلواه وساصلبواه (نساء: ۱۵۷)، یعنی نہ انہوں نے اس کو قتل کیا اور نہ سولی دیا۔ پس: جب سولی ہیں ہیں باطل ہے تو کشیمیر میں آ کر گرفوت ہونا بھی باطل ہوا اور محلہ خان یار میں جو قبر ہے۔ وہی زماں نے شہزادہ کی کی ہے۔ جو کشیمیر کے ایک راجہ کا بیٹا تھا اور وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ (دیکھو کتاب تنبیہ الغافلین) میں اس دو دفعہ خود اس قبر کو دیکھا ہے۔

دوسرہ مسئلہ: مرزا قادر یانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے۔ بلکہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور ان کی بجائے میں مثلی مسیح بن کے آیا ہوں۔

جواب: یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ملیہ السلام ہر زندہ آسمان پر اٹھاتے کئے۔ جو کہ ایت بل رفعہ اللہ الیہ میں فرمایا یعنی بلکہ انہا لیا اس کو اللہ نے اپنی طرف اور ”حدیث صحیح“ میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ملیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ (کتاب الاسما، ص ۳۲۲)

”اور یہ بھی ہے کہ زمین پر آ کر حج کریں گے۔“ (معجم مسلم ج ۱ ص ۳۰۸)

نیز یہ کہ ”ناک بھی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی۔ پھر آپ فوت ہوں گے اور مدینہ شریف میں روضہ اطہر میں مدفون ہوں گے۔“ (مخلوٰۃ ص ۲۸۰)

لیکن مرزا قادیانی میں ان باتوں میں سے کوئی بھی نہیں پائی گئی۔ پس ان کا آنا جانا باطل ہے۔

تمیرا مسئلہ: مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ حدیثوں میں جس مہدی کی خبر ہے وہ مہدی بھی میں ہوں۔

جواب: حدیثوں میں جس مہدی کا ذکر ہے۔ اس کی ذات اور صفات اس طرح ہیں۔ ان کا نام محمد ﷺ ان کے باپ کا نام عبد اللہ، حسنی یعنی سادات ہوں گے۔ یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سید ہوں گے اور ملک عرب کے بادشاہ ہوں گے اور خانہ کعبہ میں ان کی بیعت ہوگی اور وہ جہاد کر کے قسطنطینیہ فتح کریں گے۔ لیکن مرزا قادیانی میں ان باتوں میں سے کوئی بھی نہ تھی۔ پس وہ امام مہدی بھی نہیں تھے۔

چوتھا مسئلہ: مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میں اس زمانے کا رسول اور نبی ہوں۔ جو مجھ کو نہ مانے وہ کافروں ہیں ہے۔

جواب: نبوت آنحضرت ﷺ پر ختم ہے۔ آیت خاتم النبیین (الاحزاب: ۴۰) اور (جامع ترمذی ج ۲ ص ۴۵) میں ہے کہ ”آنحضرت ﷺ نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔“

ہاں ”تمیں شخص میری امت میں سے دجال کذاب ہوں گے۔ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔“ (مخلوٰۃ ص ۳۶۵، باب الماء)

پس مرزا قادیانی موجب اس آیت اور حدیث کے نبی تو ہو سکتے نہیں۔ ہاں مطابق اس حدیث کے دجال و کذاب ضرور ہیں کہ امتی ہو کر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ واللہ الہ کادی، خادم سنت محمد ابراہیم میرے بنی لکوئی!

اللهم انت بين لا ينفع بعده

# صدر الحقيقة

مولانا حافظ محمد ابراهیم میرسیا لکوئی

بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمد لله على نعماته والصلوة والسلام على خاتم الأنبياء وع  
الله وأوليائه أما بعد!

مورخہ ۸ اکتوبر ۱۹۳۲ء کو ایک دوراندیش خاتون نے جو ہماری مسجد میں نماز جو  
پڑھنے آتی ہیں۔ ہمارے گھر میں آ کر ذکر کیا کہ جماعت احمدیہ کی بعض یہیاں مسلمانوں کے  
گھروں میں جا جا کر اپنے عقائد کی تبلیغ کرتی ہیں اور اپنے فرقے کے خاص مسائل ان کے سادہ  
ذہنوں میں اتنا چاہتی ہیں اور ہماری اکثر بہنیں ناخواندہ ہوتی ہیں اور جو خواندہ ہیں۔ ان میں  
سے بھی اکثر مذہبی مسائل سے واقف نہیں ہوتیں۔ اس لئے مجھے دیگر ہم خیال بہنوں نے آپ  
سے (خاکسار سے) یہ درخواست کرنے کو بھیجا ہے کہ میں ایک ایسی چھوٹی سی کتاب کی ضرورت  
ہے۔ جس میں مختصر طور پر اس جماعت کے ضروری مسائل بیان ہوں۔ تا کہ اپنی بہنیں ان مسائل  
سے با ولیل واقف ہو کر گرامی کی فریب کاری سے بچ جائیں اور طریق سنت پر قائم رہیں۔ والله  
ولی الهدایہ!

میں نے اس نیک تحریک کو بخوبی لبیک کہا اور بہت جلد ایک مختصر سار سالہ لکھنے کا وعدہ  
کیا۔ والله الموفق!

چنانچہ آج ۱۲ اکتوبر ۱۹۳۲ء کو خدا کی توفیق سے نماز تجدید سے فارغ ہو کر اس وعدے کو  
پورا کرنے کے لئے اس کتاب کو شروع کر دیا۔ اے لو! یہ سطریں لکھ رہا ہوں اور مسجد میں صحیح کی  
اذان ہو پڑی ہے۔ خدا تعالیٰ اس کتاب کو قبول فرمائے اور اس نیک فال (اذان) کی برکت سے  
اسے با برکت و نفع مند کرے۔ آمین! اور اسی اذان کی مناسبت سے جو صدائے حق ہے۔ اس  
کتاب کا نام اسی وقت میرے گنبد کاروں پر "صدائے حق" "القا" کیا گیا ہے۔ "ولله اختصم وبه  
اعتصم عما يحش و ان اريد الا اصلاح ما استطعت وما توفيقى الا بالله  
عليه توكلت واليه انيب"

(خادم سنت رسول کریم محمد ابراہیم میر سیالکوٹی اور جمادی الاول ۱۳۵۱ھ بريطائق ۱۲ اکتوبر ۱۹۳۲ء)

## ابتداء بنام خدا

خلع گوردا سپور قادریان میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ مرزا غلام احمد قادریانی کے والد مرزا غلام مرتضی وہاں کے ذی حبیثت زمیندار تھے اور پیشہ طبابت کا کرتے تھے۔ گردش زمان سے تنگی پر تنگی آنے لگی۔ اراضی مزروعہ ہاتھوں سے نکلتی گئی۔ مرزا غلام احمد قادریانی تلاش معاش کے لئے باہر نکلے اور سیالکوٹ میں آ کر پندرہ روپے ماہوار، پرچم بری میں ملازم ہو گئے۔ دماں میں روپیہ جمع کرنے اور ترقی کا خیال تھا۔ ایک طرف لالہ بھیم سین صاحب وکیل سیالکوٹ سے قانون انگریزی کا مطالعہ شروع کیا اور دوسری طرف دن دوپہر کو کوٹھڑی کا دروازہ بند کر کے اور چراغ روشن کر کے تنجیر کے عملیات بھی کرنے لگے۔ (چنانچہ ( محلہ بہہ اکشمیری محلہ) مرزا قادریانی جس مکان میں رہا کرتے تھے۔ پرانے لوگ اس مکان کا محل قوع ایسا بتاتے ہیں۔) مطالعہ قانون کے بعد مختاری کا امتحان دیا اور اس میں ناکام رہے۔ آخر ملازمت ترک کر کے اپنے وطن کو چلے گئے اور تصانیف کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک کتاب براہین احمدیہ کا اشتہار دیا کہ اسلام کی تائید میں ایک بے نظیر کتاب چھپوانے کے لئے روپے کی ضرورت ہے۔ اب ہمت لوگ پانچ پانچ روپے چندہ جمع کر کے امداد کریں تو کتاب چھپ جائے اور اسلام کو قوت پہنچے۔ اس کتاب میں مرزا قبیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کو صاف الناظم میں مانتا ہے۔

(براہین احمدیہ حاشیہ و رحایہ ۱۹۹۹ء جلد اول ص ۵۵۳)

مسلمان مذہب کے نام سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ روپیہ آنا شروع ہو گیا۔ اونکار جوں دیکھ کر مرزا قادریانی نے اس سلسلہ تصنیف کے ساتھ بیعت کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ کامیاب ہوتا نظر آیا تو دسمبر کی تقطیلات میں قادریان میں اپنے مریدوں کا سالانہ جلسہ شروع کر دیا۔ آخر ایک دفعہ جلے میں کھل کھیلے کہ میں حضرت عیسیٰ کا مثالیہ ہو کر آیا ہوں۔ مریدوں نے اسے بھی برداشت کر لیا تو پھر صاف کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ تو فوت ہو چکے ہیں۔ حدیثوں میں جو دوبارہ آنے کا ذکر ہے۔ ان کے مطابق میں ہی آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلے امام مہدی کا ہونا ضروری ہے تو جواب دیا کہ وہ مہدی بھی میں ہی ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے تو براہین احمدیہ میں حضرت میسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا

خود تسلیم کیا ہے اور اس کتاب کو بھی الہامی تائید سے بتایا ہے۔ بلکہ اس میں لکھا ہے کہ یہ کتاب رسول ﷺ کے سامنے پیش ہوئی۔ تو آپ نے اس کو منظور فرمایا تو کیا اس وقت وہ سطر جس میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا تسلیم کیا ہے اور اب اسے غلط بتاتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کو نظر نہ آئی تھی؟ تو مرزا قادیانی نے جواب میں فرمایا کہ مجھے الہام تو اس وقت بھی ہوا تھا کہ مجھ مسح مسح موعد تو ہی ہے۔ لیکن میں اسی عقیدے پر رہا اور وحی الہی کی پرواہ نکی حتیٰ کہ مجھے بار بار وحی آنے لگی کہ تو ہی مسح موعد ہے۔ لوگ پکارتے رہے کہ اچھا جناب آپ نے تو وحی کی پرواہ نہ کی۔ لیکن اس غلطی کو رسول ﷺ نے کیوں ظاہرنہ کیا؟ خیر آپ تو کسی عقیدے پر جسے رہے۔ لیکن کیا رسول ﷺ بھی رسی عقیدے پر تھے؟ مگر رسول ﷺ کا یہ عقیدہ ہے کہ نضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ تو بس ہمیں بھی وہی عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ اگر آپ کا برائین میں یہ لکھنا کہ میں نے خواب میں یہ کتاب آنحضرت ﷺ کو دکھائی اور آپ ﷺ نے قبول فرمائی درست ہے تو اب اس کے خلاف آپ کا دعویٰ غلط ہے، اور اگر آپ نے یہ خواب جھوٹ لکھا ہے تو آپ کا اب کا دعویٰ بھی جھوٹ ہے۔ مسلمانوں کے لئے تو یہ بات بالکل تسلی بخش تھی۔ لیکن چنے ہوئے مریدوں کو بیعت سے نکلا دشوار تھا۔ وہ مرزا قادیانی کی اس بات میں بھی آگئے۔ جب مرید اس طرح پھنس گئے تو مرزا قادیانی نے موقع مناسب دیکھ کر کلم کھلا دعویٰ نبوت کر دیا اور بجائے اس کے کہ کافروں کو مسلمان کرتے، ان مسلمانوں کو کافر کہنے لگے۔ یہ ہے حقیقت و کیفیت مرزا قادیانی کے دعوے کی۔

### خلاصہ مسائل قادیانیہ

جس مسائل میں مرزا قادیانی نے قرآن و حدیث کے خلاف مسلمانوں کو غلطی میں ڈالا اور ان مسائل سے ان کے دعوے کو خاص تعلق ہے اور انہی پر ان کے فرقے کی بنیاد ہے۔ وہ چار مسئلے ہیں۔

### پہلا مسئلہ

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم یہود نے گرفتار کر کے سوئی دلوادیا۔ جہاں سے وہ نیم جاں اتنا رے گئے اور پھر خفیہ طور پر مرہم پڑی کرتے رہے اور پھر

پوشیدہ طور پر کشمیر کو بھاگ آئے۔ جہاں پر آ کر آپ ستائی سال زندہ رہے اور فوت ہو گئے۔ چنانچہ شہر سرینگر (کشمیر) میں محلہ خان یار میں ان کی قبر موجود ہے۔

### دوسرہ مسئلہ

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور فوت شدہ لوگ دنیا میں واپس نہیں آتے۔ اس لئے حدیثوں میں جس عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر دی گئی ہے اس سے کوئی دیگر آدمی مراد نہ ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہو کر آئے گا۔ چنانچہ وہ مقابلہ مسیح اور سچے موعود میں ہوں۔

### تیسرا مسئلہ

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ حدیثوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیشتر امام مہدی کے ظہور کی جو خبر دی گئی۔ وہ امام مہدی بھی میں ہی ہوں۔

### چوتھا مسئلہ

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میں اس زمانے کا نبی اور رسول ہوں۔ جو کوئی مجھ پر ایمان نہیں لائے گا۔ وہ کافر و جہنمی ہے۔ (معاذ اللہ)

### ان مسائل کی تردید

مرزا قادیانی کے یہ چاروں مسئلے بالکل غلط اور قرآن و حدیث اور آئندہ دین کی تصریحات کے خلاف ہیں اور ان کی بابت جو جو دلائل انہوں نے بیان کئے ہیں ان میں سراسر مغالطہ اور فریب کاری اور خن سازی سے کام لیا ہے۔

..... نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھائے گئے اور نہ فوت ہوئے۔

چنانچہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ: ”وما قاتلوه وما صلبوه (النساء: ۱۵۷)“ یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تقتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا۔ نیز خدا تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائے گا۔ ”واذكفت بنی اسرائیل عنك (مائدہ: ۱۱۰)“ یعنی یا وہ جب میں نے دور ہاتھ سے بنی اسرائیل کو۔ جب احسان یہ بتے کہ بنی اسرائیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے ہی نہیں دیا تو پدر ہے کیسے؟۔ یہ سب باقیں غلط اور محدود ہیں۔ جو میں نے تو جھوٹ

دعویٰ کر کے جھوٹا فخر کیا اور نصاریٰ نے کفارہ کا مسئلہ بنانے کے لئے صلیب کو مانا۔ دونوں غلطی پر یہی صحیح یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمان پر انھالیا۔

پس جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سولی کا واقعہ ہی جھوٹ ہے اور قرآن شریف کی تصریح کے خلاف ہے تو مرموم پڑی اور بحیرت کشمیر کی ساری داستان جو مرتضیٰ قادری نے از خود بنائی ہے۔ بالکل غلط اور باطل ہو گئی۔

..... ۲ ..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے مذکور بالا آیت کے اخیر ہی میں فرمایا کہ: ”وَمَا قُتْلُوهُ يَقِينًا بِلِ رَفْعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا جَكِيمًا (النساء: ۱۵۷، ۱۵۸)“ یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً نہیں مارا بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھالیا اور خدا سب کچھ کر سکنے والا اور ساری حکمتون کا مالک ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب پھر دنیا میں نازل ہوں گے۔ جیسا کہ مرتضیٰ قادری نے بھی اپنی الہامی کتاب برائیں احمد یہ میں خود تسلیم کیا ہے اور حج کریں گے اور دھنسال دنیا میں رہ کر مدینہ شریف میں فوت ہوں گے اور رسول ﷺ کے روپہ شریف میں دفن ہوں گے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں دارد ہے۔

”يَنْزَلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ إِلَى الْأَرْضِ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ وَيُمْكَثُ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَمُوتُ فَيُدْفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرٍ فَاقْوَمُ أَنَا وَعِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ بَيْنَ أَبْيَ بَكْرٍ وَعُمَرَ (مشکوٰۃ شریف ص ۴۸۰، باب نزول عیسیٰ علیہ السلام)“ یعنی حضرت محمد ﷺ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم زمین پر اتریں گے اور نکان کریں گے اور آپ کی اولاد ہو گی اور پشاہیس سال دنیا میں رہیں گے۔ پھر فوت ہوں گے۔ پس میرے پاس میرے مقبرے میں دفن ہوں گے۔ پس میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم ایک ہی قبر سے اٹھیں گے۔ درمیان ابو بکر اور عمرؓ کے۔

اس حدیث شریف میں چند باتیں قابل توضیح ہیں۔

..... ۳ ..... یہ کہ اس حدیث میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

زمیں پر اتریں گے اور پہنچا لیس سال رہائش کرنے کے بعد فوت ہوں گے۔ جیسا کہ شم یموت سے ظاہر ہے۔ پس چونکہ آپ ابھی نک اترے نہیں۔ اس لئے فوت بھی نہیں ہوئے۔

۲..... یہ کہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے وران کی اولاد ہوگی۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب (ضییر انعام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ۵۲، خراں ج اص ۳۲۷) میں حاشیہ پر محمدی بیگم کے نکاح کے ذکر میں اس حدیث کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جس نکاح کا ذکر ہے۔ اس سے یہی محمدی بیگم کا نکاح مراد ہے۔ چونکہ مرزا قادیانی کا نکاح محمدی بیگم سے نہیں ہوا۔ بلکہ مرزا قادیانی اسی حضرت میں مر گئے۔ اس لئے مرزا قادیانی صحیح موعود بھی نہ ہوئے۔

۳..... یہ کہ اس حدیث میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہوں گے اور ان کی قبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ متصل ہوگی اور معلوم ہے کہ مرزا قادیانی لاہور میں فوت ہوئے اور قادیان ضلع گوراپور میں دفن ہوئے۔ کہاں مدینہ شریف اور کہاں قادیان؟۔ دونوں میں مشرق و مغرب کا فرق ہے۔

۴..... یہ کہ اس حدیث میں جو لفظ معمی فرمایا ہے۔ اس کی توثیق یوں ہے کہ جب کما جاتا ہے کہ فلاں شخص کو فلاں شخص کے پاس دفن کرو تو آپ سمجھے سکتے ہیں کہ جس کے پاس دفن کرنے کو کہا جاتا ہے۔ وہ شخص پہلے فوت شدہ ہوتا ہے اور جس کو کسی کے پاس دفن کرنے کو کہا جاتا ہے۔ وہ پیچھے فوت ہوتا ہے۔ پس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دفن کے جائیں گے تو معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فوت ہونے والے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور یہ بھی معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اپنی دینیوی حیات طیبہ میں فرمائی تھی۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تو فوت شدہ نہ ہوئے۔ تواب تم کس کے کہنے سے تسلیم کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صد یوں پہلے کشمیر میں فوت ہو چکے ہوئے ہیں۔ کہاں کشمیر اور کہاں مدینہ شریف؟۔

از الہ مغالطہ

بعض مرزاںی عوام مسلمانوں کو یہ ہو کا دیتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو

آنحضرت ﷺ کی قبر میں دفن کیا جائے گا تو کیا آنحضرت ﷺ کی قبر مبارک کھود کر دفن کیا جائے گا؟۔ اس طرح تو آنحضرت ﷺ کی سخت ہنگامہ ہے کہ آپؐ کی قبر کھودی جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ محض دھوکا ہے اور بے علمی کی بات ہے۔ کیونکہ اس جگہ قبر بمعنے مقبرہ ہے اور اسم مصدر اپنے مشتقات اسم ظرف وغیرہ کے معنے میں اکثر آجاتا ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالحق صاحب حنفی محدث دہلویؒ اور ملا علی قاری صاحب حنفی محدثؒ نے اس حدیث کی شرح میں تصریح کی ہے کہ اس جگہ قبر بمعنے مقبرہ ہے اور اس کی تائید خود آنحضرت ﷺ کے اپنے کلمات سے بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ آپؐ نے فرمایا دفن معنی یعنی میرے پاس دفن کئے جائیں گے اور من کے معنی پاس اور نزدیک کے ہوتے ہیں۔ پس آپؐ کے پاس مدفن ہونے سے معلوم ہو گیا کہ آنحضرت ﷺ کی قبر مبارک کھودی نہیں جائے گی۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپؐ کے پاس متصل ہی دفن کئے جائیں گے اور جب دو قبریں آپؐ میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ دونوں ایک ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی قبریں بھی روضہ شریف کے اندر آنحضرت ﷺ کی قبر مبارک کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو ان دونوں کی نسبت مرزا قادیانی اپنی کتاب (ززوں الحج کے ص ۲۷، خزانہ حج ۸۲۵) میں فرماتے ہیں کہ: ”مگر ابو بکرؓ و عمرؓ جن کو حضرات شیعہ کافر کہتے ہیں۔ بلکہ تمام کافروں سے بدتر کہتے ہیں۔ ان کو یہ مرتبہ ملا کہ آنحضرت ﷺ سے ایسے ملحق ہو کر دفن کئے گئے کہ گویا ایک ہی قبر ہے۔“

پس جس صورت سے مرزا قادیانی حضرات ابو بکرؓ صدیق اور عمرؓ اور آنحضرت ﷺ کی تین قبروں کو ایک قبر کہتے ہیں۔ اسی صورت میں آنحضرت ﷺ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنحضرت ﷺ کے پاس متصل ہی حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے درمیان دفن کئے جائیں گے اور آج تک اس موقع پر ایک قبر کی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ مشکوہ شریف ہی میں حضرت عبد اللہ بن سلامؓ کی روایت موجود ہے کہ: ”قال مكتوب في التورية صفة محمد ﷺ“ و عیسیٰ بن مریم یہ دفن معہ قال ابو مودود وقد بقى في البيت موضع قبر (رواه الترمذی، مشکوہ ص ۱۵، باب فضائل سید المرسلین ﷺ)، یعنی توریت میں محمد ﷺ کی صفت لکھی ہوئی ہے اور اول یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم ان۔

ساتھ دفن کئے جائیں گے۔ (ابومودود) جو اس روایت کا راوی ہے۔ بہت بڑا عالم فاضل اور خوش بیان تھا۔ حضرت ابوسعید خدری صحابی کا دیکھنے والا ہے اور خاص مدینہ شریف کا رہنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ روضہ قدس میں ابھی تک ایک قبر کی جگہ باقی پڑی ہے۔

خاکسار محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کہتا ہے کہ میں عاجز گناہ گارخوند مدینہ شریف میں جا کر یہ جگہ خالی پڑی ہوئی دیکھ آیا ہوں ا۔ جس کو شک ہو وہ خود جا کر دیکھ لے اور تسلی کر لے۔

..... ۵ ..... اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے مجرہ مبارک میں صرف چار قبور کی خبر دی ہے۔ ایک اپنی، دوسری حضرت ابو بکر صدیق، تیسرا حضرت عمر اور چوتھی حضرت عیینی علیہ السلام کی۔ لیکن مرزا قادیانی کی قبر کی بابت کوئی خبر نہیں ہے۔

..... ۶ ..... اس حدیث سے صاف معلوم ہو گیا کہ حضرت عیینی علیہ السلام حضرت عمر کے عہد تک بھی فوت نہیں ہوئے۔ کیونکہ تین قبریں تو موجود ہیں اور چوتھی کی جگہ پڑی ہوئی ہے اور ابو مودود کے زمانے تک خالی تھی اور اب تک بھی خالی پڑی ہے۔ اس ایک ہی حدیث سے مرزا قادیانی کے سب دعوے باطل ہو جاتے ہیں۔

اور حضرت عیینی علیہ السلام کے حج کرنے کی حدیث (مسلم ج اص ۳۰۸، باب جواز الحج عن الحج والقرآن) میں موجود ہے کہ ”آنحضرت ﷺ نے قسم کر کے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے۔ جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ عیینی علیہ السلام بن مریم حج اور عمرہ کا لیک مقام فتح روحانے پکاریں گے“ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ مرزا قادیانی نے حج نہیں کیا۔ اگر مرزا قادیانی مسح موعود ہوتے تو خدا تعالیٰ سب روکاؤں میں دور کر کے ان کو حج نصیب کرتا۔ تاکہ مسح موعود کا یہ نشان کہ حج کرے گا پورا ہو جاتا۔ لیکن جب خدا تعالیٰ نے حج نصیب نہیں کرایا تو اس کے یہ معنے ہوئے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے دعوے میجانی کو باطل کر دیا۔

۱۔ دوسرے حج کے سفر ۱۳۳ھ میں مصر، حیفا، یافا اور بیت المقدس اور دمشق ہوتے ہوئے اخیر عشرہ شعبان میں بذریعہ حمید یہ جازریلوے جوان دنوں جاری تھی مدینہ شریف میں پنج اور رمضان کا مل قیام کر کے ۱۲ ارشوال کو مکہ معظمر کی طرف اونٹوں پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔

اور امام مہدیؑ کی بابت احادیث میں صاف صاف وارد ہے کہ وہ سید آل رسول ہوں گے۔ جنور فاطمہؑ کی اولاد، امامین، حسن، حسینؑ کی اولاد سے ہوں گے۔ یعنی نھیاں اور دھدھیاں ہر دو کی طرف سے اصل سید ہونگے اور ملک عرب کے والی بادشاہ ہوں گے۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”لَا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيته يواطى

اسمه اسمی (ترمذی ج دوم ص ۴۷، باب ماجاء فی المهدی)“

”یعنی دنیا فنا نہ ہوگی۔ حتیٰ کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ملک عرب کا بادشاہ ہو۔ جس کا نام میرے پر (محمد ﷺ) ہوگا۔“ اسی طرح دوسری احادیث سے ثابت ہے کہ ان کے باپ کا نام عبد اللہ ہوگا اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ مرزا قادیانی قوم کے مغل ہیں اور ان کا نام غلام احمد تھا اور ان کے باپ کا نام غلام مرتضی تھا اور مرزا قادیانی کو عرب کی بادشاہی کجا؟۔ وہاں کا سفر بھی نصیب نہیں ہوا۔ بلکہ قادیان کی نمبرداری بھی نصیب نہ ہوئی۔ حالانکہ گورنمنٹ سے خطاب پانے کی بہت کوشش کرتے رہے اور الہامات لک خطاب العزت (تذکرہ ص ۳۲۹) یعنی تجھے عزت کا خطاب ملے گا، شائع کرتے رہے۔ لیکن کچھ بھی شناوائی نہ ہوئی۔

اب سوچئے! کہ کہاں امام مہدی، سید، آل رسول، محمد بن عبد اللہ، ملک عرب کا بادشاہ؟ اور کہاں مغل زادہ مرزا غلام احمد قادیانی ولد غلام مرتضی موضع قادیان کا ایک باشندہ؟۔

ظهور حشر نہ ہو کیوں؟ کہ کلچڑی گنجی

حضور بلبل بستان کرے نواسنخی

..... اور مرزا قادیانی نبی اور رسول بھی نہیں ہو سکتے۔ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ نبوت اور رسالت یعنی خدا کے پیغمبر آنحضرت ﷺ پر ختم کر دی گئی ہے۔ آپؐ کے بعد کوئی شخص بھی رسول اور نبی نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ آیت خاتم النبیین (احزاب: ۲۰) سے ثابت ہے اور صحیح حدیثوں میں وارد ہے کہ آنحضرت ﷺ نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہیں۔ آپؐ کے بعد کوئی نیا رسول اور نبی نہیں ہو گا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۰، باب خاتم النبیین، صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۸، باب ذکر کوئی ﷺ

نے تم اُنہیں بمنداہ احمدؑ مس ۳۰۲ھ شیعہ اور رضا تو دیا تھی اپنے دعوے مسیحیت کے بعد تک اور  
وہ نبوت سے پہلے بھی لکھتے رہے کہ ”آنحضرت ﷺ“ کے بعد سالہ نبوت و رسالت تا قیامت  
مُنقطع ہے۔” (رزا احمدؑ مس ۲۱۸ جزاں میں مس ۳۳۴-۳۳۵ مذکور رضا تو دیا تھی)

نیز لکھتے رہے کہ ”لوگ مجھ پر بہتان لگاتے ہیں کہ میں نبوت کا مدعی ہوں۔ کیا میں  
نبوت کا دعویٰ کر کے کافر بننا پڑتا ہوں۔“ (تجہیۃ البشری میں ۹۷ جزاں میں مس ۲۹۷)

۵۔ ... ہاں آنحضرت ﷺ نے یہ خبر بھی دی رہے کہ قیامت سے پہلے میری امت  
کھلانے والے لوگوں میں سے یہ تمیں آدمی دجال کذاب ہوں گے۔ ہر ایک ان میں سے دعویٰ  
کرے گا کہ میں نبی اور رسول ہوں۔

(تَحْقِيق بَشَارَى ج ۱ ص ۵۰۵، بَابِ عِدَاتِ الْجَهَنَّمِ فِي الْإِسْلَامِ، مُسْمَى ج ۲ ص ۲۹۷، بَابِ أَشْأَاطِ الْأَسْنَانِ)  
بهم مرزا قادیانی مُؤْتَمِر موجود اور مہدی تو مان نہیں سکتے۔ باں بہوجب اس حدیث سے  
یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ مرزا قادیانی نے آنحضرت ﷺ کے بعد اور آپ کا انتقال کرنا نبوت کا دعویٰ  
کیا ہے۔ اس نے مرزا قادیانی ان تمیں مدعاں نبوت میں سے ہیں۔ جو اُنہوں نے ﷺ نے  
دجال و کذاب فرمایا ہے۔

دجال کے معنے ہیں۔ ایسا شخص جو بہت فریب ہزاری سے کام لے، کذاب کے معنی  
ہیں۔ ایسا شخص جو بہت جھوٹ بولے اور مرزا قادیانی میں یہ دنوں ہیں بد رجہ اتم موجود تھیں۔  
فریب ہزاری اور جن سازی بھی پوری کر رہے تھے اور جھوٹ بھی بہت بولتے تھے۔  
خلاصہ بیان مذکور الصدر

جو کچھ اوپر بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم و آئیے گئے  
اور نہ ملک کشمیر میں گئے اور نہ فوت ہوئے۔ بلکہ ان کو خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت و حکمت سے زندہ  
آسمان پر ایک لیما اور آپ آخری زمانہ میں دنیا میں نازل ہوں گے اور جنگریں کے اور مدینہ شریف  
میں فوت ہو کر رسول اللہ ﷺ کے پبلو میں حضرت ابو بُرَضَدَیْلَقَ اور حضرت عمری قبروں کے  
درمیان مدفون ہوں گے۔ چنانچہ اس جگہ ان کی قبر کے لئے آج تک جلد محفوظ موجود ہے اور ان

چار قبروں کے سوا پانچویں قبریٰ وہاں پر کوئی خبر یا گنجائش نہیں۔

پس مرزا قادیانیؒ نے تصحیح موعود ہیں اور نہ امام مہدیؑ اور نہ نبیؐ و رسولؐ بلکہ بوجب رسولؐ اللہ ﷺ کی حدیث کے میں جھوٹے مدعاں نبوت میں سے ہیں۔

تعمیہ! اس تفتخر رسالہؐ میں ہم نے سارے مسائل مع والکل کے جو قرآن شریف کی آیاتؓ اور حجتؓ احادیث سے ہیں۔ بیانِ رد یعنی ہیں۔ جن کے بعد اسی پختہ ایمان، والے تجوید، دار مسلمان مردوں یا عورت کے لئے شک و شبکی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن چونکہ مرزا قادیانیؒ بوجب حدیث مذکورہ بالا ان تین دجالوں اور کذابوں میں سے تھے۔ جن کی باہت آنحضرت ﷺ نے پہلے سے خبر دی ہوئی ہے کہ وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے فریب کاری اور مغالطہ دہی سے لوگوں و دشمنوں دیں۔ اور مرزا قادیانیؒ نے یہ کام نہایت نمدگی سے سرانجام دے دیا ہے اور اب ان کے بعد ان کے فریب خور دہیوں و مردوں اور عورتوں نام مسلمان مردوں اور عورتوں کو اسی روش پر قرآن و حدیث کے مطالب اللہ پھیر کر مغالطہ دیتے پھرتے ہیں۔ اس لئے ضروری تصحیح ایسا کہ ان کے فریبوں اور مغالطوں کو آشکارا کرنے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ان کے دائم فریب سے بچایا جائے۔ والله الہاد!

## عرض حال

یہ رسالہ ۱۲ اگست ۱۹۳۲ء کے بعد صرف دونشتوں میں مکمل کر دیا گیا تھا۔ لیکن اسے بعد مجھے متواتر لبے سفر میں، اناوہ، بنارس، ہلکت، جنگ اور ملتان کے پیش آتے رہے۔ وہی راشغال جو میرے شامل حال ہیں۔ وہ بھی ساتھ رہتے۔ اس لئے اس کی طباعت معرض تعویق نہیں پڑی۔ اب آج کیم اپریل ۱۹۳۳ء واس پر نظر ہاتھی کر کے اس مسودے کو نقل کر کے کاتب و کاپی نویکی کے لئے دیتا ہوں۔

رسوم بد اس محدثی و نصیری!

دہلی انج ۱۳۵۱ھ مطابق ۱۹۳۳ء اپریل

محمد ابراہیم میر سیالکوٹی

الْتَّسْبِيحُ لِأَنَّهُ بَرَزَ

# نیصلہ ربائی بر قادیانی

حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیا لکوئی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## فیصلہ رباني بر مرگ قادری

خاکسار! حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی!

اول حمد خداوند عالی جس دے درتے سب سوائی  
 مارے رکھے سب دا والی ظاہر غائب سب آشکار  
     واہ واعالیٰ حکم جبار  
     پل وچ مارے سب سنوار  
 سلسلہ اک رسولان والا کیتا جاری عجب نزاں  
 خلق بدایت دن چاں راہ بنت ول کرن پکار  
     لیتا نضل ایه آپ غفار  
     آئیں عاصی اوہ بخشہار  
 آدم تھیں محمد تائیں جاری رکھیا نبیاں تائیں  
 مجرے دتے سبناں تائیں حق جھوٹ نوں دین نتار  
     بے ایه قدرت رب جبار  
     جو ہن لامچار  
 افضل سب تھیں بھائیوں سوئی ختم نبوت جس پر ہوئی  
 کسر شریعت وچہ نہ کوئی عطا ہوئی جس عام پکار  
     اوپر اوس نبی مختار  
     سلوٹہ سلاماں لکھہ ہزار  
 اسنون رب معبران کرایا بھیج برائق آسمان بایا  
 سورت اسرا نجم وچہ آیا کتب حدیث بھی نال شمار  
     عزت ولی رب جبار  
     سید رسول نبی مختار  
 ملیا اوس قرآن خزانہ قائم رہے تاختم زمانہ  
 ہن جس ہور کوئی نبی نہ آنا بندتا روز شمار

پاں دتی خبر نہ سردار  
 جھوٹے ہون تریہہ شمار  
 دجل کذب بو انہاں تمام رسولی دعوے کرن تمام  
 ایہو اونہاں علامت عام دے پک نشان نثار  
 حدیث صحیح لیجہ مئیں یار  
 بخاری مسلم وچہ شمار  
 مطابق ایس حدیث رسولی کیاں فضولی  
 گل انہاندی کیاں قبولی رستہ پھڑیا دوزخ نار  
 آخر بونے ذلیل خوار  
 انہاں سہنماں رب دی مار  
 قادیاں اندر مرزا بولیا پیغمبری دھومنی کر کھلویا  
 گل گل اندر جھوٹا ہویا دتی شرم حیا اتار  
 ذہل دتی اس رب جبار  
 واہ والحمد خدائے قہار  
 مارے الافاں دیئے دوہائی میں نہ مارے مرض وباۓ  
 مینوں منوں سب لوکائی ورنہ آؤے غصب جبار  
 شہرت جگ وچہ عام پکار  
 اسنوں سندا رب ستار  
 جاں اس کاس ہویا پر جھوٹھ گیا اس حد گزر  
 رب وکھاوے غیہت کر قدرت اس دی سچ شمار  
 تمیز کرے جو آخر کار  
 نشان ہوئے اوہ وچہ سنوار  
 شاء اللہ جو مرد خدائی اس پر دائم فضل الہی  
 جس نوں جانے سب لوکائی سندھ بنگالے تیکر یار  
 حامی دین نبی مختار  
 اس نوں رکھے رب غفار  
 دشمن سارے چن چن ہرے دین نبی دے جو ہتیارے  
 چکے واؤں سورن چر دین نبی نوں دے نثار

جست اندر کرے لاچار  
 جس تھیں بودن بہت خوار  
 اس نے مرزا خوب دبای پیش گوئیاں دا راز بتایا  
 خلقت نوں کل راز سنایا جزا دے اس رب غفار  
 آخر مرزے بولا چار  
 دھمکی دتی وچہ اخبار  
 مرزا آکھے دعائیں کر اٹھاراں اپریل دا پڑھ بدر  
 یارب فیصلہ حق دا کر شاء اللہ تے میں وچکار  
 جو ہو کاذب پہلے مار  
 طاعون ہیضہ وچہ کر لاچار  
 جھوٹ پر موت یا موت برابر کوئی مصیبت نازل کر  
 صادق سامنے زندگی تاکر خلقت اندر کر پھنکار  
 طاعون ہیضہ دا کر شکار  
 جے میں جھونا مینوں مار  
 شاء اللہ تے اس دیاں یاراں موت میریداں دس بھاراں  
 خوشیاں کرن اوہ بیٹھاراں کر انہاندی چڑھدی وار  
 انہاں سامنے مینوں مار  
 جے میں کاذب دجل شعار  
 ورنہ میری زندگی اندر شاء اللہ ہی جاوے مر  
 اتنیں پچھے ایہہ اثر مرزے سند اک پر  
 مبارک احمد نام وچار  
 مولیا اوڑک ہویکار  
 بھائیو دسو کر انصاف ہویا فیصلہ کیا صاف  
 اس وچہ ناہیں لاف گزار اس وچہ عبرت خاص شمار  
 رب ذاہلے نے کیا خوار  
 دتا سامنے پتر مار  
 پھیر اونہے ایحہ عذر بتایا ایحہ مقابلہ ذاتی آیا  
 اس وچہ پر نہ شامل پایا جھوٹے اپر رب دی مار

تبرہ وچہ جو وڈا اشتہار  
 کیتے عذر ایہ سب آشکار  
 عقلمندانے نیزے بھائی ایسہ عذر نہ وزنی رائی  
 مرزا اپر مصیبت آئی موت پڑ دی ڈاہدی یار  
 دعا دے وچہ سی لیحہ پکار  
 کاذب اتنے رب دی مار  
 تبرہ اندر ہو رکھایا اردو وچہ الہام بنایا  
 اس نوں ولوں خدا بتایا مریداں تائیں کرے پکار  
 نظریں رکھو اشتہار  
 دیکھو تبرہ رہو بو شیار  
 دشمن لے آکھے چودہ مینے مرزا حال کینے  
 خبر دتی مینوں پاک ربی نے جس دے ہتھ وچہ سہو کار  
 عمر وہاواں تیری یار  
 دشمن لے دیساں سامنے مار  
 ثناء اللہ حق جو منگی دعا بدر ۲۵ وچہ دئے رکھا  
 نال الہام ایہ کراں دعا وعدہ کرے میں نال جبار  
 کراں قبول میں سب پکار  
 اسوجہ ہر گز جھوٹ نہ بار  
 جھوٹ اس دے وچہ شک نہ رائی وچوں تریاں ایہ بھی سائی  
 خبر نبی دی چی پائی حدیث بخاری مسلم یار  
 جھوٹے تریہ ایہ کرن پکار  
 اسیں رسول خدائی یار  
 امر ترے ایہ وچہ نظر رکھن سہو اہل ہنر  
 دعا الہام تے ہور عمر نکاح محمدی بیگم چار  
 جھوٹا اکھن نال پکار  
 مرزا مارن کرن خوار

نہ عبد الحکیم ایہاں شناہ اللہ پر فضل الہی  
 محمدی بیگم نہیں ویاہ تنتے جیوندے کرن پکار  
 چھبی مسی نوں منگوار  
 مرزا مولیا ہوا چار

حقیقی یار آشناواں شہر لاہور دا حال سناؤں  
 راز کھول کے صاف بتاؤں جھوٹ نہ اس وچہ ہرگز یار  
 مرزا چلدا ہوا سوار

سن نہر سن خالص یار  
 اپریل ماہ دے آخر بھائی لاہور آن کے چھاؤنی پائی  
 ہم سندی کرن دوائی دار امان اس محمدی یار  
 نہ معلوم جو آخر کار

مرسان بیٹھے نال لاچار  
 شہر لاہور دے سب رسیاں حنفیاں نالے الہمڈیاں  
 سدیا کیکوں کر کے رسیاں تارہ کرامیں خوب نتار  
 بحث کراس میں خوب وچار  
 نقلی و عقلی علمون یار

بائی مسی نوں ہوا سوار پڑھیا جمعہ لاہور وچکار  
 دوایا اوتحے اشتہار وعظ کراس میں نال پکار  
 دلیل لیاواں خوب نتار  
 سندے سب صغار کبار

عربی ہود انگریزی دان کئی ہندو ہور مسلمان  
 نال دلیل جاں کراس پکار سندے ولدے نال پیار

ششدھ رہن جو حاضر یار  
 باجھ قرآن جے کراس بیان چار مضمون میں کیتے عیان  
 عالم جاں کرن وچار کوٹ زبان

کرن وچار تے رہن ہشیار  
 دلائل عجب عجائب یار  
 جمنا حضرت عینی والا  
 قدرت نال اس حق تعالیٰ  
 مجزات وچہ شان نرالا  
 ملعون عقیدہ سولی دار  
 کرن آشکار  
 رفع سادی  
 کیتی خوب  
 حافظ صاحب جماعت علی  
 مینوں گھلن پیام ولی  
 من اوہباں لوک ولی  
 نال اتفاق اسیں کرنے کار  
 اجمائی یار  
 کل اماماں  
 کھلے دل میں منی بات  
 نال اتفاقاں دن تے رات  
 اسوجہ گذرے خوب اوقات  
 رلن نمازیں لوک بزار  
 حافظ صاحب نال پیار  
 گل میرے وچ پاؤں ہار  
 ڈاکٹر اے سعید سیاناں  
 مینوں ایہہ پیغام پنجھاناں  
 اس پر دائم فضل رباناں  
 جواک مرزاں آکھے یار  
 ابراہیم ہووے تیار  
 آکھے مرزا خط وچار  
 بحث دی اسوجہ دعوت ہووے  
 بحث تحریری اسوجہ ہووے  
 مرزا آن میدان کھلووے  
 غدر کوئی نہ اسوجہ یار  
 مرزا تائیں کراں تیار  
 نال دلائل کر سکرار  
 ڈاکٹر دی میں سن کے بات  
 لکھیا خط لے قلم دوات  
 دوباں اندر گل ہو پار  
 مسئلہ سولی بور حیاتاں

ڈائلر لے گی آخر کار

خط بہنچاوے ہوہشیار

مرزے احسنے طلب کرایا کرن آلیداں حتم سنایا

ابراتیم سکونتی آیا علام وچہ تسوی ہوہشیار

بحث اندر اوس کرو لاچار

آیت ہور حدیث وچار

سید احسن بیگلالانی آکھیوں میں تیار تے کافی

بھلکے دیاں جواب میں شافی بھلک چڑھیا تے سنتوں یار

قدرت غالب رب قہار

مرزا ہویا سخت بیمار

سرگی دیلے مرض پچھان گئی کوئی غیوب آن

چھ بجے اس بند زبان دس بجے تاں جانوں پار

مرض بیٹھے دے نال لاچار

مرگیا مرزا منگل وار

نہ کوئی دارو نہ علاج نہ وصیت نہ کوئی کاج

بیوی آکھے لیا راج سجا روون زار وزار

مرض بیٹھے دے نال لاچار

مرزا مولیا منگل وار

شیر اندر جان شہرت ہوئی بہناں تائیں حرمت ہوئی

ظاہر رب دی قدرت ہوئی وچہ بازاراں شور پکار

مرض بیٹھے والے نال لاچار

مرزا مولیا منگل وار

سب طرفوں اس لعنت بری وچہ قبرتے حشر کی کرسی

عذاب دوزخ دا سکیر جرسی اپر دجالاں رب دی مار

مرض بیٹھے دے نال لاچار

مرزا مولیا منگل وار

فما بکت اے دی آیت بجھہ ہور جو آیت اعنتیں بجھہ  
 اس وچہ نہ شکایت کجھ جھوٹیاں نال لیجھ ربدی کار  
 مرض ہیئے دے نال لاچار  
 برزا مولیا منگل وار  
 حال شمودیاں عادیاں سندا ہور فرعون خدا جو بندا  
 خدا کہاوے ہوکے بندہ اشہاب سجاں رب دی مار  
 وچہ دنیا تے روز شمار  
 شہدائ اللہ بھی نال وچار  
 اولیاء اللہ دی عام علامت روز جنازے ہووے کرامت  
 نرم ہوون جو اہل عدالت دل تھیں کڈھن سب بخار  
 کرن دعا اوہ سب پکار  
 بخش ربا توں بخشن ہار  
 امام احمد دا دیکھو حال این تیبیہ بھی رکھو نال  
 ایہ پیارے حق مقال روز جنازے باجہ شمار  
 آکھن دشمن جانی یار  
 بخش ربا توں بخشن ہار  
 عبداللہ صاحب غزنی والے میاں صاحب بھی دلی والے  
 فوت ہوئے جد خلق دوالے دوست دشمن کرن پکار  
 رحمت ان پر لکھ ہزار  
 کربلا توں بخشن ہار  
 خلق خدادی دیئے شہادت مرزا اپر کرے ملامت  
 اوہ سی وڈا اہل شقاوت سب طرفوں سی اوہ پکار

۔ سورہ و خان ۲۹۔

”وابتعوا فی هذه لعنة ویوم القيمة . ہود ۹۹“

یعنی حدیث ”أَنْتُمْ شَهِداءُ اللَّهِ عَلَى الْأَرْضِ . مسلم“

یعنی حضرت شیخ الكل سید محمد نذری حسین صاحب محدث دہلوی۔

مرض بیٹھے دے نال لاچار  
 مرزا مولیا منگل وار  
 اس وچہ بھائیو وڈا شان مرزا وڈا اہل زبان  
 اس پچھے نہ کھو ایمان رب پچھے نے ہتا نتار  
 مرض بیٹھے وچہ کر لاچار  
 مرزا ماریا منگل وار  
 ہیضہ منکیوس دعا نہیں کر آخری فیصلہ وچہ بدر  
 خلق ساری دی وچہ نظر رب کیا ہے خوب خوار  
 مرض بیٹھے وچہ کر لاچار  
 مرزا ماریا منگل وار  
 مرزے سندی موت داسال روح خبیث موفق حال  
 فتو شورش جھوٹ مقابل مسئلے نویں وچہ جگت پکار  
 رسالت دعوے شاہد چار  
 لیاندے اس پر بعد وچار  
 آخر تائیں کھول سنواں راہ بدایت ول باؤاں  
 بدعت کولوں پرے ہناواں بدعنی بہوے آخرکار  
 رویاہ ذلیل خوار  
 وچہ دنیا تے روز شمار  
 توجہ کرو مرزا بھائیو راہ مرزے دے دل نہ جائیو  
 جھوٹھے عذر نہ مول بنا بھائیو موجب لکھے مولیا خوار  
 چھپی میں نوں منگل وار  
 مرض بیٹھے وچہ ہو لاچار  
 ایہو مری غرض پچھانو ہجو مقصود نہ ہرگز جانو  
 عبرت پھڑو نصیحت مانو فضل کریں رب غفار  
 فضال سیق بیڑا پار  
 وچہ دنیا تے روز شمار

طالب شفاقت رسول کریم!

خاکسار ابو تمیم محمد ابراہیم میریا الکوئی! ۸۰ یقعدہ ۱۴۱۳ھ، ۵ مارچ ۱۹۹۳ء

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ  
بِعِزْمَتِكُمْ كُلُّ مَنْ لَا يُشَرِّفُ  
بِكُلِّ شَيْءٍ إِلَّا بِعِزْمَتِكُمْ

# خشم سوت اور مرزا سرتقادیان

مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی

بسم الله الرحمن الرحيم!

۱ ..... ختم نبوت کا مسئلہ نصوص قرآنیہ و حدیثیہ سے ثابت ہونے کی وجہ سے مسلم کل تھا۔ لیکن مرزا قادیانی نے ان نصوص کے صاف معنوں میں پیچیدگیاں ڈال کر اور ادھر ادھر سے سمجھتی تائیں کر کے اس منصوص مسئلہ کو بھی محل نظر بنایا۔ حالانکہ منصوصات شرعیہ محل نظر نہیں ہوتے۔ بلکہ وہ اہل شروع کے نزدیک ہی ہوتے ہیں جیسے اہل منطق کے نزدیک کے نزدیک بديهيات اور علوم میں بديهيات پر بحث نہیں کی جاسکتی۔

۲ ..... مرزا قادیانی کے استنباطات عجیب میں سے اپک یہ ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کی آیت صراط الذین انعمت عليهم سے آنحضرت ﷺ کے بعد بھی نبوت کے جاری رہنے کی دلیل پکڑی ہے۔ صورت استدلال یوں بیان کی ہے کہ جن لوگوں پر خدا کے انعامات ہیں۔ وہ چار ہیں۔ چنانچہ کہا ہے کہ: ”وَمَنْ يَطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعُ الدِّينِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِداءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أَوْلَئِكَ رَفِيقًا (نساء: ٦٩)“، یعنی جو کوئی خدا اور رسول کے کہنے پر چلتا ان کو ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ جن پر خدا نے انعام کیا ہے اور وہ انبیاء ہیں اور صدیق ہیں اور شہید ہیں اور صالحین ہیں اور سب اچھے رہنیق ہیں۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: ”جَبْ هُمْ اللَّهُ رَسُولُهُ كَمَا يَأْتُهُمْ بِهِمْ كَمَا يَأْتُهُمْ بِهِمْ“ اور صراط الذین انعمت عليهم سے دعا بھی کرتے ہیں اور اس سے ہم صدیقیت اور شہادت اور صالحیت کے مقامات پر ترقی کر سکتے ہیں تو ان سب کے ساتھ انبیاء کی رفاقت کا بھی ذکر ہے۔ تو آر آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت بالکل بند ہوا اور کوئی شخص بھی نبی نہ بن سکے تو یہ دعا بھی اکارت جائے اور اطاعت بھی بے شمر ہے گی۔ پس لازم ہے کہ اس دعا کی قبولیت اور اس اطاعت کا ثمر درج نبوت کی عطا کی صورت میں بھی ہو۔“ (انجاز مسیح ص ۱۸۰، بخراں ن ۱۸۲ ص ۱۸۲) اس کا جواب یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا یہ استنباط واستدلال پخند و جوہ از سرتاپا باطل ہے۔

اول: اس لئے کہ یہ استنباط اخلاف نص قرآنی یعنی آیت خاتم النبیین اور خلاف احادیث صحیح ہے اور اجو استنباط خلاف نفس ہو وہ باطل ہوتا ہے۔ جیسا کہ علم اصول میں مدرج ہے۔ اس قاعدہ کو آپ عام عقل سے اور روزمرہ کے استعمال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک وکیل کرہ عدالت میں حاکم کے سامنے بعض عبارتوں میں کھینچ تان کر کے صریح قانون کے خلاف ایک بات پیدا کرتا چلتا ہے۔ دوسرا وکیل اس کے جواب میں صرف یہ کہتا ہے کہ تمہاری ساری تقریر صریح قانون کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ اس کے ساتھ وہ قانون بھی پیش کرتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص مرزاقا، یا نی کو بحیثیت مصنف غلط گو، دھوکہ باز وغیرہ لکھے۔ مرزاقا دیانی دفعہ ۵۰۰ کے تحت اس پر استغاثہ کریں۔ ان کا وکیل ثابت ترے کہ مرزاقا دیانی جیسے نیک نام مصنف کے حق میں یہ الفاظ اخت موجب بٹک ہیں۔ وکیل ملزم کہنے گا کہ آپ کا سارا استدلال دفعہ ۵۰۰ کے مشتمل کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ مصنف کے حق میں ایسے الفاظ لکھنے کی اجازت ہے اس لئے کہ اس میں پہلک کا فائدہ ہے۔

تواب بتائیے کہ حاکم کس وکیل کی دلیل تسلیم کرے گا؟ اس کی جو صریح قانون پیش کرتا ہے یا اس کی جو قانون کے خلاف کھینچ تان کر کے ہاتھ پاؤں مارتا ہے؟۔  
یہی حال مرزاقا دیانی اور ان کے پیروں کا ہے کہ وہ آیت خاتم النبیین اور حدیث لا نبی بعدی وغیرہ کے خلاف جو بھی استنباطی دلیل لا سیں وہ بوجہ اعلان و قانون الہی کے خلاف ہونے کے بالکل مردود ہے۔

دوم: اس لئے کہ آیت زیر بحث یعنی صراط الذین انعمت عليهم میں منع عمل یا راہ پر چلنے کی دعا ہے نہ کہ نبی بننے کی۔ جس کے معنی ہیں کہ ان کی ہدایتوں پر عمل کریں اور ان کے طریق عمل کو نمونہ بنائیں۔ جیسا کہ فرمایا کہ: ”لقد کان لكم فی رسول الله اسوة حسنة (احزاب: ۲۱)“ یعنی تمہارے لئے رسول ﷺ میں قابل اقتداء نمونہ عمل موجود تھا۔ پھر تم نے اس طرح کیوں نہ کیا۔ اگر انہیاء کے رستے کی پیروی کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ ہم نبی بن جائیں تو کیا خدا کے رستے کی پیروی سے خدا بھی بن سکیں گے۔ پھر تو بڑی بھاری اور

بڑی شان کی ترقی ہوگی۔ دیکھئے خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کہ: ”وان هذَا صراط مسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ (انعام: ۸)“، یعنی یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اسی کی پیروی کرنا اس کے جواب میں کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ ہاں خدا بھی بن سکتے ہیں۔ اسی لئے تو مرتضیٰ قادریانی نے اپنے (آنینہ وساوس عص ۵۶۳) خواہیں (دھس ایسا) میں اپنا ایک خواب لکھا ہے۔

”رَأَيْتَنِي فِي الْمَنَامْ عَيْنَ اللَّهِ وَتَيَقْنَتْ أَنِّي هُوَ“، یعنی میں نے خواب میں اپنے آپ کو میں خدا دیکھا اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔

اگر کہا جائے کہ رستہ کی پیروی سے رستہ والے کارتبہ مل سکتا تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ صدیقوں، شہدوں اور صالحین کے رستے کی پیروی سے بھی ہم صدقیقت، شہادت اور صلاحیت کا رتبہ بھی نہ پاسکیں۔ حالانکہ یہ بالکل باطل ہے۔ کیونکہ بہت سے پاک لفوس ان مقامات پر پہنچتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت زیر بحث اس امر سے بالکل ساکت ہے۔ رستے کی پیروی اور ان کی رفاقت جیسا کہ آیت سورۃ نساء میں وارد ہے۔ دیگر امر ہے اور اس رتبہ پر فائز ہونا دیگر امر ہے۔ دیکھئے خدائے تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ میعت کئی جگہ وارد ہے۔ ”انَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (البقرہ: ۱۵۳)، انْ مَعِيْ رَبِّيْ (ashura: ۶۲)، انَّ اللَّهَ مَعَنَا (التوبہ: ۴۰)، وَهُوَ مَعَكُمْ اینما کنتم (الحدید: ۴)، وَهُوَ فَعُهُمْ اینما کانوَا (المجادلہ: ۷)“

ان آیتوں میں خدا کی میعت کا صاف ذکر ہے تو نہ خدا بندہ بن جاتا ہے اور نہ بندہ خدامی کے رتبہ پر پہنچ جاتا ہے۔ خدا خدا ہے اور بندہ بندہ۔

اسی طرح آنحضرت ﷺ نے یتیم کے کفیل کی نسبت فرمایا۔ ”اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كھاتین و اشار باصبعیه، یعنی میں اور یتیم کا کفیل ان دونوں گلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے اور دونوں گلیاں ملا کر آپ ﷺ نے اشارہ سے بتایا کہ اس طرح تو اس حدیث کا یہ منانہیں ہے کہ یتیم کا کفیل اور آنحضرت ﷺ ہم رتبہ ہوں گے۔ یا وہ کفیل محمد ﷺ بن جائے گا۔ اعوذ بالله من زیغ القلب!

دیگر یہ کہ بے شک نبوت کے سوا دیگر مقامات کی ترقی کھلی ہے۔ لیکن اس کی دلیل یہ

آیت زیر بحث نہیں بلکہ سورہ حمد کی آیت ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ: ”وَالذِّينَ اسْنَوا بِاللَّهِ وَرَسُلِهِ اولئک هم الصَّدِيقُونَ وَالشَّهَدَاءُ، عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرٌ هُمْ وَنُورٌ لَهُمْ (الْحَدِيْه: ۲۷)“ یعنی جو لوگ خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہی خدا کے نزدیک صدقی اور شہید ہیں۔ ان کے لئے ان کا اجر بھی ہے اور نور بھی ہے اور نبوت کے بند بوجانے کی دلیل آیت خاتم النبیین اور احادیث صحیحہ ہیں۔ چنانچہ (مسند امام احمد بن حنبل ص: ۲۹۷) میں ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت میرے بعد منقطع ہو چکی ہے۔ پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی۔ اسی طرح صحاح کی کئی ایک احادیث ہیں۔ جن کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ قصر نبوت کی آخری ایسٹ ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو گا۔ اسے ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ بادشاہ نے جن عبدوں کی آسامیاں کھلی رکھی ہیں۔ ان کے لئے درخواست دے سکتے ہیں۔ لیکن جس عبدے کی نسبت اس کا اعلان ہو چکا ہے کہ یہ عبدہ پر ہو چکا ہے۔ اس کی اسامی خالی نہیں ہے۔ اس کے لئے درخواست پر درخواست دیتے جائیں۔ ہرگز شناوی نہیں ہوگی۔ بلکہ وہ درخواست بقاعدہ ”وَمَا دَعَاهُ الْكَافِرُونَ الْفَلَلَ“ ضلال۔ ”رُدِی کی ٹوکری میں پھینک دی جائے گی۔ کیونکہ وہ شاہی اعلان کی حد سے باہر ہے۔ پس اس طرح نبوت اور دیگر مقامات کا حال بے کار احکم الخاکمین نے آیت خاتم النبیین اور آیت الیوم اکملتکم لکم دینکم (المائدہ: ۳) سے اعلان کر دیا ہے کہ ہمارے آخری رسول محمد ﷺ کے بعد نبوت کا دروازہ بالکل بند ہے۔ ہاں بوجب آیت سورہ حمد اس پر ایمان لا کر اس کی پیروی کرو تو اپنی اپنی قابلیت سے ان دروازوں سے آنے کی کوشش کرو۔ اس اعلان کے بعد اسی کو حق نہیں پہنچتا کہ نبوت کی ہوس میں دعا مانگ مانگ کر سر کھپائے۔

اگر اس تصریح کے بعد بھی کسی کے دماغ میں یہ خیال سما جائے تو سمجھ لینا جائے کہ یا تو دو مرافقی وغیرہ ہو گایا کاذب و فرسی (دجال و کذاب)۔ اسی لئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے۔ جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ قیامت نہ آئے گی۔ جب تک میری امت (مدعیان اسلام) میں سے قریباً تیس دجال اور کذاب نہ ہو لیں۔ ہر ایک ان میں سے

دعویٰ کرے گا کہ میں خدا کا نبی اور رسول ہوں۔ (بنخاری و مسلم) پس بوجب اس حدیث کے مرزا قادیانی اور ان کے اتباع میں سے احمد نور کابلی احمدی اور عبد اللہ تیما پوری اور نبی بخش احمدی ساکن مراجعے ضلع سیالکوٹ اور عبداللطیف گناچوری اور فضل احمد احمدی جو عالم بزرخ میں مرزا قادیانی سے با تین کرتا ہے غیرہ غیرہ۔ جو کوئی آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت ملنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ سب آنحضرت ﷺ کی مذکورہ حدیث کے ماتحت آ جائیں گے۔ ورنہ ہر مدعاً نبوت اپنے پیروؤں کی نظر کے لحاظ سے صادق ٹھہر سکے گا۔ یا کم از کم صدق و کذب ہر دو کامل ہو سکے گا اور اس کے صادق ہونے کی صورت میں یہ حدیث بلا مصدق رہے گی اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ معاذ اللہ آنحضرت ﷺ نے جو خبر قسمی تاکیدوں سے دی تھی وہ غلط نکلی اور ہمارے لئے یہ بہت مشکل ہے۔ بلکہ بالکل ناممکن ہے کہ ہم اس صحیح حدیث کو غلط قرار دیں۔ بلکہ ہمارے لئے یہ بالکل آسان ہے اور واقعہ میں بھی درست ہے کہ اس حدیث کو صحیح سمجھ کر ان مدعاں نبوت کو مفتری اور دجال و کذاب قرار دیں اور ہر مدعاً کی خنی سرد روی سے چھوٹ جائیں۔

اسے ایک اور طرح پر بھی سمجھ لیں کہ اگر ہم نصوص پہنچ لیں آیت خاتم النبیین اور احادیث ختم رسالت کو نظر انداز کر کے مرزا قادیانی کی کھنچ تان کی استنباطی دلیلوں کو تسلیم کر لیں اور تمیں دجالوں والی صحیح اور متفق علیہ حدیث کا بھی لحاظ نہ کریں اور بقول مرزا قادیانی دعویٰ نبوت کو آنحضرت ﷺ کے بعد بھی جائز جانیں تو مرزا قادیانی کے سوا دیگر مدعاں نبوت کے لئے بھی رست کھلا رہے گا اور ان کی تکذیب کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہو گی۔ کیونکہ جب ہم (معاذ اللہ) ختم نبوت کے دلائل کو ایک دفعہ مرزا قادیانی کے لئے بیکار کر چکے تو اب دوسروں کے مقابلہ میں وہ باکار نہیں ہو جائیں گی۔ اسی خیال نے کئی ایک احمدیوں کو جرأۃ دلادی کا انہوں نے نبوت کا حکلم کھلا دعویٰ کر دیا۔ ان میں سے ایک پودھری نبی بخش ساکن مراجعے ضلع سیالکوٹ اور دوسرا ماشر محمد سعید سمبریانی، نور احمد کابلی مقیم قیاں، فضل احمد ساکن چنگانکیال راوی پنڈی عبداللطیف گناچور جانند ہر وغیرہ قریب درجن کے احمدیوں نے نبوت کا دعویٰ بیا۔ آخر ان بھلے انسوں کی تکذیب کے لئے بھی تو کوئی دلیل چاہئے۔

اتنا تو آپ بھی مانیں گے کہ یہ سب احمدی ہیں اور مرزا قادیانی نے نبوت کے لے  
 سوائے اپنی بیرونی کے کوئی اور شرط مقرر نہیں کی۔ تو اب کیا غصب ہے کہ آپ لوگ ان بیچاروں  
 کے دعویٰ کی تصدیق نہیں کرتے۔ دیکھئے کتنی بے انصافی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کھلے الفاظ میں  
 فرمایا کہ میرے بعد نبوت و رسالت بند ہے۔ باوجود اس کے مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا تو آپ  
 لوگوں نے تسلیم کر لیا اور مرزا قادیانی الفاظ میں لکھتے ہیں کہ میرے بعد نبوت کھلی ہے۔ ہاں صرف  
 میری رنگت میں رنگ جانے کی ضرورت ہے اور ان بیچاروں نے مرزا قادیانی کے منکے میں  
 ڈبکیاں لے لے کر یہ رنگت چڑھائی اور دعویٰ کیا تو آپ لوگ ان کو نہیں مانتے۔ حالانکہ ان لوگوں  
 کی تکذیب کے لئے آپ کے پاس سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں کہ ”اجی ہم ان کو نہیں مانتے۔“  
 اور یہ کوئی دلیل نہیں کتنا ظلم و ستم ہے کہ مرزا قادیانی اپنے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رکھیں  
 اور قیامت تک لا تعداد نبیاء ہو سکنے کے قائل ہوں اور سوائے اپنی اتباع کے کوئی اور شرط ضروری نہ  
 جانیں۔ اس پر مرزا قادیانی کے خالص و مخلص مریدوں میں سے چند جری اللہ، مرزا قادیانی کو قاسم  
 نبوت اور صاحب فیض و کرم ثابت کرنے کے لئے اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم مرزا قادیانی کے  
 فیض سے مقام نبوت پر پہنچ گئے ہیں۔ جس طرح کہ مرزا قادیانی نے آنحضرت ﷺ کے بعد دعویٰ  
 کر کے کہا کہ اسلام اور نبی اسلام کے حق ہونے کی زندہ دلیل یہ ہے کہ ان کی اتباع سے انسان  
 مقام نبوت پر پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ میں اس کی زندہ مثال موجود ہوں۔ کیونکہ اگر سلسلہ نبوت کو  
 جاری نہ ہجھیں تو ایک تو خداۓ تعالیٰ کی صفت کلام کا تعطل لازم آتا ہے۔ دوسرا یہ لازم آتا ہے کہ  
 آنحضرت ﷺ کی اتباع سے آدمی خداۓ تعالیٰ کے مکالمہ و مخاطبہ کا شرف حاصل نہیں کر سکتا۔  
 حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے خلفاء میں سے کتنی نبی ہوئے اور آنحضرت ﷺ تو ان سے افضل ہیں تو  
 کیا ان کے خلفاء میں سے کوئی نبی نہ ہو۔

غرض یہ سب مدعی اور آپ لوگوں میں سے ان جیسے دیگر جو آئندہ پیدا ہوں گے۔ وہ  
 سب انہی بھتیجا رسم مسلح ہو کر آئے ہیں اور آئیں گے جو مرزا جی نے خود پہنچنے اور ان کو پہنچانے۔  
 پس آپ کا کوئی حق نہیں کہ ان بھتیجا روں سے مرزا قادیانی کو سجادہ لیجہ کر جری اللہ فی حل

الانبياء (تذكرة ص ۹۷) مان لیں اور دیگروں کو جو اسی روپ میں انہی تھیاروں سے بچ ہوئے ہیں۔ کاذب و مفتری اور جعلی وقایتی قرار دیں۔ تلک اذا قسمة ضيئری!

آنحضرت ﷺ کے بعد دعوی نبوت کی روک کے لئے یہی دو باتیں تھیں کہ نبوت آنحضرت ﷺ پر ختم ہے اور آپؐ کے بعد نبوت کا دعوی کرنے والا دجال و کذاب ہے۔ ختم نبوت کی باڑ مرزا قادیانی نے اپنے دعوے اور استنباطی کشیخ تان کے تبر سے توڑ دی اور بجائے دجال ہو جانے کے نبی برحق بن گئے تو دیگر بیجاروں نے کیا گناہ کیا ہے کہ ان کے سامنے خاردار تاریکا دی گئی ہے کہ وہ دعوے نہیں کر سکتے۔ بلکہ دعوے سے دجال و کذاب ہو جاتے ہیں۔ غرض اگر باب نبوت مرزا قادیانی نے خدا ہے تو انہی دلائل سے بقول مرزا قادیانی دیگروں کے لئے بھی کھلا ہے۔ پس گوئی وجہ نہیں۔ ہم مرزا قادیانی کی تو تکنذیب سے کافر قرار دئے جائیں اور دیگروں کی تصدیق سے بے ایمان تھہریں۔ ایں چہ؟۔

ہم آپؐ کو ایک اور طرف بھی سمجھاتے ہیں۔ شاید آپؐ کی جماعت میں کچھ سمجھدار لوگ بھی ہوں۔ وہ یہ کہ مرزا قادیانی نے آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت کو جائز رکھا۔ تو اب جو جو بھی دعوی کریں گے وہ تین حال سے خالی نہ ہوں گے۔ یا سب کے سب سچے یا سب کے سب جھوٹے یا بعض سچے اور بعض جھوٹے۔ اب دیکھئے آپؐ لوگوں کی پوزیشن کیا ہے؟۔ سب کو آپؐ سچا مانتے نہیں۔ کیونکہ احمد نور کابلی بے چارہ قادیان میں بیٹھا ہوا دن رات ٹرا رہا ہے اور آپؐ سچتے نہیں اور عبد اللہ تیما پوری سب سے پہلے روح القدس کے نزول کا مدعی بنا۔ لیکن آپؐ نے ایک نہ مانی۔ اسی طرح وہ بے چارہ جو مرزا قادیانی سے عالم بزرخ سے بھی فیض اشمار بابت اس کو بھی آپؐ نہیں مانتے اور آپؐ سب کے سب کو بھی جھوٹا نہیں مانتے۔ کیونکہ آپؐ مرزا قادیانی کو نبی سابق بتتے ہیں۔ اب باقی رہی تیرہ صورت کہ بعض سچے اور بعض جھوٹے۔ سو اس کے نئے آپؐ سوائے اپنے انکار کے کوئی دلیل پیش نہیں کرتے۔ کیونکہ جو دلائل ختم نبوت کے تھے۔ ان کو مرزا قادیانی نہایت کامیابی سے بالکل بے کار کر چکے ہیں۔ وہ کار آمد نہیں ہو سکتے اور پیش گوئیوں اور الہادت کا ناظر ہوتا آپؐ کے نزدیک موجب تکنذیب

نہیں ہو سکتا۔ تو اب خدا فرمائیے کہ آپ کے دین و ایمان اور علم و عقل کا کیا حال؟۔ دیکھئے! نصوص قرآنیہ و حدیثیہ کے چھوڑنے سے آپ کس قدر مشکلات میں پھنس گئے۔ عقل سے بے بہرہ ہو گئے۔ انصاف سے دور جا پڑے۔ مرزاق اُدیانی کو نبی اور رسول کو دجال مان کر کاغزی رہے۔ خدا اور رسول کی باتوں کے چھوڑنے سے کہیں کے نہ رہے۔

آئیے! تو ہے تجھے! اور سید ہے ساد ہے مسلمان ہو جائے۔ برئے مدی کو لا کھل کی ایک ہی بات کہہ دیجئے کہ نبوت آنحضرت ﷺ پر ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ کے بعد جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بوجب صحیح حدیث کے دجال و کذاب ہے۔ بس اس میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں پڑے گی۔ کفر آپ کے نزدیک نہیں بھٹکے گا۔ عقل آپ کی قائم رہے گی۔ علم آپ کا صحیح رہے گا اور آپ انصاف پر ہو کر ایسے سب مدعیوں کو ایک ہی حکم سنائیں گے۔ قیامت کے دن رسول ﷺ کے جنڈے تلے کھڑے ہو کر شفاعت کے امیدوار ہو سکیں گے۔ خدا کرے کہ آپ لوگوں کو بھجا آجائے۔

تیسرا وجہ مرزاق اُدیانی کے استدلال کے باطل ہونے کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے نبوت کا حاصل ہونا دعوؤں اور التجاویں پر نہیں رکھا۔ بلکہ وہ خود اپنے انتخاب سے جسے چاہتا رہا ہے نبی بناتا رہا ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کو فرمایا کہ: ”وما كنت ترجوا ان يلقى اليك الكتاب الارحمة من ربك (قصص: ۸۶)“ یعنی (اے نبی) تجھے کوئی امید نہیں تھی کہ تجھ پر کتاب نازل کی جائے گی۔ ہاں صرف خدا کی رحمت سے (اتاری گئی ہے)۔

یہ آیت سورہ قصص کی ہے اور اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رسالت حض خدا کے فضل سے بغیر دعا یا سابقہ کوشش سے ملنے کا ذکر ہے۔ چنانچہ اس کی شہرت یہاں تک ہو چکی ہے کہ اس کی بابت شعر بھی بن گیا ہے۔

خدا کی دین کا موئی سے پوچھئے احوال

کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے

نیز یہ آیت ملاحظہ فرمائیے منکرین کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر محمد ﷺ پر ایمان نہیں

لائیں گے۔ جب تک کہ ہمیں بھی وہ کچھ نہ ملے جو خدا کے رسول کو ملتا رہا ہے۔ اس کے جواب میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ: ”اللَّهُ أَعْلَمْ حِيْثُ يَجْعَلْ رِسَالَتَهُ۔ اَنْعَامٌ ۝۱۲۴“، یعنی خدا تعالیٰ اپنی رسالت کے موقعہ کو خوب پہچانتا ہے۔ (کسی کی آرزو اور خواہش کا اس میں دخل نہیں۔)

اسی طرح سورہ حج میں فرمایا ہے کہ: ”اللَّهُ يَصْفَطِي مِنَ الْمَلَكَةِ رَسُلًا وَ مِنَ النَّاسِ (حج: ۷۵)“، یعنی خدا تعالیٰ خود ہی فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول منتخب کرتا رہا ہے۔ (اسی کے مطابق پر اب اس رسول ﷺ کو منتخب کیا ہے۔)

**لطیفہ عجیبہ:** مولوی محمد علی صاحب لاہوری مرزاؒ نے اپنی اردو تفسیر بیان القرآن میں اسی آیت صراط الدین انعمت علیہم کے ضمن میں اس شخص کی بہت زور سے تردید کی ہے۔ جو اس دعا کی بناء پر یہ سمجھے کہ دعا سے عہدہ نبوت مل جاتا ہے اور جس طرح ہم نے اوپر لکھا ہے کہ نبوت خدا کی بخشش ہے۔ اسی امر کو ثابت رکھا کہ عہدہ نبوت خدا کی بخشش ہے۔ کسی کی دعا یا اسمی کو اس میں دخل نہیں۔ پھر اس لبی تقریر میں یہ کلے بطور نتیجہ کلام فرمائے ہیں۔

”پس مقام نبوت کے لئے دعا کرنا ایک بے معنی فقرہ ہے اور اس شخص کے منہ سے نکل سکتا ہے۔ جو اصول دین سے ناواقف ہو۔“ (جلد اول ص ۶، تحت آیت صراط الدین انعمت)

ہم مولوی صاحب موصوف کے حرف حرف کی تصدیق و تائید کرتے ہیں۔ لیکن جہاں مولوی صاحب موصوف نے ایسے مسئلہ کے علم کا حال لکھے ہوئے اسے اصول دین سے ناواقف قرار دیا ہے۔ اگر وہاں اس کے ساتھ کم از کم اس شخص کے دین و ایمان کا حال بھی لکھ دیتے کہ وہ دین سے بے بہرہ اور ضال مفضل ہے۔ تو حق پورا ہو جاتا۔

اس کے بعد ہم مولوی محمد علی صاحب سے یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ زیداً اپنی کتاب میں یوں لکھتا ہے کہ: ”آیت انعمت علیہم گواہی دیتی ہے کہ اس مصنف غیب سے یا امت مسروہ نہیں اور مصنف غیب حسب منطق آیت نبوت اور رسالت کو چاہتا ہے اور وہ براہ راست بند ہے۔ اس لئے ماننا پڑتا ہے کہ اس امت کے لئے محض بروز اور ظلیل اور فنا فی الرسول کا کھلا ہے۔“

(اشتباہ ایک ناطقی کا ازالص ۵، جزاً اُن ج ۱۸۹ ص ۲۰۹ حاشیہ)

ایسے شخص کے عقائد اور اس کے ملکہ قرآن فہمی اور اصول دین سے اس کی واقفیت کی بابت آپ کیا فرماتے ہیں؟۔

لَا يَنْهَاكُنَّهُ عَنِ الْمُحَاجَةِ

# فص خاتم النبوة

بعموم

## الدعوة وجامعية الشريعة

مولانا حافظ محمد ابراهيم مير سيا لکوئی

بسم الله الرحمن الرحيم

”الحمد لله الذي ارسل رسلاه لا تمام الحجة وانزل الكتب لبيان  
الشريعة واكرم حبيبه بخت النبوة بعموم الدعوت وامال الشريعة فصلى  
الله عليه وعلى اله واعراسه واصحابه لنا فيهم اسوة حسنة لحسنات  
الدنيوية والاخروية“.

اما بعد! یہ ایک مختصر سار سالم ہے۔ جو باوجود اپنی دیرینہ علالت اور ضعف بصارت  
کے، مسئلہ ختم نبوت کے متعلق ایک نادر طریق پر لکھوا رہا ہوں۔ دلائل تو وہی ہیں جو قرآن اور  
حدیث میں سب علماء کی نظر میں ہیں۔ لیکن ان کو ایسے طریق پر ترتیب دینا اور اسی طور پر بیان کرنا  
کہ مخاطب کو جائے دم زدن نہ رہے۔ ہر کسی کا کام نہیں ہے اور میں بے بضاعت بھی اس امر کو  
انجام نہ دے سکتا تھا۔ اگر خدائے وہاب کی تائید اور توفیق میرے شامل حالت نہ ہوتی۔

### ضروری التماس

ناظرین کرام سے التماس ہے کہ جو اصحاب دلائل ختم نبوت آگے ہی جانتے اور مانتے  
ہیں۔ لیکن مخالف لوگ ان کو شبہات ڈال کر حیران کرتے رہتے ہیں۔ وہ بھی اور وہ احباب بھی جو  
دلائل تو نہیں جانتے۔ لیکن مرزا قادیانی اور مرزا زلیل علماء کے شبہات سے اثر پذیر ہو چکے ہیں۔ دل کو  
شبہات سے خالی کر کے اس رسالہ کو بے نظر انصاف پڑھیں اور غیر جانبدار ہو کر مطالعہ کریں اور  
مرزا زلیل صاحبان یہ خیال نہ کریں کہ یہ رسالہ ہمارے مشہور مخالف کے قلم سے نکلا ہے۔ کیونکہ ایسی  
بدظیفی انسان کو قبولیت حق سے روک دیتی اور اس کے سامنے ایک دیوارِ حُرَمَی کر دیتی ہے۔ جس  
سے حق ان کی نظر سے او جعل ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ جس کے قبضے میں میری جان  
ہے کہ میں نے اس کتاب کو خدا داد بسیرت سے قرآن و حدیث کے نصوص یعنی سے بغیر کسی کھیج  
تھان کے خد تعالیٰ کے ہاں اپنی ذمہ داری اور جواب دہی کو سامنے رکھ کر تبلیغ حق کی خالص نیت  
سے لوگوں کی ہدایت کے لئے لٹاھا ہے۔

اس لئے مجھے امید کرنی چاہئے کہ ناظرین کرام اس کتاب کو بحکم آیت ذیل پر نظر  
النصاف مطالعہ کریں گے۔ آیت یہ ہے کہ: ”فبشر عباد الذين يستمعون القول  
فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم أولوالbab“

(ذمر: ۱۷، ۱۸) ”یعنی (اے پیغمبر)“ پس بشارت سناد تھے میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سن لیتے ہیں۔ پس پیروی کرتے ہیں بہتر اس کی، کہ یہی وہ لوگ ہیں۔ جن کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے اور یہی لوگ ہیں صاحبان عقل۔“ حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی!

## فصل اول

### دلائل ختم نبوت از قرآن مجید

پہلی بحث: جن وجوہ پر سابق زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کے عہد سے سلسلہ نبوت جاری رہا۔ ہم ان کا مفصل بیان کتاب واضح البيان فی تفسیرام القرآن میں کر سکتے ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ سے پیشتر جس قد رانبیاء آئے وہ سب اپنی اپنی قوم کے لئے آئے۔ جن کا دائرہ تبلیغ محدود زمانے تک رہا اور کسی کو جامع شریعت نہ دی گئی۔ لیکن آنحضرت ﷺ ساری دنیا کے لئے رسول بناء کر بھیجے گئے۔ آنحضرت ﷺ کو جامع شریعت دی گئی۔ جوتا قیام دنیا قائم رہے گی اور اس میں نہ خود ترمیم کی گنجائش نہ رہی۔

دیگر یہ کہ سابقہ زمانوں میں جیسا کہ قرآن شریف کے مطالعہ سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء علیہم السلام کے حالات سے معلوم ہو سکتا ہے۔ منترین نبوت ہلاک کر دیئے جاتے رہے۔ جس سے تکمیل شریعت کی نبوت نہ آسکی۔ لیکن خدا تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اپنے حبیب ﷺ کو رحمۃ للعلامین کر کے بھیجا تو اس کے ضمن میں یہ بات بھی ملوظاً رکھی کہ رحمۃ للعلامین کی برکت سے دنیا جہان کو نفع بخوبی عذاب سے بچالیا جائے تاکہ آپ کا فیض ہدایت تمام دنیا پر پھیل جائے۔ اس لئے آپ ﷺ کے زمانے میں ”الیوم اکملت لكم دینکم (ماائدہ: ۳)“ کی بشارت سنائیں کہ شریعت کو کامل کر دیا۔ دیگر یہ کہ آنحضرت ﷺ سے پیشتر دنیا کی حالت ایسی نہ تھی کہ دنیا کے مختلف علاقوں کے تعلقات آپس میں وابستہ ہو سکیں اور تبلغ وعوتوں اور سفر کے وسائل نہایت دشوار تھے۔ اس لئے کسی نبی کی تبلیغ ساری دنیا پر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ لیکن خدا تعالیٰ کے علم میں مقدر تھا کہ میرے حبیب ﷺ کی تبلیغ کے لئے دنیا جہان کے تعلقات آپس میں سہولت سے وابستہ ہو سکیں گے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو سب کمالات کے ساتھ خاتم النبیین کر دیا۔ ان وجوہ کی تفسیر کے بعد کتاب واضح البيان میں سے عبارت ذیل کا مطالعہ کریں۔ ”الغرض پہلے زمانوں میں سلسلہ نبوت کے جاری رہنے کی جس قدر ضرور تیں تھیں وہ آنحضرت ﷺ کی مبارک آمد پر سب پوری ہو چکی ہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو سارے کمالات کا صاحب جامع بنائیں کہ اس سلسلہ کو آپ ﷺ پر ختم کرو۔“

نبوت پر پھر لگادی۔ چنانچہ فرمایا کہ: ”ماکانِ محمد ابا احمد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین و کان اللہ بکل سئی علیما (احزاب: ۴۰)،“ ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ﴾ تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں۔ ہاں خدا کے رسول ہیں اور (رسول بھی ایسے کہ) خاتم النبیین ہیں اور خدا تعالیٰ ہر شے (اور ہر ضرورت) سے واقف ہے۔ یعنی جانتا ہے کہ اب ان کے بعد نبوت جاری رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کوئی لاائق نبوت پیدا کیا جائے گا۔“

### دوسری بحث

#### ختم نبوت کی خاص دلیلوں کے بیان میں

سب سے پہلی دلیل آیت مذکورہ بالا ہے جو آنحضرت ﷺ پر نبوت کے ختم ہو جانے میں نص قطعی ہے۔ اس کی توضیح سے پہلے اس کا شانِ نزول بھی جاننا چاہیئے کہ اسے بھی ختم نبوت سے ایک گونہ تعلق ہے۔

#### شانِ نزول

آنحضرت ﷺ نے ۵ بھری میں اپنی پھوپھی کی بنی حضرت نسبؓ سے نکاح کیا۔ اس سے پہلے وہ حضرت زیدؓ کے نکاح میں تھیں۔ جو آنحضرت ﷺ کا آزاد کردہ غلام اور متین تھا۔ حضرت نسبؓ اور زیدؓ میں موافقت نہ بنی تو حضرت زیدؓ نے ان کو طلاق دے دی۔

ملکی رسم کی رو سے متینے کو صلبی بینے کی طرح جانا جاتا تھا اور اس کی وجہ سے اصل وارثوں کے حقوق پر اثر پڑتا تھا اور مصنوعی رشتے کو قدرتی رشتے پر ترجیح دی جاتی تھی۔ یا اسے اس کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ لہذا اس کو منسوخ کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو حکم کیا کہ آپ ﷺ نسبؓ سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے نکاح کر لیا۔ مخالفین نے اعتراض کیا کہ آپ ﷺ نے اپنے بینے (متینے) کی مطلقہ سے نکاح کر لیا ہے اس پر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد ﷺ تم سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں۔ ہاں خدا کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں اور خدا سب کچھ جانتا ہے۔ پس اس بناء پر اعتراض بالکل لا یعنی ہے۔ ہاں آپؐ کو رسالت کا ایک منصب حاصل ہے۔ جو اس رشتہ پروری سے بہت اونچا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے امت کی عورتوں سے آپؐ کا نکاح منع نہیں ہو سکتا۔

اب سوال یہ ہے۔ جواب تو اسی قدر کافی تھا۔ اس کے ساتھ مسئلہ ختم نبوت کی کیا ضرورت تھی کہ خدا تعالیٰ نے اسے بھی ذکر کر دیا؟۔ سواں کا جواب یہ ہے کہ اس نکاح میں سب سے بڑی رکاوٹ قوم کی طعن و عار تھی کہ نکاح سالہا سال کی رسم کے خلاف تھا۔ دشمن تو دشمن

رہے۔ معتقد بھی کہہ سکتے تھے کہ آنحضرت ﷺ نے پورستون کو معرضین کے اعتراضوں کا نشانہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ رسوم خلاف شرع کی اصلاح کا یہی وقت ہے۔ تکمیل شریعت کا یہی عہد ہے۔ پچھلی شریعتوں کے بعض احکام کی منسوخی کا یہی زمانہ ہے۔ یہ شریعت آخری وابدی ہے۔ جو شیخ و تمیم کی گنجائش اور تحریف و تبدیل کے اندر یہ سے بحث و نظر ہے۔ کیونکہ یہ رسول خاتم النبیین ہے۔ اس امت کی اصلاح کو کسی اور وقت پر ڈالنا اس کی شان خاتمیت کے خلاف ہے۔

لہذا اس اصلاح کا یہی زمانہ ہے اور یہ کام خدا کے علم میں پہلے ہی سے اسی طرح مقدر تھا۔ چنانچہ اس سے قبل فرمایا کہ: ”وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا“ (احزاب: ۲۸)، یعنی اے نبی ﷺ یہ سارا معاملہ یعنی زیدؑ کا یہاں آ کر فروخت ہونا اور آپ ﷺ کا اس کو متینے بنانا اور پھر زینبؓ سے نکاح کرانا اور پھر اس کا اس سے طلاق دے دینا اور پھر زینبؓ کا تمہارے نکاح میں آنا سب تقدیری معاملے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان کو اپنے علم ازی میں اسی طرح مقدر کیا تھا کہ یہ سب کچھ یوں یوں ہو گا اور یہ سب کچھ اسی رسم کی اصلاح کے لئے تھا۔

پھر فرمایا کہ: ”وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا“ (احزاب: ۴۰)، یعنی خدا تعالیٰ کو سب باتوں کا علم ہے۔ اس بات کا بھی کہ اس نبی ﷺ کے بعد کوئی شخص قابل نبوت پیدا نہیں کیا جائے گا اور اس بات کا بھی کہ اب وہ ضرور تین کلیت رفع ہو گئی ہیں۔ لہذا نبوت بالکل بند کر دی گئی ہے۔ یا ان الفاظ میں سمجھئے کہ خدا تعالیٰ کا علم محيط کل ہے۔ زمان گذشتہ و حال کے موجودات اور زمان مستقبل میں موجود ہونے والی سب چیزوں اور اموروں پر حاوی ہے تو اس احاطہ کلی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ختم نبوت کے کیا وجہ ہیں اور یہ بھی کہ آگے کوئی قابل نبوت پیدا نہیں ہو گا۔ پس اس نے اپنی حکمت بالغہ اور علم کلی سے آگے کے لئے نبوت کا دروازہ بالکل بند کر دیا۔ وجود ختم نبوت مختصر اشارہ دعے میں مذکور ہو چکی ہیں۔

## قرآن شریف سے ختم نبوت پر ایک نادر استدلال

خدا تعالیٰ نے سورت الفرقان کے شروع میں فرمایا ہے کہ: ”تَبَارَكَ الذِّي نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا“ (الفرقان: ۱)، یعنی یہی برکت اور خیر کثیر والا ہے۔ وہ خدا جس نے آہستہ آہستہ نازل کیا یہ قرآن شریف جو فرق کرنے والا ہے۔ حق و باطل اور حلال و حرام میں اور اپنے کامل بندے محمدؐ کے، تا کہ ہو وہ واسطے تمام عالمین کے ذریانے والا۔

اس آیت میں خدا تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو تمام عالمین ارضی یعنی جن و انس عربی و عجمی کے لئے نذیر کر کے بھیجا۔ آنحضرت ﷺ سے پیشتر جس قدر انہیاً علیهم السلام آئے۔ وہ اپنی اپنی قوم کے لئے آئے۔ جیسا کہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ: ”ارسلت الی الخلق کافہ و ختم بی النبیون“ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۹۹، کتاب المساجد)۔ ”یعنی میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تمام خلقت کی طرف اور ختم کئے گئے ساتھ میرے انبیاء علیہم السلام“ اور اسی سورت میں فرمایا ہے کہ: ”ولو شئنا لبعثنا فی کل قریة نذیر (الفرقان: ۵۱)“ یعنی اگر ہم چاہتے تو ہم ہر ہر بستی میں ایک ایک نذر مبوعث کرتے۔ اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ علم میزان ان کی رو سے یہ قیاس استثنائی ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں الگ الگ نذر مبوعث کرتے۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں چاہا۔ کیوں نہیں چاہا؟ اس لئے کہ سورت فرقان کے شروع میں فرمادیا کہ تمام عالمین کے لئے محمد رسول اللہ ﷺ کو نذر یکر کے بھیجا ہے۔ جس سے دنیا جہان میں وحدت ملی پیدا ہو سکے گی۔ پس اس مصلحت کے لئے تمام جہان کے لئے ایک ہی نذر یہ بنایا گیا۔ چنانچہ امام شوکانیؒ اپنی تفسیر میں آیت ولو شئنا لبعثنا فی کل قریة نذیراً کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ: ”کما قسمنا المطر بینهم ولكن لم نفعل ذلك بل جعلنا نذیراً وهو انت يا محمد“ ”یعنی جس طرح ہم نے آسمان سے پانی ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر کے اتنا رہا ہے۔ (ای طرح ہم رحمت بھی ہر بستی کو تقسیم کر کے بخشنے) لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ بلکہ ہم نے دنیا جہان کے لئے ایک ہی نذر بھیجا اور وہ اے محمد ﷺ آپ ہیں“ اور صاحب تفسیر رحمانیؒ نے اس آیت کی تفسیر یوں فرمائی ہے کہ: ”لو شئنا لبعثنا فی کل قریة رسول رحمانیؒ عن الكفر لهم (نذیراً) لكن لم نشتغلانه يقتضي تفرق الام و تکثر الاختلافات فجعلنا الواحد نذيرًا للكل ليطیعوه او يقاتلهم“ ”یعنی اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ایک رسول پیدا کرتے۔ تاکہ ہوتا وہ ان سب کو فرسے ڈرانے والا۔ لیکن ہم نے چاہا۔ یومنہ اس کا تقاضا امتوں کا تفرق اور اختلاف کی کثرت ہوتا۔ پس ہم نے ایک ہی نذر تمام کے لئے بنایا تاکہ سب اس کی اطاعت کریں یا وہ ان سے جہاد کرے۔ ”ای طرح دیگر کئی تباہیر میں بھی ہے۔ اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عالمین کا لفظ قرآن شریف میں کن کن موقعوں پر آیا ہے۔ اول شروع قرآن میں فرمایا کہ: ”الحمد لله رب العالمين (فاتح: ۱)، دوم کعبۃ اللہ کے لئے فرمایا ہے کہ: ”هڈی للعالمین (آل عمران: ۹۶)، اور قرآن شریف کے لئے فرمایا کہ: ”ان هو الا ذکر للعالمین (انعام: ۹۰)، ”یعنی نہیں ہے یہ قرآن شریف مگر نصیت و اسٹے عالمین کے اور آنحضرت ﷺ کی شان میں فرمایا کہ: ”وما ارسلنک الا رحمة

للعالمين (انبیا: ۱۰۷)، "اور اس طریقے کی شان میں سورت فرقان میں فرمایا کہ: "لیکون للعالمین نذیراً (فرقان: ۱)"، پہلی آیت میں تمام عالمین کے لئے ایک رب کا ہوتا فرمایا۔ دوسری آیت میں دنیا جہان کے جن و انس کے لئے چاہے وہ صحرائی ہوں چاہے دریائی، چاہے پہاڑی ہوں، چاہے میدانی۔ ایک ہی کعبہ کا قبلہ ہوتا فرمایا۔ تیسرا آیت میں تمام جہان کے لئے ایک ہی قرآن کو نصیحت نامہ بتایا۔ چوتھی اور پانچویں آیات میں ایک ہی نبی محمد ﷺ کو رحمۃ للعالمین اور نذر للعالمین فرمایا۔ ان سب مقاموں پر غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ اکیلے تمام دنیا کے لئے رسول ہیں۔ پس اسی لئے آپ ﷺ پر نبوت ختم کی گئی۔ کیونکہ دنیا جہان کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو آنحضرت ﷺ کی تبلیغ رسالت سے مستثنی ہو کہ وہاں پر کسی نبی کے پیدا کرنے کی ضرورت پڑے۔ چنانچہ اسی معنی میں مند امام احمدؓ میں حضرت مقدادؓ سے مردی ہے کہ "رسول ﷺ نے فرمایا کہ پشت زمین پر کوئی گھر گارے یا اون کا (خیمه) باقی نہیں رہے گا۔ مگر اس میں اللہ تعالیٰ کھمہ اسلام کو داخل کر دے گا۔ یعنی دنیا جہان کی شہری اور صحرائی آبادی میں کلمہ اسلام کی گونج پڑ جائے گی۔ چاہے اسے کوئی عزت سے قبول کرے چاہے ڈلت سے اس کے تابع بوجائے۔" (سلکوۃ شریف ص ۸ کتاب الایمان) اسی معنے میں ذاکر اقبال مرحوم نے کہا ہے۔ جسے ہم قدرے ترمیم کے ساتھ یوں لکھتے ہیں کہ:

دنیا کی وادیوں میں گونجی اذال ہماری  
تحمیانہ تھا کسی سے سل روں ہمارا

### مزید برآں

آنحضرت ﷺ سے پیشتر کی اموں (یہود و نصاریٰ) نے اپنی آسمانی کتابوں (تورات، زیور اور انجلیں) کو محفوظ نہ رکھا اور نہ اپنے انبیاء کی سفن کو محفوظ رکھا اور ہر قوم پر انقلاب کے وقت میں مخالف حکومت کی دست برد سے کتابوں کے نسخ جلائے گئے اور کتابوں کے جانے والے عماء کو قتل کیا گیا۔ جس کے بعد امن کے زمانے میں تواریخی کتابوں کو جن میں شریعت کے بعض مسائل بھی تھے۔ آسمانی کتابوں کے نام سے رواج دیا گیا اور سفن انبیاء علیہم السلام کے متعلق جعلی روایتیں اور قیاسی مسائل راجح کئے گئے۔ لیکن قرآن شریف کی حفاظت کا ذمہ خود خدا تعالیٰ نے لیا۔ "انـا نـحـن نـزـلـنـا الـذـكـر وـاـنـا لـه لـحـفـظـوـن (الحجر: ۹)" بے شک یہ نصیحت نامہ ہم نے اتنا رہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن کا ذمہ خود لے کر اس کو عملی صورت میں یوں پورا کیا کہ ہر زمانے میں ہر طبقہ کے مسلمانوں کے دلوں میں حفظ قرآن کا ایک ولوہ پیدا کر دیا۔ جس کے اثر

سے امیر غریب، بادشاہ و رعیت، تاجر، کاشت کار، دستکار، آقا و خدمتگار، مزدوری پیشہ اور طالبعلم، علماء و ناخواندہ، چھوٹے اور بڑے، عورت و مرد، بینا و ناینا، اولیاء اللہ اور مجھے جیسے گنگار، آئندہ اور ان کے مقتدی، غرض جس لحاظ سے بھی آپ مسلمانوں کو تقسیم کریں گے۔ ہر قسم میں حفاظت قرآن شریف ہر زمانہ میں ہر ملک میں بکثرت ہیں گے۔

قرآن شریف کے حفظ کے بعد اپنے عجیب اکرم ﷺ کے اقوال و اخلاق کی حفاظت کے لئے خدا تعالیٰ نے یہ بات پیدا کر دی کہ مسلمانوں نے اسی قوت حافظت سے اپنے ہادی اکمل کی روایات کو پہلے اپنے سینوں میں جمع کیا اور پھر من و عن صحیح اور معتبر سندوں سے بعد کی نسلوں کے لئے ان کو کتابی صورت میں جمع کر دیا۔ یہ صحیح روایات قرآن شریف کی عملی تفسیر ہیں۔ ان میں (قرآن شریف اور احادیث صحیح) کے محفوظ ہونے سے قرآن اور دین اسلام ہر قسم کی نفعی اور معنوی سے ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو گیا۔ والحمد لله!

نتیجہ! پس جب قرآن شریف بھی حرفاً حرفاً محفوظ ہے اور پیغمبر قرآن کا طریق عمل و را پڑھنے کے آثار بھی من و عن بلا کم و کاست مکتب و مسطور ہیں تو اس امر کی ضرورت کہ خدا کی وحی نبوت اور اس کے پیغمبر کی سنت کو قائم کرنے کے بعد اس امر کی ضرورت ہرگز نہ رہی کہ کوئی نیا اور نبی پیدا کیا جائے۔

دفع دخل: اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آخری زمانہ میں آسمان سے اتریں گے۔ تو وہ آنحضرت ﷺ سے پیشتر نبی ہو چکے ہیں اور وہ گذشتہ ناپید کتابوں پر عمل نہیں کریں گے۔ بلکہ اسی قرآن شریف پر عمل کریں گے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث مرفوع میں مذکور ہے۔

### جامعیت شریعت محمدیہ و مسئلہ ختم نبوت

”الَّمْ ترَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ (آل عمران: ۲۳)“ ”كیا نہیں دیکھا آپ ﷺ نے طرف ان لوگوں کی جو دیے گئے ایک حصہ کتاب الٰہی سے۔“  
 (اے ہمارے پیارے رسول ﷺ) الَّمْ تر کیا نہیں دیکھا آپ ﷺ نے یعنی دیکھنا چاہئے۔ الَّی الَّذِینَ أُوتُوا إِلَيْنَا إِنَّ لَوْگُوںَ (کے حال) کی طرف جو دیے گئے نصیباً من الكتاب ایک حصہ کتاب (الٰہی) سے۔

نوت! اتو نصیباً من الكتاب سے مراد یہود اور نصاریٰ ہیں۔ جن کے انبیاء علیہم السلام کو قرآن شریف سے پیشتر تورات، زبور، انجیل دی گئی۔  
 اتو نصیباً من الكتاب! ان کو ایک حصہ کتاب کا ملنا اس لئے فرمایا کہ تورات

اور انجیل خاص بنی اسرائیل کی ہدایت اور ضروریات کے لئے نازل کی گئی تھیں۔ ان کی تعلیم عالم گیر اور ہمیشہ کے لئے تھی۔ اس لئے بنی اسرائیل میں سلسلہ نبوت حضرت عیینی علیہ السلام تک قائم رہا۔ پس ان کی کتابوں کی تعلیم ایک محمد و دقوم اور محمد و دوز مانہ تک تھی۔ لیکن ان کے مقابلے میں قرآن شریف جامع اور تاقیام دنیا ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کی شریعت کامل ہے۔ کیونکہ رسول کریم ﷺ کی دعوت عالمگیر ہے اور آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ آپ ﷺ کے بعد وہی نبوت و رسالت بند کرو گئی ہے۔ ہاں ولایت اور سلسلہ الہام بغیر اسم نبوت کے جاری ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ ”قال النبی علی اللہ علیہ وسلم قد کان فی من قبلکم من بنی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء فان یک فی امتی منهم احد فعمراً ابن الخطاب“ (یعنی بنی ہلیلؓ نے فرمایا کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے آدمی ہوتے تھے۔ جن سے (اللہ کی طرف سے) کلام کیا جاتا تھا۔ بغیر اس کے کہ وہ نبی ہوں۔ پس میری امت میں سے اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو عمر ہے۔) (صحیح بخاری ج ۱۰ ص ۵۲۳ باب مناقب عمر) اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ با وجود علم و محدث ہونے کے نبی نہیں کہا سکتے۔ یہ کلیہ کہ ہر محدث و علم بنا بر الہام نبی کہا جاسکتا ہے۔ جس پر مرزا قادیانی کے دعوے کی بناء ہے کہ چونکہ مجھ سے خدا تعالیٰ کثرت سے کلام کرتا ہے۔ اس لئے مجھے نبی بھی کہا گیا ہے یہ کلیہ اور مرزا قادیانی کا دعویٰ منطق حديث نہ کو الفرق کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ اگر م Hispan الہام کی بناء پر کوئی شخص نبی کہا سکتا ہے تو حضرت عمرؓ سے پہلے اس اسم سے موسم ہونے چاہیے۔ اس حدیث کی رو سے ہم نے جو یہ لکھا ہے کہ علم کے لئے بناء بر الہام ضروری نہیں کہ وہ نبی بھی ہو۔ اس پر مرزا قادیانی کی بھی تصدیق بالفاظ ذیل ملاحظہ فرمائیجئے۔

”اس عاجز کے رسالہ فتح الاسلام، تو ضخ المرام، ازالہ اوہام میں جس قدر ایسے الفاظ موجود ہیں کہ محدث ایک معنی میں نبی ہوتا ہے..... یہ تمام الفاظ حقیقی معنوں پر محول نہیں۔ صرف سادگی سے اس کے لغوی معنوں سے بیان کئے گئے ہیں..... مجھے نبوت حقیقی کا ہرگز دعویٰ نہیں..... سو مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان لفظوں سے ناراض ہیں..... تو وہ ان کو ترمیم شدہ تصور فرمائے۔ اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے سمجھ لیں..... ابتداء میری نیت جس کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اس سے مراد یعنی لفظ نبی سے مراد نبوت حقیقی نہیں۔ بلکہ صرف محدث مراد ہے۔ جس کے معنی آنحضرت ﷺ نے مکمل مراد لئے ہیں۔ یعنی محدثوں کی نسبت فرمایا کہ: ”قد کان فیمن قبلکم من بنی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء“ (اشتبہ مرزا س ۹۱، تہذیب المحتضن میان محمود احمد)

اور یہی معنی مرزا قادیانی اپنے شعر کہ:

من نیستم رسول و نیا ورده ام کتاب  
هان ملهم هستم وز خداوند منذرم

(ازالص ۸۷، خزانہ ج ۳ ص ۱۸۵)

سے بھی ثابت ہیں کہ رسول ہونے کی اور صاحب کتاب رسول ہونے کی نفی کرتے ہیں۔ اور دوسرے مضرعہ میں ملجم ہونے کا اثبات۔ اگر ہر طبق رسول اور نبی ہو سکتا ہے تو مرزا قادیانی اس شعر میں لغتی اور اثبات کو جمع کرتے ہیں۔ حالانکہ لغتی اور اثبات آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ (کتب مقطع بحث تناقض) اور اس شعر کی یہ تاویل (مندرجہ اشتہار) ایک غلطی کا ازالہ، نومبر ۱۹۰۱ء ص ۲۱۱، خزانہ ج ۱۸ ص ۲۱۱) کہ ”میں رسول تو ہوں لیکن صاحب کتاب رسول نہیں ہوں“ اسی شعر کے دوسرے مضرعہ سے باطل ہو جاتی ہے کہ مرزا قادیانی ملجم ہونے کا رعوی کرتے ہیں اور پہلے مضرعہ میں رسول اور صاحب کتاب ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ صاحب کتاب ہونا لازم نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی تھے۔ ان کے بعد کئی ایک رسول اور نبی موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی متابعت میں بھیجے گئے۔ ان پر کوئی دیگر کتاب نازل نہیں کی گئی تھی۔ جیسا کہ فرمایا کہ: ”ولقد أتينا موسى الكتب وقفينا من بعده بالرسل (بقرہ: ۸۷)“ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور بھیجے ہم نے اس کے قدموں پر کئی رسول علیہم السلام۔ نیز فرمایا کہ: ”أنا انزلنا التوزة فيها هذى و نور يحكم بها النبیون الذين اسلموا الذين هادوا والربانیون والاحبار (مائده: ۴۴)“ ”تحقیق ہم نے اتاری تھی تو ریت تھی اس کے ہدایت اور نور تھا حکم کرتے تھے۔ انبیاء جو خدا کے فرمانبردار تھے۔ ساتھ اس کے واسطے ان لوگوں کے جو یہودی ہونے اور (حکم کرتے تھے ساتھ اس کے) مشائخ اور علمائے ربائی۔“ اس آیت سے دونوں باتیں معلوم ہو گئیں۔ یہ بھی کہ تو ریت کی متابعت میں بنی اسرائیل میں کئی نبی بھیجے گئے۔ لیکن ان پر کوئی دیگر کتاب نہیں اتاری گئی۔ دوسرے یہ کہ مشائخ اور علمائے ربائی بھی اس کے مطابق حکم کرتے تھے اور نبی نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عمر واں حدیث سے صاف ظاہر ہوا کہ حضرت عمر طبعہ تو تھے۔ مگر نبی نہ تھے۔ یہی معنی شیخ اکبر (محی الدین ابن عربی) کی عبارات مندرجہ کتاب فتوحات مکہ کے ہیں اور اس کے یہی معنی امام عبد الوہاب شرعی نے کتاب الیوقیت والجواہر میں لکھے ہیں اور سید عبد القادر جیلیانی سے بھی یہی معنی نقل کئے ہیں کہ ”ہماری امت کے ایسے بزرگوں کو انبیاء، ملجم السلام تو نہیں بلکہ اولیاً، کہتے ہیں۔ ہم کو

اہم نبوت سے روکا گیا ہے اور خدا تعالیٰ تمہارے ہاتھوں میں اپنے اور اپنے رسول کے کام کے متعلق تے آ کر رہتا ہے۔” (ایواقیت وال جواہر، جلد دوم ص ۲۵۲، مطبوعہ مسرا)

## فصل دوم

### درود شبہات قادر یانی یہ

قدیماں اور آنحضرت ﷺ کے بعد اجرائے نبوت کے لئے یہ آیت بھی پیش کرتے رہتے ہیں کہ ”بَنِي إِدْمَانَ يَا تِينَكُمْ رَسُولُنَا مُصْلِحٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا هُمْ يَحْرِنُونَ“ (اعراف: ۲۵) یعنی خدا تعالیٰ جملہ بنی آدم کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اے بنو آدم علیہ السلام کے آراؤ نہیں تمہارے پاس رسول تم میں سے بیان کریں اور پتہ بارے آپتھیں میری۔ پس جو کوئی پرہیز گری کرے کا اور اصلاح کرے گا۔ پس نہیں ذرا اور پران کے اور نہ وہ غمکھیں ہوں گے۔ مجہد استدال اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ یا تین مسئلہ خبری کا صیغہ ہے۔ جوان شرطیہ کے بعد آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کئی ایک رسول آتے رہیں گے۔ جن کی ملتی خدا ہی کو معودہ ہے۔ کیونکہ رسول بصیرتگر، جمع کا صیغہ ہے اور اسے کسی خاص معین نہ دیں محسوس نہیں کیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے۔

..... کہ کوئی مخہوم یا اشارہ یا دلالت یا قیاس یا استباط خلاف انصاف قطعی کے قابل قول نہیں ہے۔ جیسا کہ کتب اصول میں مصر ہے کہ مضموم مفتوح کے مقابلہ میں اور اشارت اور دلالت، عبارت انصاف کے مقابلہ میں اور کوئی قیاس یا استباط منصوص کے مقابلہ میں قابل سماعت، اقتدار نہیں ہے۔ ورنہ (معاذ اللہ) آیات قرآنیہ و احادیث رسول اللہ میں تعارض و تناقض واقع ہوہ اور یہ باطل ہے۔ (وَكَيْوَنَ كَتْبُ حِلْمِ اسْوَلْ) مثلاً حصول مصنفہ حضرت شیخنا حضرت نواب سادب مرحوم فوران نوار وغیرہ ہے۔ نعم نبوت کے متعلق قرآن اور احادیث صحیح کے دلائل منصوص اور قطعی ہیں اور یہ کہیں معلوم ہے کہ جس استدال اس بنیان، افت پر ہواتے دلالات کہتے ہیں۔ (کتب حلم اصول) اور سبقتا یہ بیان ہو چکا ہے کہ کوئی دلالت یا اشارت کا منصوص کے خلاف قابل اقتدار نہیں ہے۔ پس قدیماں کا استباط آیت ”مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ“ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، و كان الله بكل شئٍ عليماً (حدیقہ: ۱) کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردہ ہے۔ نہیں یہ ممکن ہے کہ پتہ بارے مددوں ہٹیں تے کسی کے۔ لیکن یہندے کے رسول اور نبی ممکنہن اور اللہ تعالیٰ جو شکا تمہر کئی دلالت ہے۔ (یعنی

ووجہ تباہ ہے۔ آنکھ وہ کوئی رسول نہیں ہوگا) اس آیت کے متعلق مرزا قاویانی نے بھی یہی کہے ہے۔  
چنانچہ وہ دستت ہے یہ کہ ”یعنی جو مطیعہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ مگر وہ رسول اللہ ہے، مذموم  
ہے اور نبیوں کا۔“ (از الاداب مص ۲۱ جزو ان حج ۳ ص ۲۲۱)

برغم اصول کے اس قاعدے کا لحاظ نہ کیا جائے تو ہر باطل پرست اپنی خواہش کے  
مطابق قرآن و حدیث کے خواص و علام اور مظاہق اور مตید اور منطق و مشہوم اور عبارت و دلالت  
میں بھی تباہ ہے اس میں تباہ فیض پیدا کر رہے ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ منصوص اور جبارات  
(معاذ اللہ) بے کار بوجنمیں گے۔ مثلاً قرآن شریف میں عام انسانوں کی پیدائش کے متعلق  
فرمایا کہ: ”اَنَا خلَقْتُنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اِمْشاجٍ (دھر: ۲)“ تحقیق پیدائیا ہم نے  
انسان کوئے ہوتے نظر سے۔ ”دوسری جگہ خاص آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق فرمایا  
کہ: ”خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَارِ (الرحمن: ۱۴)“ اور خاص حضرت حوالیہ  
السلام کے متعلق فرمایا کہ: ”وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا (نساء: ۴)“ اور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام  
کے متعلق فرمایا کہ: ”اَنَّمَا الْمُسِيْحُ عِيسَى ابْنُ مَرِيمٍ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلْمَتُهُ الَّتِي  
مَرِيمٌ وَرُوحٌ مِنْهُ (نساء: ۱۷۱)“ اُرمان آیات میں خاص اور عام کا لحاظ نہ کیا جائے تو کوئی  
باطل پرست اپنی خواہش کے مطابق کہہ سکتا ہے کہ چونکہ آدم اور حوالیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام  
بھی انسان ہیں۔ اس لئے وہ بھی (معاذ اللہ) ماں اور باپ کے فی جلد نظر سے پیدا ہوئے  
ہیں۔ اسی طرح محربات نکاح کی آیت میں چند رشتتوں سے نکاح کی حرمت ذکر کرنے کے بعد  
فرمایا کہ: ”اَحْلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ (النساء: ۲)“ اور حلال کی گئیں وہ تنہارے وہ جو  
سوائے ان (مذمومہ بالا) کے ہیں اور نسیس آنحضرت ﷺ کی ازواج مطہرات سے نکاح کی  
حرمت متعلق فرمایا کہ: ”وَلَا انْ تَنْكِحُوا ازْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِ ابْدَا (احزاب: ۵۳)“  
”اور نہ یہ جائز ہے کہ تم نکاح کروان ت بعد آپ ﷺ کے بھی بھی۔“ تو کوئی باطل پرست گستاخ  
کہہ سکتا ہے کہ چونکہ آنحضرت ﷺ کی ازواج مطہرات سورہ نسا کی مذمومہ محربات کے سوا ہیں۔  
اس لئے (معاذ اللہ) رسول ﷺ کے بعد ان سے بھی نکاح حلال تھا۔ اسی طرح اس کی مشاہیں  
قرآن شریف میں بہت ہیں کہ خاص و عام اور منطق و مشہوم کے مقابلے کے وقت خاص اور  
منصوص کا لحاظ نہوتا ہے۔ اپس اس طرح ختم نبوت کے والائل جو قرآن و احادیث میں منصوص ہیں۔  
وہ مذمومہ استدال جن سے قادیانی اس استدال پکڑتے ہیں ان سب پر مقدمہ ہوں گے۔

۲..... اور پر کا جواب میر اصول نے ہے، پر ہے۔ جس سے قادیانی علام مونانا آشا

ہیں۔ خصوصاً مرتداویانی بھی اس سے نا بلد محض تھے۔ اب قرآن شریف کے سلسلہ کا مَوْلُوظ رکھتے ہوئے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ جس سے پہلے ایک تہذید کا بیان ضروری ہے۔ قرآن شریف مربوط اور موصول کلام ہے۔ جس کی صحیح تفصیل کے لئے سلسلہ کا مکمل بخوبی رکھنا ضروری ہے۔

..... یہ امر مسلم کل ہے کہ قرآن شریف کلامِ خدا ہے اور وہ جہا بجا زو پہنچ ہوا۔ صحیح و بلغ کلام ہے۔ پس ایسے کلام کے لئے ضروری ہے۔ اس کا بیان اور سلسلہ کا مہم ہا بھر موصول اور مربوط ہو۔ اس کے کلمات نَشَّانٰ اور معانی کی اسماقت کے علاوہ اس کے کلمات کی ترتیب اور آیات کا ارتباط اور بیان کا تسلسل نہایت مفہوم ہے اور مناسب صورت میں واقع ہے۔ جس کلام میں ایسے اوصاف نہ ہوں وہ کلام بجزر کیا اس کا وزن فصحاء کے زندگی کے پچھوئیں۔

..... اس تقدیمے کی تائید میں آیات ذیل ملاحظہ ہوں کہ جن میں قرآن شریف نے اپنے آپ کو کلام موصول اور ترتیب میں احسن ہونے کی حیثیت میں پیش کیا ہے۔

پہلی آیت ”ولقد وصلنا لہمِ القول لعلہم یتذکرون“ (قصص: ۵۱) ”یعنی حق تعالیٰ نے فرمایا کہ البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کی (بدایت) کے لئے اس قول (قرآن شریف) کو موصول کر کے بھیجا ہے تاکہ وہ تصحیحت پکڑیں۔“ اس استدلال کی تائید میں اس آیت کے ذیل میں تفاسیر ذیل ملاحظہ ہوں۔ انہر ازان کی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ”ولقد وصلنا لہمِ القول و توصیل القول“ ہو اتیان بیان بعد بیان وہو من وصل البعض بالبعض (تفسیر کبیر ج ۱۲ ص ۲۶۲) ”یعنی توصیل کلام کے معنی یہ اتنا ایک بیان کا بعد و سرے بیان کے اور وہ جو زتا ہے ایک کو دوسرا کے ساتھ۔“

اسی طرح (تفسیر ابن القویون ج ۱۸ ص ۱۸) میں بے کہ ”ولقد وصلنا لہمِ القول و قری بالتحفیف الی انزلنا القرآن علیہم مثواصلا بعضه اثر بعض حسبما تقتضیہ الحکمة والمصلحة“ ”یعنی وصلنا بالتشدید و تخفیف یعنی بغیر شدید وصلنا بھی پڑھایا ہے۔ یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا ان پر کہ موصول ہے۔ بعض اس کا پیچھے بعض کے مطابق اس کے جس کا تقاضا کرے حکمت اور مصلحت“ اس آیت میں تفاسیر کے حوالہ جات سے واضح ہو گیا کہ قرآن شریف کا بیان آخر اپنے کام نہیں۔ بلکہ موصول ہے اور نہایت بالحتمت ربط سے ہے۔

دوسرا آیت میں فرمایا کہ ”ورتلنه ترتیلا (فرقان: ۳۷)“ یعنی حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن شریف کو مدد و ترتیب نہ بیان نہ کرے۔ ترتیل کے معانی کی تحقیق کے لئے

اغت کی مندرجہ میں کتابوں کے حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔

چنانچہ (اسان عرب ن ۲۳۲) جو علمی سب سے بڑی اغت کی کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ”الرتل حسن تناصق الشئی ورقل الكلام احسن تالیفہ وابانہ“ یعنی رتل کے معنے ہیں۔ کسی شکی ترتیب نہ ہوئی اور عمدگی اور رتل الکلام کے معنے ہیں۔ اس نے کلام کی تایف اپنی طرح سے کی اور اس نے خوب و اخچ طور پر بیان کیا۔ (قدموس ۳۹۲ ص ۳۶) میں اسی کوہشاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ متحرکہ حسن تناصق الشئی والحسن من الكلام واطیب من کل شئی ”یعنی رتل کی فتح کے ساتھ اس کے معنے ہیں۔ کسی شکی ترتیب کی خوبی اور عمدگی اور کلام کی جنس میں سے عمدہ کلام اور ہرشے کی نہایت پاکیزہ اور سترنی صورت۔“

اسی طرح اغت کی دوسری کتابوں میں بھی انہی معنی کی تائید کی محاورات سے کی ہے۔ مثلاً اغت وحیدی، اساس ابلاغت، امداد، امیم، بسراج وغیرہ با۔ ان حوالہ جات کی تائید کے لئے۔

تمیری آیت ملاحظہ کیجئے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”الله نزل احسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني (زمر: ۲۳)“ یعنی اتنا رحمہ نے سب سے نمود کلام جو کتاب ہے۔ قشاپہ یعنی جس نے ایک آیت دوسری آیت کی تکمیل کرتی ہے۔ اور وہ آیات کدر رسم برداشت کے لئے پذیراً مورثہ ورنی ہیں۔ اول ایہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شرینیف والآخر ان حدیث فرمایا یعنی سب سے نمود ۵۴۰ یعنی اپنے زوہر کی پیشی ہوا۔ جس کا مقابلہ انسانی مبلغ علم اور ریاقت سے بالاتر ہے اور اس کی شہادت میں دوہمن فرمائے۔ قشاپہ اور مثانی۔ جس سے مراد یہ ہے کہ اس کے مشد میں آپس میں ملتے جلتے ہیں اور ان میں تناقض نہیں ہے بلکہ ایک آیت دوسری آیت کی تائید و تصدیق و تفسیر کرتی ہے۔ جویسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ دوسراؤصف مثانی فرمادی۔ یعنی اس کی آیات پند و صحیحت کے لئے کدر رسم برداشت کی تائید ہوئی ہے۔ جن میں تناقض ہرگز نہیں ہے۔ اس آیت سے بھی ثابت ہے کہ قرآن شمینیک کے کلمات اور آیات باہم موصول ہیں اور ایک دوسرے سے اسی تائید کرتے ہیں اور ان میں ہرگز تناقض اور ترکش نہیں ہے۔ اس طویل تمہید لیکن از جس منیہ ہے بعد واخ شہو کہ سورہ اعراف کی آیت آنحضرت ﷺ کے بعد سلسہ نبوت جاری، تھے۔ متعلق نہیں ہے۔ بلکہ آدم عبیدہ الاسلام کے بہشت سے نکالنے اور زمین پر آباد کرنے کے بعد کے زمانے کے متعلق ہے۔ جو آدم عبیدہ اسماعیل نام کے وقت سے مستقبل میں ہونے والا تھا کہ

اک زمانہ میں اول آدم علیہ السلام بُدایت کے لئے خدا کے رسول آتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ حتیٰ کہ رسول ﷺ نے مبارک آمد پر خدا تعالیٰ نے آیت خاتم النبیین تکمیل کرنا دیا کہ محمد رسول اللہ ﷺ سُلَّمَ نبوت کے آخری نبی ہیں اور آخر حضرت ﷺ نے ہمیں واضح طور پر فرمادیا کہ: ”أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَ بَعْدِي“ (ترمذی شریف ج ۲ ص ۴۵، باب لا تقویم الساعة حتى يخرج كذبون) ”يعنی میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔“ ہم نے یہ جو کہ سورہ اعراف کی آیت آدم علیہ السلام کے بعد اجرائے نبوت کی دلیل ہے۔ ہم اس کو سورہ اعراف کی آیات کے سلسلہ کلام اور دیگر مقتضات کی آیات کی تائیدوں سے ثابت کرتے ہیں جس کے تکمیل کے لئے ہم نے اپر کی تکمیل کا بیان ضروری تجویز کیا۔ سورہ اعراف کی آیت سے پیشتر نظر کریں کہ اور پر مسائل طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور اس سے متعلق ضروری بُدایات کا بیان چلا آرہا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ پارہ پہلا میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہمیں مطالعہ کریں۔ جس میں ان کے اور ان کی سکونت جنت اور پھر جنت تک نکالے جانے اور زمین پر اترنے اور قصور معاشری کے ذکر کے بعد فرمایا کہ: ”قُلْنَا أَهْبِطْنَا مِنْهَا جَمِيعًا ثُمَّاً يَاتِينَكُمْ مِنْ هَذِهِ فَمَنْ تَبَعَ هَذِهِ فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ (الفرقہ: ۳۷)“ یعنی کہا ہم نے اترواس سے سب، پس انگراؤ تکمیلے پاں میری طرف سے بُدایت پس جو کوئی پیروی کرے گا۔ بُدایت میری کی، پس نہیں اور اپر ان کے اور وہ نعم کھائیں گے اور ظاہر ہے کہ خدا کی بُدایت خدا کے رسولوں کی معرفت آتی رہتی ہے۔ چنانچہ یہ قرآن شریف رسول خدا ﷺ کی معرفت آیا اور اس کی نسبت فرمایا۔ ”ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رِيبَ فِيهِ هُدَىٰ لِلْمُتَّقِينَ (البقرة: ۲)“ اور تورات اور انجیل جو موکی علیہ السلام اور سنت علیہ السلام میں معرفت آئیں۔ ان کی باہت فرمایا ”انزل التورۃ والانجیل من قبل هذی للناس (آل عمران: ۱۰۳)“ یعنی قرآن شریف سے پہلے تورات اور انجیل لوگوں کی بُدایت کے لئے اتاریں۔ اس مضمون کی آیات قرآن شریف میں کثرت سے میں اور جیسا کہ فرمایا کہ: ”وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ (اعراف: ۲۵)“ اسی طرح سورہ بقرہ مدرجہ بالا آیت میں فرمایا کہ: ”فَمَنْ تَبَعَ هَذِي فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ (البقرہ: ۳۷)“ اور جو کوئی پیروی کرے گا میری بُدایت کی نہیں ہوگا۔ کوئی خوف اپر ان کے اور نہ وہ نعم کھائیں گے۔ ”دونوں جگہ رسولوں اور بُدایت ربائی کی پیروی کا نتیجہ ایک ہی فرمایا۔ وہ سہ امتقاں سورہ ط میں دیکھئے کہ وہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں سکونت کرنے اور، باس سے نکالے جانے کے ذکر کے بعد فرمایا کہ:

”فاما ياتينكم مني هذى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى (طه: ۱۲۳)“  
 ”يعنى بهم نے فرمایا کہ: ”فاما ياتينكم مني هذى“ پس آگر آئے تم کو میری طرفت  
 بدایت پس دو کوئی چیزوں کرے گا۔ میری بدایت کی پس نہ وہ گمراہ ہو گا اور نہ بدجنت ہو گا۔“ دیکھو  
 ان تینوں مقامات میں آدم علیہ السلام کے بعد بدایت ربانی کے جاری ہونے کا سلسلہ مذکور ہے۔  
 یہ تینوں مقامات آپس میں مقابل یعنی ملتے جلتے اور ایک دوسرے کے مصدق ہیں۔ پس سورہ  
 اعراف کی پیشَ ردِ آیت کے ساتھ آیت خاتم النبیین کو ملانے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آدم علیہ  
 السلام کے بعد سلسہ نبوت جاری رہتے ہوئے سرور کائنات ﷺ پر آ کر ختم ہو گیا۔ ہمارے اس  
 بیان کردہ طریق سے قرآن شریف کی آیات اور احادیث صحیح ختم نبوت میں مطابقت قائم رہتی ہے  
 اور قرآن شریف کی آیات اور احادیث صحیحہ کے منصوصات و مشبومات کی رہنمائی ایک ہی طرف  
 رہتی ہے کہ نبوت، ﷺ پر ختم کر دئی گئی۔ قرآن و حدیث کی نصوص پرہیز کے بعد بھی اگر سورہ  
 اعراف کی آیت کے یہ معنے صحیح جائیں کہ سلسہ نبوت آنحضرت ﷺ کے بعد بھی جاری ہے تو  
 قرآن شریف کی آیات اور احادیث صحیحہ میں تھیں و تعارض واقع ہو جائے گا اور قرآن شریف کی  
 آیات اور رسول اللہ کی احادیث صحیحہ بجاے ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرنے کے آپس میں  
 مختلف ہو جائیں گی اور اختلاف منافی صداقت ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف ہی کی صداقت کی  
 نسبت فرمایا کہ: ”ولوکان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً  
 (نساء: ۸۲)“ یعنی اگر یہ قرآن شریف خدا کے سو اکسی اور کی طرف سے ہوتا۔ البتہ پاتے اس  
 میں اختلاف بہت۔ ”ہاں اگر لفظ خاتم کے وہ معنے جو خدا اور رسول ﷺ کی مراد ہیں۔ ان وہ بدل کر  
 اور حدیث لانبی بعدی کے مقابلہ میں کہ لائفی جنس کا ہے۔ شرعی اور غیر شرعی کا امتیاز کر کے  
 صاحب شرع کی قید بڑھائی جائے۔ تو یہ تحریف معنوی اور خدا کے رسول ﷺ کی مراد کو بکار کر از خود  
 اضافہ نہ گا اور یہ ہر دو امر بطل اور حرام ہیں۔

### دفع خلل مقدر

اگر کہا جائے کہ سورہ اعراف کی آیت میں بنی آدم کو خطاب کر کے یا بنی آدم فرمایا ہے  
 اور سورہ بقر اور سورہ طہ کی آیتوں میں ایسا نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ بقر اور سورہ طہ کی  
 آیتوں میں اما یاتینکم کے خطاب میں آدم اور حوا علیہما السلام کے ساتھ ان کی اولاد بھی شامل  
 ہے۔ یعنی سے مقامات پر بدایت کی پیروی کا نتیجہ بالترتیب یوں فرمایا ہے کہ: ”فمن بع  
 هداى فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون (القردہ: ۳۷)“ اور ”فمن اتقى واصلع

فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (اعراف: ۲۵) اور ”فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى (طہ: ۱۲۳)“ اس باریکی کی تائید کے لئے سورہ اعراف بھی کی آیات و دیکھتے کہ جنت سے نکلنا حکم دینے کے بعد خدا تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کو فرمایا کہ: ”قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين“ . قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون (اعراف: ۲۵-۲۶) ”یعنی فرمایا اتر جاؤ۔ بعض تمہارے واسطے بعض کے دشمن ہوں گے اور واسطے تمہارے زمین میں میں تھہرے کی جگہ ہو گی اور زندگی کے اسباب (بھی) ایک مدت تک (نیز) فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں مردگے اور اسی سے (قیامت کے دن قبروں سے) نکالے جاؤ گے۔“ دیکھتے ان آئیوں میں خطاب آدم اور حوا علیہما السلام کو ہو رہا ہے۔ حالانکہ آدم اور حوا علیہما السلام کے درمیان دشمنی واقع نہیں ہوئی۔ بلکہ ان کی اولاد میں دشمنی ہے اور جو امر اس کے بعد ذکر کرنے گئے ہیں۔ ان میں ان کی اولاد بھی شامل ہے۔ پس اسی طرح سے سورہ اعراف کی زیر بحث آیت یعنی ادم سے خطاب کر کے فرمایا وہ اسی لحاظ سے ہے۔ اس طریق سے سب مقامات پر خطاب کے صیغہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ سورہ اعراف کی زیر بحث آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سلسلہ نبوت جاری رہنے کا ذکر ہے۔ نہ کہ آیت خاتم النبیین کی نص صریح کے خلاف آنحضرت ﷺ کی بعثت کے بعد بھی۔

الحمد لله ثم الحمد لله کہ ہم نے مرزائیوں کے اس استدلال کی سب کڑیوں کو توڑتاڑ کر مشکل امر کو مدلل طور پر آسانی سے سمجھا دیا۔ شب درمیان ۲، ۵، ۱۹۵۲ء کی صحیح کو جمع مبارک ہو گا۔ مطابق ۷، ۸، ۱۳۷۲ھ بصورت املاء، بحالت صفت بصر۔

ضمیمه

..... ۳ ..... قادیانی لوگ ختم نبوت کے متعلق ایک شبہ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ کا فرزند ابراہیم فوت ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ”لو عاش ابراہیم لکان صدیقاً نبیاً (ابن ماجہ ص: ۱۰۸، باب فی الصلة ابن رسول الله وذكر وفاته)“ یعنی اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو صدیق نبی ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت جاری ہے۔ ورنہ آنحضرت ﷺ یہاں فرماتے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ابن ماجہ کے حوالی پر اس حدیث کو سلف الشافعی میں ضعیف اور اس کے راوی ابراہیم بن عثمان کو متذکر لکھا ہے۔ تاب کے وہش میں بھی ہیں سعد رائے

کے نام کے نیچے لفظ متروک لکھا ہے اور محمد شین نے اس کی نسبت یہ تصریحات کی ہیں کہ یہ راوی ”امتروک الحدیث ضعیف“ لیس بثقلة منکر الحدیث ضعیف الحدیث ترکوا حدیث ساقط ضعیف لا یکتب حدیثہ روی مناکیر لیس بالقوی کذبہ شعبۃ کان یزید علی کتابہ ”اس کی حدیث کو ترک کیا گیا ہے۔ ضعیف ہے۔ ثقلة (معتر) نہیں ہے۔ ایسی حدیث بیان کرتا ہے۔ جس کی حفاظت حدیث روایت نہیں کرتے۔ ضعیف حدیث والا ہے۔ محمد شین نے اس کی حدیث کو ترک کر دیا ہے۔ اعتبار سے گرا ہوا ہے۔ ضعیف ہے اس کی حدیث لکھی نہ جائے۔ روایت کیس اس نے منکر حدیثیں، تو یہ نہیں ہے۔ جھونا کہا ہے اس کو امام شعبہ نے اپنی نوشت میں (جو استاد سے لکھتا تھا) زیادتی کر لیتا تھا۔

تفصیل کے لئے دیکھئے کتاب تہذیب التہذیب جلد ا مصنفہ حافظ ابن حجر ترجمہ

ابرہیم بن عثمان۔

ویگر یہ کہ صحیح روایت جو آنحضرت ﷺ کے فرزند کی وفات کے متعلق منقول ہے اور وہ بھی ”ابن ماجہ ص ۱۰۸، باب فی الصلوۃ بن رسول اللہ و ذکر وفاتہ)“ ہی میں ضعیف حدیث مذکور الغوی سے پہلے مرقوم ہے۔ یوں ہے کہ ”لوقضی ان یکون بعد محمد نبی عاش ابنه ولكن لا نبی بعده“ یعنی اگر خدا کی قضائیں یہ بات ہوتی کہ محمد ﷺ کے بعد کوئی نبی ہوتا آپ ﷺ کا بینا ابراہیم زنده رہتا۔ لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔“

یہ حدیث (صحیح بخاری ج ۹۲ ص ۹۱۸) میں بھی ہے۔ باب من سمی باسماء الانبیاء! حاصل کلام یہ کہ صحیح روایت ختم نبوت کے ثبوت کی دلیل ہے نہ کہ انکار کی۔ نیز اسی کے ہم معنی الفاظ ”امام بغوی تفسیر معالم التنزیل امام بغوی ج ۲ ص ۱۷۸“ نے آیت خاتم النبیین کے ذیل میں حضرت ابن عباس سے نقل کئے ہیں۔

”قال ابن عباس یرید لولم اختم به النبیین لجعلت له ابناً یکون بعدہ نبیا“ یعنی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مراد اس آیت خاتم النبیین سے امام شعبہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے عراق میں راویان حدیث کی پڑتال میں کلام کیا۔ ۱۶۰ میں فوت ہوئے۔ (تقریب التہذیب)

۲ یہ ابراہیم بن عثمان وہی راوی ہے۔ جس سے آنحضرت ﷺ کا بیس رکعتات تراویح پڑھنا پڑا۔ یہ اور اسے حدیث دان حنفی علماء نے بالاتفاق ضعیف لکھا ہے۔ (دیکھئے زیعنی ج ۲۹۲ ص ۱۹۸) ارشد بدایہ مصنفہ ممال الدین ابن جمیل مطبوعہ نوکلشور

یہ ہے کہ اگر میں نے اس پر یعنی محمد ﷺ پر نبیوں کو ختم نہ کر دیا ہوتا تو میں اس کا بیٹا ایسا کرتا جو اس کے بعد نبی نہ ہوتا۔“

”ان الله تعالى لما حكم ان لا نبى بعده لم يعطه ولدا ذكرأ يصير رجلا (تفسير معالم ص ۱۷۸)“ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا تو آپ ﷺ کو ایسا کوئی بیٹا نہیں دیا۔ جو بالغ ہوتا۔“

۵ ..... قادیانی لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: ”انا آخر الانبياء ومسجدی اخر المساجد (مسلم باب المساجد ج ۱ ص ۴۶)، یعنی میں آخر نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے۔

پس جس طرح آنحضرت ﷺ کے بعد مسجدیں بننی بند نہیں ہو گئیں۔ اسی طرح آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت بھی بند نہیں ہو گی۔

سواس کا جوب یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں آخر نبی ہوں اور میری مسجد آخری ہے۔ جو کسی نبی نے بنائی ہے۔ اس کا مقابلہ یہ ہے کہ میرے بعد جو بھی مسجد بنے گی وہ کسی نبی کی بنائی ہوئی نہ ہو گی۔

یہ معنی میں نے اپنے پاس سے نہیں کئے بلکہ دوسری حدیث سے کئے ہیں۔ دیکھئے (کنز العمال ج ۱۲ ص ۲۷۰ حدیث ۳۲۹۹۹) میں ہے کہ: ”انا خاتم الانبياء ومسجدی خاتم مساجد الانبياء“، یعنی میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے۔

۶ ..... قادیانی لوگ ختم نبوت کے انکار میں ایک شبہ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا۔

”ولكن الله يجتبى من رسلاه من يشاء (آل عمران: ۱۷۹)، لیکن اللہ پسند کرے گا اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے گا۔“

نیز فرمایا کہ: ”الله يصطفى من الملائكة رسلا و من الناس (حج: ۷۵)“ یعنی خدا تعالیٰ پنے گا۔ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی رسول۔

صورت استدلال کی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جتبی اور بیٹا اور یہ صطفی ہر سے فضل مضارع کے صیغہ ہیں اور فعل مضارع استقبال کے لئے بھی آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی ﷺ کے بعد بھی نبی آتے رہیں گے۔

سواس کا جواب یہ ہے کہ یہ استدلال بالکل غلط ہے۔ اس وجہ سے کہ نصوص صریحہ  
قرآنیہ و حدیثیہ کے خلاف ہے اور کوئی استدلال خلاف نصوص درست نہیں ہوتا اور صیغہ مضارع  
ہمیسہ استقبال کے لئے نہیں ہوتا۔ بلکہ کبھی زمانہ حال کے لئے اور کبھی استقبال کے لئے جس حال  
کے معنے ہوں گے۔ وہاں استقبال کے نہیں ہوں گے۔ کیونکہ صیغہ مضارع حال اور مستقبل کے  
لئے مشترک ہے اور مشترک لفظ ایک محل پر ایک ہی معنے دیتا ہے۔ دوسرے معنے نہیں دیتا اور ان  
متناہات پر مضارع کا لفظ اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ امر آنحضرت ﷺ جس پر یہ آیتیں نازل  
ہوئیں۔ وہ خدا کے فضل سے ان آیتوں کے نزول کے وقت زندہ موجود تھے۔ پس یہاں پر مضارع  
کے صیغہ صرف حال کے لئے ہوئے اور ان سے استقبال کا مطلب صحبتنا غلط ہے۔ پس صحیح ترجمہ  
ان آیات کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ (غیب کی خبر کے لئے) اپنے رسولوں میں سے جس کو  
چاہتے اور سورہ حج والی آیت کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چلتا ہے۔ فرشتوں میں سے بھی اور  
انسانوں میں سے بھی پیغمبر، شاہ عبدالقادر شاہ رفیع الدین شاہ ولی اللہ اور ذپی نذیر احمد صاحب کے  
تراجمہ دیکھئے۔ سب نے حال کے معنے لکھے ہیں۔ فقط والحمد لله!

### ختم نبوت کے دلائل احادیث صحیحہ سے

..... حضرت ثوبانؓ کی روایت سے ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ:  
”وَيَكُونُ فِي أَمْتَى ثَلَاثَةِ كَذَابِيْنَ كُلَّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا  
نَبِيٌّ بَعْدِيْ (هذا حديث صحيح ترمذی ج ۲ ص ۴۵، باب لاقوم الساعة حتى يخرج  
الكافرون) ...“ اور میری امت میں (قیامت سے پہلے پہلے) تمیں کذاب ضرور ہوں گے۔  
ہ آیہ ان میں کہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی  
نہیں ہوگا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔“

۲ ... صحیح بخاری میں ہے کہ ”آپ ﷺ نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء  
کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص نے ایک مکان بنایا اور اسے نہایت خوبصورت اور خوش وضع بنایا ہو۔ مگر  
ایک کوئی میں ایک اینٹ کی جگہ (چھوڑ دی ہو) پس لوگ اس مکان کے گرد پھریں اور تعجب کریں  
اور کہیں کہ (یہاں پر) یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ پس وہ (باتی رہی  
ہوئی) اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔“ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۹۱، باب ذکر من بنی اسرائیل)  
محمد ابرہیم میر سیالکوٹی!

لَا يَنْتَهِي لَمَّا يَعُزُّ

# كِشْفُ الْحَقَائِقِ

يعنى

روَيْدًا مِنَ اسْنَادِ قَادِيَانِيَّةِ

مولانا حافظ محمد ابراهیم میر سیاکلوی

## تَمْهِيد

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ!

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده  
اما بعد اشهر سیالکوٹ اپنی بعض خصوصیتوں کی وجہ سے ایک منتخب بستی ہے۔ فیروز تغلق  
شاہ دہلی کے عہد میں یہ بستی اسلامی زور آزمائی کی رزمگاہ بنتی اور حضرت امام علی لاحق نے صدھا  
مجاہدین کے ساتھ جہاد کا مقدس فرض ادا کرتے ہوئے جام شہادت پیا۔ جمشید جاہ شاہ جہان بادشاہ  
کے زمان برکت نشان میں ملکمال کشمیری اور مل عبد الحکیم سیالکوٹی کے علمی کمالات کی وجہ سے ملک  
ہند میں ایک ممتاز درسگاہ رہی۔ جہاں سے بڑے بڑے باکمال فیض یاب و سیراب ہو کر اسلامی  
دنیا کے آفتاب و مہاتاب ہوئے۔ نواب سعد اللہ مرحوم نے بھی یہیں سے دین و دنیا کی سعادت  
حاصل کی۔ حتیٰ کہ حضرت مجدد صاحب سرہندی نے بھی علمی کمالات ملکمال صاحبؒ کی درسگاہ  
سے حاصل کئے۔ مشہور عالم ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ایم۔ اے۔ پی۔ انج۔ ڈی بھی انگلستان کے  
گل تراوراسی زمین کے روشن چراغ ہیں۔

زمانہ حال میں تحریک کشمیر میں سیالکوٹ نے جو کام کیا اور اس نے ہندوستان میں جو  
نام دیا۔ وہ دیگر شہروں میں ایام گذشتہ میں کہیں کم سننے، دیکھنے میں آیا ہوگا۔ بالخصوص ان ایام میں  
مرزا یت کی جو حالت ہوئی۔ وہ ان کے متعین مبلغ مولوی غلام رسول قادریانی ساکن راجھے کے  
نامہ پر نظر سے ظاہر ہو سکتی ہے۔ جوانہوں نے اس وقت کے کوائف سیالکوٹ کے متعلق مرزا  
محمد خدیفہ قادریانی کی خدمت میں بطور پورٹ لکھا تھا اور ہمیں اتفاق سے ایک دوست کی معرفت  
اس کے مطابعہ مدقائق مل گیا تھا۔

”کہ جب تحریک احمدیت ہوئی یہ حالت کبھی نہیں ہوئی۔ ہم اپنے گھروں میں  
محصور ہیں۔ آزادی سے باہر نہیں نکل سکتے۔ مسجد میں بھی رات کے وقت آتے ہیں۔“

غرض سیالکوٹ اپنی بعض خصوصیتوں کی وجہ سے ایک منتخب شہر ہے۔ سیالکوٹ میں  
مرزا یتوں کے متعدد مناظرے ہوئے۔ بعض اہل حدیث سے بعض احتاف سے بعض عیسائیوں  
سے۔ لیکن خدا کی قدرت جب نصیب میں ہار ہوا اور ہر طرف سے خدا کی مار ہوتی ہر جہت سے  
شرمساری ہی شرمساری ہوتی ہے۔ چنانچہ مرزا ہر میدان میں شکست کھاتے رہے۔ پے در پے  
شکستوں سے ان کا دم نکل گیا اور حوصلہ کلیئہ ثوٹ گیا۔ چنانچہ ۱۹۲۱ء میں جو مناظرہ ان کا مسلمانوں

سے ہوا۔ اس میں ایسے شرمسار ہوئے کہ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو مناظرے کا چیلنج دینا تو درکنار پناہ سالانہ جلسہ بھی کھلے طور پر کرنا موقوف کر دیا۔

ہمارے ملک میں میونپلی اور کنسل کی مجری کا انتخاب ایسی صورت پر عمل میں آتا ہے کہ مدت تک لوگوں کی آپس میں بے اتفاقی بلکہ عداوت اور دشمنی پڑ جاتی ہے۔ سیالکوت میونپلی کے تازہ گذشتہ ایکشن میں بعض خود غرض لوگوں کی ریشد و انبیوں سے مسلمانوں کا نظام قائم نہ رہا۔ جس سے احرار اسلام کا اثر بہت بالکا ہو گیا۔ قادیانی جماعت اسے اپنے مقاصد پر از مفاسد کے لئے نیک شکون سمجھی۔ ادھر حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم صاحب میر سیالکوٹی بھی ایک ماہ سے تبدیل آب و ہوا کے لئے ریاست میں مقیم تھے۔ قادیانیوں نے موقعِ کوئینہت جان کر باوجود شدتِ گرمی کے جھٹ جائے کا اشتہار دے دیا اور اس میں ہر مدھب و ملت کے لوگوں کو میدانِ مناظرہ میں آنے کی دعوت دے دی۔ انہم انہل حدیث سیالکوت بھی بارہ سال کی مدت مدید سے پرانے شکرانی تاک میں تھی۔ پھرے ہوئے شیر کی طرح انھی اور قادیانی چیلنج کی منتظری کا اشتہار دے دیا۔ اس سے حضرت مولانا سیالکوٹی بھی سفر سے بخوبیت واپس تشریف لے آئے۔ پھر کیا تھا تو یہیں سے جہاں گلے بغیں جھانکنے اور مہانت سے فرار کے بہانے بنانے۔ چنانچہ انہل حدیث کے اشتہار مدد و مدد ۱۹۳۲ء کا جواب کئی دن بعد یعنی مورخہ ۲۳ مئی ۱۹۳۲ء کو دیا اور اس میں بھارتی شرط یہ لگا دی کہ مبادیتِ تحریری ہو گا۔ اس سے انہل شہر بھجو گئے کہ قادیانی مہاذ کی دعوت دے کر پچھتار ہے ہیں۔ کیونکہ وہ جلسہ تو کر رہے ہیں تبلیغی، جیسا کہ ان کے اشتہار سابق میں مرقوم ہے اور اس میں جو جو رمضانیں بیان ہوں گے۔ وہ سب تقریری ہوں گے۔ تو یہ بات کس قدر نامعقول ہے کہ صد بالوں کے سامنے ان تقریری بیان کردہ رمضانیں پر اگر کوئی جرح و سوال کرنا چاہے تو وہ تحریری کرے۔ دوسری طرفِ مرازا نیوں نے ایک اور چالاکی کی کہ اس اشتہار کے ساتھ ہی اپنے جلے کا پروگرام بھی شائع کر دیا۔ جس میں کئی مضمون پر بھی سوال و جواب کے لئے وقت نہ رکھا اور خاتمه پر نادان لوگوں میں بات کرنے کو ایک نوٹ لکھ دیا۔

ہر اجاتس کے بعد بشرطِ گنجائش بیان کردہ مضمون کے متعلق معقولیت سے سوال کرنے والے کو پائچہ منٹ بمنظوری صاحبِ صدر دینے جائیں گے۔

اس نوٹ نے مرازا نیوں کی کمزوری کو سارے شہر میں نوٹیفیکیشن کر دیا اور سب بمحظی گز کے مرازاً مرجعی ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اس پر ان کو ہر طرف سے ملامت ہونے لگی کہ سوال کرنے والے کو تین گھنٹے کے بعد صرف پائچہ منٹ اور اس میں بھی گنجائش کی شرط اس سے صاف ظاہر ہوتا

ہے کہ ان کے دل خوف زدہ ہو گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے اعتراضات سننے کی تاب نہیں رکھتے۔ مسلمانوں نے یہ دیکھ کر کہ مرزاںی اپنے بیان کردہ مضامین پر ہمارے اعتراضات تقریری طور پر کھلی جلس میں نہیں سن سکتے اور نہ ان کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ تو شہر میں منادی کراوی اور مشتبہ بھی کر دیا کہ کوئی مسلمان مرزاںیوں کے جلے میں نہ جائے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ان کے عقائد کفر یہ کوچپ چاپ ہو کر سنیں۔ کیونکہ خداۓ تعالیٰ اور اس کا رسول پاک ﷺ ایسی مجالس میں شریک ہونے اور ان کی رونق کو بڑھانے اور کفریات کو خاموشی سے سننے سے منع فرماتے ہیں۔ دوسری طرف انجمن اہل حدیث نے کھلے میدان میں اپنا جلسہ منعقد کر دیا۔ جس میں مقامی علماء کیا حضوری اور کیا اہل حدیث اور کیا شیعہ سب بالاتفاق شریک ہوئے۔ کیونکہ مسائل قادیانیہ سب مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ مقامی علماء میں سے بعض اصحاب نے جلسہ میں تقریریں بھی کیں۔ مثلاً مولوی عبدالعزیز صاحب خطیب جامع مسجد مبارک پورہ۔ مولوی محمد یوسف صاحب خطیب مسجد خراسیاں۔ انہوں نے مرزاںیت کے سب پول کھول کر مسلمانوں کے سامنے رکھ دیئے اور اہل شہر پر ایک گہر اثر پڑا۔

بیرون جات سے مولوی محمد اسماعیل صاحب از گوجرانوالہ، حافظ عنایت اللہ صاحب وزیر آبادی، مولوی احمد الدین صاحب لگھڑوی اور مولوی نور الہی صاحب گھر جا گھی تشریف لائے۔ جن کی دھواں دھار تقریروں نے مرزاںیوں کے چھکے چھڑا دیئے۔ باوجود شدید گرمی کے اہل شہر نہایت دلچسپی سے جلے میں شریک ہوتے رہے اور ہر اجلاس میں کافی حاضری ہوتی رہی۔ بالخصوص رات کے وقت تو اتنا اڑ دہام ہوتا تھا کہ سبحان اللہ! اور ما شاء اللہ!

مرزاںی ان تقریروں سے نہایت تنگ ہوئے۔ اول اس وجہ سے کہ ان تقریروں میں علمائے اہل سنت نے دل کھول کر مرزاںیت کے بخیے ادھیرے اور ان کے پول کھولے۔ تو مرزاںیوں کے لئے شہر کی فراغی تنگ ہو گئی۔

دیگر اس وجہ سے کہ مرزاںیوں نے اپنا جلسہ اپنے قبلہ اور کعبہ قلعہ مغلہ پر کیا تھا کہ اپنے خداوندان نعمت کی پناہ میں رہیں۔ لیکن مسلمان اس جلسے میں شریک نہ ہوئے۔ تو مرزاںی بہت کھیانے ہوئے اور اپنے منصوبوں کے ناکام رہنے اور خرچ کے ضائع و بیکار جانے پر حسرتیں کھانے لگئے کہ یکے نقصان مایہ دیگر شماتت ہمسایہ کی مثل صادق آئی۔ آخر جب ہر طرف سے ملامت کی بوچھاڑ پڑنے لگی اور ادھر سے مسلمانوں کے اشتہار پر اشتہار نکلنے لگے تو مرتا کیا نہ کرتا۔ اس شرط پر اتر آئے کہ جلسہ کے بعد ہم تقریری مباشی۔۔۔ و تیار ہیں۔ بشرطیکا اس جلسہ، مناظرہ

کے صدر دوہوں ایک ہمارا دوسرا تمہارا۔ مسلمانوں نے کہا کہ یہ کہاں کی عقلمندی ہے کہ مجلس ایک ہو اور ایسے مجلس دو ہوں۔ یہ دو عملی کیسی؟۔ لیکن قادیانیوں کی صد اور بیت معلوم ہے۔ اینہے بیٹھنے کے اس کے بغیر ہم مباحثہ نہیں کر سیں گے۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ یہ فرار کا بہانہ ڈھونڈھ رہے ہیں اور ان کو کوئی موقعہ نہ دینا چاہئے تو ان کی اس ناجائز شرط کو بھی تسلیم کر لیا اور خدا کر کے مباحثہ کی تاریخیں ۳، ۲، ۱۹۳۳ء، جون ۱۹۳۴ء مقرر ہوئیں۔ دوروز میں چار مضمون اور چار مجلسیں بدیں تفصیل کرے۔

۳، جون کی صبح کو نکاح محمدی بیگم کی پیش گوئی پر دو گھنٹے اور شام کو حیات حضرت مسیح پر دو گھنٹے۔ پھر ۲، جون کی صبح کو صدق و کذب مرزا پر دو گھنٹے اور شام کو ختم نبوت پر دو گھنٹے۔ نکاح محمدی بیگم اور صدق و کذب مرزا میں مرزا میں مدعا اور ابلیں حدیث مفترض اور حیات حضرت مسیح اور ختم نبوت میں ابلیں حدیث مدعا اور مرزا میں مفترض۔

### مباحثہ کی اجمالی کیفیت

۱..... ہر مناظرہ میں مرزا میں مناظر مبہوت ہوتے رہے اور حواس باختہ انت کشند اور ہر کی ہائکتے رہے۔ ان کی حواس باختی کا تین ٹھوٹتیں ہوتے یہ ہے کہ ان کے کسی مناظر سے بھی آیات قرآنی صحیح نہ پڑھی جاتی تھیں۔ بلکہ جب مرزا میں حافظان کو رقمہ دیتا تھا تو وہ بد حواسی کی وجہ سے اس کا رقمہ بھی نہ پکڑ سکتے تھے۔ جس سے مجلس میں قبۃۃ الحجج جاتا اور مرزا میں مناظر کھیلانہ ہو کر بیٹھ جاتا تھا کہ چونکہ لوگ قبۃۃ مارتے اور شور مچاتے ہیں۔ اس لئے ہم تقریر نہیں کر سکتے۔ بزراروں کا مجمع ہوتا تھا۔ بیسوں حافظ قرآن موجود ہوتے تھے۔ قرآن شریف غلط پڑھتے۔ سن کروہ خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔

۲..... ہر مرزا میں مناظر کو یہ ابتلاء پیش آیا کہ دوران گفتگو میں جب وہ ایک جہت سے قابو ہو جاتا تو دوسری طرف سے سرنگاٹے کے لئے اسے پہلی کہی ہوئی بات سے مکرنا پڑتا اور لطف یہ کہ ان کے صدر صاحب (جسے مرزا میں خاص اسی نازک وقت کی حمایت کے لئے باصرار مقرر کرتے ہیں) حمایت میں انجھٹے تو وہ اور بھی مبہوت ہو جاتے۔ چنانچہ وہ اپنے مناظر کے قول کے خلاف اور ہی بات بنا کر پیش کر دیتے کہ ہمارے مناظر صاحب نے تو یہ کہا تھا۔ اس پر بھی حاضرین قبۃۃ مارتے اور ان کی کذب بیانی پر توبہ، اعوذ پکارتے اور ہر طرف سے ان پر لعن طعن کرتے کہ یہ لوگ کیسے بے خوف بے ایمان ہیں کہ اپنی ہر ایک بارگی میں دو دو چار چار دفعہ مکرتے ہیں۔

۳..... مرزا میں مناظر صرف اسی بات کو بار بار رشتہ رہے۔ جوانہوں نے دریں

چشک والے طوٹے کی طرح احمد یہ ڈائری سے یاد کی ہوتی اور جب کوئی نئی بات پیش آجائی جو احمد یہ ڈائری میں درج نہ ہوتی یا جب ان کی مندرجہ بات کا جواب دے دیا جاتا تو مرزا ای مناظر کو بجائے اس کے کہ پیش کردہ بات کا جواب دے۔ بار بار احمد یہ ڈائری کے حوالوں کو پیش کر کے وقت کو پورا کرنا پڑتا۔ اس پر بھی خوب مصلحت ہوتا۔

جب مرزا ای مناظر ہر طرف سے تنگ آگئے تو گالیوں پر آتی آئے اور نہایت شوخی اور بے باکی سے انباہ علیہم السلام خصوصاً آنحضرت ﷺ کی شان پاک میں بھی سخت لکلے کہنے پر اتر آئے۔ جن کے جواب نہایت ممتاز و سنجیدگی سے دینے گئے۔ تو پھر مرزا یوں نے منہ نہ کھولا۔ اس کی مثالیں تفصیلی بیان میں مذکور ہوں گی۔ انشاء اللہ!

..... مجلس مناظرہ ہی میں تین سابق مرزا یوں نے اپنی توبہ کا اعلان کیا۔ جس کا اثر حاضرین پر نہایت گہرا ہوا۔ اس کے جواب میں مرزا یوں نے ایک لڑکے کو کھڑا کیا کہ وہ یہ کہے کہ میں آج احمدیت کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن اس کے جانے والے بیسوں آدمی موجود تھے۔ سب بیک آواز پکارا تھے کہ مرزا ای اوے! مرزا ای اوے! یعنی لڑکا مرزا ای ہے۔ مرزا ای نہ ہے۔ جس سے اس لڑکے کو سامنے ہونے اور آواز نکالنے کی جرأت نہ پڑی اور وہ سر نیچے کئے ہوئے شرم سار ہو کر بیٹھ گیا۔ مرزا ای جماعت اس سے اور بھی بہت نادم ہوئی اور مجلس نے اس کا بھی متفق ہو کر تقبیہ اڑایا۔

غرض ہر مجلس میں مرزا یوں کی سخت فضیحت ہوتی رہی اور وہ اس کے بعد شرم کے مارے کئی روز تک شہر میں آزادی سے باہر نہیں نکل سکے۔ پرانے لوگ جنہوں نے اگلی بھی سنی تھیں وہ سب بیک زبان کہتے تھے کہ قادیانیوں کی ایسی درگست آگے کبھی نہیں ہوئی۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جو مناظرہ ہوتا تھا وہ صرف ایک مسئلہ پر ہوتا تھا۔ جو دو ڈیڑھ گھنٹے کے لئے صرف ایک مجلس میں ہوتا تھا۔ لیکن یہ مناظرہ دو روز تک رہا۔ جس میں چار مضمونوں کی چار مجلسیں ہوئی۔ پس اور مناظروں کی نسبت مرزا یوں کو چوٹی مار پڑی اس نے اس مناظرے کا اثر چوکنگا ہوا۔

اس مناظرے میں بعض مرزا یوں کی توبہ کے علاوہ ایک اور فضل ربانی بھی ہوا کہ جلسہ کے بعد اُنہیں تک برابر قریب یا ہر روز غیر مذہب کے لوگ داخل اسلام ہوتے رہے۔

### کیفیت روڈا و حدا

..... تقسم او قات اس طرح تھی کہ ابتداء میں ہر فریق کو پندرہ پندرہ منت اور بعد ازاں نوبت بہ نوبت دس دس منت ملتے تھے اور آخری تقریر مدعی کی ہوتی تھی۔ اگر اس روڈا و

میں دس منٹی تقسیم اوقات کی ترتیب کو نمودار لاحاجائے تو کسی مضمون کے دلائل کا سلسلہ قائم نہیں رہ سکتا۔ لہذا، ہم نے ہر مقرر کی مختلف نوبتوں کی تقریروں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے کہ ناظرین کو فہم مطالب اور فیصلہ میں آسانی ہو۔

.....۲ جہاں تک ہو سکا ہے۔ ہم نے اپنی عبارت میں ہر فریق کا مطلب مختصر اپوری طرح ادا کر دیا ہے۔ کیونکہ ایسی دس دس منٹی تقریروں میں ہر نوبت کے الفاظ عموماً محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ہاں اگر کسی فریق کو شکایت ہو کہ ہمارا مدعا قصور بیان کی وجہ سے کمزور دکھایا گیا ہے۔ تو اس کا حق ہے کہ وہ اسے اپنے زور دار الفاظ میں بیان کر کے اپنے مدعا اور دلائل کو واضح کر دے۔ سیالکوٹ کی پہلی دوسرے فریق کی تقریر سے خود مقابلہ کر لے گی اور دوسرے لوگ بھی سمجھ سکیں گے کہ قوی ولیم کس کی پیش اور کمزور کس کی؟۔

.....۳ قادیانی مناظر باوجود بار بار جواب پا لینے کے بار بار انہی دلائل و اعتراضات کو دہراتے رہتے تھے۔ جوان کی احمد یہ ذائقی میں مسطور ہیں۔ اس لئے ان کی تقریروں سے پہلک پرانچا اثر نہیں پڑتا تھا۔ جس کی وجہ سے اکثر دفعہ قادیانی مناظر بلکہ ان کا صدر بھی کھیانا ہو جاتا تھا۔

### دیگر قادیانی مناظرے

سابقاً ذکر ہو چکا ہے کہ قادیانیوں نے اپنے اس سیالکوٹی جلسہ میں ہر ملت و مذہب کے متعلق مضامین رکھے تھے۔ مسلمانوں کے، عیسائیوں کے، ہندوؤں کے، سکھوں کے، سب کے متعلق تقریریں مقرر تھیں اور سب کو مناظرے کی دعوت تھی۔ غالباً ان کے سر میں تیس مارخان بننے کا خیال باطل ہو گا۔ لیکن جب انہوں نے مسلمانوں سے تقریری مباحثہ کرنے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں نے ان کے جلسے میں شریک نہ ہو کر اپنا جلسہ الگ کیا تو دیگر مذاہب کے لوگ بھی مرزا یوں کے جلسے میں شریک نہ ہوئے۔ بلکہ اسلامی جلسے میں کثرت سے اور شوق سے آتے رہے۔ پھر ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کی طرح اپنی اپنی جگہ مرزا یوں کی تردید میں جلسے مقرر کئے۔ مرزا یوں نے جب اپنی ایسی بے قدری اور کس پرسی کی حالت دیکھی تو ان کا سر کھلایا کہ کہیں سے مار تو پڑی نہیں اب چیزیں کس طرح آئے؟۔

### قادیانی اور ایک سکھ دیوی

تو اس ہوں کو پورا کرنے کے لئے ایک دن سکھوں کے جلسے میں جا دھکئے۔ وہاں سے قادیانی مولوی (گرختی) ایک سکھ دیوی کے سوال سے ایسا لاؤ جواب ہوا کہ سوائے خاموشی کے کچھ

بن نہ آیا۔ اصل یہ تھا کہ گورونا نک جی مہاراج کا مذہب کیا تھا؟۔ قادیانی مدی ہیں کہ وہ مسلمان تھے۔ اس کی دلیل جیسا کہ ہم کو خبر پہنچی ہے۔ مرزاں مولوی نے ایک یہ دی کہ بوجب سکھوں کی مشہور روایت کے گرد جی مہاراج نے مکہ شریف کا سفر کیا۔ اگر وہ مسلمان نہیں تھے تو مکہ شریف میں کیوں گئے۔ سکھ مقرر صاحب نے کہا کہ یہ مسلمان ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ کسی جگہ کا سفر اور بات ہے اور اس جگہ کے رہنے والوں کا ہم مذہب ہونا اور بات ہے۔ درمیان میں سے ایک سکھ دیوی بول اٹھی کہ اچھا اگر مکہ شریف میں جانا مسلمان ہونے کی دلیل ہے تو تمہارا مرزا تو حج کرنے نہیں گیا وہ پھر کافر ہوا۔ اس پر قہقہہ چا اور مرزاں صاحب خاموش ہو گئے اور وہاں سے بہت بڑی طرح واپس ہوئے۔ لیکن مرزاں اور ڈھنائی دو مترادف الفاظ ہیں۔

### قادیانی سناتینوں سے جا لجھے

اسی شب کو یعنی ۲۹ ربیعی ۱۹۳۳ء کو سناتینوں کے جلسے میں جا کو دے۔ وہاں پر کلکتی اوتار کا مضمون تھا۔ اس جلسے میں ہمارا نمائندہ بھی موجود تھا۔ اس کی رپورٹ ہے اور اخبار گوردن سیالکوٹ کے ضمیمہ کیم جون ۱۹۳۳ء میں مفصل کیفیت چھپی ہے کہ پنڈت رام سرن جی صاحب کے مضمون کے بعد مرزاں مولوی محمد عمر صاحب نے ایک اردو کتاب بنانہ کلکتی اوتار پیش کر کے کہا کہ یہ کتاب پنڈت ایشی پرشاد صاحب کی ترجمہ کردہ ہے۔ اس میں حوالہ دے کر لکھا ہے کہ جناب کرشن جی مہاراج نے فرمایا ہے کہ میں اخیر زمانے میں کلکتی اوتار ہو کر آؤں گا اور میرا نام ا، ح، م، د ہو گا۔ سو اس کے مطابق جناب کرشن جی مہاراج جناب مرزا قادیانی کے جنم میں ظاہر ہوئے ہیں۔

پنڈت صاحب موصوف نے جواب میں کہا کہ اگر یہ حوالہ درست دیا گیا ہے تو یہ لیجھے اصل کتاب موجود ہے۔ اس میں سے نکال کر بتائیے کہ اس میں ا، ح، م، د یعنی احمد اور قادیانی کا نام کہاں اور قادیانی بھونچ کر رہ گئے۔ بہت کہا گیا کہ نکالو اور پڑھو۔ لیکن کتاب کو ہاتھ تک نہ لگایا اور دریں چہ شک کی طرح جو کچھ گھر سے پڑھ کر آئے تھے وہی رئتے رہے کہ یہ دیکھو اس اردو کتاب میں لکھا ہے۔ یہ تمہارے ہی پنڈت نے لکھی ہے۔ پنڈت رام سرن جی معموق آدی تھے۔ نہایت سمجھی سے سمجھاتے رہے کہ مولوی صاحب! حوالہ کی صحت کے لئے ضروری ہے کہ وہ اصل کتاب میں من و عن موجود ہو۔ سو آپ نکالنے اصل کتاب حاضر ہے۔ لیکن مرزاں مولوی صاحب نے کتاب کو ہاتھ نہ لگانے کی تسمیہ کھائی تھی۔ ہاتھ نہ لگایا۔

اس کے بعد پنڈت رام سرن جی نے فرمایا کہ قادیانی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ

بھگوان کرشن جی مہاراج اب مرزا غلام احمد قادریانی کے جنم میں ظاہر ہوئے ہیں تو یہ بات بوجب اندھہب اسلام کے بد و وجہ کفر ہے۔

اول..... اس لئے کہ ہم بھگوان جی کو پرمیشور کا اوتار مانتے ہیں۔ اگر مرزا قادریانی بھی ایسا ہی مانتے ہیں۔ تو یہ بات اسلام کی توحید کے خلاف ہے۔ بلکہ کفر ہے کہ خدا تعالیٰ کسی انسان کے روپ میں ظاہر ہو۔

دوم..... اسلئے کہ اگر مرزا قادریانی کرشن جی مہاراج کو ایک انسان مانتے ہیں۔ تو ان کا دوسرا جنم لینا تناخ کی بناء پر ہے اور یہ بات اسلام کے رو سے کفر ہے۔ (کیونکہ اس سے قیامت کا انکار لازم آتا ہے)

ہندو، مسلمان حاضرین کا بیان ہے کہ ان ہر دو باتوں کا جواب مرزا ای مولوی محمد عمر نے سوائے خاموشی کے کچھ بھی نہ دیا اور بہت بڑی طرح اور شرمسار ہو کر وہاں سے ایسے رخصت ہوئے۔ جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔

### نئے اور پرانے مسیحیوں کی ملاقات

قادیانیوں نے اپنے جلسے کے آخری دن ایک اشتہار لکیسا سیالکوٹ کو خطاب کرتے ہوئے دیا اور اس میں یہ بھی لکھا کہ وہ ہمارے جلسے میں آ کر سوال کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ سیالکوٹ میں کوئی عیسائی مشزی صاحب مناظر نہیں ہیں۔ جب کبھی ان کا جلسہ ہو یا ان کو مناظرہ کی ضرورت ہو تو باہر کے پادری صاحبان بلائے جاتے ہیں۔ قادیانیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں اور سکھوں کی طرف سے ہمیں شرمساری ہوئی ہے اور ہماری (لا یعنی) تقریریں سننے کے لئے ہمارے حرم قلعہ میں کوئی بھی نہیں آیا۔ تو عیسائیوں کا میدان خالی دیکھ کر اپنی شرمساری دھونے کے لئے عیسائیوں کو چلیخ دے دیا۔

عیسائی بھی مدت کے منتظر تھے۔ انہوں نے ریوی رنڈ پادری عبدالحق صاحب ذی، ودی سے خط و کتابت کر کے ان کو بلایا۔ چنانچہ ۲۲، ۲۳ اور ۲۴ جون ۱۹۳۳ء کو سیالکوٹ میں انہوں نے خاص مرزا سنت کے متعلق تین مبسوط تقریریں کیں اور قادیانیوں کے لئے وقت بھی رکھا کہ وہ سوال کر لیں۔ پہلے روز ایک قادریانی مولوی اپنی بیویو فی سے تھوڑے وقت کے لئے کھڑے ہوئے اور بہت شرمسار ہوئے دوسرے اور تیسرا روز کوئی بھی قادریانی، پادری صاحب کے سامنے نہ ہوا۔ گویا کہ سیالکوٹ میں کوئی مرزا ای ہے ہی نہیں۔ ہر طرف سے مرزا نیوں پر آوازے کے جارہے تھے کہ آج ان کو کیا ہو گیا۔ یہ تو کہا کرتے تھے کہ مرزا اقا، یاںی کسر صلیب کے لئے آئے ہیں اور وہ

صلیب توڑ چکے ہیں۔ اب کوئی عیسائی، ہمارے سامنے نہیں آ سکتا۔ لیکن ریوی رنڈ پادری عبدالحق صاحب آج سیالکوٹ میں تین روز سے گرج رہے ہیں اور قادیانی بلوں میں جا گھے ہیں۔ غرض سابق کی طرح امسال بھی قادیانیوں کا سیالکوٹ میں آنا بہت منحوس اور نامبار ک ہوا۔ غالباً اب وہ سیالکوٹ میں بہت سالوں تک پھر پا اکھاڑہ قائم نہ کر سکیں گے۔ سیالکوٹ سے رخصت ہوتے ہوئے ان کی حالت اس شعر کی مصدقائی ہے۔

نکنا خلد سے آدم کا سنتے آتے تھے لیکن

بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے

قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العلمين

مرتب مخاب: انجمن اہل حدیث سیالکوٹ ..... ۱۹۳۳ء

بسم الله الرحمن الرحيم!

### مفصل روئداد مناظرات قادیانیہ

پہلا روز ..... مورخ ۳ رجب ۱۹۳۳ء پہلی مجلس صحیح ۸ بجے سے ۱۰ بجے تک۔

بحث ..... محمدی بیگم کے نکاح کی پیش گوئی مدی ..... احمدی مناظر۔  
قادیانی

مولوی علی محمد صاحب مرزا تی ..... صدر

مولوی عبد الرحمن گجراتی مرزا تی ..... مناظر مدی

### مسلمان

شیخ عبدال قادر صاحب بیر پڑھ ..... صدر

مولوی احمد دین صاحب گلھڑوی ..... مناظر مجید

### بیان دعویٰ

حضرات! ہمارا (قادیانیوں کا) دعویٰ ہے کہ محمدی بیگم کی پیش گوئی پوری ہو گئی اور کوئی ایسی بات نہیں جو پوری نہ ہوئی ہو۔

محمدی بیگم مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کی لڑکی تھی۔ جن کا خاندان خلاف اسلام عقائد میں بنتا تھا۔ وہ احکام خدا اور رسول کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ رسول ﷺ کو گندی گالیاں دیتے تھے۔ بلکہ وہ دہریہ تھے۔ جناب مسیح موعود (مرزا قادیانی) نے چاہا کہ اس خاندان میں دینداری

پیدا کریں۔ سو آپ نے مرزا احمد بیگ کو خط لکھا کہ اگر وہ اپنی بیٹی محمدی بیگم کا مجھ سے نکاح کر دیں۔ تو خدا ان پر کوئی قسم کی برکتیں کرے گا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ محمدی بیگم سے مرزا قادیانی کا نکاح نہیں ہوا۔ لیکن نکاح اصل مقصود نہیں تھا۔ اصل مقصود اس خاندان کی اصلاح تھی۔ جو اس شرط سے ثابت ہے جو الہام کے ساتھ ہی شائع ہوئی تھی۔

پس جب انہوں نے توبہ کی تو عذاب مل گیا۔ جس کی تفصیل یوں ہے کہ اس پیش گوئی کی تین جزیں تھیں۔

۱..... یہ کہ اگر یہ کسی اور جگہ نکاح کر دیں گے تو یوم نکاح سے تین سال تک اس لڑکی کا باپ مرجائے گا۔

۲..... اور ڈھائی سال تک اس کا خاوند مرجائے گا۔

۳..... پھر وہ عورت یوہ ہو کر میرے نکاح میں آئے گی۔ ان لوگوں نے ان ڈراوں کی پروانہ نہ کی اور مرزا سلطان محمد ساکن پٹی سے اس لڑکی کا نکاح کر دیا۔ چھ ماہ بعد محمدی بیگم کا باپ احمد بیگ مر گیا اور اس کا اثر محمدی بیگم کے خاوند پر پڑا اور وہ ڈر گیا۔ چنانچہ اس کا ذرنا اس خط سے ثابت ہے۔ جو اس نے جناب مرزا قادیانی کی نیک تھی اور خدمت اسلام کے متعلق لکھا تھا۔ پس یہی اس کی توبہ ہوئی اور اس کی موت مل گئی۔

پس جب یوہ ہونے کے لئے خاوند کی موت ضروری تھی اور محمدی بیگم یوہ ہونے کی صورت میں حضرت مرزا قادیانی کے نکاح میں آنے والی تھی اور اس کا خاوند یوجہ توبہ کے ہلاکت سے نجی گیا اور محمدی بیگم یوہ نہ ہو سکی۔ تو نکاح بھی نہ ہوا۔ پس اصل بات محمدی بیگم کے خاوند کی ہلاکت تھی جو توبہ سے مل گئی اور توبہ واستغفار سے عذاب مل جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یونس کی قوم سے مل گیا۔ بلکہ تقدیر برم بھی مل جاتی ہے۔ علاوہ اس کے حدیثوں سے ثابت ہے کہ دعا سے تقدیر مل جاتی ہے اور صدقہ و خیرات سے بھی تقدیر مل جاتی ہے۔

اور اشتہارہ ارجولائی ۱۸۸۸ء میں صراحة کہا گیا ہے کہ ایک توبہ نہ کرے گا تو ہلاک ہو گا اور دوسرا توبہ کرے گا اور وہ نجی جائے گا اور اس کے بعد احمد بیگی چند کتے بھونکتے رہیں گے۔ پس باپ مر گیا اور خاوند نے توبہ کر لی۔ اس نے محمدی بیگم نکاح میں نہ آسکی اور اب احمد بیگی کتے بھونک رہے ہیں۔ محمدی بیگم کا ایک بیٹا احمدی ہو چکا ہے۔ جس سے اس خاندان کی اصلاح ثابت ہو گئی۔

**جواب من جانب مولوی احمد دین صاحب اہل حدیث لکھڑی**

مولوی عبدالرحمن قادریانی نے جو تقریر کی ہے وہ سوائے ایک کلمہ کے کہ انہوں نے

محمدی بیگم کے نکاح کا نہ ہونا تسلیم کر لیا ہے۔ از سرتا پا غلط اور باطل ہے اور انہوں نے جو جو عذرات کئے ہیں وہ مرزا قادیانی کی اپنی تحریرات کے بالکل خلاف ہیں اور جو حوالے ذکر کئے ہیں وہ سب بے موقع ہیں۔ جوان کو کسی صورت میں بھی مفید نہیں۔

تفصیل اس کی یوں ہے کہ اصل بحث محمدی بیگم کے نکاح کی پیش گوئی ہے۔ جیسا کہ پرچہ شرائط سے ظاہر ہے۔ جسے میرے مقابل مولوی عبدالرحمن قادیانی نے کھلے الفاظ میں تسلیم کر لیا ہے کہ نکاح نہیں ہوا۔ پس پیش گوئی غلط ثابت ہو گئی اور یہی مراحتی۔ پس اس کے بعد اصل بحث گفتگو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔

ہوا ہے مدعا کا فیصلہ اچھا میرے حق میں

زیجا نے کیا خود پاک دامن ماہ کنعاں کا

لیکن مولوی عبدالرحمن نے اس کے بعد جو جو عذرات خود مرزا قادیانی مدعا کی تصریحات کے برخلاف ذکر کئے ہیں اور مخالفات سے کام لیا ہے اور قرآن و حدیث کے مطالب کو بگاڑ کر مسلمانوں کو دھوکا دینا چاہا ہے۔ ہم ان کی وجہیاں اٹا کر حقیقت امر کو منکشف کرنا چاہتے ہیں۔ غور سے سنتے جائیے۔

۱..... اس نکاح کے متعلق سب سے پہلا ہمام ذوجن کہا ہے۔ (آسمانی فیصلہ ص ۳۵۰، خزانہ حج ۲۰۰۴) یعنی (بقول مرزا قادیانی) خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ (کہ اے مرزا) ہم نے اس لڑکی (محمدی بیگم) کو تیری زوجہ بنادیا۔ اس ہمام میں کوئی شرط نہیں۔

۲..... دیگر یہ کہ یہ ہمام زوجیت کے متعلق ہے۔ نہ تو کسی خاندان کی اصلاح کے لئے ہے اور نہ کسی کی بلاکت کے لئے ہے۔

۳..... تیرے یہ کہ مرزا سلطان محمد شوہر محمدی بیگم کی موت اصل مقصود نہیں ہے۔ اس کا محمدی بیگم کا شوہر ہونا مرزا قادیانی کے نکاح کے لئے رکاوٹ تھا۔ اس لئے مرزا قادیانی نے رکاوٹ دور ہونے اور مقصود برا آنے کی نسبت کہا اکہ وہ اڑھائی سال تک مر جائے گا اور اس کے بعد وہ لڑکی میرے نکاح میں آئے گی۔ پس اصل مقصود نکاح تھا اور اس کے شوہر کی موت ایک فروعی بات تھی۔ لیکن خدا کی قدرت وہ فروعی بات بھی پوری نہ ہوئی اور مرزا کی حالت یہ ہو گئی۔

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم

پس پیش گوئی جھوٹی نکلی اور قادیانی عبدالرحمن نے یہ جو فرمایا ہے کہ اشتہار ارجمندی ۱۸۸۸ء میں صاف بتایا گیا ہے کہ ایک نہ کرے گا تو مر جائے گا اور دوسرا توبہ کرے گا اور وہ فتح

جائے گا۔ اس کے چھ ماہ بعد احمد بیگ والد محمدی بیگم مر گیا اور سلطان محمد شوہر محمدی بیگم ڈر گیا تو اس لئے وہ بخی گیا۔ یہ سارا سلسلہ جھوٹ اور مغالطہ کا ہے۔ کیونکہ اول تو مرزاقادیانی کی تصریح کے موجب مرزاقادیانی احمد کی زندگی میں مرتانہیں چاہئے تھا۔ کیونکہ مرزاقادیانی نے صاف طور پر لکھ دیا تھا کہ احمد بیگ کی موت آخری مصیبت ہوگی۔ چنانچہ (آئینہ کمالات ص ۵۷۲، خزانہ ج ۵ ص ایضا) پر مرزاقادیانی لکھتے ہیں۔ ”فَاوَحِيَ اللَّهُ إِنَّ اَنْ اَخْطَبُ صَبَبَةَ الْكَبِيرَةِ لِنَفْسِكَ“ یعنی خدا نے مجھے وہی کی کہ احمد بیگ سے اس کی بڑی لڑکی کا رشتہ اپنے طلب کر۔ اس کے تھوڑا بعد فرماتے ہیں۔ ”وَإِنْ لَمْ تَقْبُلْ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَخْبَرَنِيَ إِنَّ اَنْكَاحَهَا رَجُلًا آخِرًا لَا يُبَارِكُ لَهَا وَلَا لَكَ فَإِنْ لَمْ تَزُوْجْ فَيَصِبُّ عَلَيْكَ مَصَابَبَ وَآخِرَ الْمَصَابَبِ مَوْتَكَ“ (ص ۵۷۳، خزانہ ج ۵ ص ایضا) یعنی مجھے خدا نے یہ فرمایا کہ احمد بیگ سے یہ بھی کہہ دے کہ اگر تو نے میرے اس سوال رشتہ کو قبول نہ کیا تو جان لے کر مجھے خدا نے خبر دی ہے کہ اس لڑکی کو دوسرے شخص کا نکاح کرنا اس لڑکی کے لئے بھی اور تیرے لئے بھی موجب برکت نہ ہوگا۔ پس اگر تو اس ڈانت سے نذر اتو تجوہ پر کئی ایک مصیبتوں برسمیں گی اور اس سے آخری مصیبت تیری موت ہوگی۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ سلطان محمد اور محمدی بیگم کے نکاح کے متعلق سلسلہ مصائب کی آخری کڑی محمدی بیگم کے باپ احمد بیگ کی موت ہے۔

علاوہ اس تصریح کے ایک زبردست قرینة بھی اس کی تائید میں ہے کہ مرزاقادیانی احمد بیگ کی موت کی غایت تین سال مقرر کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ڈھائی سال تین سال سے پہلے گذرتے ہیں۔ پس مرزاقادیانی احمد بیگ کی موت اس کے داماد کی موت کے بعد ہونی چاہئے تھی۔ جو اس طرح نہیں ہوئی۔ اس لئے پیش گوئی کی یہ جزو بھی جھوٹی نکلی۔

باقی رہا سلطان احمد کا ذرنا اور توہہ کرنا یہ بھی حضن مصنوعی بات ہے۔ نہ وہ ذرنا اس نے توہہ کی اس کے لئے پہلے توہہ دیکھنا چاہئے کہ اس کا قصور کیا تھا۔ جس سے اسے توہہ کرنی چاہئے تھی۔ سو یہ بات ہم اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ خود مرزاقادیانی کے الفاظ میں بتاتے ہیں۔ مرزاقادیانی فرماتے ہیں کہ: ”احمد بیگ کے داماد کا یہ قصور تھا کہ اس نے تنویف کا اشتہار دیکھ کر اس کی پروادا نہ کی۔ پیش گوئی کو سن کر پھر نکاح کرنے پر راضی ہوئے۔“

(اشتہار انعامی چار ہزار حاشیہ ص ۶، مجموعہ اشتہارات ج ۴ ص ۹۵)

اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ محمدی بیگم کے خاوند اور احمد بیگ کے داماد یعنی سلطان محمد

کا قصور محمدی بیگم سے نکاح کرنا تھا اور بس۔

اب ہم مرزا قادیانی ہی کے الفاظ میں دکھاتے ہیں کہ تو بہ کے لئے ہیں مرزا قادیانی فرماتے ہیں ”مثلاً اگر کافر ہے تو سچا مسلمان ہو جائے اور اگر ایک جرم کا مرتكب ہے تو حق مجھ اس جرم سے دست بردار ہو جائے۔“ (اشتہار ۶ ستمبر ۱۸۹۳ء، مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۳۷)

اس کے رو سے سلطان محمد کی تو بہ یہ تھی کہ نکاح کرنے کے بعد اور اپنے خرکی بے وقت موت سے متاثر ہو کر محمدی بیگم کو طلاق دے دیتا۔ لیکن واقعہ ایسا نہیں ہوا۔ کیونکہ نکاح سے پہلے نہ ذرنا تو مرزا قادیانی کی تحریر مذکورہ بالا سے بھی ثابت ہے اور نکاح سے بعد نہ ڈرنا تھا جو دلیل نہیں۔ کیونکہ یوم نکاح ۱۸۹۲ء سے آج ۳ مارچ ۱۹۳۳ء تک چالیس سال سے زائد عرصہ سے وہ اس عورت پر قابض و متصرف ہے اور خدا نے اسے اسی محمدی بیگم کے طن مبارک سے مرزا قادیانی کی تحریر کے خلاف ایک درجن کے قریب اولاد بھی بخشی ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی نے لکھا تھا کہ اس سے دوسرے شخص کا نکاح کرنا اس لڑکی کے لئے باہر کت نہ ہوگا۔ پس پیش گوئی کی یہ جزو بھی جھوٹی نہیں۔

محمدی بیگم کا خاؤند ایک مرشد الممال رئیس ہے۔ معقول پیش لیتا ہے۔ اسے مرزا قادیانی کے خداوندان نعمت سے باوجود ان کے رقبہ ہونے کے مرتعے بھی عطا ہوئے ہیں۔ بعض فرزند بھی معقول روزگار پر ہیں۔ غرض یہ نکاح اس کے لئے بہت باہر کت ہوا ہے اور سلطان محمد مرزا غلام احمد قادیانی کے الہام بستر عیش کو غلط ثابت کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے قادیانی دوست نہایت بھولے بن کر یاد نیا جہاں کے لوگوں کی نظر میں خاک ڈال کر اور ان کو بے عقل جان کر یہی ہائے جار ہے ہیں کہ سلطان محمد تائب ہو گیا۔ اس لئے وہ حق گیا۔ جناب! اس کا گناہ کیا تھا اور اس کی تو بہ کیا چاہئے تھی۔ کیا اس نے اس گناہ سے تو بہ کی اس کا قصور یہی تھا کہ وہ مرزا قادیانی کے بستر عیش کی خواہش و تمنا کے پورا ہونے میں حائل تھا۔ چنانچہ مرزا قادیانی اپنے اس شوق و سوزش قلبی کو اور محمدی بیگم کی حالت و قامت کو ان الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں۔ ”وَكَانَتْ بِنْتَهُ هَذِهِ الْمُخْطُوبَةِ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السَّنْ عَذْرَاءَ وَكَنْتْ حَيْنِيَّةً جَاؤَزَتِ الْخَمْسِينَ“ (آنینہ کملات ص ۵۷۸، خزانہ ح ۵ ص ایضاً) ”یعنی احمد بیگ کی یہ بیٹی جس کا رشتہ مانگا کیا تھا۔ نو عمر کنواری لڑکی تھی اور میں اس وقت پچاس سال سے اوپر تھا۔“ پس سلطان محمد نے بوجہ ایک غیر تمند مسلمان ہونے کے مرزا قادیانی کے بستر عیش کی خواہش کو پورا ہونے نہیں دیا اور اس نے برتابے اور فعل سے ثابت کر دیا کہ وہ مرزا قادیانی کے اس الہام کو ایک زُمل بلکہ نفسانی ہوں جاتا ہے۔ تو اس کے اس قول کو کہ مرزا قادیانی کو ایک خادم اسلام جانتا ہوں۔ تو بہ کی سند بنانے سے شرم کرنی چاہئے۔

ہمار کارتو محمدی بیگم کا زکار ہے۔ نہ کہ خدمت اسلام وغیرہ۔ دیگر کاموں کے متعلق رائے زندگی۔  
اگر مرزا قادیانی کی غایبت تمنا نکاح نہ تھی۔ تو الہام بستر عیش کے کیا معنے اور اس کا شان  
نزوں اور محل وقوع بتایا جائے کہ کیا ہے؟

نوٹ: مرزا قادیانی مناظر نے باوجود بار بار کے مطالبہ کے اس الہام ”بستر عیش“ (ذکرہ  
ص ۳۹۹) کا اخیر وقت تک کچھ بھی جواب نہ دیا۔

دیگر یہ کہ یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ مرزا سلطان محمد مرزا غلام احمد قادیانی کے نکاح میں ایک  
بھاری روک تھا۔ پس بھوجب الہام کے اس کا مرنا ضروری تھا اور محمدی بیگم کا مرزا قادیانی کے  
نکاح میں آنا بھی ضروری تھا۔ خواہ وہ توبہ کرتا یا نہ کرتا۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ مرزا قادیانی کا  
اپنے چچازاد بھائیوں سے ایک دیوار کے متعلق مقدمہ تھا۔ جس میں انہوں نے مرزا قادیانی پر چند  
سوالات کئے۔ جن کے جواب میں مرزا قادیانی نے عدالت میں حلقو بیان دیا۔ ازان جملہ ایک امر  
یہ ہے۔ ”احمد بیگ کی دختر کی نسبت جو پیش گوئی ہے۔ وہ مرزا امام دین کی ہمشیرہ زادی ہے۔ جو خط  
ہنام مرزا احمد بیگ کا نام فضل رحمانی میں ہے۔ وہ میرا ہے اور رج ہے۔ وہ عورت میرے ساتھ بیا ہی  
نہیں گئی۔ مگر میرے ساتھ اس کا بیاہ ضرور ہو گا۔ جیسا کہ پیش گوئی میں درج ہے۔ وہ سلطان محمد سے  
بیا ہی گئی۔ جیسا کہ پیش گوئی میں تھا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اسی عدالت میں جہاں ان باتوں پر جو  
میری طرف سے نہیں ہیں۔ بلکہ خدا کی طرف سے ہیں۔ بنسی کی گئی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ  
عجیب اثر پڑے گا اور سب کے نداءت سے سرینچھے ہوں گے۔ پیش گوئی کے الفاظ سے صاف  
معلوم ہوتا ہے اور یہی پیش گوئی تھی کہ وہ دوسرے کے ساتھ بیا ہی جائے گی۔ اس لڑکی کے باپ  
کے مرنے اور خاوند کے مرنے کی پیش گوئی شرطی تھی اور شرط توبہ اور رجوع الی اللہ تھی۔ لڑکی کے  
باپ نے توبہ نہ کی۔ اس لئے وہ بیاہ کے بعد چند مہینوں کے اندر مر گیا اور پیش گوئی کی دوسری جزو  
پوری ہو گئی۔ اس کا خوف اس کے دوسرے خاندان پر پڑا اور خصوصاً شوہر پر پڑا۔ جو پیش گوئی کا  
ایک جزو تھا۔ انہوں نے توبہ کی۔ چنانچہ اس کے رشتہ داروں اور عزیزوں کے خط بھی آئے۔ اس  
لئے خدا نے اس کو مہلت دی۔ عورت اب تک زندہ ہے۔ میرے نکاح میں وہ عورت ضرور آئے  
گی۔ امید کیسی یقین کامل ہے۔ یہ خدا کی باتیں ہیں۔ ملتی نہیں۔ ہو کر ڈیں گی۔“

(اخبار الحجم قادیانی ۱۰ اگست ۱۹۰۱ء ص ۱۲ کالم ۲، کتاب منظور اللہی ص ۲۲۵، ۲۲۳)

یہ عبارت مرزا قادیانی کے حلقو بیان کی ہے۔ جو انہوں نے عدالت میں دیا۔  
مرزا قادیانی نے اس میں اپنا دعویٰ اور مدعای کمال وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ اس کے برخلاف

قادیانی عبد الرحمن یا کسی دیگر شخص کا کوئی حق نہیں کہ مرزا قادیانی کے مدعای تصریح کے خلاف کوئی اور تاویل کر کے مرزا قادیانی کے بیان اور مدعای کو بدل ڈالیں۔ اس طبقی بیان سے دو خاص باتیں جو اس وقت زیرِ نزاع ہیں۔ صاف ثابت ہیں۔

اول یہ کہ مرزا قادیانی پیش گئی کوئی نکاح ہو جانے کی صورت میں پورا سمجھتے ہیں۔

دیگر یہ کہ مرزا سلطان محمد صاحب کے توبہ کرنے کے بعد بھی مرزا قادیانی محمدی بیگم سے نکاح کا ہو جانا ضروری اور لقینی امر فرمائے ہیں۔ پس قادیانی عبد الرحمن کی تاویل و توجیہ اسی ہے۔ جو مدعی کے بیان کے خلاف ہے۔ لہذا قبل و مساعت نہیں۔

اس کے علاوہ خود مرزا قادیانی اسی نکاح کی نسبت ازالہ اوہام میں فرماتے ہیں: ”مرزا احمد بیگ ولد مرزا گاما بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلاں انجام کارتھہارے نکاح میں آؤے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو۔ لیکن آخر کار ایسا ہی ہو گا اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہر ایک روک کو درمیان سے اٹھاوے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔“ (ازالہ اوہام ص ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱)

اس حوالہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سب رکاوٹیں دور ہو کر آخراً خرکار یہ نکاح ضرور ہو جائے گا اور ہم کئی دفعہ ذکر کرچکے ہیں اور ظاہر بھی ہے کہ سب سے بڑی روک مرزا سلطان محمد کا نکاح تھا۔ پس مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ یہ روک بھی دور ہو کر آخراً خرکار مجھ سے اس کا نکاح ہو جائے گا۔ لہذا عبد الرحمن قادیانی کے سب عذرات مرزا قادیانی کی اپنی تصریحات کے خلاف ہونے کی وجہ سے ناقابل قبول و مساعت ہیں۔ ان کے علاوہ اور حوالے بھی بکثرت ہیں۔ لیکن ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں اور عبد الرحمن قادیانی کا یہ کہنا کہ توہی توہی کی شرط تھی۔

(مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۱۶۲)

اول تو یہ کہ الہام حسب تحریر مرزا قادیانی محمدی بیگم کی نانی کے متعلق ہے اور توہی توہی صیغہ مؤنث کا بھی گواہی دے رہا ہے کہ یہ کسی عورت کے متعلق ہے اور سلطان محمد شوہر محمدی بیگم مرد ہے نہ کہ عورت۔ دیگر یہ کہ محمدی بیگم کی نانی کی توبہ بھی یہی ہونی چاہئے تھی کہ وہ اپنی نواسی مرزا قادیانی کو دینے کی سفارش کرتیں۔ جیسا کہ مرزا قادیانی کے اپنے الفاظ سے ظاہر ہے کہ وہ باکرہ ہونے کی صورت میں بھی آسکتی ہے اور مرزا قادیانی نے اپنی چھوٹی بہو عزت بی بی سے جو خط اس کے باپ مرزا علی شیر بیگ کو لکھوائے اور خود بھی لکھے۔ ان سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی محمدی

بیگم کے کنواری ہونے کی حالت میں بھی نکاح کی کوشش کرتے رہے۔ پس محمدی بیگم کی نانی نے باوجود اس دھمکی کے کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی نواسی مرزا قادیانی کی خواہش کے خلاف سلطان محمد سے بیاہ دی اور اس کی نواسی محمدی بیگم پر کوئی بھی بلانہ آئی۔ جیسا کہ پہلے گذر چکا۔

اور عبد الرحمن قادیانی کا یہ کہنا کہ تقدیر یہ مبرم ٹھل سکتی ہے اور اس کی تائید میں دعا اور صدقات کا ذکر کیا۔ تو یہ سب مغایطے ہیں۔ اگر ہر تقدیر یہ مبرم یا غیر مبرم دعا اور صدقات سے ٹھل سکتی ہے۔ تو پھر مبرم اور غیر مبرم میں تینزندہ رہی اور تقسیم بنے کارہوئی۔ ان احادیث کا صحیح مفہوم جو سب احادیث کو اور نفس مسئلہ کو ملحوظ رکھ رہے ہیں ہی کہ دعا اور صدقات سے وہی امور ملتے ہیں۔ جوان سے متعلق ہوں اور یہ سب کچھ خدا کے علم میں پہلے ہی ہوتا ہے۔

مرزا قادیانی کا یہ نکاح اور سلطان محمد کی موت ایسے امر ہیں کہ کسی صورت میں بھی نہیں مل سکتے تھے۔ ملاحظہ ہوں۔ حوالہ جات ذیل مرزا قادیانی رسالہ انجام آئھم میں فرماتے ہیں: ”میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی داما دا حمد بیگ کی تقدیر یہ مبرم ہے۔ اس کی انتظار کرو اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائے گی۔“

(انجام آئھم ص ۳، جزء اُن ج ۱۱ ص ایضاً حاشیہ)

نیز اس کتاب میں فرماتے ہیں: ”یاد رکھو کہ اس پیش گوئی کی دوسری جز پوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک بد سے بدر ہوں گا۔ اے احمد! یہ انسان کا افترا نہیں۔ یہ کسی خبیث مفتری کا کاروبار نہیں۔ یقیناً سمجھو کوہ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی باتیں نہیں ٹلتیں۔“

(ضمیدہ انجام آئھم ص ۵۵، جزء اُن ج ۱۱ ص ۲۲۸)

اور مرزا قادیانی تقدیر یہ مبرم کے نہ ملنے کی بابت فرماتے ہیں: ”یہ تقدیر یہ مبرم ہے جو کسی طرح نہیں سکتی۔ کیونکہ اس کے لئے الہام الہی میں یہ فقرہ موجود ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ یعنی میری یہ بات ہرگز نہیں ملتی گی۔ پس اگر مل جائے تو خدا تعالیٰ کا کلام باطل ہوتا ہے۔ سو ان دونوں کے بعد خدا تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو دیکھئے گا کہ سخت ہو گئے اور انہوں نے اس ذیل اور مہلت کا تقدیر نہ کیا۔ جو چند روز تک ان کو دی گئی تھی۔ تو وہ اپنی کلام پاک کی پیش گوئی پوری کرنے کے لئے متوجہ ہو گا اور اسی طرح کرے گا۔ جیسا کہ اس نے فرمایا کہ میں اس عورت کو اس کے نکاح کے بعد واپس لااؤں گا اور تجھے دون گا اور میری تقدیر نہیں ملتی اور میرے آگے کوئی انہوں نہیں اور میں سب روکوں کو اٹھا دوں گا جو اس حکم کے نفاذ سے منع ہوں۔“

(اشتہار مورخ ۶ راکت ۱۸۹۷ء ص ۳، مجموعہ اشتہارات ج ۴ ص ۲۲۳)

اس بیان سے واضح ہو گیا کہ خود مرزا قادیانی کے نزدیک تقدیر مبرم اُنل ہے۔ اکنہ جائے تو خدا کا کلام باطل ہو جاتا ہے۔

عبد الرحمن قادیانی نے اپنے بیان میں نہایت صفائی سے اقرار کیا ہے اور اس اقرار میں ہم ان کی داد دیتے ہیں کہ احمد بیگ کے داماد کی موت اور محمدی بیگم کے نکاح کی ہر دو تقدیریں مُل گئیں۔ اب نتیجہ صاف ہے کہ یہ پیش گوئیاں خدا کی طرف سے نہیں تھیں۔ کیونکہ بوجب مرزا قادیانی کے قول کے خدا کی باتیں مُل نہیں سکتیں اور جب مُل گئیں تو لامحالہ مانا پڑے گا کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں تھیں۔ وہذا ہو المراد!

الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں

لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا

عبد الرحمن قادیانی کا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب مُل جانے کو سلطان محمد کی موت اور محمدی بیگم کے نکاح کے مُل جانے کی نظیر میں پیش کرنا بھی سراسر مغالطہ ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی مذکور نہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو خدا تعالیٰ کی وحی سے عذاب کی خبر سنائی تھی۔ تو وہ عذاب مُل گیا۔ مرزا قادیانی نے بھی حقیقت الوحی میں لکھا ہے: ”کیا یونس کی پیش گوئی نکاح پڑھنے سے کچھ کم تھی۔ جس میں بتلایا گیا تھا کہ آسمان پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ چالیس دن تک اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ مگر عذاب نازل نہ ہوا۔“

(تتمہ حقیقت الوحی ص ۱۳۲، بخاری ح ۲۲ ص ۵۷۰)

مرزا قادیانی کی بھی یہ تحریر بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ یہ لوگ اسی استاد ازل (المیں) سے سننا کر لیکر کے فقیر کی طرح ہاں کم دیتے ہیں اور اپنے علم اور ایمان سے کام نہیں لیتے۔

درپیش آئینہ طویل صفت داشتہ اند

ہرچہ استاد ازل گفت ہمال میگوئم

جو کچھ مرزا قادیانی نے لکھا ہے اور اس کی پیروی میں عبد الرحمن قادیانی نے کیا ہے وہ کسی آیت و حدیث صحیح میں وارد نہیں ہوا۔ یہ سراسر بہتان ہے۔ اگر ہمت ہے تو وہ کوئی آیت یا حدیث پیش کریں۔ جس میں یہ مذکور ہو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے خدا سے وحی پا کر کوئی پیش گوئی عذاب کی کی تھی۔ یا یہ مذکور ہو کہ آسمان پر فیصلہ ہو چکا تھا۔ یا چالیس دن کی میعاد مذکور ہو۔ یہ سب کذب و افتراء ہے۔

نوٹ: اس کا جواب مرزا ای مناظرنے اخیر تک کچھ نہ دیا۔ مرتب

اور عبدالرحمن قادریانی اپنی تہذیب کے شہوت میں بار بار جو عطر افشا نی کر رہے ہیں کہ مرا قادریانی نے کہا تھا کہ چند احمد بیگ کے بھونکتے رہیں گے۔ ترکیب احمد بیگی موزوں نہیں ہے۔ رکبات میں نسبت کی ہے لگائیں تو ایک جزو حذف کر دی جاتی ہے۔ مثلاً مرزا قادریانی کا نام نای عا۔ غلام احمد تو اپنی ملت و امت کی نسبت کے وقت انہوں نے ان کا نام احمدی رکھا۔ اس لئے اگر س کی بجائے یوں کہا جائے کہ سلطان احمد جیتا رہے گا اور مرزا غلام احمد مر جائے گا اور محمدی بیگم مرزا جی کے نکاح میں نہیں آئے گی اور ان کے بعد چند احمدی کے بھونکتے رہیں گے تو نہایت مزدوں فضیح اور مطابق واقعہ ہو گا۔

نوٹ: اس وقت مرزا یوں کی حالت ناگفتہ ہے تھی۔

الغرض میں نے عبدالرحمن قادریانی کے سب عذرات کو الگ الگ کر کے ان کی دھیاں بکھیر دی ہیں اور میرے مطالبات کے جواب میں ان کی زبان بالکل بند پڑ گئی ہے اور اب وہ گالیوں پر اتر آئے ہیں۔ سعدی مرحوم نے حق کہا ہے۔

چو جست نماند جفا جوئے را

بہ پر خاش درہم نہد روئے را

نوٹ: غلیف قادریان مرزا محمود بھی ایسا ہی کہتے ہیں۔

”جب انسان بالکل سے شکست کھا کر ہار جاتا ہے تو گالیوں دینی شروع کرتا ہے اور جس قدر کوئی زیادہ گالیاں دیتا ہے اسی قدر اپنی شکست کو ثابت کرتا ہے۔“ (انوار خلافت ص ۱۵) اب فیصلہ پیلک کے ہاتھ میں ہے۔

نوٹ: حاضرین ہزارہا کی تعداد میں تھے۔ سب نے نعمہ تکمیر پکارا اور اسلام کی فتح منائی۔ مرزا جی اپنی سیج کے ایک کونے میں سمت گئے۔ آنکھیں نیچے تھیں۔ چہروں پر شرمندگی کے نشان نمایاں تھے۔

تمام مسلمان خوش و خرم قلعہ سے واپس آئے اور سارے شہر میں مرزا یوں کی رسولی کا جا بجا چرچا ہونے لگا۔

قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العلمين

۹ جولائی ۱۹۳۳ء

۱۔ میں اس اجلاس میں موجود تھا جو حالت اس وقت احمدی مبلغوں کی تھی۔ اگر غلیف قادریانی اس کو معائنہ فرماتے تو عمر بھر اس کا نقش ادا سے سامنے رہتا۔

پہلے روز کا دوسرا مناظرہ

۵ بجے شام سے بجے تک

مبحث ..... حیات حضرت مسیح علیہ السلام مدعا ..... اہل حدیث

مسلمان

صدر ..... شیخ عبدال قادر صاحب بیرونی

مناظر ..... جناب مولانا مولوی حافظ ابراهیم صاحب میر سیالکوٹی

قادیانی

صدر ..... مولوی

مناظر ..... مولوی علی محمد قادیانی

تقریر مولانا سیالکوٹی

حمد و صلوٰۃ اور اعوذ کے بعد مولانا صاحب نے حسب ذیل تقریر فرمائی۔

اما بعده! حضرات! اہمارا دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تک زندہ ہیں اور اسی امر کو ثابت کرنے کے لئے خاکسار اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول پاک کسی امر کا فیصلہ فرمادیوے تو کسی مسلمان مرد یا عورت کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا اور جو کوئی خدا اور رسول کے فیصلے سے انحراف کرے وہ صریح گمراہی میں پڑچکا۔ (احزاب: ۳۶)

اس آیت کے رو سے میں قرآن و حدیث سے اپنے فرض یعنی اثبات حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ثابت کرتا ہوں۔ جس کے بعد کسی مسلمان مرد یا عورت کو انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی چاہئے اور اگر کسی کے دل میں اس کے بعد بھی کوئی تردید باقی رہ جائے تو اس کے ایمان کی خیر نہیں۔

حضرات! مشکلہ شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ینزل عیسیٰ بن مریم الی الارض فیتزوج ویولد له ویمکث خمساً واربعین سنۃ ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا و عیسیٰ بن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر (مشکوٰۃ ص ۴۸۰، باب نزول عیسیٰ علیہ السلام کتاب الوفاء ص ۸۳۶، باب فی حشر عیسیٰ بن مریم مع نبینا)“ (حضرت عیسیٰ بن مریم زمین پر اتریں گے اور نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی اور پینتالیس سال دنیا میں رہیں گے۔

پھر فوت ہوں گے پس میرے پاس میرے مقبرے میں دفن ہوں گے۔ پس میں اور عیسیٰ بن مریم ایک ہی قبر سے اٹھیں گے، درمیان ابی بکر اور عمر کے۔ ۴)

اس حدیث میں چند باتیں میرے استدلال کی ہیں:

۱..... یہ کہ اس میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ زمین پر اتریں گے اور جب کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص لا ہو رجاء گا تو اس وقت وہ شخص لا ہو ریں میں وار و شدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے تو معلوم ہوا کہ جب آنحضرت ﷺ نے یہ فرمایا تھا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نہیں تھے۔

نیز یہ کہ آپ اس کے بعد اتریں گے اور یہ مخصوص مستلزم ہے آپ کی حیات کو۔

۲..... اس حدیث میں یہ بھی مصرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زوال کے بعد پینتالیس سال دنیا میں رہ کرفوت ہوں گے۔ جیسا کہ تم یموت سے ظاہر ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو ابھی اترے ہیں اور نہ ان کو پینتالیس سال گزرے ہیں۔ اس لئے فوت بھی نہیں ہوئے۔ اس سے آپ کی حیات بالکل صفائی سے ظاہر ہے۔

۳..... اس حدیث میں صریحاً مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں آ کر نکاح کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ جناب مرزا قادیانی آنجہانی اپنی کتاب (ضمیر انعام آخر) ص ۵۲، خزانہ حج (۳۲۷ ص ۳۲۷ حاشیہ) پر محترم محمد بیگم کے نکاح کے ذکر میں اسی حدیث کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جس نکاح کا ذکر ہے۔ اس سے بھی محمد بیگم کا نکاح مراد ہے۔ جو میرے ساتھ ہوگا۔ اور اس سے میری اولاد بھی ہوگی۔

چونکہ مرزا قادیانی نے اس حدیث کو اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔ اس لئے یہ حدیث اس کے نزد یک صحیح ثابت ہوئی۔ پس میرے مدد مقابل علی محمد قادیانی اس کی تسلیم سے سر نہیں پھیر سکتے۔

۴..... اس حدیث میں صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنحضرت ﷺ کے ساتھ آپ ﷺ کے روضہ اقدس میں دفن کئے جائیں گے۔ جیسا فید فن معی فی قبری سے ظاہر ہے۔ اس کی توضیح یوں ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو فلاں شخص کے پاس دفن کرو۔ تو جس کے پاس دفن کرنے کو کہا جاتا ہے وہ شخص پہلے فوت شدہ ہوتا ہے اور جس شخص کو کسی کے پاس دفن کرنے کو کہا جاتا ہے وہ اس کے پیچھے فوت ہوتا ہے۔ پس جب آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس دفن کئے جائیں گے تو معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ پہلے فوت

دونے والے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ﷺ کے بعد اور یہ بھی معلوم ہے کہ انحضرت ﷺ نے یہ حدیث اپنی دینیوی حیات طیبہ میں فرمائی تھی۔ پس عیسیٰ علیہ السلام انحضرت ﷺ کی زندگی تک توفیت شدہ نہ ہوئے۔ بلکہ زندہ ثابت ہوئے اور یہی مراد ہے۔

..... ۵ مخلوٰۃ شریف کی دوسری روایت میں مدینہ شریف کے رہنے والے راوی ابو مودودؒ کی شہادت موجود ہے۔ (مرقاۃ شرح مخلوٰۃ ح ۱۰ ص ۲۳۳) جو صلحاء و فضلاً نے مدینہ شریف میں سے تھے کہ روضہ اطہر میں بھی تک ایک قبر کی جگہ باقی موجود ہے اور یہ خاکسار بھی پچشم خود اس مانے میں بھی دیکھ آیا ہے اور جو لوگ زیارت مدینہ منورہ سے مشرف ہو چکے ہوں وہ شہادت دے سکتے ہیں۔ چنانچہ حاضرین میں سے جو اس شرف سے مشرف تھے۔ انہوں نے شہادت دی کہ واقعی بھی ایک قبر کی جگہ باقی موجود ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے مشہور ہے۔

اسی طرح خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے ذکر کے بعد فرمایا:

”وَانْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنْ بِهِ قَبْلِ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (النساء: ۱۵۹)“ ﴿اور نہیں ہوگا کوئی اہل کتاب (یہود) میں سے گمراہیان لے آئے گا۔ اس (عیسیٰ علیہ السلام) پر پہلے اس (عیسیٰ علیہ السلام) کی موت کے اور دن قیامت کے ہو گا وہ (عیسیٰ علیہ السلام) اوپر ان کے گواہ۔﴾

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ”اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں: ”ونباشد هیچ کس از اہل کتاب الا البتہ ایمان آورد بعیسیٰ پیش از مردن عیسیٰ علیہ السلام و روز قیامت باشد عیسیٰ علیہ السلام گواہ برایشان“

اور اس کے حاشیے میں فرماتے ہیں۔ ”یعنی یہودی کہ حاضر شونک نزول عیسیٰ علیہ السلام را البتہ ایمان آرند“

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ”کے ترجمہ اور حاشیہ میں چند باتیں قابل توضیح ہیں۔ جن پر میرے استدلال کی بنائے ہے۔

اول..... لیؤمنن کا صیغہ استقبال کا ہے کہ یہ بات زمان آئندہ میں ہوگی۔

دوم..... بہ اور موتہ کی ہر دو مجرور ضمیریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پھرتی ہے۔

سوم..... اس جگہ اہل کتاب سے وہ یہودی مراد ہیں۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت حاضر ہوں گے۔

چہارم..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان یہود کی بابت جو آپ کے نزول کے وقت آپ کی رسالت پر ایمان لائیں گے۔ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یہ ایمان لائے تھے۔ حاصل مطلب اس آیت کا یہ ہوا کہ قیامت سے پیشتر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے اور آپ کی موت سے پیشتر سب یہود جو اس وقت حاضر ہوں گے۔ آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے؟۔

چونکہ بھی تک عیسیٰ علیہ السلام نہ تو نازل ہوئے ہیں اور نہ سب یہود آپ کی رسالت پر ایمان لائے ہیں۔ اس لئے آپ کی وفات بھی واقع نہیں ہوئی۔ کیونکہ اس آیت میں صریح طور پر آپ کی موت سے پہلے ان امور کا واقع ہونا ذکور ہے۔

اس آیت کا جو ترجمہ اور تفسیر میں نے اختیار کیا ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے ترجمہ اور حاشیہ سے اس کی تائید و شہادت پیش کی ہے۔ جناب مرزا قادریانی آنجمنی اپنے دعویٰ مسیحیت سے پیشتر یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے ابڑ کر دوبارہ زمین پر آئیں گے اور اس آیت کا ترجمہ بھی وہی کرتے ہیں۔ جو ہم نے کیا۔ چنانچہ آپ ضمیمہ انجام آتھم میں اس کا یہی مفہوم لیتے ہیں اور غیر کامراجع حضرت عیسیٰ کو فرار دیتے ہیں۔

(از الہ اوبام ص ۳۷۰، خزانہ ج ۳ ص ۲۹۰)

اور ان کے پہلے خلیفہ اور ان کی جماعت میں علم و فضل میں سب سے بڑھ کر جناب حکیم نور دین صاحب بھیروی اپنی کتاب (فصل الخطاب ج ۲ ص ۲۷۶ حاشیہ) میں جوانہوں نے عیسایوں کے جواب میں بطور جنت قاطعہ اور فیصلہ کن دلیل کے لکھی تھی۔ اس میں اس آیت کا ترجمہ ہمارے موافق کرتے ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ اس دنیا میں آنے کی بابت جناب مرزا قادریانی اپنی مائیہ نازالہائی کتاب بر اہین احمدیہ کے حاشیے میں فرماتے ہیں۔

”هوالذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله“  
یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ تھج کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لا جائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق واقطاء میں پھیل جائے گا۔“  
(ص ۳۹۸، ۳۹۹ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۳، خزانہ ج اص ۵۹۳)

مرزا قادیانی کی یہ تحریر محتاج تشریع نہیں۔ آپ صریح الفاظ میں حضرت مسیح کی آمد ثانی کا اقرار کر رہے ہیں اور وہ بھی محض خیال اور رسمی عقیدے کی بناء پر نہیں بلکہ قرآن شریف کی آیت سے تمکن کر کے اقرار کرتے ہیں۔

اس کی مزید وضاحت کے لئے (براہین احمدیہ ص ۵۰۵ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۳، خداونج ص ۲۰۱) کا یہی حاشیہ ملاحظہ ہو۔ جہاں مرزا قادیانی فرماتے ہیں: ”وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدا تعالیٰ مجرمین کے لئے شدت اور غصب اور قرباً اور سختی کو استعمال میں لائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے۔“

لفظ یہ کہ اسے بھی الہام عسنسی ربکم ان یرحم ل علیکم و ان عدتم عدننا کے ماتحت لکھتے ہیں: ”اس کتاب براہین احمدیہ کی تصنیف کے وقت مرزا قادیانی، صاحب الہامات تھے بلکہ اس کتاب کی نسبت وہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب آنحضرت ﷺ کے دربار میں بھی پیش ہو کر وہاں سے منظور ہو چکی ہے اور اس کا نام اس عالم روایا میں قطبی رکھا تھا۔ اس مناسبت سے کہ یہ کتاب قطب ستارے کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم ہے۔“

(براہین احمدیہ ص ۲۲۸، ۲۲۹ حاشیہ، خداونج ص ۲۲۵)

تیرمولی نور الدین قادیانی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے قائل تھے۔

(دیکھو فصل الخطاب حصہ دوم ص ۷۲)

نوٹ: مولانا کی اس تقریر سے حاضرین پر مسرت کا ایک سال بندھ رہا تھا اور ایک ایک وجہ استدلال پر قربان ہو رہے تھے۔

### جواب از جانب مولوی علی محمد قادیانی

مولوی علی محمد قادیانی نے پہلے سورہ مائدہ کی آیت و کنت علیهم شهیدا مادمت فیہم فلماً توفیتني کنت انت الرقیب علیهم وانت على کل شئی شهید پڑھی اور پھر بغیر اس آیت کے متعلق کچھ ذکر کرنے کے فرمانے لگے کہ مولانا صاحب (سیالکوٹی) میرے مطالبات کا جواب دیں اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ مولانا صاحب ہرگز جواب نہ دے سکیں گے۔ (جل جلالہ)

۱۔ مرزا قادیانی کا یہ الہام قرآن مجید کی ایک آیت کو بگاڑ کر بنایا گیا ہے۔ قرآن شریف میں یوں ہے۔ عسنى ربکم ان یرحمکم (بنی اسرائیل: ۸: ) رحم یرحم مجرد فعل کا صلنہیں آیا کرتا۔

اول ..... یہ کہ قرآن و حدیث سے عیسیٰ کامع جسم کے آسان پر جانا ثابت کریں۔  
 دوم ..... یہ کہ مغارج میں آنحضرت ﷺ نے حضرت سُقیع علیہ السلام کو دوسرے  
 فوت شدہ انبیاء کے ساتھ دیکھا۔ اگر وہ فوت شدہ نہیں تھے تو ان کے ساتھ کیسے ہوئے؟۔  
 سوم ..... یہ کہ قیامت کو جب خدا تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ کیا  
 تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے خدامانوادہ کہیں گے میں نے ایسا ہر گز نہیں کہا۔ جب تک میں  
 زندہ رہا۔ تب تک ان پر شاہد رہا۔ لیکن جب تو نے مجھے فوت کر لیا تو پھر مجھے خبر نہیں۔ لہذا وہ  
 فوت ہو گئے۔

چہارم ..... یہ کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم خاکی سے آسان پر پہنچے۔ جب  
 تشریف لا یں گے تو کون سے کام کریں گے۔ اگر انہوں نے آنا ہے تو جس طرح ان کی گذشتہ  
 زندگی کے واقعات مندرج ہیں۔ آئندہ زندگی کے کام کیوں تحریر نہیں کئے۔  
 پنجم ..... یہ کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے منکر و موافق قیامت تک رکھوں گا۔ تو  
 کس طرح تمام لوگ ان کے تابع ہو جائیں گے۔

ششم ..... یہ کہ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں میں قیامت تک دشمنی ہو  
 جائے گی۔ پھر وہ سب کس طرح ایمان لے آئیں گے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنحضرت  
 کے مقبرہ میں دفن ہو بنا صحیح ہے تو حضرت عائشہ کو تین چاند کیوں دکھائے گے۔ پھر تو چار دکھائے  
 جانے چاہیں تھے۔ نیز مولانا صاحب قبر کے معنے مقبرہ کسی معتبر سند سے دکھائیں۔  
 یہ وہ مطالبات ہیں۔ جن کے جواب مولانا صاحب ہرگز نہیں دے سکیں گے اور مولانا  
 نے ینزل الی الارض سے جو استدال کیا ہے وہ بھی درست نہیں کہ بلعما باعور کی نسبت  
 قرآن میں وارد ہے۔ ولکنہ اخلد الی الارض تو کیا وہ بھی زمین پر نہ تھا۔  
 مسوالن کے قرآن شریف کی کئی آیات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت شدہ ثابت  
 ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا:

۱ ..... ”وَمَا مُحَمَّدُ الْأَرْسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ“ الرسل کا  
 الف لام استغراق کے لئے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب رسول جو آنحضرت ﷺ سے پہلے  
 تھے مر گئے۔ انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔

۲ ..... نیز فرمایا ”یعیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی“ اے عیسیٰ میں تھے  
 فوت کرلوں گا اور اپنی طرف اٹھالوں گا۔

- ۳ ..... نیز فرمایا "اللہ نجعل الارض کفانا احیاء و امواتا" کیا نہیں بنائی  
ہم نے زمین کافی زندوں کے لئے اور مردوں کے لئے۔ (تجدد لانے پر پھر کہا سمجھنے والی)
- ۴ ..... آنحضرت ﷺ کو زمین ہی میں بھرت کرائی گئی۔ حضرت عیسیٰ کو کیوں  
آسمان پر چڑھالیا۔
- ۵ ..... نیز فقہا کبر میں لکھا ہے "لوکان موسیٰ و عیسیٰ حبیب لما  
و سعهمَا الْاِتْبَاعِيٌّ"
- ۶ ..... اور مرزاقادیانی نے حیات مسیح کو جامانا ہے تو الہام سے پہلے مان تھا۔ الہام  
کے بعد وہ عقیدہ منسوخ ہو گیا۔ جس طرح آنحضرت ﷺ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے  
نماز پڑھتے تھے۔ لیکن جب وحی آگئی تو بیت اللہ کی طرف پڑھنے لگے۔  
اور مرزاقادیانی الہام کے بعد بھی جو بارہ برس تک حیات مسیح کو مانتے رہے تو رکی  
عقیدے سے مانتے رہے اور یہ بھکی غلطی تھی اور علمہم الہام کے سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہے۔  
نیز آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متی پر بھی فضیلت نہ دو اور یہ بھی فرمایا کہ  
میں تمام نبیوں سے افضل ہوں۔ پس جب آپ گودھی ہوئی تو آپ نے فضیلت کا اکٹھا فرمایا۔ اسی  
طرح جب حضرت مرزاقادیانی کو الہام ہوا تو انہوں نے بھی دعویٰ کر دیا۔  
میرا حق نفق کا بھی ہے اور منع کا بھی۔
- ۷ ..... آپ کے محدث ابن حزم اور امام مالک بھی تو وفات مسیح کے قائل ہیں۔

### جواب الجواب از جانب مولانا محمد ابراہیم میر صاحب سیالکوٹی

نوٹ: چونکہ قادریانی مولوی صاحب نے اپنے جواب میں اصل مبحث سے تجاوز کر  
کے اور تواعد مناظرہ کے خلاف ورزی کر کے کئی ایک باتیں زائد کہہ دیں۔ جوان کا حق نہیں  
تھا۔ اس لئے ہمیں ان کی بے قاعدگی دکھانے اور زائد از مبحث مقرر باتوں کا جواب جو مولانا  
ابراہیم نے دیا تھا۔ اپنے ناظرین تک پہنچانے کے لئے جواب الجواب کے الگ نقل کرنے کی  
ضرورت محسوس ہوئی۔ (مرتب)

۱۔ مولوی علی محمد قادریانی نے اسی حدیث کا حوالہ پہلے فقہا کبر اور پھر شرح فقہا کبر میں بتایا  
تھا۔ جس میں حضرت موسیٰ و عیسیٰ دونوں کا ذکر ہے اور اکیلے حضرت عیسیٰ کی بابت جو روایت شرح  
فقہا کبر میں ہے۔ اس کی ضعف کا اشارہ خود اسی کتاب میں موجود ہے۔

حضرت مولانا نامہ ظلمہ نے حمد و صلوٰۃ کے بعد فرمایا۔

مولوی علی محمد قادریانی نے اس جواب میں کئی ایک باتیں بے قاعدہ اور کئی ایک اصل بحث سے زائد کہی ہیں۔ جوان کی نوا آموزی کی دلیل ہے۔

ابھی دربانی کے انداز سے  
کہ آسان نہیں دل بھانا کسی کا

قادیانی حضرات نے احمد یہ ڈائری کے اندر اجات رٹے ہوئے ہیں اور ان کے معلومات اس سے پرے نہیں ہوتے اور میرے استدلال کے جوابات اس میں درج نہیں ہیں۔ اس لئے میرے مد مقابل مولوی علی محمد قادریانی نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے وقت کو پورا کرنا چاہا اور میرے بیان کردہ دلائل کا کچھ بھی جواب نہیں دے سکے اور اس پر بھی تعلی سے سمجھتے ہیں کہ مولانا میرے مطالبات کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ ابھی! آپ کو کیا معلوم کہ میں کیا کیا جواب دوں گا۔ اب تفصیلاً سنتے جائیے اور جواب الجواب کے لئے احمد یہ ڈائری کے درق اللہتے جائیے۔

تفصیلاً معروض ہے کہ اصل بحث ہے۔ حیات حضرت مسیح دیکھنے (کاغذ شرائط نامہ) اور اس کا مدعا میں ہوں۔ پس میں نے جو دلائل حیات حضرت مسیح کے ذکر کئے ہیں۔ مولوی علی محمد قادریانی کا فرض ہے کہ اس پر بہادرت دلائل جرح کریں۔ اسے اصطلاح میں تقض کہتے ہیں

یا اگر میں نے کوئی حوالہ غلط پیش کیا ہے تو مجھ سے اس کی صحت طلب کریں۔ اسے اصطلاح میں صحیح کہتے ہیں۔ (ویکھو رشید یہ) اور اگر میں نے اپنے دعویٰ کی کسی جزو کو بھی بغیر دلیل کے چھوڑا ہے تو مجھ سے اس کی دلیل طلب کریں۔ اسے اصطلاح میں منع کہتے ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں نے کسی امر کو بغیر دلیل کے بیان نہیں کیا اور کوئی حوالہ غلط ذکر نہیں کیا اور مولوی قادریانی موصوف نے نہ تو میرے دلائل پر جرح کی ہے اور نہ میرے بیان کردہ حوالوں کی صحیح کا سوال کیا ہے۔ گویا خاموشی سے انہیں تسلیم کر لیا ہے۔ اس پر بھی نہایت سادگی سے کہتے ہیں کہ میرا حق تقض کا بھی ہے اور منع کا بھی۔

یہ بھی ان کی ناقشی کی دلیل ہے۔ لہذا ان کے جس قدر مطالبات نہیں سب بے کار ہیں۔ نیز یہ کہ بحث وفات مسیح نہیں ہے اور نہ وہ اس کے مدعا ہیں کہ وہ وفات مسیح کے دلائل بیان کر سکیں میں خدا کے فضل سے قاعدے اور قرینے سے چلتا ہوں۔ میری تقریر کا کوئی جز بھی بے قاعدہ اور خارج از بحث نہیں ہے۔ مولوی قادریانی نے حدیث مشکوٰۃ کا اور آیت قرآن کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا استدلال حدیث میں سے لفظ شمیموت سے تھا اور اس کی

تصدیق میں قرآن شریف کے الفاظ قبل موتہ سے تھا۔ جس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بلکہ میں نے مرزاقادیانی اور مولوی نور الدین قادریانی کی کتابوں سے دکھادیا کہ وہ بھی اس آیت کے معنے وہی کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں اور ان معنوں کے رو سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بالکل ظاہر ہے۔

مولوی علی محمد قادریانی کا یہ کہنا کہ عیسیٰ کا مع جسم کے آسمان پر جانا ثابت کریں۔ اصل مبحث سے زائد ہے۔ کیونکہ مبحث اثبات حیات ہے نہ اثبات رفع سماوی۔ لیکن یہ سوال چونکہ قادریانی مولوی کے منہ سے نکل گیا ہے اور پبلک کو اس سے دلچسپی ہے۔ اس لئے میں اس بات کو خدا کے فضل سے ثابت کرتا ہوں۔ دیکھئے جناب! کنز العمال میں ایک لمبی حدیث ہے۔ جس میں یہ بھی مذکور ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا "فَعِنْدَ ذَالِكَ يُنَزَّلُ أخْرَى عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ مِنَ السَّمَاوَاتِ" (برحائیہ مندادام احمد ج ۲ ص ۵۶، کنز العمال ج ۱۲ ص ۲۱۹، حدیث نمبر ۲۶۴۷) یعنی جب ایسے ایسے واقعات ہوں گے تو اس وقت میرا بھائی عیسیٰ بن مریم آسمان سے اترے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تبلیغ کے وقت زمین پر ہونا تو مسلمہ فریقین ہے۔ پس جب اس حدیث کے رو سے وہ دوبارہ آنے کے وقت آسمان سے اتیریں گے تو معلوم ہوا کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔

نوت: اس پر حاضرین بہت محظوظ ہوئے اور عش عش کرنے لگے۔ (مرتب)

لیجھے اس پر مرزاقادیانی کے دستخط بھی کراویں آپ برائیں میں فرماتے ہیں کہ "حضرت مسیح تو نجیل کو ناقص ہی چھوڑ کر آسمانوں پر جائیں گے"

(برائیں حاشیہ ص ۲۲۸، خزانہ ح اص ۲۳۱)

دیگر یہ کہ مرزاقادیانی (ازالہ ادہام ص ۸۱) میں فرماتے ہیں کہ: "صحیح مسلم میں ہے کہ مسیح جب آسمان سے اترے گا تو اس کا لباس زرد چادریں ہوں گی۔" (ازالہ ص ۸۱، خزانہ ح اص ۲۳۲) اسی طرح رسالہ تحدید الا ذہان میں مرزاقادیانی کا قول ہے۔ "دیکھو میری بیماری کی نسبت ہمی آنحضرت ﷺ نے پیش کوئی کی تھی جو اس طرح وقوع میں آئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان پر سے جب اترے گا تو دوزد چادریں اس نے پہنی ہوں گی تو اسی طرح مجھے دو بیماریاں ہیں۔" (ملفوظات ح اص ۲۳۵)

زرد لباس سے مراد اصل لباس ہو یا مرزاقادیانی والی بیماریاں ہوں۔ میرے مقصد سے باہر ہے۔ میرا استدلال (الفاظ آسمان پر ہے اترے گا) سے ہے کہ مرزاقادیانی حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کے آسمان سے اترنے کو مانتے رہے اور یہ آپ کے اس وقت کے مسلمات ہیں۔ جب آپ نے مثیل مسح کا دعویٰ بھی کر دیا تھا۔

۲..... اور مولوی علی محمد قادریانی نے یہ جو کہا کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عیسیٰ کو دوسرے انبیاء کے ساتھ دیکھا تو ثابت ہوا کہ وہ فوت شدہ ہیں۔ یہ استدلال درست نہیں۔ کیونکہ اس سے تو پھر یہ لازم آئے گا کہ اس وقت خود آنحضرت ﷺ بھی فوت شدہ ہوں۔ حالانکہ آنحضرت ﷺ کو اس دنیوی زندگی میں جسمانی معراج ہوئی۔ پس جس طرح دوسرے انبیاء کی ملاقات کے وقت آنحضرت ﷺ زندہ تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہیں اور اس کی نظر حدیثوں میں آچکی ہے۔

نوٹ: قادریانی مولوی نے اپنے وقت میں اس کا کوئی جواب نہ دیا اور اخیر وقت تک پھر اس امر کو دہرا بھی نہ سکے۔

۳..... اور مولوی علی محمد قادریانی نے جو کہا کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کہیں گے فلماتوفیتنی اور اس سے ثابت کرنا چاہا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت شدہ ہیں۔ سو یہ بھی درست نہیں۔ جملہ مفسرین اس جگہ توفیتنی کے معنی رفعتنی الی السماء لیتے ہیں۔ چنانچہ (تفسیر بیضاوی ج اصل ۲۵۳) میں ہے۔

”فلماتوفیتنی بالرفع الی السماء..... والتوفی اخذ الشیء وافیا“ یعنی تو نے مجھے آسمان کی طرف اٹھا کر پورا پورا لیا اور توفی کے معنی ہیں کسی چیز کو پورا پورا لے لینا۔

اسی طرح تفسیر فیضی میں ہے جس کی زبان دانی تمام ہندوستان میں مسلم ہے۔ ”اراد اعلاء ه مصاعد السماء“ (سوانح الابهام ص ۲۷، مطبع نوکشہ رکھنہ) یعنی اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی بلندیوں پر چڑھایا ہے۔

اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں: ”پس وقتیکہ برگر فتی مرا“، اس پر حاشیہ میں لکھتے ہیں ”یعنی برآسمان بر دی مرا“، ”یعنی مجھے تو آسمان پر لے گیا۔“

اسی طرح دیگر تفاسیر معتبرہ میں بھی ہے۔ غرض سب مفسرین اس کے معنی آسمان پر اٹھانے کے کرتے چلے آئے ہیں۔ پس یہ تو ہمارے اثبات دعویٰ کی دلیل ہوئی نہ کہ ہمارے خلاف۔

..... اور یہ جو کہا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم خاکی سے آسمان پر پہنچے۔ تو جواباً معروض ہے کہ ہاں جناب جسم خاکی سے گئے۔ قرآن تحریف کے سیاق کو دیکھئے کہ یہود نے کہا۔

”اما قتلنا المسيح عيسى بن مریم رسول الله (نساء: ۱۵۷)“ یعنی ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو قتل کر دا۔ اور ظاہر ہے کہ قتل کے لائق یہی جسم خاکی ہوا کرتا ہے۔ روح کوئی قتل کر سکتا ہے اور نہ وہ قابل قتل ہے اور یہودیوں کے اسی قول کی تردید میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ”وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه (نساء: ۱۵۷)“ یعنی یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ بلکہ خدا نے اسے اپنی طرف اوپر اٹھالیا۔ اب سیاق کو بخوبی رکھ کر ہر عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ جب یہود کا دعویٰ قتل جسم کا تھا تو خدا تعالیٰ نے اس کی تردید کر کے جس چیز کو اوپر اٹھانے کا ذکر کیا ہے وہ جسم نہ ہوا تو کیا ہوا۔

نوت: اس پر حاضرین مخطوظ ہوئے اور ہر طرف سے واہ واہ کی صدابند ہوئی۔

اور یہ جو آپ نے دریافت کیا کہ جب حضرت عیسیٰ دوبارہ تشریف لاویں گے تو کیا کام کریں گے۔ جناب من وہی کام کریں گے جو مرزا قادیانی نے براہین میں فرمایا ہے کہ: ”دین اسلام کو جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر غلبہ دیں گے۔“

(براہین احمدی ص ۲۹۸ حاشیہ، خزانہ حج اص ۵۹۳)

ند کہ مرزا قادیانی کی طرح گورنمنٹ کی خوشامد میں کیا مسلمانوں کو کیا ہندوستانیوں کو اور کیا دیگر ممالک والوں کو یہ وعظ کریں گے کہ تم سب اس محسن گورنمنٹ کے نمک خوار و فادار بننے رہو۔ جب کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتب تحفہ قیصریہ اور فریاد درد اور ضرورت الامام میں تصریح ارقام فرمایا ہے۔

نوت: اس کا جواب مولوی صاحب قادیانی نے کچھ نہ دیا اور نہ انحراف پھر اس کو دہرا یا۔

۵ ..... اور آپ نے یہ جو کہا کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں میں قیامت تک دشمنی رہے گی۔ تو پھر سب کیسے ایمان لے آئیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان اور عداوت باہمی میں منافات نہیں ہے۔ دونوں باہم جمع ہو سکتے ہیں۔ سمجھنہ آئے تو قادیانیوں اور لاہوریوں میں دیکھ لیجئے کہ دونوں احمدی کھلاتے ہیں اور ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ لیکن آپس میں لکنی منافرت اور عداوت ہے۔

۶ ..... اور آپ حضرت عائشہؓ کے تین چاند دیکھنے والے خواب سے جو اس حدیث کو رد کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اذل تو یہ حدیث مرزا قادیانی کے مسلمات سے ہے۔ آپ ان کے انتی ہوتے ہوئے اس سے انکار نہیں کر سکتے۔

دیگر یہ کہ اگر یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کے الفاظ ”فیتزوج ویولدہ“ (ضمیر انجام

آنحضرت مص ۵۲، خزانہ انص ۳۲ حاشیہ) سے مرزا قادیانی کا محترم محمدی بیگم کے نکاح اور اس کے بطن سے اپنی اولاد پیدا ہونے کی تصدیق اور پھر اس پر اپنے مسح موعود ہونے کی بنا کو کھڑا کرنا سب کچھ باطل ہو جائے گا اور اس میں آپ مرزا قادیانی کی تائید نہیں کریں گے بلکہ تردید کریں گے۔ دیگر یہ کہ حضرت عائشہؓؒ کو خواب میں تین چاند اس لئے دکھائے گئے کہ ان کی زندگی میں تین چاند ہی ان کے مجرے میں دفن ہونے والے تھے اور وہ صرف تینوں ہی کو دیکھنے والی تھیں۔ یعنی آنحضرت ﷺ کو اور اپنے باب حضرت ابو بکرؓؒ اور حضرت عمرؓؒ باقی رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سو وہ حضرت عائشہؓؒ کی زندگی میں دفن ہونے والے نہیں تھے۔ اس لئے ان کو نہ دکھائے گئے۔

نوٹ: حاضرین اس سکتے پر بھی عش عش کرائیں اور حضرت مولانا کی عمر درازی کے لئے دعائیں کرنے لگے۔ اللهم متعنا بطول حیاتہ! آمين!

..... اور قبر بمعنی مقبرہ اول تو اسی جگہ (مشکوٰۃ شریف ص ۸۸۰، باب نزول عیسیٰ علیہ السلام) میں اسی حدیث میں ملا علی قاریؒ کے حوالے سے یہیں السطور حاشیہ میں لکھا ہے۔ دوم یہ کہ مرزا قادیانی آنجمانی بھی اسے تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ ازالہ اورہام میں فرماتے ہیں کہ: ”ممکن ہے کوئی مثل مسیح ایسا بھی آجائے جو آنحضرت ﷺ کے روضہ کے پاس مدفون ہو۔“ (ازالہ ص ۲۰۰، خزانہ انص ۳۲ ص ۷۶)

اس حوالہ سے قبر بمعنی روضہ (مقبرہ) بھی مانا گیا ہے اور پاس دفن ہونا بھی مانا گیا ہے۔ وہ المراد!

..... ۸ اور یہ نزل الی الارض کے جواب میں جو آپ نے اخلد الی الارض کو پیش کیا ہے۔ سو وہ بھی بھل ہے۔ اخلد الی الارض میں تو اخلد خود موجود ہے کہ وہ شخص آگے زمین میں موجود تھا۔ اس نے زمینی امور سفلیات میں پڑ کر اسی میں رہنا چاہا۔

نوٹ: چنانچہ (تفیر خازن ج ۲ ص ۱۶۵) میں اس لفظ کے ذیل میں لکھا ہے۔ ”اصلہ من اللہ لود وہ الدوام والمقام“ یعنی اخلد کا اصل خلود ہے۔ جس کے معنی ہیں۔ ہمیشہ رہنا اور رکھرہنا۔

اور وفات مسح کی جو آیات آپ نے پڑھی ہیں۔ وہ بالکل بے موقع ہیں اور بے وقت کی راگنی ہے۔ کیونکہ مبحث اثبات حیات مسح ہے۔ جس میں مدعا میں ہوں۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا اور اگر آپ اسے معارضہ قرار دیں تو معارضہ کا حق اس وقت ہوتا ہے۔ جب

## فریق ثانی شک میں ہو۔

چنانچہ قرآن شریف میں ہے۔ ”وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رِيبٍ مَا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مُّثْلِهِ“ (بقرہ: ۴۲) ॥ ہاں آپ شک کا اقرار کر کے معارضات پیش کرتے تو معارضہ باقاعدہ ہوتا۔ ٹھیر اس پر بھی میں آپ کے معارضے کی دلیلوں کو ایک ایک کر کے توڑتا ہوں۔ تاکہ عوام دھوکے سے محفوظ رہیں اور قرآن شریف اختلاف بیانی سے سالم نظر آئے سنتے جائیے۔

۱..... ”قدخلت من قبله الرسل (آل عمران: ۱۴۴)“ میں آپ نے خلت کے معنی فوت کئے اور الف لام کو کہا استغراقی سواس میں آپ نے مرزا قادیانی کے خلاف کیا۔ جن کی حمایت میں آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی جنگ مقدس میں عیسائیوں کے مقابلے میں اس کے معنی کرتے ہیں۔ ”اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں۔“ (جنگ مقدس ص ۷، خزانہ ج ۶ ص ۸۹)

نیز مولوی نور الدین جو مرزا قادیانی کے پہلے خلیفہ تھے اور علم و فضل میں آپ کی ساری جماعت میں افضل تھے۔ عیسائیوں کے مقابلے میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔ ”پہلے اس سے بہت رسول ہو چکے۔“ (فصل الخطاب ج ۱ ص ۲۵، حاشیہ بارودم)

پس ان ہر دو ترجموں کے رو سے آپ کے استدلال کی دونوں بنائیں غلط ہو گئیں۔ نہ خلت کے معنی موت رہے اور نہ الف لام استغراقی رہا۔

۲..... آیت انی متوفیک سے حضرت مسیح کی وفات ثابت کرنی بالکل غلط ہے۔ جناب مرزا قادیانی اس آیت کے معنی بر اہین میں یوں کرتے ہیں۔ ”اے عیسیٰ میں تجھے کامل اجر بخششوں گا۔“ (بر اہین احمدیہ حصہ چہارم حاشیہ در حاشیہ نمبر ۷ ص ۵۵، خزانہ ج ۱ ص ۲۶۲) نیز یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ”اے عیسیٰ میں تجھ کو پوری نعمت دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔“ (بر اہین احمدیہ حصہ چہارم حاشیہ ص ۱۹۵، خزانہ ج ۱ ص ۲۶۰)

۳..... اور آپ کا آیت الٰم نجعل الارض كفاناً کو بھی وفات کے دلائل میں شمار کرنا بالکل لا حاصل ہے۔ کیونکہ اذل! تو یہ آیت آپ کے مقصود یعنی وفات مسیح سے بالکل ساکت ہے۔ کیونکہ اس کا مفاد تو یہ ہے کہ سب زندے اور مردے اس میں ساکتے ہیں۔ پس جب زندے بھی ساکتے ہیں تو یہ موت کے لئے دلیل نہ ہو سکی۔

دوم! یہ کہ میں خاص دلائل ہے حضرت عیسیٰ کی حیات ثابت کر چکا ہوں اور علم اصول

میں مقرر و مسلم ہے کہ دلیل خاص دلیل عام پر مقدم ہوتی ہے اور ان دونوں کے مقابلے میں دلیل خاص کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس کی نظر قرآن مجید میں بکثرت ہیں اور اہل علم کو معلوم ہیں۔ ا حاجت تفصیل کی نہیں۔

اچھاً اگر اس آیت کے رو سے کوئی زندہ شخص آسمان پر نہیں جا سکتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی طرح چلے گئے۔ جن کی بابت جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: ”یہ موسیٰ علیہ السلام مرد خدا ہے۔ جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہے اور مردوں میں نہیں..... مگر ہم قرآن میں بغیر وفات عیسیٰ کے اور کچھ نہیں پاتے۔“ (نور الحلق اول ص ۵۰، خزانہ حج ۲۸، ۶۹ ص ۶۸، ۶۹)

اور آپ کا یہ کہنا کہ یہ زندگی روحانی ہے۔ بالکل غلط ہے اور مرزا قادیانی کی تقریر کے بالکل خلاف ہے۔ روحانی زندگی تو بعد وفات سب انبیاء کو حاصل ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟۔ نیز اس کے بعد مرزا قادیانی نے جو حضرت عیسیٰ کو مردہ کہا تو یہ تفریق تواری ہی ہے کہ مرزا قادیانی حضرت موسیٰ کو جسمانی زندگی سے زندہ سمجھتے تھے۔

احمدی کہلانے والے دوستو! آج آپ کیسی بھلی ہوئی باتیں کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے کلام کی توجیہات ان کی تصریحات کے خلاف بیان کرتے ہیں۔ دیکھئے میں وہی باتیں اور اسی رنگ میں بیان کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی نے جس رنگ میں بیان کی ہیں۔ میں تو ہرگز مرزا قادیانی کے اقوال سے ادھر ادھر نہیں پڑتا۔ آج آپ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ بات بات میں مرزا قادیانی کے خلاف چلتے ہیں۔

نوٹ: اس کے بعد مرزا ای مولوی نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔

ہاں آپ اس آیت کو اپنے اس سوال کا ضمنہ بنائے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی بحث زمین پر کیوں نہ کرائی۔ سواں کا جواب یہ ہے کہ خدا کافیض ہر شخص سے اس کی فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ آنحضرت ﷺ کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں بھی فرق ہے تو ان

ع مثلاً یہ کہ عالم انسانوں نے پیدائش کی نسبت فرمایا ”انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج (دہر: ۲)“ یعنی انسان کو ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا اور اس کے برخلاف حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ اور حضرت حواءَ کی نسبت خاص ولائل سے معلوم ہے کہ ان کی پیدائش بائیں طور پر نہیں ہوئی۔ پس ان کے متعلق دلیل تمام کا اعتبار کیا گا ہے اور دلیل عالم ان کی نسبت چھوڑ دیا گیا ہے۔

کی بھرت میں بھی اس خرق کو ملاحظہ رکھا ہے۔ آنحضرت ﷺ کی پیدائش ہر دو ماں اور باپ سے ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عالم امر سے نفع جریلی سے ہوئی۔ اس لئے خدا کی حکمت نے تقاضا کیا کہ آپ کو طلن اے ملائکہ یعنی آسمان پر بھرت کرائی جائے۔

نوٹ: خاضرین اس نکتے پر خوشی سے اچھل پڑے اور سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدائیں سے میدان گونج اٹھا۔ مرزا یوں کے رنگ اڑ گئے اور پھر اس سوال کو نہ دھرا یا۔ (مرتب)

..... اور آپ نے فقداً کبر کے حوالے سے جو یہ کہا کہ اس میں حدیث ہے۔  
”لوکان موسیٰ و عیسیٰ حبین لِمَا وَسَعَهُمَا إِلَّا اتِباعِي“ سواس کا جواب یہ ہے کہ اول توفقاً کبر حدیث کی کتاب نہیں کہ اس کے متعلق اس کا حوالہ معتبر سمجھا جائے۔ دیگر یہ کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ نے یہ بالکل غلط کہا ہے کہ یہ حدیث فقداً کبر میں موجود ہے۔ یہ حدیث فقداً کبر میں ہرگز نہیں ہے۔ پچھے ہوتا کال کرد کھاؤ۔

نوٹ: حضرت مولانا صاحب کی اس ڈانٹ پر مرزاً مولوی نے اپنی نوبت میں اس کی نسبت تسلیم کر لیا کہ یہ حدیث فقداً کبر میں نہیں ہے۔ لیکن منہ ڈھیلا کر کے کہنے لگے کہ ہاں فقداً کبر کی شرح میں موجود ہے۔ حضرت مولانا صاحب نے فرمایا کہ جو حدیث تم پیش کرتے ہو وہ فقداً کبر کی شرح میں بھی نہیں ہے۔ مرزاً میں پربھوت ہو گئے اور لوگ ہر طرف سے ان کی کذب بیانی اور دھوکا دہی پر ان پر ملامت اور شرم! شرم!! کے آوازے مارنے لگے۔

حضرت مولانا نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا۔ بلکہ فقداً کبر میں اس کے برخلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کی تصریح موجود ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت امام اعظم جن کی تقلید کا اقرار خود مرزا قادیانی کو بھی ہے اور مولوی نور الدین قادیانی بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی قبل از دعوےِ خفی مذهب کے پابند تھے۔ اب سنئے کہ خفی مذهب کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ (فقہاً کبر ص ۸، وطبع مصر) میں فرماتے ہیں کہ: ”ونزول عیسیٰ علیہ السلام من السمااء..... حق کائن“ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور دیگر علمات قیامت سب حق ہیں اور ضرور ہونے والی ہیں۔

۱۔ جب مولانا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھرت کا نکتہ بیان فرمایا۔ اس وقت میں اتفاقاً گرمی کی شدت کے سبب باہر نکلا تو ایک شہنشہ جس کو میں پہچانتا ہے تھا یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس ماں پر ہزار ہزار حمتیں نازل فرماؤ۔ جس نے ایسا فرزند ارجمند جنا۔ تو میں نے آمین۔ (مرتب)

اسی طرح ملا علی قاری صاحب<sup>ؒ</sup> اس کی (شرح ص ۱۳۶) میں خوب دل کھول کر اس کی توضیح کرتے ہیں۔ جس کو مولوی علی محمد مرزا لی سمجھنیں سکتے۔

دیگر یہ کہ شرح عقائد فی میں ہے جو حنفی عقائد کی مشہور اور درسی کتاب ہے۔ ”ونزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء..... فهو حق“ (شرح عقائد السنفیہ ص ۱۷۲) یعنی سب باقیں جن کی خبر نبی ﷺ نے دی ہے۔ جن میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا ہے۔ وہ سب کچھ حق ہے۔

اسی طرح ہمارے سیالکوئیوں کے فخر جناب مولانا عبدالحکیم صاحب<sup>ؒ</sup> فاضل سیالکوئی شرح عقائد کے حاشیہ خیالی کے حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ: ”وانما اكتفى الشارح بذكر عیسیٰ لان حیاته ونزوله الی الارض واستقراره علیه قد ثبت باحدیث صحیحة بحیث لم یبق فیه شبہة ولم یختلف فیه احد“ (ص ۲۵۲ عبدالحکیم مطبوعہ مصر) یعنی شارح تفتازانی نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر اس لئے کفایت کی کہ ان کی حیات اور ان کا زامین پر نازل ہوتا اور پھر زمین پر آباد رہنا صحیح حدیث سے ایسا ثابت ہو چکا ہے کہ اس بارے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ گیا اور اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ دیکھئے حنفی مذہب میں تو یہ لکھا ہے۔ جو ہم نے سب کے سامنے کتابیں کھول کر سنایا۔ نہ وہ جو آپ نے جھوٹ موت کہہ دیا اور نکال کر نہیں بتایا۔

بیز یہ کہ مرزا قادیانی جس طرح قرآن و حدیث میں کثر یونہت کر کے ان کے مطالب کو بگاڑتے رہے۔ اسی طرح وہ حنفی مذہب کا دعویٰ کر کے بھی لوگوں کو دھوکا دیتے رہے اور اسی طرح آپ بھی ان کے بعد مذہب حنفی کی کتابوں کے غلط حوالے دیتے ہیں۔

نوٹ: حضرت مولانا صاحب (دام اللہ بتقاوہ) کی اس تقریر سے مرزا گنیوں پر رسولی کی گھٹائیں چھا گئیں اور ان پر ایک عالم سکتہ طاری ہو گیا۔ تمام مسلمان خوشی سے محجیرت تھے کہ حضرت مولانا مرزا گنیوں کی ہربات کا جواب کس طرح بر جست اور بیسانہ فوراً کتابیں نکالی دکھا دیتے ہیں اور ان کی خیانت اور دھوکا بازی کو طشت از بام کر دیتے ہیں۔

حضرت مولانا صاحب نے تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ مولوی علی محمد قادیانی نے مرزا قادیانی کی طرف سے اجتہادی غلطی وغیرہ کے جو عذر کئے ہیں۔ وہ سب نادرست ہیں۔ مرزا قادیانی بقول خود براہین کی تصنیف کے وقت بھی خدا کے نزدیک رسول اللہ تھے۔

(دیکھو امام الحسن لصلح ص ۵۷ اردو، خزانہ امن ج ۲۰۹ ص ۱۳۶)

پھر مرزا قادیانی کا یہ بھی قول ہے۔ ”انبیاء کی اپنی ہستی کچھ نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ اس طرح بکلی خدا تعالیٰ کی تصرف میں ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک کل انسان کے تصرف میں ہوتی ہے..... انبیاء نہیں بولتے جب تک خدا ان کو نہ بلائے اور کوئی کام نہیں کرتے جب تک خدا ان سے نہ کرائے..... ان سے وہ طاقت سلب کی جاتی ہے۔ جس سے خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی انسان کرتا ہے۔ وہ خدا کے ہاتھ میں ایسے ہوتے ہیں جیسے مردہ۔“

(ریویوں ۴۲ نمبر ص ۷، بابت ماہ فروری ۱۹۰۳ء)

احمدی دوستو! برائیں وہ کتاب ہے۔ جو بقول تمہارے نبی کے ”مؤلف نے ملہم و مامور ہو کر بغرض اصلاح تالیف کی۔“ (اشتہار برائیں احمدیہ، مجموع اشتہارات ج اص ۲۲) ہاں یہ وہ کتاب ہے جو بقول مرزا قادیانی ”آنحضرت ﷺ کے دربار میں پیش ہو کر رجسٹری بھی ہو چکی اور وہ ہندوانہ کے برابر امر و بن کر کہنوں تک شہد بھی پکا چکی۔“ (برائیں احمدیہ حصہ سوم ص ۲۲۸ حاشیہ، خزانہ ج اص ۲۲۵) یہ اصلاح کے لئے کچھی گئی تھی۔ اس میں فساد و شرک کا عقیدہ کیوں لکھا گیا؟

یہ خدا کے الہام اور امر سے لکھی گئی تھی۔ اس میں شرک و کفر کس طرح لکھا گیا۔ یہ آنحضرت کے سامنے پیش ہو کر شہد کی صورت میں بدل گئی تھی۔ اس میں یہ ہر کیسے رہ گیا؟ اور آنحضرت نے اس کفر کو کس طرح برداشت کر لیا؟۔ اس کا نام قطبی تھا اور قطب ستارے کی طرح غیر متراحل اور مستحکم تھی۔ (برائیں احمدیہ حاشیہ در حاشیہ نمبر اص ۲۲۸، خزانہ ج اص ۲۲۵)

اس میں خاص مسئلہ جس پر مرزا قادیانی کے دعوے کی بنیاد ہے۔ وہی ریت کے میلے کی طرح دھرم کر کے کس طرح گر گیا۔ آپ ہزار ہندو مسلمانوں کے سامنے ایسی متبرک کتاب کی ہٹک نہ کریں۔ آپ مرزا قادیانی کی تائید کے لئے کھڑے ہوئے ہیں یا تردید کے لئے۔

۱۔ قادیانی مولوی نے اپنی نوبت میں کہا کہ اگر مولانا صاحب برائیں میں سے لفظ ہندوانہ دکھاویں۔ تو مبلغ ۵ روپے انعام پائیں۔ مولانا صاحب نے اس پر اپنی نوبت میں برائیں نکال کر دکھا دیا کہ دیکھ لو اس میں لفظ تربوز کو ہندوانہ سمجھیں تو دیگر بات ہے؟۔

واضح رہے کہ حضرت مولانا صاحب پنجابی زبان میں تقریر کر رہے تھے اور پنجابی میں تربوز کو ہندوانہ کہتے ہیں۔ قادیانی مولوی صاحب نے شرمندہ ہو کر نوٹ جیب میں ڈال لیا اور حضرت مولانا صاحب نے یہ آیت پڑھی۔ ”فَمَا أَنْتَ إِلَّا خَيْرٌ مَا تَكُمْ“ (نمل: ۳۶)“

مرزا قادیانی کو بارہ برس تک خدا تعالیٰ سے الہام ہوتا رہے اور وہ برابر شرک میں پڑے رہیں۔ ہمیں اس کی نظیر انبیاء میں نہیں ملتی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو بتلادیں۔  
..... ۲ اور بیت المقدس کی مثال پیش کرنا بالکل بے عمل ہے۔

اول تو اس لئے کہ بیت المقدس کو قبلہ بنانا حسب ہدایت آیت ”فبہ دھم اقتدہ (انعام: ۹۰)“، انبیائے سابقین کی سنت پر عمل ہے اور وہ شرک نہیں، کفر نہیں۔ حتیٰ کہ کسی قسم کا گناہ کبیرہ یا صغیرہ بھی نہیں تو وہ اس کی نظیر کس طرح بن سلتا ہے۔ جسے مرزا قادیانی اور مرزا زائی صاحبان شرک و کفر قرار دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو ڈاڑھی مرزا مرتبہ عبدالحمید احمدی۔

چنانچہ فرماتے ہیں! ”حضرت مسیح کو جیسی ماننا بھی تو ایک شرک ہے۔ پھر فرماتے ہیں۔ یہ نہیں سکتا کہ انبیاء جو شرک کو منانے آئے ہیں۔ خود شرک میں بتلار ہیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی کا ارشاد ہے۔ اور یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ جب کہ ان (انبیاء) کے آنے کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کے احکام پر چلا دیں۔ تو گویا وہ خدا کے احکام کو عملدرآمد میں لانے والے ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر وہ خود ہی خلاف ورزی کریں تو وہ عملدرآمد کرنے والے نہ رہے۔ یاد و سرے لفظوں میں یوں کہو کہ نبی نہ رہے۔ وہ خدا نے تعالیٰ کے مظہر اور اس کے افعال و اقوال کے مظہر ہوتے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ان کی طرف منسوب ہی نہیں ہو سکتی۔“

(ریویو ج ۲ نمبر ۲ ص ۱۷، ماہ فروری ۱۹۰۲ء)

دیگر اس وجہ سے بے محل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ عقائد میں سے ہے اور عقائد میں تنسیخ و تبدیلی نہیں ہو سکتی اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا عملیات میں سے ہے۔ جن میں تبدیلی اور تنسیخ ہو سکتی ہے۔ پس یہ اس کی نظیر نہیں۔  
..... ۳

دیگر جو آپ نے یہ عذر کیا کہ وہ رسمی عقیدے سے مانتے رہے تھے۔ یہ بھی دو وجہ سے باطل ہے۔ اول اس لئے کہ مرزا قادیانی نے براہین میں اپنا یہ عقیدہ ایک الہام کے ضمن میں بیان کیا ہے اور اس الہام کا مفاد یہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیاسی حیثیت سے ان منکروں کی سرکوبی کے لئے دوبارہ تشریف لا کیں گے۔

دوم اس لئے کہ اگر مرزا قادیانی نے رسمی عقیدے کے طور پر لکھ دیا تو جب یہ کتاب بقول مرزا قادیانی اخضرت ﷺ کے دربار میں قبولیت حاصل کر رہی تھی۔ کیا اس وقت یہ تمام بیانات جن میں حضرت مسیح کی حیات اور رفع آسمانی اور نزول نامی مرقوم تھے۔ براہین سے نکال کر پیش ہوئی تھی یا آنحضرت ﷺ کی نظر میں نہ چڑھے تھے اور آپ نے یونہی بلا تحقیق مطالعہ ہی اس

کو شہد کی صورت میں پکا دیا تھا؟۔

قادیانی دوستو! عقل سے کام لو۔ آپ کی ایسی حالت قابلِ رحم ہے اور اس کی نظیر میں جو آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت والی حدیث پیش کی وہ بھی بے موقع ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ یا تو یہ حدیث ضعیف ہے یا بطور توضیح و اکساری کے ایسا کہا گیا ہے۔ (آنئینہ کمالات اسلام ص ۱۲۳، خراں ج ۵ ص ۱۲۳)

اور آپ کا امام ابن حزمؓ اور امام مالکؓ کی نسبت یہ کہنا کہ وہ بھی حضرت مسیح کی موت کے قائل تھے۔ یہ اصولاً بھی درست نہیں اور نقل بھی۔

اصولاً اس لئے کہ جناب مرزا قادیانی اپنی کتاب (مواہب الرحمن ص ۹۷، خراں ج ۱۹ ص ۲۹۸) میں فرماتے ہیں۔ ”ہم کسی بصری یا مصری پر ایمان نہیں لائے۔“ ہم تو قرآن شریف پر اور نبی مصوم کی حدیث صحیح مرفوع متصل پر ایمان لائے ہیں۔ پس ان دونوں کے بعد سزاوار نہیں کہ هل من مزید کہا جائے۔“ (ملخصاً و مترجم)

پس جب میں نے قرآن شریف اور حدیث شریف سے حضرت عیسیٰ کی زندگی ثابت کر دی تو بوجب قول جناب مرزا قادیانی آپ کو مناسب نہیں کہ کسی امتی کی طرف کان بھی دھریں۔

قرآن و حدیث تو آپ لوگوں نے آگے ہی چھوڑ رکھا ہے۔ لیکن جیرانی ہے کہ آج آپ کو کیا ہو گیا کہ مرزا قادیانی کی تصریحات سے بھی کنارہ کشی کرتے ہیں۔ مجھے دیکھنے کے جو عذر آپ پیش کریتے اس کی رویں میں مرزا قادیانی کی تصریح پیش کرتا ہوں۔ لیکن آپ ان کے خلاف چلتے ہیں۔ ایں چہ؟

اور نقلًا اس طرح غلط ہے کہ حافظ ابن حزم دیگر علمائے امت کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول و حیات کے برابر قائل ہیں۔ چنانچہ آپ اپنی معرکۃ الاراء کتاب، کتاب الفصل میں فرماتے ہیں۔ ”فكيف يستجيب مسلم ان يثبت بعده عليه السلام بنیا فی الارض حاشا ما استثناه رسول اللہ ﷺ فی الاثار المسندة الثابتة فی نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فی اخر الزمان“ (کتاب الفصل ج ۳ ص ۱۱۲) (دارالكتب بیروت) یعنی کسی مسلمان سے کس طرح جائز ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کے بعد زمین میں کسی نبی کو ثابت کرے۔ الا سے جسے رسول ﷺ نے احادیث صحیح ثابتہ میں مستثنی کر دیا ہو۔ عیسیٰ بن مریم کے آخری زمانہ میں نازل ہونے کے بارے میں۔

ای طرح اس قول کی نسبت امام مالک کی طرف بھی ہے سند ہے۔ تمام مالکی آئندہ حضرت عیینی علیہ السلام کے نزول عینی اور حیات مادی کے قائل ہیں۔ اگر اس قول کی کوئی سند ہے تو پیش کی جائے۔

**نوٹ:** قادریانی مولوی نے اس کے بعد اپنی نوبت میں کوئی سند پیش نہیں کی اور نہ پھر اس کو دھرا یا۔

پس میں آپ کی ایک ایک بات کا جواب قرآن و حدیث اور قواعد علمیہ اور مرزاقادریانی کی تصریحات سے دے چکا اور آپ کی کوئی بات بھی بلا جواب و بلا تردید نہیں رہی۔ لیکن برخلاف اس کے ان دلائل کو جو حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات کے متعلق میں نے بیان کئے ہیں۔ آپ ہرگز نہیں توڑ سکے اور نہ وہ ٹوٹ سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ قرآن مجید و احادیث صحیح کی تصریحات سے ہیں۔ جن کے دوسرے معنے ممکن ہی نہیں اور نہ ان کی تاویل جائز ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين  
یہ مجلس ختم ہو گئی اور تمام مسلمان خوشی سے نعر بائے تکبیر پکارتے اور فتح کی خوشیاں مناتے والیں ہوئے۔ لیکن مرزاقادریوں کی عجیب حالت تھی۔ چہروں پر ذلت و رسائی چھار ہی تھی اور مارے شرم کے سرنہ اٹھاسکتے تھے۔ فقط دابر القوم الظالموا والحمد لله رب العالمين!

دوسرے روز کا پہلا مناظرہ  
متعلق تقید صدق و کذب مرزائے قادریانی  
بجے صحیح سے اب تک دو پہر تک

قادیانی

مولوی محمد سلیم صاحب احمدی ..... صدر

مولوی عبد الرحمن صاحب لی۔ اے ..... مناظر (معی)

مسلمان

شیخ عبد القادر صاحب بیرونی ..... صدر

مولوی لال حسین صاحب اختر لاموری ..... مناظر (مجیب)

مولوی عبد الرحمن صاحب احمدی (معی صدق مرزا) نے اپنے اثبات دعویٰ کے متعلق

پہلے یہ آیت پڑھی۔ ”قل لو شاء الله ما تلواه عليكم ولا ادرکم به فقد لبشت فيكم

عمر آمن قبلہ افلا تعقولون (یونس: ۱۶)، ”اور اس سے مرزا قادیانی کی سچائی پر یوں استدلال کیا کہ بعد از دعویٰ تو ہر نبی پر اعتراض ہوتے رہے ہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے صداقت انبیاء کے لئے یہ معیار بیان کیا ہے کہ ان کی پہلی زندگی پاکیزگی اور امانتداری والی ہوتی ہے۔ یہی حال مرزا قادیانی کا ہے کہ آپ نے اسی شہریالکوٹ میں تقریر کے اثناء میں کھللفاظوں میں کہا کہ میں نے اسی سیالکوٹ میں پچھری میں سرکاری نوکری کی۔ اگر کسی نے مجھ میں کوئی عیب دیکھا ہو تو بیان کرو۔ لیکن کسی نے کچھ جواب نہ دیا۔

..... ۲ دوسری دلیل یہ بیان کی کہ آنحضرت ﷺ کی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا

”ولو تقول علينا بعض الاقاویل لا خذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوبتين (الحaque: ۴، تا: ۴۶)، ”یعنی اگر یہ نبی محمد ﷺ کوئی بات جھوٹ موث ہمارے ذمے لگاتا تو ہم اس کا ذایاں ہاتھ پکڑ کر اس کی رُگ جان کاٹ ڈالئے۔ آنحضرت ﷺ سچے نبی تھے۔ اس لئے ۲۳ سال دعویٰ نبوت کے بعد زندہ رہے۔ اسی طرح جناب مرزا قادیانی بھی سچے نبی تھے۔ چنانچہ وہ بھی دعویٰ کے بعد ۲۳ سال سے زائد مدت تک زندہ رہے۔

..... ۳ تیسرا دلیل یہ بیان کی کہ قرآن شریف نے آنحضرت ﷺ کی سچائی کے لئے تحدی کی۔ ”وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله (بقرة: ۲۳)، ”یعنی (اے منکرو!) اگر تم کو قرآن کے مخابن اللہ ہونے میں شک ہے تو تم اس کی مثل کوئی سورت بنالاؤ۔

اسی طرح مرزا قادیانی نے کتاب انجاز احمدی لکھی اور اس کے مقابلہ کے لئے سب علماء کو چیلنج کیا۔ لیکن کسی نے بھی اس کا جواب نہ لکھا۔ پس ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی سچے تھے اور اگر کہا جائے کہ مرزا قادیانی کی کتاب شعروں میں ہے اور قرآن شعر نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ ”ومَا عَلِمْنَاهُ الشِّعْرُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ (یسین: ۶۹)، ”تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ شعر سے مراد بقول امام راغب کذب ہے کہ لوگ آنحضرت ﷺ کو اور قرآن کو جھوٹا قرار دیتے تھے۔ اس پر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو شعر یعنی جھوٹ نہیں سکھایا اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میرے بعد تیس دجال کذاب جھوٹا دعویٰ نبوت کا کریں گے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض احادیث میں ایسے مدعاوں کی تعداد ستر بتائی گئی ہے اور جو الکرام میں نواب صدیق خان صاحب اہل حدیث فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجرؓ نے ان ہر درود و ایات کو ضعیف کہا ہے۔ یعنی تیس والی کو بھی اور ستر والی کو بھی۔ اگر آپ کو پہنچنے نہ ہو تو آپ کے متصل ہمارے فاضل

محترم مولانا محمد ابراہیم صاحب میر سیالکوئی تشریف رکھتے ہیں اور وہ علم و فضل میں یہاں سب سے بڑھ کر ہیں۔ ان سے دریافت کر لیجئے کہ حضور نواب صاحب نے نجح الکرامہ میں لکھا ہے یا نہیں۔  
 نوٹ: حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب نے مولوی لال حسین کی نوبت میں شیخ عبدالقدار صاحب صدر جلسہ کی اجازت سے فرمایا کہ نجح الکرامہ کے جس حوالہ میں مدار میری شہادت پر رکھا گیا ہے۔ اس کی بابت خاکسار یہ کہتا ہے کہ حافظ ابن حجر کا قول قریباً تیس و جال کذاب) والی روایت کے ضعف کے متعلق نہیں ہے۔ کیونکہ وہ حسین یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور متفق علیہ حدیث کو کوئی بھی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ چہ جائیکہ حافظ ابن حجر ایسے بلند پایہ محدث اسے ضعیف کہیں۔ نجح الکرامہ میں جو مذکور ہے وہ ستر کاذب مدعاں نبوت والی روایت کی بابت ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ اس پر حاضرین عش عش کراٹھے اور حضرت مولانا صاحب کی وسعت مطالعہ اور قوت حافظت کی داد دینے لگے۔ یہ سماں بھی مرزا یوسف کا فتویٰ لینے کا تھا۔ رنگِ فق ہو گئے اور چہروں پر ہوا یاں اڑنے لگیں اور نجالت اور رسوانی کے آثار نظر آنے لگے اور لوگوں پر ان کی دھوکا بازی اور کذب بیانی اور کرم علمی اور کوتاہ فہمی ظاہر ہو گئی۔

اور مولوی لال حسین صاحب جو حضرت مرزاقادیانیؒ مسح موعود کو شرک کا الزام لگاتے ہیں۔ تو ان کا اپنا نام لال حسین مشرکانہ ہے اور پیچی پیچی فرشتے پر جو پھیتی اڑائی جاتی ہے۔ اس کے لئے یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ آپ کی حدیث اس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ملک الموت کو چپڑا ماری تو وہ کانا ہو گیا۔ پس جس طرح فرشتہ کانا ہو سکتا ہے۔ اس طرح اس کا نام پیچی پیچی بھی ہو سکتا ہے۔ ہم ایسی کتابوں کو نہیں مان سکتے ہیں۔ جن میں یہ مذکور ہو کہ حضرت ابراہیم نے تین جھوٹ بولے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے زنا کا قصد کیا اور حضرت نبی کریم ﷺ حضرت کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئے ہیں۔

۱۔ جب مرزا یوسف نے ایسا کہا تو مسلمان بیک زبان پکاراٹھے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مرزا یوسف ایسے کتابوں کو نہیں مانتے۔ پس وہ اس میں سے حدیثیں کیوں پیش کرتے ہیں۔  
 ۲۔ مولوی عبدالرحمن مرزا یوسف کی اس بذریانی سے تمام مسلمان بھڑک اٹھے اور قریب تھا کہ وہ اس کا خمیازہ بھگلت کر اس کا نتیجہ بد دیکھ لیتے۔ لیکن شیخ عبدالقدار صاحب صدر جلسہ کے حسن انتظام اور حضرت مولانا صاحب سیالکوئی کی تلقین صبر و ضبط نے مجلس کو تھام لیا۔ مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ مرزا یوسف کے دل و دماغ میں مرزا یوسف قادیانی کے مقابلے میں خدا تعالیٰ کی اور اس کے رسولوں کی کچھ بھی عزت نہیں اور ان کا دعویٰ کرنے مکمل دھوکا اور نمائش ہے۔

## جواب از جانب مولوی لال حسین اختر صاحب مسلمان

حمد و صلوات کے بعد مولوی لال حسین صاحب نے بیان فرمایا کہ مولوی عبدالرحمٰن نے مرزا کی صداقت کی کوئی بھی دلیل بیان نہیں کی اور جو جو آیات قرآنی انہوں نے اس مطلب کے لئے پڑھی ہیں۔ وہ سب بے محل ہیں اور ان کے جو نتائج نکالے ہیں۔ وہ سب غلط اس لئے کہ مرزا قادریانی نے اپنے صدق و کذب کا معیار اپنی پیشگوئیوں کو قرار دیا ہے۔ جو میں خدا کے فضل سے ابھی بیان کروں گا۔ سردست میں ان دلائل کا جواب دینا چاہتا ہوں جو مولوی عبدالرحمٰن صاحب قادریانی نے بیان کئے ہیں۔

بہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ جانب مرزا قادریانی نے خود فرمایا ہے کہ ظاہری حالات پارسائی سے حقیقی پا کیزگی ثابت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں۔

”ایک ظاہری راست باز کے لئے صرف یہ دعویٰ کافی نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے احکام پر چلتا ہے۔ مگر ایسے دعوے سے تسلی کیونکر ہو کہ فے الحقیقت ایسا ہی امر واقع ہے۔ اگر کسی میں مادہ خواوت ہے تو ناموری کی غرض سے بھی ہو سکتا ہے..... اور فتن و فجور سے کوئی بچ گیا ہے۔ تو تہہ دستی بھی اس کا باعث ہو سکتی ہے۔ پس ظاہر ہے کہ عمدہ چال چلن اگر ہو بھی تاہم حقیقی پا کیزگی پر کامل ثبوت نہیں ہو سکتا۔ شاید در پر وہ کوئی اور اعمال ہوں۔“

(براہین احمد یہ حصہ پنجم موسومہ بہ نصرۃ الحق ص ۳۸، خزانہ حج ص ۲۱، ۶۲)

پس مولوی عبدالرحمٰن کا استدلال مدعاً سوت گواہ چست کی مانند ہے۔ اس لئے درست نہیں۔

دیگر یہ کہ عیوب جو منافی عصمت ہیں۔ کئی قسم کے ہیں۔ ناجائز طمع کرنا، دھوکے فریب سے لوگوں سے مال بٹورنا۔ خیانت کرنا اور شرک کرنا۔ یہ سب عمور منافی عصمت ہیں اور جانب مرزا قادریانی آنجمانی میں یہ سب پائے جاتے تھے۔ جن کا انکار نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ واقعات ثابت ہیں۔ محض وہی باتیں نہیں ہیں۔

مرزا قادریانی نے سیالکوٹ میں سرکاری نوکری کی۔ بے شک لیکن کن حالات میں کی؟۔ آپ کے گھر میں معیشت کی تنگی تھی۔ جدی زمین کا بہت سا حصہ (جو اکثر بارانی تھا) قبیٹ سے نکل چکا تھا۔ گھر چھوڑ کر اور دشوار گز اورستے طے کر کے دوسرے ضلع میں یعنی سیالکوٹ میں تلاش روزگار کے لئے آنے پر مجبور ہوئے اور خدا خدا کر کے کل ۱۵ اروپے ماہوار پر کچھری میں محمر تلف کی تھیر اسماں پر ملازم ہوئے۔ دل میں زر اندوڑی کی حرث تھی۔ مختاری کا امتحان دے دیا۔

لیکن قسمتی سے ناکام رہے۔ آخر حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے پندرہ روپے کی ملازمت کے وقت جو کچھ جمع کیا تھا۔ وہ سمیٹ کر وطن کو سدھا رے اور ”براہین احمدیہ“ کی تصنیف طبع کا اشتہار دے دیا کہ میں نے آنحضرت ﷺ اور قرآن کریم کی صداقت میں ایک کتاب جو (۳۰۰) دلائل پر مشتمل ہے لکھی ہے۔ اس کی طباعت کے لئے امداد کی ضرورت ہے۔ عالی ہمت احباب امداد فرمادیں۔

لوگوں سے دس دس روپے فی کس چندہ لیا۔ ابھی کتاب طباعت شروع بھی کہ کتاب کا ججم بڑھ جانے کا اعذر کر کے پندرہ پندرہ روپے فی کس زائد طلب کئے۔ اب پورے پچیس روپے ہو گئے۔ اس امر کی دریافت کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کتاب حسب وعدہ اور مطابق اشتہار تین سو دلائل بینہ والی طبع ہوئی یا نہ ہوئی۔ اس زندگی میں تو مرتضیٰ قادریانی وہ دلائل بیان نہیں کر سکے۔ ہاں اس جہان میں جا کر فرشتوں کو نتے ہوں تو دیگر امر ہے۔ کیا یہ دھوکا نہیں ہے؟

نیز یہ کہ جو کچھ بھی چھپا ہے۔ کیا اس کی قیمت ۲۵ روپے ہو سکتی ہے۔ ان دنوں تو سب کچھ ارزش تھا۔ کیا یہ دھوکا نہیں ہے؟ نیز یہ کہ سیالکوٹ سے روپیہ جمع کرنے اور براہین احمدیہ کی تصنیف کے بھانے سے روپیہ بخورنے کے بعد ایک اور حقیقت ملکشف ہوئی کہ مرتضیٰ قادریانی نے اپنا باغ اپنی دوسری زوجہ محترمہ نصرت جہاں نیگم (والدہ ماجدہ جناب مرزا محمود) کے پاس بعض پانچ ہزار روپیہ تیس سال کے لئے رہن رکھا اور ہم نامہ میں یہ بھی لکھ دیا کہ اگر اکتوبر میں سال قاف نہ کراؤں تو بیج بالوفا بھیجی جائے۔ ہم اس وقت اس حقیقت کو نہیں کھونا چاہتے کہ یہ سب کچھ پہلی بیوی کی اولاد کو محروم کرنے کے لئے تھا۔ یا کس لئے؟ بہر حال زر رہن کی تفصیل یوں ہے کہ ایک ہزار روپیہ بصورت کرنی نوٹ اور چار ہزار کے زیورات جو سب طلاقی تھے اور جن کی فہرست رجسٹری میں بالتفصیل مندرج ہے۔ (کلمہ فضل رحمانی ص ۱۳۲، ۱۳۳)

اب سوال یہ ہے کہ یہ روپیہ اور یہ زیورات جناب مرتضیٰ قادریانی کی زوجہ محترمہ مذکورہ الصدر کے پاس کہاں سے آئے تھے کہ عورت کے پاس نقدی اور زیورات عموماً تو خاوند کی طرف سے ہوتے ہیں یا میکے والوں کی طرف سے۔

مرزا قادریانی کی زوجہ محترمہ کا یہ روپیہ اور یہ زیورات میکے والوں کی طرف سے تو تھا

اگر اس کتاب کے اخیر میں گنجائش نکلی تو ہم انشاء اللہ اس رجسٹری کو پوری نقل یا اس کا خلاصہ معہ تفصیل زیورات درج کر دیں گے۔ تاکہ مرزا قادریانی کا یہ عمل صالح عام لوگوں کو معلوم رہے اور ان کے دل کی مثال زندہ رہے۔

نہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے خرمیر ناصر نواب صاحب ملکہ نہر میں معمولی تنخواہ پر جو غالباً تھیں روپے تھی ملازم تھے اور اس تنخواہ کا آدمی بیٹی پر اتنی رادو دہش کی بارش نہیں برسا سکتا۔ حاصل اس ساری تقریر کا یہ ہے کہ مرزا قادیانی ایک دنیا پرست آدمی تھے۔ تحصیل مال میں جائز و ناجائز کی تمیز نہ کرتے تھے۔ بلکہ یہ سارا شاخاذ صرف تحصیل زر کے لئے کھڑا کیا تھا۔ اسی لئے مرزا قادیانی کے پاس آنے والے فرشتے کا نام پیچی پیچی تھا۔ یعنی بوقت ضرورت عین موقع پر روپے کی خبر لانے والا۔ مرزا قادیانی لاچی اور فرشتہ پیچی جیسے روح و یہے فرشتے۔ اس پیچی فرشتے کی بابت مرزا قادیانی کا ایک اور بیان بھی ہے کہ مرزا قادیانی نے اس سے دریافت کیا۔ تمہارا کیا نام ہے تو اس فرشتے نے کہا میر انام کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر پوچھاتو کہنے لگا کہ میر انام ہے

۱۔ بلکہ میر صاحب بیچارے تو مرزا قادیانی کے اس نکاح کے بعد مدتوں تک مرزا قادیانی پر ناراض رہے اور ان کے برخلاف تحریرات شائع کرتے رہے۔ جس کی وجہ کا اظہار ہم دوسرے وقت پر رکھتے ہیں۔ پھر جب میر صاحب کی مرزا قادیانی سے صلح ہو گئی اور باپ بیٹی میں بھی ملاپ ہو گیا تو میر صاحب ملازمت سے سبد و شہ ہو کر مع عیال قادیان شریف ہی میں اپنی دختر نیک اختر کے پاس آ رہے۔ اندر میں حالات اس تدریجی اور زیورات ان کی طرف سے نہیں ہو سکتے اور خود مرزا قادیانی کے پاس بھی جائز وسائل سے اتنی آمدی نظر نہیں آتی کہ اس سے روزانہ خرچ کرنے کے بعد اتنا مال بچا سکیں کہ ہزار روپیہ نقد اور چار ہزار کے طلاقی زیورات گھر میں جمع ہو جائیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی بقول خود اپنے والد کی وفات کے بعد روثی کی فکر (نزوں لمحہ ص ۱۸، خزانہ حج ۱۸ ص ۳۹۶) میں گھٹے جاتے تھے۔ اس لئے ہم نہایت زور سے ان وسائل آمدی کے معلوم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جن سے مرزا قادیانی کی زوجہ محترمہ کے پاس ایک ہزار روپیہ نقد اور چار ہزار کے طلاقی زیورات جمع ہو گئے۔ اگر ہم کو وہ وسائل قرآن کریم کی ہدایت اور حضرت رسول کریم ﷺ کی سیرت کے مطابق حلال اطیباً معلوم ہو گئے تو اللہ ہم اپنا اعتراض واپس لے لیں گے۔ ورنہ بصورت دیگر ہمارا حق ہو گا کہ مرزا قادیانی کے مطابق حال یہ آیت پڑھیں۔

”يَا يَهُآ الَّذِينَ أَمْتَنَوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرَّهَبَانِ لِيَاكْلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَتَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (توبہ: ۲۴)،“ مسلمانو! بہت سے علماء اور مشائخ البتہ کھاتے ہیں۔ لوگوں کے مال باطل طریق سے اور روکتے ہیں خدا کی راہ سے۔

۲۔ چنانچہ ایک شخص (الشدویا) جس کی ہمیشہ کچھی کامال مرزا صاحب نے جس حیلے اور غدر لئگ سے حلال اطیباً بنایا وہ اس کا شاہد ہے۔ (سیرۃ المہدی ح اص ۲۶۱، روایت نمبر ۲۲)

پیچی پیچی۔ یعنی بوقت ضرورت عین موقع پر پہنچنے اور کام آنے والا۔ اس میں اس فرشتے نے بھی جھوٹ بولا کہ پہلے کہا میرا نام کچھ نہیں! پھر کہ میرا نام پیچی پیچی ہے۔ اندر میں حالات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا لالاچی اور زر پرست مدعا نبوت جس کے پاس آنے والا فرشتہ بھی جھوٹ بولتا ہو۔ صادق نبی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ سراسر کاذب و مفتری ہے۔

وزیرے چینی شہر یارے چنان کا معاملہ ہے

نیز یہ کہ مرزا قادیانی نے اپنی متعدد تصنیف میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ مانا شرک و کفر ہے۔ (ضیغم حقیقت الودی ص ۳۹، خزانہ حج ۲۲ ص ۲۲۰)

لیکن برخلاف اس کے وہ خود کئی سال تک اسی کفر و شرک میں رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ مانتے رہے۔ حالانکہ بقول خود اس وقت ملہم و مامور بھی تھے۔ بلکہ خدا کے نزدیک رسول بھی تھے۔

(برائیں احمد یہ میں ۳۹۸: ۵۰۲، ۴۹۸ حاشیہ، خزانہ حج اص ۵۹۳، نیز ایام الحصلہ ص ۵، خزانہ حج اص ۳۰۹)

ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام شرک و کفر و غیرہ بکیرہ گناہوں سے قطعاً پاک ہوتے ہیں۔

کیا قبل از نبوت اور کیا بعد از نبوت اور معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ نے مشرکین کو نجس فرمایا ہے۔

”انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا (توبہ: ۲۸)“ (باتیکی ہے کہ مشرک (بوجہ شرک کے) پلید ہیں۔ پس وہ اس سال بعد مسجد حرام (بیت اللہ) کے نزدیک بھی نہ آنے پائیں۔)

پس مرزا قادیانی کی زندگی بوجہ مشرک ہونے کے پاکیزہ ثابت نہ ہوئی۔ لہذا مولوی عبدالرحمن قادیانی کی دلیل اثبات مدعایں کچھ بھی کارگرنہ ہوئی۔ بلکہ اثنی ان کے خلاف پڑی۔ دوسری آیت سے مولوی عبدالرحمن قادیانی نے جو یہ استدلال کیا ہے کہ دعویٰ نبوت کے بعد ۲۳ سال تک زندہ رہنے والا سچانی ہوتا ہے۔ یہ بھی درست نہیں۔

اول اس لئے کہ قرآن شریف میں اس قاعدے کا ذکر نہیں۔ اگر مولوی عبدالرحمن قادیانی پچے ہیں تو قرآن شریف میں سے نکال کر دکھائیں۔

اگر آنحضرت ﷺ دعویٰ نبوت کے بعد ۲۳ سال تک زندہ رہے تو یہ ایک اتفاقی بات ہے یہ مطالبه مرزا ای مولوی صاحب اخیر وقت تک نہ دکھائے۔

ہے کہ ایک شخص کی اتنی عمر ہوئی۔ اس سے عام قاعدہ مستحب نہیں ہو سکتا۔

دیگر یہ کہ یہ استنباط اثا مولوی عبدالرحمن قادریانی کے خلاف پڑتا ہے۔ کیونکہ مرتقاڈیانی نے نبوت کا دعویٰ نومبر ۱۹۰۱ء میں کیا اور اس سے پیش تر وہ ہمیشہ مدعی نبوت کو کافر لفظی، خارج از اسلام، بے ایمان، خسر الدنیا والا آخرہ قرار دیتے رہے اور معلوم ہے کہ مرتقاڈیانی کی وفات ۲۶ مرتبی ۱۹۰۸ء کو بروز منگل میلہ بحدتر کالی کے دن ہوئی۔ اس حساب سے مرتقاڈیانی کو دعویٰ نبوت کے بعد صرف ساڑھے سات سال کی مہلت تھی اور اس کے بعد خدا غیور نے ان کی رُگ جان کاٹ ڈالی۔ پس بموجب قول مولوی عبدالرحمن قادریانی ۲۳ سال پورے نہ ہونے کی صورت میں مرتقاڈیانی کا ذب بخہرے۔ وہذا ہو المراد!

اور اس سے پہلے الہامات کا زمانہ شامل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مرتقاڈیانی اس عرصے میں آنحضرت ﷺ کے بعد مدعی نبوت کو کافر جسمی، لفظی، مسلیہ کذاب کا بھائی، ملعون، خسر الدنیا والا آخرہ خارج از اسلام وغیرہ کہتے رہے۔ جس سے میرے مقابل مولوی عبدالرحمن قادریانی کو بھی انکار نہیں۔

۱۔ کیونکہ ہر شخص میں بعض ایسے امور ہو سکتے ہیں جو دوسرے میں نہ ہوں۔ ورنہ کوئی شخص یہ کہنے کا بھی حق رکھ سکے گا کہ چونکہ آنحضرت ﷺ دعویٰ نبوت کے بعد ۲۳ سال تک زندہ رہے۔ اس لئے نبی صادق کے لئے ضروری ہے کہ وہ دعویٰ نبوت کے بعد ۲۳ سال ہی زندہ رہے۔ اگر کہا جائے کہ زائد کا لحاظ نہیں تو ہم کہیں گے کہتر کا بھی لحاظ نہیں۔ بات یہ ہے کہ علم منطق میں مسلم ہے۔ قضیہ عین لا عموم لہائی قضیہ شخصیہ میں عموم نہیں ہوتا۔

قادیانیوں کا یہ استدلال اس لئے بھی غلط ہے کہ کفار بنی اسرائیل نے جو حضرت یحییٰ نبی اللہ علیہ السلام کو قتل کیا تھا۔ تو وہ دعویٰ نبوت کے بعد ۲۳ سال گذر جانے کے بعد قتل کیا تھا۔ یا پہلے۔ اگر بعد قتل کیا تھا تو اس کی سند درکار ہے۔ جو نہیں ملے گی۔ بلکہ اس کے برخلاف معلوم ہے کہ آپ دعویٰ نبوت کے تھوڑے عرصہ بعد ہی قتل کر دیئے گئے تھے اور اگر ۲۳ سال سے پہلے قتل ہوئے تھے۔ جو بالکل درست ہے تو مرتزا نیوں کو دو باقوں میں سے ایک بات ضروری مانی پڑے گی یا تو معاذ اللہ حضرت یحییٰ نبی صادق نہ ہوں گے۔ یا قادیانیوں کا قاعدہ غلط ہو گا۔ جو ہل ہو۔ وہ مان لیں۔ چونکہ قاعدہ غلط ماننے سے جناب مرتقاڈیانی کی نبوت کی دلیل غلط ہوتی ہے۔ اس لئے قادیانیوں کو حضرت یحییٰ کی نبوت سے انکار کر دینا اہل ہو گا۔ کیونکہ قادیانیوں کو مرتقاڈیانی کے مقابلے میں نہ خدا کی پرواہ ہے نہ اس کے رسول کی جیسا کہ ان کے روزمرہ کے وظیرے سے ظاہر ہے اور اس مناظرے میں آپ آئندہ ملاحظہ کر لیں گے۔

..... مولوی عبدالرحمن قادری کی تیسری دلیل متعلق اعجاز احمدی بھی بالکل مہمل و بیکار ہے۔ بلکہ الٹی ان کے برخلاف ہے۔ خدا جانے ان کو کیا ہو گیا کہ وہ استدلال کے وقت مفید مطلب اور مہمل اور مضر مطلب میں تمیز نہیں کر سکتے۔ جو کچھ زبان شریف پر آتا ہے۔ بلا سوچ سمجھے اگل دیتے ہیں۔ سنئے جتاب قرآن نے اپنے مقابلے کے لئے کوئی میعاد مقرر نہیں کی اور مرزا قادری نے کی ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ مرزا قادری کو اپنا ضعف معلوم تھا کہ اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اس لئے ایسی قید یہ لگادیں کہ ان کے بعد انکار کی گنجائش رہ سکے۔ فرمائیے مولانا غنیمت حسین صاحب مونگیری نے اعجاز احمدی کے جواب میں جو کتاب ابطال اعجاز مرزا لکھی۔ اس میں سوائے میعاد کے سوال کے آپ کیا عذر کر سکتے ہیں؟ مرزا قادری کے قصیدے میں انہوں نے صرفی، نحوی، ادبی اور عروضی ہر قسم کی کثیر التعدد اغلفطیاں نکالیں۔

لیکن ان کے قصیدے میں جو چھ سو شعر سے زائد پر مشتمل ہے۔ ایسی کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔

۱۔ نیز یہ کہ قرآن شریف نے بحیثیت کلام اللہ ہونے کے بیشتر اور خارج الطاقت بشری ہونے کا دعویٰ کیا ہے نہ کہ بحیثیت کلام رسول ﷺ بلکہ قرآن شریف میں تو مصرح ہے کہ دیگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو وہ بڑا بھاری کافرو ناظم ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ: ”وَمِنْ أَظْلَمُ صَنْعَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يَوْجُدْ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأَنْزَلَ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ (انعام: ۹۲)“ اور کون بڑا ہر کاظم ہے اس سے جو خدا پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ مجھے وحی ہوتی ہے۔ حالانکہ اسے کچھ بھی وحی نہیں ہوتا اور یہ کہے کہ میں اتنا سکتا ہوں۔ مثل اس کی جو خدا نے اتنا را۔

کتاب اعجاز احمدی کلام خدا نہیں ہے۔ بلکہ کلام مرزا ہے۔ پس اگر خود مرزا قادری اپنے کلام کو مثل قرآن مجزہ اور خارج از طاقت بشری جانتے ہیں تو وہ بڑے کافرو ناظم ہیں اور اگر مولوی عبدالرحمن قادری ان کے کلام کو قرآن شریف سے ملا کر مجزہ قرار دیتے ہیں تو گویا وہ مرزا قادری کو بڑا کافر اور بڑا ناظم قرار دیتے ہیں۔

الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں

لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا

دیگر یہ کہ قرآن شریف نے کم از کم ایک سورت سے بھی تحدی کی ہے۔ لیکن مرزا قادری کی صورت ہی نادر ہے۔ مرزا قادری فرماتے ہیں کہ (یقہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

دیگر یہ کہ مرتضیٰ قادریانی نے اپنا کمال شعروں میں دکھایا ہے اور شعر گوئی کمالات نبوت میں سے نہیں ہے۔ بلکہ شان نبوت کے لائق بھی نہیں ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کی

(باقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ) میرے شعروں کی تعداد کے برابر اشعار ہوں۔ اردو مضمون مندرجہ اعجاز احمدی کی عبارت کے برابر اردو مضمون بھی ہو۔ مرزا قادیانی کے فرمودہ اور فاسد خیالات کی تردید بھی ہو۔ اس پر طرہ یہ کہ یہ سب کچھ اور چھاپے خانے کی طباعت پھر کتاب کی تیاری اور پھر ڈاک میں پوسٹ کرنا اور پھر مرزا قادیانی کو اس کتاب کا پہنچ جانا سب کچھ چودہ روز میں پورا ہو۔ (دیکھو اعجاز احمدی ص ۳۶، جز ائم ج ۱۹ ص ۷۲) ورنہ منظور نہیں ہوگا۔ اب سوچئے کہ یہ سب قیود اپنے ضعف کو چھپانے کے لئے ہیں۔ یا جواب لینے کے لئے؟ دیگر یہ کہ قرآن شریف صرفی، نحوی اور ادبی غلطی سے پاک ہے۔ بلکہ اس کا کوئی بھی کلمہ غیر فصح بھی نہیں ہے۔ چہ جائیکہ غلط ہوا اور اسی طرح اس کا کوئی جملہ بھی غیر ملحوظ نہیں ہے۔ چہ جائیکہ غلط اور کپک ہو۔

لیکن مرزا قادریانی کے قصیدہ میں صرف، نحوی، عروضی، اور ادبی ہر قسم کی اغلاط ہیں جو علماء نے طفت از بام کر دی ہوئی ہیں۔ وہ فصح کیسے ہو سکتا ہے اور اس پر اسے تاحد اعجاز فصح کہنے کے کیا معنے؟۔

ظہور حشر نہ ہو کیوں؟ جو کلچرلی گنجی  
حضور بلبل بستیاں کرے نواخجی

دیگر یہ کہ مرتaza قادیانی نے مولانا اصغر علی صاحب روہی پروفیسر اسلامی کالج لاہور کی گرفت واعتراضات پر اپنے انگلاظ مندرجہ کو بقلم خود تسلیم کر لیا۔ گویا ان کے سامنے اپنے دعویٰ اور تحدی کی سپرد الدی۔ اس کی مثل وہی ہے جو مشہور ہے کہ پٹھان کے سامنے فارسی بھول جاتی ہے۔ چنانچہ مرتaza قادیانی نے یہ عذر کر کے پڑھ چکرایا کہ میں عربی کا عالم ہوں نہ شاعر ہوں وغیرہ وغیرہ۔ شخص تحریر مرتaza قادیانی مندرجہ اخبار الحکمرج بے نمبر ص ۲۸۵، ۷۱ اکتوبر ۱۹۰۳ء

لیکن قرآن کریم نے کسی کے سامنے پر نہیں ڈالی۔ ”تنزیل الکتب من الله العزیز الحکیم (الزمر: ۱)“ یہاں کی فصاحت و بلاغت کا سکد یہاں تک مانا گیا کہ آج کل ابھی بیروت کے مسیحی کالجیوں کے کورس میں قرآن شریف کی سورتوں کا انتخاب موجود ہے اور وہ اہل زبان ہو کر اس کی نسبت نہایت بلند رائے رکھتے ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی نے جب اپنا کلام مصر میں پھیجنگا تو وہاں کے ادیبوں نے اس کی دھیان اڑا دیں اور اسے پر اذاغلاط پا کر اسے لچرا اور پوچ قرار دیا۔ چنانچہ مرزا قادیانی اپنی کتاب الحمد الی میں اس کی شکایت کرتے ہیں۔ (بقیدہ حداثۃ الحجۃ صفحہ پر)

نیت فرمایا ”وما علمتهُ الشِّعْرُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ (یسین: ۶۹)“ یعنی ہم نے آنحضرت ﷺ کو شعر نہیں سکھایا اور نہ وہ شعر اس کی شان کے لائق ہے اور آپ کا ”انا النبی لا کذب“ کی بناء پر آپ کو شاعر کہنا بہت بڑی دلیری اور جسارت ہے۔ شراح حدیث نے اس کے کئی ایک جواب لکھے ہیں۔ جن میں سے حافظ ابن حجر نے اسے پسند کیا ہے کہ یہ کلام اتفاقاً موزون ہو گیا ہے۔ قصد اموزون نہیں کیا گیا اور شعر کے لئے وزن کا مقصود ہوتا لازمی ہے۔

(بیقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ) کہ اہل مصر نے خصا صادر المغارنے میرے کلام کی قدر نہیں کی۔ نیز یہ کہ مرتقاً قادریانی کے مقابلے میں اولاً قاضی ظفر الدین صاحب مرحوم پروفیسر عربی اور تمثیل کالج لا ہور نے قصیدہ رائیہ بجواب قصیدہ مرتقاً کیا۔ جوانہی دنوں اخبار اہل حدیث میں چھپ گیا تھا اور وہ نہایت فصح و بلغ اور مطابق قواعد عروض و قوافی ہے اور صرفی، نحوی، عروضی و ادبی اغلاط سے پاک ہے۔ اس کے بعد مولانا غنیمت حسین صاحب مولنیری نے ابطال اعجاز مرتقاً کتاب و حصوص میں لکھی۔ پہلے حصے میں مرتقاً قادریانی کے اشعار کی غلطیاں ظاہر کیں۔ جو صرفی، نحوی، عروضی، ادبی ہر قسم کی ہیں اور دوسرا حصے میں چھو سے زائد اشعار کا عربی قصیدہ لکھا جو نہایت فصح و بلغ ہے اور اغلاط سے پاک ہے۔

۱۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی عادت میں شعر نہیں پایا گیا۔ بلکہ اگر کبھی آپ نے کسی دوسرے کا شعر بطور تمثیل نقل بھی کیا ہے۔ تو اس میں ایسی تبدیلی ہو گئی۔ جس سے اس کا وزن درست نہ رہ سکا اور اس کی مثالیں حدیث جانے والوں سے مخفی نہیں ہیں۔ پس جب شرعاً آپ کی عادت میں نہیں۔ بلکہ دوسرے کا شعر بھی جو موزون ہوتا۔ پوری طرح نقل نہ کر سکتے تو معلوم ہوا کہ اگر آپ کے دہن مبارک سے کبھی کوئی موزون کلام نکل گیا تو وہ اتفاقی بات ہے اور اصطلاح کے لحاظ سے ایسا موزون کلام جو اتفاقاً موزون ہو جائے اور تکلم کا قصد نہ پایا جائے۔ اسے شعر اور اس کے قائل کو شاعر نہیں کہتے۔ چنانچہ علامہ سید منہودی مصری شرح کافی میں شعر کی تعریف میں کہتے ہیں کلام موزون قصد ابوزن عربی اور اس کے بعد ان قیود کے فوائد میں قصد اپر لکھتے ہیں۔ ”وقولنا قصدًا يخرج مكان وزنه اتفاقياً اي لم يقصد وزنه فلا يكون شعراً كآيات شريفة اتفق وزنها اي لم يقصد وزنها بل قصد كونها فرآنًا و ذكرًا كقوله تع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فانها وزن مجزم المرمل المسبغ فلا تكون شعر الاستحالـةـ الشـعـرـيةـ عـلـىـ الـقـرـآنـ قالـ تعـ انـ هوـ الـذـكـرـ وـ قـرـآنـ مـبـينـ وـ كـمـرـكـبـاتـ نـبـوـيـةـ اـتـفـقـ وزـنـهاـ ايـ لمـ (بیقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ)

اور جو آپ نے فرمایا کہ امام راغب نے فرمایا کہ وہ معلمناہ الشعرا میں شعر سے مراد کذب ہے یہ بھی نقصان علم کی وجہ سے ہے۔ آپ امام راغب کی عبارت کو مجھ نہیں سکے اور مرزا قادیانی کے بچانے کے لئے ایک نامعقول عذر پیش کر دیا۔ اس کا حل اس طرح ہے کہ یہاں پر دو باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن شعر ہے یا نہیں۔ دیگر یہ کہ آنحضرت ﷺ شاعر ہیں یا نہیں۔ سو امام راغب فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن شریف عیاناً نہ کلام میں ہے۔ اس لئے کفار کا قرآن کو شعر کہنا بمعنی کذب ہے اور اس وقت ہماری نزاع آنحضرت ﷺ کے متعلق ہے۔ سو اس کی بابت امام راغب نے ہرگز نہیں کہا اور نہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ شعر کہا کرتے تھے۔ کیونکہ یہ خلاف واقع بھی ہے اور قرآن شریف کی صریح نظر کے خلاف بھی ہے۔ گوہم امام راغب سے کفار کے قول کی توجیہ سے بھی متفق نہیں ہیں۔ لیکن اس وقت صرف ان کا مقصد بیان کرنا مقصود ہے۔ اس لئے اس پر اتفاق کیا جاتا ہے۔

(ابقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ) یقصد وزنها بل قصد کونہا ذکرآ مثلاً کقوله ﷺ هل انت الا اصبع دمیت وفي سبیل اللہ ما لقيت فانه علی وزن الرجز المقطوع فلا یکون شرعاً قال اللہ تعالیٰ وما علمته الشعراً وما ینبغی له ان هو الا ذکر وقرآن مبین“ (الشرح لمہبہ طرس ۱۲)

نیز سید و منہودی اسی صفحہ میں شیخ جمل سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے آدم علیہ السلام نے شعر کہا تھا۔ اس نے جھوٹ بولا محمد ﷺ اور دیگر انبیاء علیہم السلام سب کے سب شعر گوئی سے پاک ہونے میں برابر ہیں۔ اسی طرح اسی صفحہ پر شیخ جماعتی سے شعر کی تعریف یوں نقل کی ہے۔ ”والنظم هو الكلام المقوى لموزون قصداً ای مقصد الشعريۃ لقاءله“ یعنی جو کلام وزن اور قافیہ کی رعایت سے شعریت کا قصد کر کے کہا جائے اس نظم (شعر) کہتے ہیں۔

غرض تمام علمائے امت کیا محدثین اور کیا ادیب سب کے سب بالاتفاق فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ بالخصوص اور تمام انبیاء بالعلوم شعر گوئی سے پاک تھے۔ امام رازیؒ اور امام زمخشریؒ سے بھی ایسا ہی مقول ہے۔ پس مولوی عبدالرحمن قادریانی کا مرزا قادیانی کو بچانے کے لئے آنحضرت ﷺ کو شاعر قرار دینا جو بعض قرآنی آنحضرت ﷺ کی شان کے لائق نہیں بہت بڑی ولیری ہے اور مولوی عبدالرحمن کے علم اور دین کی کمی اور کوتا ہی کی دلیل ہے۔ قاتلهم اللہ انی یوفکون!

لیجھے آپ کے دلائل جو حقیقت میں مغالطے ہیں۔ ان کی دھیاں تو اڑ گئیں۔ اب وہ معیار سننے جو کو دمرزا قادیانی نے اپنے صدق و ندب کے لئے مقرر کیا ہے اور آپ نے اسے چھوٹا سیک بھی نہیں۔ مرزا قادیانی نہایت تہذیب سے فرماتے ہیں۔

”بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا ندب جانچنے کے لئے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محک امتحان نہیں ہو سکتا۔“ (آئینہ کمالات اسلام ص ۲۸۸، خزانہ ح ۵ ص ایضاً) اس کے مطابق ہم مرزا قادیانی کی بعض پیش گویاں بطور نمونہ ذکر کرتے ہیں۔

اول یہ مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ محمدی بیگم ضرور میرے نکاح میں آئے گی یہ خدا کی باتیں ہیں۔ جوئل نہیں سکتیں۔ اس کے لئے مرزا قادیانی نے ہر طرح کی کوشش کی۔ لیکن کوئی کارگرنہ ہوئی اور محمدی بیگم کے والدین نے اس کا نکاح ایک شخص سلطان محمد نام ساکن پئی سے کر دیا۔ تو مرزا قادیانی یوں الاپے کہ یہ نکاح مبارک نہیں ہوگا۔ یہ رُکا یوم نکاح سے عرصہ ڈھائی سال تک مرجائے گا اور پھر محمدی بیگم کا نکاح مجھ سے ہوگا۔ سلطان محمد کی موت تقدیر برم ہے جوئل نہیں سکتی۔ اگر مل جائے تو خدا کا قول باطل ہوتا ہے۔ لیکن واقعات مرزا جی کے الہامات کے خلاف ہوئے۔ ن محمدی بیگم نکاح میں آئی، نہ سلطان محمد مرا۔ بلکہ مرزا قادیانی اس طرح کی ساری تمناً میں دل میں رکھے ہوئے بعد حسرت عرصہ ۲۵ سال سے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور محترم محمدی بیگم اپنے خاوند سلطان محمد کے ساتھ بکمال مسرت و برکت زندگی بسر کر رہی ہے۔ خدا نے اسے اولاد بھی کثرت سے دی ہے اور رزق بھی وسیع دیا ہے۔ غرض مرزا قادیانی کی یہ پیش گوئی ہر پہلو سے غلط ثابت ہوئی۔ پر مرزا قادیانی اپنے مقرر کردہ معیار کے رو سے صادق نہ ہوئے بلکہ کاذب ہوئے۔ وهذا هو المراد!

دیگر یہ کہ مرزا قادیانی نے کہا تھا۔ ہم مکہ میں مریں گے یاد میں میں۔

(البشری ج ۲ ص ۱۰۵، تذکرہ ص ۹۵ طبع سوم)

جب حر میں (حر سہا الشر) کے سفر کی کوئی صورت نظر نہ آئی یا نیت ہی نہ تھی۔ تو اس کی تاویل کر دی کہ ہم کو کمی فتح ہو گی یاد میں۔ لیکن ہوا کچھ بھی نہ۔ نہ تو مرزا قادیانی مکہ شریف گئے یا مدینہ شریف۔ بلکہ فریضہ اللہی حج بھی نہ کیا اور باوجود صحیح موعود کا دعویٰ کرنے کے، حج بیت اللہ نہ کیا۔ جو بوجب حدیث شریف صحیح موعود کے نشانات میں سے ہے اور نہ آپ کو فتح مکہ کی طرح کمی فتح حاصل ہوئی، نہ مدنی۔ بلکہ عمر بھر غیر وں کی غلامی کا دم بھرتے رہے اور وفاداری و نہک حالی جاتے رہے اور خوشامد ولجاجت کی ناک اگر تے رہے اور مرے تو لا ہور جا مرے۔ جہاں سے

مریدوں نے بصدقت لاش کو جال کے گدھے پرلا دکر قادیانی پہنچایا۔

دیگر یہ کہ مرزا قادیانی نے ایک بہم الہام ظاہر کیا تھا۔ شاتان تذجان یعنی دو بکریاں ذبح کی جائیں گی۔ جب محمدی بیگم کا باپ احمد بیگ مرزا قادیانی نے اس الہام کے معنی یہ بیان کئے کہ ان دو بکریوں سے مراد محمدی بیگم کا باپ احمد بیگ اور اس کا خاوند سلطان محمد ہیں۔

(ضییر انجام آقہم ص ۵۵، ۵۷، ۵۸، خزانہ ح ۱۱ ص ۳۲۰، ۳۲۱)

احمد بیگ مرگیا ہے اور سلطان محمد عفریب مر جائے گا۔ لیکن جب کامل میں مرزا قادیانی کے دو مرید عبداللطیف اور اس کا رفیق مرتد قرار دئے جا کر سنگار کئے گئے تو مرزا قادیانی نے پہلو بدل کر اس الہام کو ان پر لگادیا۔ بہم کلام، گول مول الہام کو حسب ضرورت جس طرح چاہا چسپاں کر لیا۔

مجھ کو محروم نہ کر وصل سے او شوخ مزاج

بات وہ کہہ کہ نکلے رہیں پہلو دونوں

بہر حال میرا مقصوداً س سے یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک سلطان محمد کی موت حقیقی

قطعی تھی۔ جو واقعہ نہ ہوئی۔ پس مرزا قادیانی کا ذذبھرے۔

اور مولوی عبدالرحمٰن صاحب نے پیچی پیچی فرشتے کے نام اور اس کے جھوٹ کے جواب میں ملک الموت کی آنکھ پھوٹ جانے کی جو ظیر پیش کی ہے۔ سواروں گھٹنا پھوڑوں آنکھ کی مثل ہے۔ اس کو امر زیر سوال سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ کہاں فرشتے کے نام سے سوال کر یہ کیسا نام ہے اور اس کے اخلاقی عیب جھوٹ سے سوال کو جھوٹ بولنے والا فرشتہ کس طرح ہو سکتا ہے اور کہاں حضرت ملک الموت کا جسمانی عارضہ کہ آنکھ پھوٹ گئی۔

۱۔ جب مولوی عبدالرحمٰن صاحب مرزاً نے حضرت ملک الموت کی مثال دی تھی تو حاضرین بہت بنسے تھے کہ اب مرزاً مولوی بہک کر عاجز ہو گیا ہے کہ ایسی بے ربط باتیں کہنے پر اتر آیا ہے۔ امام نبیقی نے امام خطابی سے نقل کیا کہ ملحد اور بدعتی لوگ اس حدیث میں طعن کرتے ہیں۔ پھر اس کا بہت مبوط و مدلل جواب نقل کیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ صدمہ صورت بشری کی آنکھ پر وارد ہوا تھا۔ نہ کہ صورت ملکی کی آنکھ پر۔ کیونکہ حضرت ملک الموت اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس صورت بشری میں آئے تھے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس صورت بشری میں آئے تو انہوں نے ان کو نہ پہچانا۔

(کتب الاسماء والصفات ص ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، طبع بیروت)

پھر غضب یہ کیا کہ صحیحین کی حدیث کو استہزا میں اڑایا۔ جو صحیح سند سے رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی صحیحین کی بتک کرے وہ بدعنی اور گمراہ ہے۔ (جیہے اللہ نج اس ۱۳۲)

حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت رسول کریم ﷺ کی نسبت جو کچھ آپ نے گستاخی اور شوخی سے جلد دل سے بوجہ عاجزی کے بدحواس ہو کر کہا ہے اور مرتضیٰ قادری کو بچانا چاہا ہے۔ سو معلوم ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی حدیث تو صحیحین کی ہے۔ یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ جن کی توہین کا آپ نے تمیکل رکھا ہے اور آپ اس حدیث کے مطلب کو اپنی کم علمی اور بداعتقادی کی وجہ سے سمجھنیس سکے۔ کیونکہ وہ سب تعریفی ہے باقی ہیں۔

۱۔ مرزا تی لوگ مرزا کے مقابلے میں خدار رسول کی کوئی پرواہ نہیں رکھتے۔ میری ایک مرزا تی کے ساتھ محمدی بیگم کی پیش گوئی کے متعلق گفتگو ہوئی تو جھٹ مرزا تی نے کہہ دیا کہ تمہارے رسول کی بھی بہت سی پیش گوئیاں بھی نہیں ہوئی۔ یہ صرف مرزا کو سچا کرنا جاتے ہیں۔ ایمان رہے یا نہ رہے۔

۲۔ امام نووی اور حافظ ابن حجر نے اس حدیث کی شرح میں کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تینوں باتیں تعریضی ہیں۔ جن کی حقیقت کذب کی نہیں۔ ان سے تو ری مقصود ہے۔ اسی لئے حدیث میں صاف وارد ہوا کہ یہ سب خدا کے لئے تھیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف خدا کے واسطے ایسی تعریضی باتیں کیں اور امام بخاری نے دوسرے موقع پر ایک باب خاص اسی مسئلہ تعریض کے متعلق باندھا ہے۔ ”المعاریض ممدودۃ عن الکذب“ (كتاب الأدب ج ۲ ص ۹۱)، یعنی تعریضات حقیقتاً جھوٹ نہیں ہوتیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں اور بعض دیگر انبیاء علیہم السلام کا ذکر کر کے جناب مرزا قادری فرماتے ہیں۔ ”یاد رہے کہ اکثر ایسے اسرار دیقائق بصورت اقوال یا افعال انبیاء سے ظہور میں آتے ہیں کہ جو نادانوں کی نظر میں سخت یہودہ اور شرمناک کام ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تین مرتبہ ایسے طور پر کلام کرنا جو بظاہر دروغ نہیں میں داخل تھا۔ یا حضرت ابراہیم کی نسبت یہ تحریر شائع کرے۔ تو ایسے خبیث کی نسبت اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی فطرت ان پاک لوگوں کی فطرت سے مغافل پری ہوئی ہے اور شیطان کی فطرت کے موافق اس پلید کامادا اور خیر سے۔“

(آنہنہ کمالات اسلام ج ۲ ص ۹۸، ۹۹)

اور حضرت یوسف علیہ السلام اور آنحضرت ﷺ کی بابت آپ نے جو کچھ بذبانی کی ہے۔ وہ کسی مرفوع اور صحیح حدیث میں نہ کرنیں۔ یہ سب آپ کی علم حدیث سے ہے جو خبری کی دلیل ہے۔ دیگر یہ کہ ان باتوں کو میری گرفت سے کیا تعلق؟۔ میں تو مرزاقادیانی کی مصدقہ و مسلمہ تحریرات پیش کرتا ہوں اور آپ ان کے جواب سے عاجز ہو کر بالکل بے ربط باتوں اور انہیاء علیہم السلام کی اہانت و ہتک پر اترائے ہیں۔

**نوٹ:** مولوی صاحب قادیانی اس وقت بہت کھیانے ہو گئے تھے اور ان کے منہ سے سوائے بذبانی کے اور کچھ نہیں نکل سکتا تھا خست بدحواسی کی حالت میں جو منہ میں آتا تھا کہہ جاتے تھے اور مضمون کی مناسبت اور ارتباط کو بخوبی رکھ سکتے تھے۔

اور آپ نے میرے نام کے مشرکانہ ہونے کی ایک ہی کہی۔ وادہ صاحب! میں کیا شرک ہے۔ اچھا بالفرض اگر شرک ہے بھی تو میں مدعا نبوت نہیں کہ میری نبوت میں قدح ہو سکے۔ لیکن آپ نے اپنے گھر کی بھی خبری کہ مرزاجی کے نام پچپن میں کیا تھا۔ ان کا نام سندھی تھا اور یہ ہندوانہ اور مشہد کا نام ہے۔

**نوٹ:** مولوی عبد الرحمن صاحب احمدی نے اس پر کہا کہ یہ نام والدین نے نہیں رکھا تھا۔ اس لئے یہ الزم مرزاقادیانی پر عائد نہیں ہو سکتا اور باواز بلند کہا کہ اگر یہ نکال کر بتا دیا جائے کہ یہ نام والدین نے رکھا تھا تو یہ دیکھو (نوٹ نکال کر) میں اروپے انعام دوں گا۔

مولوی لال حسین صاحب نے اپنی نوبت میں کتاب سیرت المهدی مصنفہ مرزابشیر احمد پسر مرزاقادیانی نکال کر بتا دیا کہ یہ دیکھواں میں صاف لکھا ہے کہ مرزاجی کو پچپن میں ان کی والدہ سندھی نام سے پکارتی تھی اور لوگ بھی ایسا ہی کہتے تھے۔ (سیرۃ المهدی ج ۳۵ روایت نمبر ۴۵) مولوی عبد الرحمن قادیانی اس حوالے سے سخت شرمندے ہوئے اور شرمساری سے سر نیچ کر کے نوٹ جیب میں ڈال لیا اور ڈھیلے منہ سے کہنے لگے کہ میرا سوال تو والدین کے نام رکھنے سے تھا کہ اکیلی والدہ کے رکھنے سے۔

یہ نقشہ دیکھ کر سب حاضرین نے یقین کر لیا کہ مولوی عبد الرحمن قادیانی جس طرح نہایت درجے کے گستاخ و بذبان ہیں۔ اس طرح جھوٹے اور بے زبان بھی پر لے درجے کے ہیں۔ یہ مجلس بھی ختم ہوئی اور قادیانی شرم کے مارے اپنی مختصر شیخ کے ایک کونے میں دب کر رہ گئے اور مسلمان خوش آن و فرحاں خدا کی تکمیر پکارتے اور فتح کی خوشی مناتے واپس ہوئے۔

فقط عَلَيْكُمُ الْقُوَّةُ الَّتِي ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ!

دوسرے روز کی دوسری اور آخری مجلس  
مورخ ۲ جون ۱۹۳۳ء بے شام سے بے تک  
محث، آنحضرت ﷺ پر نبوت ختم ہو گئی

مسلمان

صدر.....	شیخ عبدالقدار صاحب میر شر
مناظر (مدئی) .....	مولانا مولوی محمد ابراہیم صاحب میر سیالکوٹی

قادیانی

صدر.....	مولوی عبد الرحمن صاحب بی۔ اے
مناظر (مجیب) .....	مولوی محمد سلیم صاحب

مولانا حافظ محمد ابراہیم صاحب میر سیالکوٹی نے حمد و صلوٰۃ اور اعوذ کے بعد آیت پڑھی۔  
”ما كانَ مُحَمَّداً أباً أَحَدَ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ . وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (احزاب: ۴۰)،“ یعنی محمد ﷺ میں سے کسی بالغ مرد کا باپ نہیں ہے لیکن خدا کا رسول ہے اور سب نبیوں کا خاتم ہے اور خدا تعالیٰ سب کچھ جانے والا ہے۔ یعنی جانتا ہے کہ آگے کوئی شخص نبوت کے قابل پیدا نہیں ہو گا۔

پھر حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ صاحبان! اس وقت میرے ذمے اس بات کا ثبوت ہے کہ آنحضرت ﷺ خدا کے آخری رسول ہیں۔ دلائل شرع قرآن و حدیث اور اجماع امت اس پر شاہد ہیں۔ آیت بالا میں صاف الفاظ میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد ﷺ خاتم انبیاء ہیں۔ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب اس کا ترجمہ بدیں الفاظ کرتے ہیں۔ نہیں ہے (محمد ﷺ) باپ کسی کا مرد و مہارے میں سے ولیکن پیغمبر خدا کا ہے اور ختم کرنے والا تمام نبیوں کا اور ہے اللہ ہر چیز کا جانے والا۔

اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اس پر حاشہ میں فرماتے ہیں کہ یعنی بعد از روئی هیچ پیغمبر نباشد (ص ۵۶۶)

لغت کی تمام کتابوں میں خاتم کے معنی آخری لکھے ہیں۔ چنانچہ (سان العرب ج ۲۵) میں ہے۔ ”وَخَاتَمَ الْقَوْمَ وَخَاتَمَهُمْ وَخَاتَمَهُمْ أَخْرَهُمْ عَنِ الْحَيَاةِ“

ومحمد ﷺ جاتم الأنبياء التهذيب والخاتم والخاتم من اسماء النبي ﷺ وفي التنزيل العزيز ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اى اخرهم، يعني خاتم القوم او خاتم القوم (بالكسر) او رخاتم القوم (بالفتح) برسالة معنی ہیں۔ قوم کا آخری شخص اور تہذیب میں بتے کر صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے خاتم ہیں اور خاتم (بالكسر) اور خاتم (بالفتح) ہر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں اور قرآن شریف میں ہے۔ ”ما كان محمد ابا احد سوا میں خاتم النبین کے معنی ہیں ‘آخر نبی’۔“

امام بغوی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذمیل میں ایک یہ حدیث بھی نقل کی ہے۔ جو بخاری و مسلم کی روایت سے ہے اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاش نام بتائے ہیں۔ ایک ان میں سے عاقب ہے اور عاقب کی تفسیر اسی حدیث میں مذکور ہے۔

”والعاقب الذى لا نبى بعده (مسلم ج ۲ ص ۲۶۱، باب فى اسمائه ﷺ)“  
یعنی عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔

اسی طرح مند امام احمد میں حضرت انس ؓ کی حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔  
”ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى (مسند امام احمد ج ۳ ص ۲۶۶)“ رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے۔ پس میرے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں ہو گا۔

اس طرح (مشکوٰۃ کتاب الامارة والختام ص ۳۲۰) میں (صحیح بخاری ج اص ۱۹۱، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل) اور (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۶۱، باب وجوب الوفاء ببیعة الخليفة الاول فالاول) کی روایت سے حدیث ہے۔ جس میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کے متعلق ہوتی تھی۔ ایک نبی فوت ہوتا تو اس کا خلیفہ بھی نبی ہوتا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔ ہاں خلیفے ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ (الحدیث)

اس کی توضیح یوں ہے کہ نبی اللہ کے متعلق دو باتیں ہوتی ہیں۔ تعلیم شریعت اور انتظام سیاست۔ سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ذکر کر کے سمجھایا کہ ان میں تعلیم شریعت اور انتظام ملکی ہر دو، ان کے انبیاء کے متعلق تھے اور اپنی بذہت فرمایا کہ چونکہ میرے بعد کوئی بھی نبی ہونے والا نہیں۔ اس لئے صرف خلافت ہو گی۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ نبوت بند اور انتظام ملکی کے لئے خلافت جاری۔

آنحضرت ﷺ نے مسئلہ ختم نبوت و ایسا صاف کر دیا ہے کہ اپنے بعد کے مدعا نبوت کو  
دجال و کذاب جیسے برے اور عکروہ القاب سے یاد کیا۔ چنانچہ جامع ترمذی میں حضرت ثوبانؓ کی  
روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ ”و سیکون فی امتی ثلثون  
کذابون کلهم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی“ (حدیث صحیح  
ترمذی ج ۲ ص ۴۵، باب ماجاء لانتقام الساعة حتی یخرج کذابون) اور میری امت میں  
(قیامت سے پہلے) تمیں کذاب ضرور ہوں گے۔ ہر ایک ان میں سے دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی  
ہے۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ (اما مترمذی کہتے ہیں) یہ  
حدیث صحیح ہے۔

یہ حدیث (جامع ترمذی ج ۲ ص ۴۵، باب ماجاء لانتقام الساعة حتی یخرج کذابون  
اوصحح بخاری ن اص ۵۰۹، باب علامات النبوة فی الاسلام اور صحیح مسلم ن اص ۲۹۷، کتاب الفتن  
والشراط الساعۃ) میں حضرت ابوہریرہؓ سے یہی سئی محرومیت ہے اور اس میں ان مدینوں کے دجالوں  
کذابوں دو لقب آئے ہیں۔

دجال نہایت درجے کے فیجنی اور ملجم ساز کو اور کذاب نہایت درجے کے جھوٹے مکار  
کو کہتے ہیں۔ (مشتبی الارب، اسان العرب، مصباح)

کسی کے ریب اور ملجم سازی اور جھوٹ اور عکروہ اطائع پان اور اس کی حقیقت پر واقف  
ہو جانا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ اس لئے آنحضرت ﷺ نے از راہ شفقت ان کا ایک ایسا مشترک  
نشان بتا دیا۔ جس سے علم والے اور بے علم کالھے پڑھے اور بے پڑھے۔ شہری اور دیہاتی سب طرح  
کے لوگ یکسان طور پر پہچان لیں۔ وہ کہ یہ دجال و کذاب ہیں۔ یعنی ان کا آپؐ کے بعد دعویٰ  
نبوت کرنا ہی ان کے دجال و کذاب ہونے کی دلیل بتائی۔ چنانچہ اسی بات کو واضح کرنے کے لئے  
ساتھ ہی فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

نوت: اس حدیث سے علاوہ اس کے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ برئے  
والا دجال و کذاب ہے اور علاوہ اس کے کہ آنحضرت ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ یہ امر جس ثابت ہوئیا  
کہ خاتم النبیین کے معنی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

مولانا صاحب نے سلسلہ تقریریں فرمایا کہ خاکسار (محمد ابراء یم میر سیالکوٹی) نے جو کچھ  
یہاں کیا ہے اس کی ایک ایک بات پر جناب مرزا قادری نے آنجمانی کے دخنخط بھی پیش کرتا ہوں۔

پہلی بات میں نے یہ بیان کی ہے کہ آیت خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آنحضرت ﷺ آخری نبی ہیں اور آپ نبیوں پر ختم کر دینے والے ہیں۔

سواس کی بابت مرتضیٰ اقبالی اپنی کتاب (ازالہ اوبام ص ۲۱۸، خزانہ حج ۳ ص ۲۳) میں اسی آیت کا ترجمہ یوں ارقام فرماتے ہیں۔ ”یعنی محمد ﷺ تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا۔“

نیز فرماتے ہیں کہ: ”جاننا چاہئے کہ خدا یے تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسالتوں کو قرآن شریف اور آنحضرت ﷺ پر ختم کر دیا ہے۔“ (خط مورخ ۷ اگست ۱۸۹۹ء مطبوعہ الحکم نمبر ۲۹ حج ۳ منقول از ریکٹ نمبر ۸ مصنفہ مولوی محمد علی صاحب لاہوری مجری یکم ستمبر ۱۹۳۲ء)

دوسری بات میں نے حدیث امام احمد کے حوالے سے یہ بیان کی کہ رسالت اور نبوت آنحضرت ﷺ کے بعد منقطع ہو گئی ہے۔ اب کوئی نبی اور رسول نہیں ہو گا۔ سواس کی بابت مرتضیٰ اقبالی از الہ اوبام کی عبارت مذکور الفوق کے آگے سلسلہ ذکر میں لکھتے ہیں۔

ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ ”اب وحی رسالت تلقیامت منقطع ہے۔“

(ازالہ اوبام ص ۲۱۸، خزانہ حج ۳ ص ۲۳) دیکھئے وہی الفاظ میں۔

نیز (آنہ کمالات ص ۲۷، خزانہ حج ۵ ص ایضاً) پر لکھتے ہیں کہ: ”ماکان اللہ ان یرسل نبیا بعد نبینا خاتم النبیین و ماکان ان یحدث سلسلة النبوة ثانیاً بعد انقطاعها“ یہ ہرگز نہیں ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی ﷺ خاتم النبیین کے بعد کسی کو بھی نبی کر کے بھیجے اور نہ یہ ہو گا کہ سلسلہ نبوت کو اس کو منقطع ہو جانے کے بعد پھر جاری کرے۔

تیسرا بات جو میں نے بیان کی وہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عام طور پر فرمادیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔ اس کے متعلق مرتضیٰ اقبالی (ایام الصلح ص ۱۳۶، خزانہ حج ۱۳۶ ص ۳۹۳) میں فرماتے ہیں کہ: ”حدیث لا نبی بعدی میں بھی لاغی عام ہے۔ پس یہ کس قدر دلیری اور گستاخی ہے کہ خیال رکیکہ کی پیروی کر کے نصوص صریحہ قرآن کو عمدًا چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے اور بعد اس کے جو وحی منقطع ہو چکی ہے۔ پھر سلسلہ وحی نبوت کا جاری کر دیا جائے۔“

اسی طرح مرتضیٰ اقبالی کی کتب کے دیگر حوالے بھی پیش کئے جاتے ہیں۔ جن میں صاف اقرار ہے کہ نبوت اور رسالت آنحضرت ﷺ پر ختم ہو گئی اور آپ اس سلسلے کے آخری نبی ہیں۔

۱..... چنانچہ کتاب (حقیقت النبی ص ۹۲، خزانہ حج ۲۲ ص ۱۳۵) میں مرقوم ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو رب العالمین اور رحیم ہے۔ جس نے زمین اور آسمان کو چھوپ دن میں بنایا اور آدم کو پیدا کیا اور رسول بھیجے اور کتاب میں بھیجیں اور سب کے آخر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو پیدا کیا۔ جو خاتم الانبیاء اور خیر الرسل تھے۔“

۲..... اور (حادثۃ البشری ص ۹، خزانہ حج ۷ ص ۱۸۵) میں فرماتے ہیں کہ: ”وَيَقُولُونَ أَنْ هَذَا الرَّجُلُ لَا يَعْتَقِدُ بَأْنَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَمُنْتَهِيِّ الْمَرْسُلِينَ لَا نَبِيٌّ بَعْدَهُ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ فَهَذَا كَلَّهَا مُفْتَرِيَاتٍ“

۳..... نیز (آسمانی فیصل ص ۳، خزانہ حج ۲۲ ص ۳۱۲) میں فرماتے ہیں کہ: ”خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور ان سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں۔ جو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہوں اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں اور میں نبوت کا مدعی نہیں۔ بلکہ ایسے مدعی کو دارِ داہم اسلام سے خارج تھجھتا ہوں۔“

۴..... نیز فرماتے ہیں کہ: ”میرا یقین ہے کہ وہی رسالت حضرت آدم صفحی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول محمد مصطفیٰ ﷺ پر ختم ہو گئی۔“

(اشتہار اکتوبر ۱۹۷۹، مجموعہ اشتہارات حج اس ۱، ۲۲، اتاب حقیقت النبی ص ۸۹، مصنفہ مرزا محمد قادریانی)  
۵..... نیز فرماتے ہیں کہ: ”اور اس کو خاتم الانبیاء، مانتے ہیں۔ کیونکہ اس پر تمام نبوتیں اور تمام پاکیزگیاں اور تمام کمالات ختم ہو گئے۔“ (اشتہار مرزا قادریانی مورثہ ۲۲ ستمبر ۱۹۹۵، مندرجہ تبلیغ رسالت حج ۲۳ ص ۲۳، مجموعہ اشتہارات حج ۲۲ ص ۱۵۶، نیز حج ۲۲ نوش بنا اریہ صاحبان)  
نیز فرمایا ”تمام کمالات نبوت آپ پر ختم ہو گئے۔“

(نیچر سیالکوٹ ص ۹، خزانہ حج ۲۰ ص ۲۷)  
ان ہر دو مقامات میں کمالات سے مراد کمالات نبوت ہیں۔ چنانچہ مرزا قادریانی فرماتے ہیں کہ: ”اللہ تعالیٰ نے جو کمالات سلسلہ نبوت میں رکھے ہیں۔ وہ جمیعی طور پر ہادی کامل (حقیقت النبی ص ۹۰، بحوالہ کتاب دین الحق ص ۲۷) پر ختم ہو گئے۔“

۶..... نیز فرماتے ہیں کہ: ”آخر حضرت ﷺ پر تمام نبوت کے علم ختم ہو گئے۔“  
(بجمالہ بی ص ۹، خزانہ حج ۲۲ ص ۹)

نیز فرماتے ہیں کہ ”کمالات نبوت کے دائرہ آنحضرت ﷺ پر ختم ہو گیا۔“

(ص ۲۲۱ ائمہ مرزا حساد) (۳۲۰ ص)

نیز ازالہ اہام میں لوگوں کی طرف سے خود سوال کرتے ہیں اور خود جواب دیتے ہیں۔

”سوال رسائل ﷺ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔“

”الجواب نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محمد علیت کا دعویٰ ہے۔“

(از الارواہ م ۲۲ بخرا ان چ ۴۳ ص ۳۲۰)

ای طرح شیخ الکاظم حضرت مولانا سید نذیر حسین صاحب محدث، بلوی اور مولانا ابو سعید محمد حسین صاحب بناالوی کا ذکر نہیا یت بد تبذیبی سے سر کے لئے ہے ہیں کہ ”یہ راسرا فتنہ اب ہے کہ ہماری طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں کہ گویا یہیں مجرمات انبیاء، پیغمبر اسلام سے انکار ہے۔ یا ہم خود دعویٰ نبوت کرتے ہیں۔ یا انہوں باللہ حضرت سید امر ملین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء، نہیں سمجھتے۔ یا ملائک سے انکار کی یا حشر و نشر وغیرہ اصول عقائد اسلام سے منکر ہیں۔ یا حصوم و سلوة وغیرہ اور کان اسلام کو نظر استخفاف سے سمجھتے ہیں۔ یا غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ کو وہ ہے کہ ہم ان سب باتوں کے قائل ہیں اور ان عقائد اور ان اعمال کے منکر کو ملعون اور خسر الدنیا والا خرہ یقین رکھتے ہیں۔“ (ابن حجر العسکری ۵۹ بخرا ان چ ۴۳ ص ۵۹)

چوتھی بات میں نے یہ بیان کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے بعد کے مدعاں نبوت کو دجال و کذاب فرمایا ہے۔ سواس کی نسبت بھی مرزا قادری کی تصریحات میں از میش ہیں۔ ان میں سے چند بطور نمونہ حسب ذیل ہیں۔

..... ”ختم المرسلین کے ہعد کسی دوسرے مدعا نبوت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔“ (اشتہار ۲۰ اکتوبر ۱۸۹۱ء، مجموعہ اشتہارات چ ۴۳ ص ۲۳۰)

..... ۲ ”جو شخص ختم نبوت کا منکر ہوا اسے بے دین اور دائرة اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔“ (تقریب ۲۳ اکتوبر دہلی، مجموعہ اشتہارات چ ۴۳ ص ۲۵۵)

..... ”ہم بھی مدعا نبوت پر لعنت سمجھتے ہیں۔“ (مجموعہ اشتہارات چ ۴۲ ص ۲۹۷)

..... ۳ ”مجھے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں۔“ (حمامۃ البشر ۹۷ بخرا ان چ ۴۳ ص ۲۹۷)

۵ ..... ”ان لوگوں نے میرے قول کو نہیں سمجھا اور یہی کہا کہ یہ شخص نبوت کا مدعا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ ان کا یہ قول صریح کذب ہے۔“ (حمدۃ البشری ص ۸۸، خراں ج ۷، اص ۳۰۰)

۶ ..... ”کیا ایسا بد بخت مفتری جو خود رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ قرآن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے۔“ (اجماع آئتم ص ۲۷، خراں ج ۱۱، اص ۲۷)

صاحبان! میں نے اپنی تقریر میں یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت بند ہے اور انتظام امت و سیاست کے لئے خلافت و امارت جاری ہے۔ سو مرزا قادریانی بھی اس طرح کہتے ہیں کہ: ”بیعت کرنے والے کے لئے ان عقائد کا ہونا ضروری ہے کہ آنحضرت ﷺ کو رسول برحق اور قرآن شریف منجانب اللہ کتاب اور جامع الکتب ہے۔ کوئی نئی شریعت اب نہیں آ سکتی اور نہ کوئی نیا رسول آ سکتا ہے۔ مگر ولایت اور امامت اور خلافت کی ہمیشہ قیامت تک را ہیں کھلی ہیں اور جس قدر مہدی دنیا میں آئے یا آئیں گے۔ ان کا شمار خاص اللہ جل شانہ کو معلوم ہے۔ وہی رسالت ختم ہو گئی۔ مگر ولایت و امامت و خلافت کبھی ختم نہ ہو گئی۔“

(مکتوب مرزا قادریانی مندرجہ رسالت تحریک الاذہان نمبر اج اص ۲۲)

مرزا قادریانی کے ان سب حوالہ جات سے یہ امور ثابت ہیں۔

۱ ..... نبوت و رسالت آنحضرت ﷺ پر ختم ہو گئی۔

۲ ..... آپ کے بعد کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا۔

۳ ..... ایسا مدعا نبوت کا ذب، کافر، بے دین، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

ملعون، خسر الدنیا والا آخرہ۔ بد بخت مفتری اور بے ایمان ہے۔ یہ مرزا قادریانی کے

اقوال ہیں اور ہم بھی اس پر صاد کرتے ہیں۔

## جواب منجانب مولوی محمد سلیم صاحب قادریانی

مولوی محمد سلیم صاحب قادریانی جواب کے لئے اٹھے اور شروع میں یہ آیت پڑھی ”ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتם في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولًا (مؤمن: ۲۴)“ یعنی (اے باشندگان مصر!) تمہارے پاس حضرت یوسف اس سے پہلے روشن دلائل لے کر آئے۔ پس تم اس سے جو وہ

لے کر آئے۔ شک ہی میں رہے۔ حتیٰ کہ جس وقت وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ خدا تعالیٰ اس کے بعد ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ کفار مصر حضرت یوسف پرنبوت کو ختم سمجھتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ختم نبوت کا عقیدہ کفار کا ہے اور جو نبوت کو بند سمجھے وہ کافر ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ”ذلک بانَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ مُغِيرًا نعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّىٰ يَغْيِرُوا مَا بِالنَّفْسِهِمْ (انفال: ۵۲)“ یعنی اللہ تعالیٰ جس قوم پر کوئی نعمت کرتا ہے تو اس سے وہ نعمت دور نہیں کرتا۔ جب تک وہ قوم اپنے حالات و نیات کونہ بدلتے۔ اگر اس امت پر خدا تعالیٰ نے یہ نعمت نبوت بند کر دی ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ امت بدل کار ہو گئی اور اس میں شرارت آگئی ہے۔

تیسرا دلیل اجرائے نبوت کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَطْلَعَكُمْ عَلَىٰ الْغَيْبِ وَلَكُنَّ اللَّهُ يَجْتَبِي مِنْ رَسُولِهِ مِنْ يَشَاءُ (آل عمران: ۱۷۹)“ یعنی خدا تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ایسی حالت پر چھوڑ دے۔ جب تک کہ خبیث اور طیب میں تمیز نہ کرے اور نہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کرے۔ لیکن اللہ اپنے رسول بھیجے گا۔ جن کو غیب پر مطلع کرے گا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبوت ابھی جاری ہے۔ کیونکہ بتکھی مضارع کا صیغہ ہے۔ جو استقبال کے لئے بھی آتا ہے۔

چوتھی دلیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ”اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رَسُولًا وَمِنَ النَّاسِ (الحج: ۷۵)“ یعنی خدا تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی ہمیشہ رسول پنچے گا۔

اس آیت سے بھی ثابت ہے کہ ہمیشہ رسول ہوتے رہیں گے۔ کیونکہ یصطفی فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ جو استقبال کے لئے بھی آتا ہے۔

۱۔ مولوی محمد سلیم صاحب نے ان آیتوں کا ترجمہ اسی طرح کیا تھا۔ جس کی گرفت سے وہ اخیر تک نجات نہ پاسکے اور بالکل لا جواب ہو گئے۔ جیسا کہ آپ مولانا سیا لکوٹی کے جواب الجواب میں ملاحظہ کریں گے۔

پانچویں دلیل یہ ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کا فرزند ابراہیم فوت ہوا تو آپ نے فرمایا۔ ”لوعاش ابراہیم لکان صدیقاً بنیاً (ابن ماجہ ص ۱۰۸، باب ماجاء فی الصلة ابن رسول اللہ ﷺ وذکر وفاته)“ یعنی اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو صدیق نبی ہوتا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبوت جاری ہے۔ ورنہ آنحضرت ﷺ ایسا نہ فرماتے اور مولانا صاحب سیالکوٹی نے جو فرمایا کہ خاتم کے معنی آخری ہیں۔ ہم کو مسلم ہیں۔ لیکن آخر بھی تو عربی لفظ ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے بعد کوئی نہ ہو۔ دیکھئے حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”انا أخر الا نبیاء ومسجدی أخر المساجد (مسلم ج ۱ ص ۴۴۶، باب فضل الصلة بمسجدی مکہ والمدینة)“ یعنی میں آخر نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے۔ پس جس طرح آنحضرت ﷺ کے بعد مسجدیں بنتی بند نہیں ہو گئیں۔ اسی طرح آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت بھی بند نہیں ہو گئی۔

اور مولانا صاحب نے حضرت مرزا قادیانی کے جس قدر حوالے پیش کئے کہ وہ دعویٰ نبوت سے انکار کرتے تھے۔ تو اگر یہ درست ہے تو پھر مولانا صاحب اور ان جیسے دیگر علماء مرزا قادیانی کو کافر کیوں کہتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ علماء نے مرزا قادیانی پر اس لئے کفر کا فتویٰ لگایا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ دیگر یہ کہ مرزا قادیانی کے یہ اقوال اس وقت کے ہیں جب آپ کو جو نبوت نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب نبوت کا حکم ہوا تھا تو آپ نے دعویٰ کر دیا۔ جیسے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متی پر فضیلت نہ دو اور جو بھی فرمایا کہ میں اولاد آدم کا مددار ہوں اور پہلے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے تمام پڑھتے رہے۔ پھر جب حکم آگیا تو بیت اللہ کی طرف پڑھنے لگے۔

اوتمیں دجال والی حدیث جو بار بار پیش کی جاتی ہے سواس کی بابت ہم کئی دفعہ کہہ چکے کہ یہ بقول حافظ ابن حجر تھیف ہے۔ اس پر یہ سوال بھی ہے کہ تمیں کی قید کیوں لگائی؟۔ علاوہ اس کے مولانا مولوی محمد قاسم صاحب نانو تو ہی بانی مدرسہ یونہجذیر الناس میں لکھتے ہیں کہ بالفرض اگر آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی آ بھی جاوے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے بعد نبی ممکن ہے۔

نیز یہ کہ اگر آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ توجہ مسح آئے اگا تو کیا وہ نبی نہ ہوگا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے ختم کے کیا؟۔

دیگر یہ کہ مشکلاۃ میں حدیث ہے کہ پہلے خلاف منہاج نبوت پر ہوگی۔ پھر ظالمانہ ملوکانہ طریق پر ہوگی۔ پھر اخیر میں منہاج نبوت پر ہوگی۔ اس سے بھی ثابت ہے کہ نبوت جاری ہے۔

نیز مشکلاۃ میں ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہوگی۔ جس کے اول میں میں ہوں اور اخیر میں عیسیٰ بن مریم ہے۔ چونکہ عیسیٰ بن مریم نبی ہے۔ اس لئے نبوت جاری رہی اور عاقب کے معنی ہیں جو مولا نا صاحب بار بار فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ الذی لیس بعده نبی یا آنحضرت ﷺ کی تفسیر نہیں ہے۔ یہ دیکھئے ملاعی قاری لکھتے ہیں کہ:

”الظاهر ان التفسير من الرواوى“

### جواب الجواب من جانب مولانا محمد ابراہیم صاحب میرسیالکوٹی

حمد و صلواۃ کے بعد مولانا مددوح نے فرمایا کہ قادیانی مناظر بے راہ چلتے ہیں۔ موضوع ختم نبوت ہے۔ (دیکھو پرچہ شرائط) جس کا مدعا میں ہوں۔ میں نے اس کے اثبات میں ہر طرح کے دلائل یعنی قرآنی، حدیثی، لغوی اور شہادات آئندہ تفسیر و حدیث و لغت بلکہ خود جناب مرزا قادیانی کے اقوال پیش کر دیئے ہیں۔ میرے مقابل مولوی محمد سلیم نے چھوٹتے ہی اجرائے نبوت کے دلائل بیان کرنے شروع کر دیئے۔ جوان کا حق نہیں تھا۔ انکا فرض یہ تھا کہ وہ میرے دلائل پر نقض کرتے۔ یا اگر ان کے خیال میں میرے حوالے غلط تھے تو ان کی تصحیح طلب کرتے۔ یا اگر میرے دعویٰ کی کوئی جزو بے دلیل رہ گئی ہے تو اس کی دلیل طلب کرتے۔ لیکن انہوں نے اپنے فرض سے سراسر پہلو تھی کہ جواب سے عاجزی کا ثبوت دے دیا ہے۔

مولوی محمد سلیم قادیانی نے اسی طرح اور کے صینے سے اور بغیر حضرت وغیرہ الفاظ تعظیم کے اور بغیر علیہ السلام کہنے کے کہا تھا۔ جیسے کہ عام طور پر قادیانیوں کی عادت ہے۔ چنانچہ ان کے پہلے اشتہار جلسے میں جو آپ کی وفات کے متعلق مضمون رکھا ہوا تھا۔ اس کی سرفہ اس طرح تھی۔ وفات مسح ناصری اور اس مباحثہ میں سب پر روشن ہو گیا کہ مرزا ای عموماً انبیاء کے حق میں خصوصاً حضرت مسح علیہ السلام کے حق میں سخت گستاخ ہیں۔

انہوں نے جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ چند شبہات ہیں۔ جو کم علیٰ یاد اعتقد اُن کے باعث پیدا ہوئے ہیں۔ سو میں خدا کے فضل سے حاضرین کی دلپیس کو مٹوڑ رکھتے ہوئے۔ سب کاتار و پود الگ کر کے رکھ دیتا ہوں اور ملمع کا سارا رنگ ابھی اتار دیتا ہوں۔

مولوی محمد سلیم قادیانی نے پہلی آیت جو حضرت یوسف علیہ السلام والی پڑھی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا مقولہ ذکر کیا گیا ہے۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہ لائے تھے۔ جیسا کہ ”فَمَا ذَلِكَمْ فِي شَكٍ (مؤمن: ۲۴)“ سے ظاہر ہے۔ انہوں نے ازروئے کفر کہا تھا کہ حضرت یوسف مر گئے ہیں۔ تو چھٹکارا ہوا۔ اب خدا کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔

یہ خدائی فیصلے کا ذکر نہیں ہے اور ان کا یہ قول اس لئے بھی غلط تھا کہ اس وقت خدا کے علم میں سلسلہ نبوت میں سیکنڑوں نبی باقی تھے۔ تو ان کفار کا اس وقت کا قول غلط ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس وقت جب خدا تعالیٰ نے اپنے فیصلہ سے آنحضرت ﷺ کی نسبت خاتم النبیین فرمادیا اور آنحضرت ﷺ نے بھی فرمادیا کہ نبوت اور رسالت میرے بعد منقطع ہو چکی ہے اور اس امت مرحومہ کے ہزار ہا آئندہ اور اولیاء اللہ جو آنحضرت ﷺ کو آخری نبی مانتے چلے آتے ہیں اور کسی نے بھی اس سے انکار نہیں کیا۔ بلکہ ہر نئے مدعا نبوت کو کافر و دجال جانتے رہے ہیں۔ (معاذ اللہ) یہ سب کچھ غلط ہے۔ قرآن مجید اور حدیث صحیح اور اجماع امت کے برخلاف عقیدہ رکھنا گمراہی ہے نہ یہ کہاں کے موافق اعتقاد رکھنا کفر و مگراہی ہے۔ معاذ اللہ استغفرالله

اور دوسری آیت جو انہوں نے تغیرت کے متعلق پڑھی ہے اور اس میں نہایت گستاخی اور شوخی سے کہا ہے کہ کیا یہ امت بدکار ہو گئی ہے؟ اور اس میں شرارت آگئی؟۔ جو نبوت بند ہو گئی ہے اور اس سے یہ نبوت چھٹی گئی ہے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اس نعمت نبوت کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ دیگر دنیوی نعمتوں کا ذکر ہے۔ جو آیت کے سیاق سبق سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اس آیت کے پہلے بھی اور بعد بھی فرعو نیوں وغیرہ کفار کا ذکر ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کوئی قسم کی نعمتیں بخشی تھیں۔ لیکن انہوں نے نافرمانی کی تو خدا تعالیٰ نے ان پر بتاہی ڈالی۔ کہاں نبوت اور

---

مولوی محمد سلیم قادیانی نے باوجود بار بار جواب مل جانے کے اس آیت کا خیر تک نہ چھوڑ اور قریباً ہر نبوت میں اس آئندہ کو دھراتے رہے۔ جس سے حاضرین کو یقین ہو گیا کہ جو کچھ یہ لوگ گھر سے یاد کر کے آتے ہیں۔ اس کے دھراتے رہنے کے سوا ان کو کچھ بھی نہیں آتا۔

کہاں دنیا کی نعمتیں۔ مرقد الحالی اور حکومت وغیرہ۔

پس مولوی محمد سلیم قادریانی نے یہ آیت بھی بے محل و بے موقع پڑھی۔

تیسرا آیت جو مولوی سلیم قادریانی نے چوتھے پارے کی پڑھی ہے۔ ”ولکن اللہ یجتبی من رسله من یشاء (آل عمران: ۱۷۹)“ اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ لیکن اللہ اپنے رسول پھیجے گا۔ اس کے متعلق سوال ہے کہ پھیجے گا کس کے معنی کئے ہیں۔ مولوی محمد سلیم قادریانی نے اپنی طرف سے ملا دیا ہے۔ قرآن شریف میں اس آیت میں کوئی لفاظ نہیں۔ جس کا یہ ترجمہ ہو۔ خیر انہوں نے تو ترجمہ میں زیادتی کی ہے۔ ان کے بڑے حضرت جناب مرتضیٰ قادریانی تو قرآن شریف کے الفاظ میں بھی زیادتی کر لیتے تھے۔ مثلاً وہ حقیقت الوجی میں اس عبارت کو قرآن شریف کی آیت جتا کر لکھتے ہیں۔

۱..... ”یوم یاتی ربک فی ظلل من الغمام“ (حقیقت الوجی ص ۱۵۲)

۲..... نیز آئینہ کمالات میں قرآن شریف کی آیت جتا کر لکھتے ہیں کہ: ”یا لها

الذین امنوا ان تتقوا اللہ یجعل لكم فرقاناً و يجعل لكم نوراً تمشوون به“

(آئینہ کمالات اسلام ص ۱۷۷)

۳..... نیز ”فریادرد“ کتاب میں قرآن شریف کی آیت جتا کر کنی جگہ لکھتے ہیں

کہ: ”وجادلهم بالحكمة والموعظة الحسنة“ (ص ۲۲، ۸)

سوال یہ ہے کہ یہ آیات قرآن شریف میں ان الفاظ اور اس ترتیب کے ساتھ کہاں ہیں؟۔ خاکسار بفضل خدا، حافظ قرآن ہو کر کہتا ہے کہ قرآن شریف میں مرتضیٰ قادریانی کی تحریر کے مطابق کہیں بھی نہیں۔

۴..... اسی طرح مرتضیٰ قادریانی نے حدیث نبوی میں بھی زیادتیاں کی ہیں اور غلط حوالے دیتے ہیں۔ مثلاً (ازالہ ابہام ص ۳۳، خواجہ ۳ ص ۱۲۵، ۱۲۶) میں صحیح بخاری کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مسح موعود کی نسبت فرمایا کہ: ”بل هوا مامک منکم“

۵..... اسی طرح اپنی کتاب (شہادت القرآن ص ۳۱، خواجہ ۶ ص ۳۲۷) میں صحیح بخاری کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ امام مهدی کے ظہور کے وقت یہ آوازاً آسمان سے آئے گی۔ ”هذا خلیفة الله المهدى“

ان گوتوں حوالوں کی نسبت بھی سوال ہے کہ صحیح بخاری میں یہ حدیثیں ان الفاظ کے

ساتھ کہاں ہیں۔ خاکسار بفضلِ خدا ایک عالم حدیث ہو کر آواز بلند کرتا ہے کہ یہ حدیثیں ان الفاظ کے ساتھ صحیح بخاری میں نہیں ہیں۔ پہلی حدیث میں مرزا قادیانی نے ”بل ھوا“ اپنے پاس سے اپنے مطلب کے لئے بڑھالیا ہے اور دوسری تو سراسر غلط ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا وجود ہرگز نہیں ہے۔ نوٹ: مولوی محمد سلیم قادیانی نے اپنی نوبت میں اس کا جواب دیا وہ ان کے ایمان و حیاء کا آئینہ ہے۔ فرمائے گئے کہ اگر مرزا قادیانی نے یہ آیتیں اس طرح لکھی ہیں اور یہ حدیثیں اس طرح بیان کی ہیں تو آنحضرت ﷺ نے بھی فرمایا ہے کہ ہر نبی نے دجال کی خبر دی ہے۔ یہ بات ہر نبی کی کتاب میں کہاں ہے؟۔

اور نیز قرآن شریف نے کہا ہے کہ مجھ نے بشارت سنائی کہ میرے بعد احمد رسول آئے گا تو انجلیں میں دکھایا جائے کہ احمد کہاں لکھا ہے؟۔ حاضرین نے جب ان کی تقریبی تو آگ بگولا ہو گئے کہ قادیانی ایسے گستاخ ہیں کہ ان کے مرزے پر کوئی بھی اعتراض کیا جائے تو یہ لوگ مرزا جی کو بچانے کے لئے اس کا رخ جھٹ آنحضرت ﷺ کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ انہوں آنحضرت ﷺ کی عزت و حرمت کی ہرگز پرواہ نہیں۔ حضرت مولانا صاحب سیالکوٹی نے نہایت متانت سے اس کا جواب دیا کہ مولوی محمد سلیم قادیانی کے جواب سے یہ لازم آتا ہے کہ اس طرح کے غلط حوالے سب جائز ہیں اور نیز یہ کہ قرآن شریف میں بھی غلط حوالے مندرج ہیں۔ تو یہ استغفار اللہ! کون مسلمان ایسا کر سکتا ہے اور ایسا کہہ کر کس طرح مسلمان رہ سکتا ہے۔ حاضرین نے بیک زبان کہا ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں ایسا شخص مسلمان نہیں ہے۔

اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ صاحب من! قرآن شریف میں محفوظ ہے۔ کتابت میں محفوظ ہے۔ روزمرہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ اس کا حرف حرف اور ہر حرف کی حرکت محفوظ ہے۔ آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک سے لے کر آج تک اس میں زیر بركی غلطی نہیں ہو سکی اور نہ ہو سکے گی۔ کیونکہ قرآن میں خود خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”اننا نحن نزلنا الذکر و انما لـ الحافظون (حجر: ۹)“ یعنی بے شک ہم ہی نے یہ نصیحت نامہ (قرآن) اتنا رہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

اگر کسی آیات میں کتریونت اور کانٹ چھانٹ جائز ہو تو پھر خدا کی حفاظت کے کیا معنی؟ اور نیز یہ کہ پھر غلط حوالے کے کہیں گے؟ اور نیز عبارت کی کمی بیشی کوئی عیب نہ رہے گا اور دجال کے بارے میں اور اسم احمد کے بارے میں جو آپ نے آنحضرت ﷺ پر اور قرآن شریف

پرمعاذ اللہ بہتان لگایا ہے کہ اس کے حوالے اگلی کتابوں میں نہیں ملتے۔ اگر بالفرض نہ ملیں تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ آنحضرت ﷺ اور قرآن مجید نے غلط حوالے دیئے۔

اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ کتابیں محرف و مبدل ہو گئیں۔ جیسا کہ مرزا قادیانی بھی پڑھنے معرفت میں صاف طور پر لکھتے ہیں۔ لیکن شکر ہے کہ آپ کے مطالبات کو خدا تعالیٰ نے ان اگلی کتابوں میں بھی محفوظ رکھا۔

یہ لیجھے انجلیں بر بناس جس کی تصدیق مرزا قادیانی اپنی کتاب (سرمه جشم آریہ ص ۲۲۰) حاشیہ، خزانہ ج ۲ ص ۲۸۸) وغیرہ میں کرتے ہیں۔ اس میں صاف طور پر آنحضرت ﷺ کا نام مبارک لکھا ہے اور پلوں کا خط بنا م تھسلنکیوں باب ۲ میں دجال اکبر کا ذکر ہے اور متی باب ۲۲ آیت ۲۳ میں جھوٹے مسیحوں اور جھوٹے نبیوں کا ذکر ہے۔ (کبوچی کون دھرم ہے)

مرزا اس پر سخت نادم ہوئے اور تمام حاضرین نے بیک زبان ان پر ملامت کی بوچھاڑ چھوڑ دی اور حضرت مولانا مخدوم ظلم کے سعیت مطالعہ اور قوت حافظ کی واد دیئے گے۔

مولانا مددوح نے اصل امر کی طرف رجوع کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت زیر سوال یہ بات ہے کہ مولوی محمد سلیم قادیانی نے آیت "ولکن اللہ یجتبی من رسّلہ من یشاء (آل عمران: ۱۷۹)" کا ترجمہ کیا ہے۔ "لیکن اللہ اپنے رسول بھیجے گا۔" اس آیت میں بھیجے گا کس کے معنی ہیں؟ اور یہ جوانہوں نے کہا کہ مضارع استقبال کے لئے بھی آتا ہے اور یہاں استقبال کا صیغہ اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ آئندہ رسول پیدا ہونے والے تھے۔ سو یہ استدلال بالکل غلط ہے۔ کیونکہ خلاف نص قرآنی ہے اور صریح احادیث صحیح کے خلاف ہے اور میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ کوئی استنباط خلاف نصوص درست نہیں ہوتا اور صیغہ مضارع میں بھیشہ استقبال نہیں ہوتا۔ بلکہ بھی زمانہ حال کے لئے اور بھی بھی زمانہ استقبال کے لئے ہوتا ہے۔ جہاں حال کے معنی لئے جائیں وہاں استقبال کے لئے نہیں رہتا اور جہاں استقبال کے لئے جائیں وہاں حال کے لئے نہیں رہتا۔ کیونکہ صیغہ مضارع حال اور استقبال میں مشترک ہے اور مشترک لفظ ایک محل پر ایک ہی معنی دیتا ہے۔ دوسرے معنی نہیں دے سکتا اور اسی جگہ مضارع کا لفظ اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ جن پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ خدا کے فضل

۱ اس کا جواب مولوی صاحب قادیانی نے آخر وقت تک نہ دیا۔

سے اس کے نزول کے وقت موجود تھے۔ پس مضارع صرف حال کے لئے ہوا اور اس سے استقبال کے معنی منترع ہو گئے۔ جیسا کہ میں سابقانیان کر چکا۔

۲..... اور مولوی محمد سلیم قادریانی نے جو چوتھی آیت ”الله یصطفی من الملائکہ رسلاً و من الناس (حج: ۷۵)“ پیش کر کے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے۔ ”خدائ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی ہمیشہ رسول پنے گا“ اور آیت میں لفظ ہمیشہ کے لئے کوئی لفظ نہ ہے۔ یہ بھی مولوی محمد سلیم صاحب نے پہلی آیت کی طرح از خود بڑھایا ہے اور اس کے مضارع کے صینغے سے جو اتنباط کیا ہے۔ اس کے جواب کے لئے یجتنی کے مضارع والا ہی جواب ہے کہ جس وقت یہ آیت اتری اس وقت آنحضرت ﷺ موجود تھے۔ پس یہ مضارع حال کے لئے ہوانہ کہ استقبال کے لئے۔

۳..... اور مولوی محمد سلیم صاحب نے پانچویں دلیل میں جو حدیث ”لوعاش ابراہیم لکان صدیقاً نبیا“ پیش کی ہے اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ ابن ماجہ کے حاشیہ ص ۱۰۸ میں اسی پر لکھا ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ کیونکہ اس میں ایک راوی (ابو شہر ابراہیم بن عثمان عجی مص ۱۱۰) متوفی الحدیث ہے۔

نوٹ: صحیح الفاظ جو آنحضرت ﷺ کے فرزند کی وفات کے متعلق منقول میں یہ ہیں۔

”لوقضی ان یکون بعدہ محمد ﷺ نبی عاش ابنه ولكن لا نبی بعده“ یعنی اگر خدا کی قضائیں یہ بات ہوتی کہ محمد ﷺ کے بعد کوئی نبی ہو تو آپ کا بیٹا (ابراہیم) زندہ رہتا۔ لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔

۴ مولانا صاحب کے اس علمی نکتے پر علماء پھر ک اٹھے اور مر جابر جبار سے مولانا مذکور کی دلیقہ شناسی کی واد دینے لگے۔

۵ اس کی نسبت خافظ ابن حجر نے (تقریب التہذیب ج ۳۱ ص ۳۱) میں لکھا ہے۔ متوفی الحدیث اور (تہذیب التہذیب ج ۹۵، طبع یروت) میں آئندہ حدیث سے یہ الفاظ اُنقل کئے ہیں۔ ضعیف، لیس ثقة، منکر الحدیث، ضعیف الحدیث، سکتوا عنہ و ترکوا حدیث، ساقط، ضعیف لا یکتب حدیث، روی مناکیر، لیس بالقوی، کذبہ شعبۃ، کان یرید علی کتابہ، یہ مختلف آئندہ حدیث کی شہادتیں ہیں۔

یہ حدیث (صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۱۳، باب من سمی باسماء الانبیاء) میں بھی ہے اور (ابن ماجہ ص ۱۰۸، باب ماجاء فی الصلة علی ابن رسول اللہ ﷺ وذکر وفاتہ) میں بھی اور پر کی حدیث سے پہلے مکتوب ہے۔ لیکن مولوی محمد سلیم صاحب کو تو نظر نہیں آئی۔ یا انہوں نے جان بوجہ کر مسلمانوں کو دھوکا دینا چاہا ہے اور صحیح روایت کو چھوڑ ضعیف کو بیان کر دیا ہے۔

نیز اسی کے ہم معنی الفاظ امام بغوی نے آیت خاتم النبیین کے ذیل میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کئے ہیں۔ ”قال ابن عباسٰ یرید لولم اختم به النبیین لجعلت له ابنا یکون بعدہ نبیاً“

نیز یہ کہ ”ان الله تعالى لما حكم ان لانبي بعده لم يعطه ولد ذكرًا يصير رجلاً (تفییر معالم ج ۲ ص ۱۷۸)“ یعنی حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مراد اس آیت خاتم النبیین سے یہ ہے کہ اگر میں نے اس پر یعنی محمد ﷺ پر نبیوں کو ختم نہ کر دیا ہوتا تو میں اس کا بینا ایسا کرتا جو اس کے بعد نبی ہوتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ آپؐ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو آپؐ گوایا کوئی بینا نہیں دیا۔ جو بالغ ہوتا۔

یہ روایتیں صاف تاری ہیں کہ آنحضرت ﷺ پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔

اور مولوی محمد سلیم صاحب نے خاتم کے معنی آخری مان کر بھی آخری سے مراد آخری نہیں لیا۔ بلکہ اس کے لئے بھی المساجد والی حدیث پیش کی ہے۔ سواں کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری ہے۔ جو کسی نبی نے بنائی۔

اس کا مفاد یہ ہے کہ میرے بعد جو بھی مسجد بنے گی وہ کسی نبی کی بنائی ہوئی نہ ہوگی۔ یہ معنی میں اپنے پاس سے نہیں کئے۔ بلکہ دوسری حدیث سے کئے ہیں۔ یہ دیکھئے کنز العمال میں ہے۔ ”انا خاتم الانبیاء ومسجدی خاتم مساجد الانبیاء (کنز العمال ج ۱۲ ص ۲۷۰، حدیث نمبر ۲۴۹۹)“ یعنی میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے۔ لیجئے اب تو گھر پورا ہو گیا۔ اسی حدیث کے درست نہ سمجھنے سے آپؐ کو الحسن تھی۔ اب تو وہ بھی صاف ہو گئی۔ اب کیا اعذر ہے؟۔

اور مولوی محمد سلیم صاحب نے مرا قادیانی کے انکار نبوت کے متعلق جو سوال کیا کہ اگر

انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو علمائے نے ان پر کفر کا فتویٰ کیوں لگایا؟۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء، کے فتوے کا ذکر نہیں نہ بلکہ مرتaza قادیانی کے اپنے فتوے کا ذکر ہے کہ اگر وہ ان تصریحات کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ بوجب اپنے فتوے کے کافر، لعنی، خارج از اسلام، بے ایمان، خسر الدنیا والا خرہ وغیرہ وغیرہ ہیں اور اگر آپ ان کو مدعاً نبوت اور نبی جانتے ہیں تو آپ ان کو نبی فتوے کا مصدقہ گردانے تھے ہیں۔

اور یہ عذر کر اقوال و حجت نبوت سے قبل کے ہیں۔ چند وجوہ سے درست نہیں۔ اول اس لئے کہ ان ایام میں بھی مرتaza جی صاحب الہامات تھے اور کہتے تھے کہ اس الہام میں میرا نام خدا نے رسول رکھا ہے۔  
(ایام الحصل ص ۵۷، خزانہ ج ۲۳ ص ۳۰۹)

اور اس کی نظر انہیاً سے سابقین میں پائی نہیں جاتی کہ ایک شخص کو خدا تعالیٰ بذریعہ الہام رسول کہے اور وہ سالہا سال تک ایسے قول و دعوے کو کفر و بے ایمانی مانتا رہے اور پھر بھی خدا اس کو الہامات کے ذریعے سے بار بار کہتا رہے کہ تو رسول ہے۔

دوم اس لئے کہ آپ کا یہ عذر آپ کی ۲۳ سال سے زائد زندہ رہنے والی دلیل کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس میں آپ ان الہامات کے زمانے کو داخل رسالت کرتے ہیں اور اس عذر میں اس زمانے کو نبوت سے خارج بتاتے ہیں۔ لیکن جو امر ہم آپ کو سابقتاً مناتے تھے کہ مرتaza قادیانی نے نومبر ۱۹۰۱ء میں نبوت کا دعویٰ کیا اور اس حساب سے مرتaza قادیانی بعد از دعویٰ ساڑھے سات سال تک زندہ رہے اور آپ نہیں مانتے تھے اس وقت آپ نے نہایت صفائی سے مان لیا۔

اجھا ہے پاؤں یار کا زاف دراز میں  
لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا

اور بیت المقدس کی منسوخی کا مذہر بھی ناواقفی کی وجہ سے ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا عملیات میں سے ہے۔ جن کا نفح جائز ہے۔ لیکن رسالت عقائد و ایمانیات میں سے ہے اور ایمان و عقائد کا نفح جائز نہیں۔

اور حضرت یوسف علیہ السلام کی فضیلت والی حدیث بھی آپ نے یوں ہی پیش کر دی یہ تو، کیہا یا ہوتا کہ مرتaza قادیانی اس کے تعلق یا فرمائے ہیں کہ "یا تو یہ حدیث ضعیف ہے یا کسر فسی

اور تواضع پر محمول ہے۔” (آنینہ تملیات اسلام ص ۱۶۳، خزانہ ج ۵ ص ایضاً) پس بوجب قول مرزا قادیانی یہ مذرا آپ کو منفید نہ ہوا۔ آج آپ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ حمایت کو تو کھڑے ہوئے ہیں مرزا قادیانی کے۔ لیکن ان کی تصریحات کو نظر انداز کر جاتے ہیں اور اپنے پاس ہی سے جو جی میں آتا ہے کہے جاتے ہیں۔

نوٹ: ان بیچاروں کو کیا معلوم تھا کہ کس سے مقابلہ پڑے گا۔ اگر معلوم ہوتا تو جلسہ کیوں کرتے اور چیلنج کر کے اس مصیبت میں کیوں پختے۔

سبھ کے رکھیو قدم دشت خار میں مجنوں

کہ اس نواح میں سودائے برہنہ پا بھی ہے

اور قریباً ۳۰ دجالوں والی حدیث کو ضعیف کہنا جو صحیحین کی متفق علیہ حدیث ہے۔ چھوٹا منہ بڑی بات کا مصدقہ ہے اور اس کے لئے آپ نے حافظ ابن حجر کا جو حوالہ ذکر کیا۔ اسے آپ سمجھنیں سکے۔ جیسا کہ میں صحیح کے اجلاس میں مولوی عبدالرحمن صاحب قادیانی کے فرمانے کے مطابق شہادۃ ذکر کر چکا ہوں کہ جناب حافظ صاحب ستر دجال والی روایت کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ دو طریق سے مروی ہے اور ان دونوں کی اسناد ضعیف ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ قریباً تیس والی اور ستر والی ہر دو روایات ضعیف ہیں۔ حج اکبر امہ کی عبارت کو سمجھنا اگر آپ کے لئے مشکل ہو تو اصل کتاب فتح الباری دیکھئے۔ جو حافظ صاحب کی اپنی تصنیف ہے۔ اس میں وہ نہایت صفائی سے لکھتے ہیں۔ ”وفی روایة عبدالله بن عمرو عند الطبرانی لا تقوم الساعة حتى يخرج سبعون كذاباً و سندوها ضعيفاً و عنديابي يعلی من حديث انس نحوه و سندوه ضعيفاً ايضاً (فتح الباری ج ۱۲ ص ۷۶)“ کہ عبدالله بن عمرو کی روایت میں امام طبرانی کے نزدیک یہ وارد ہے کہ ستر کذاب نکلیں گے اور اس کی سند ضعیف ہے اور ابو یعلی کے نزدیک حضرت انسؓ کی حدیث سے بھی اسی طرح ہے اور اس کی سند بھی ضعیف ہے۔

اس عبارت کو علامہ عینی حنفی نے بھی اپنی شرح صحیح بخاری میں اسی طرح نقل کیا ہے اور مسئلے کو صاف کر دیا ہے کہ ستر کی تعداد والی ہر دو روایات جو طبرانی اور ابو یعلی نے روایت کی ہیں وہ دونوں ضعیف ہیں۔

نوٹ: جب مولانا سیالکوٹی نے فتح الباری کی عبارت مذکورہ بالا پڑھ کر سنائی تو لوگ

حضرت مولانا مదوہ کی وسعت مطالعہ اور تحریر علمی سے حیران رہ گئے کہ جس امر کو حضرت مولانا نے صحیح کی میں بغیر کتاب دیکھنے کے زبانی بیان کیا تھا۔ اس وقت کتاب میں سے عین بعین وہی نکلا۔ مرزا اس وقت سخت شرمسار تھے کہ دھوکا کار گرنیں ہو سکا اور کوئی مخالف طبق نہیں سکا۔ آخِ محمد سلیم قادری شرمندگی دھونے کو کہنے لگے کہ لا یعنی کتاب! حضرت مولانا صاحب نے فتح الباری کی وہ جلد بھیج دی۔ جس میں عبارت زیرِ سوال نہ کوئی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ کہا کہ چاروں صاحب (یعنی غلام رسول صاحب، محمد سلیم صاحب، عبدالرحمٰن صاحب اور علی محمد صاحب) سرجوڑ کراس کا مطالعہ کریں۔

جب حضرت مولانا صاحب نے کتاب مرزا یوسف کی طرف بھیجی تو آپ سے مولوی احمد دین صاحب گلگھڑوی نے کہا کہ مولانا ان کو کتاب نہیں دینی چاہئے۔ اس لئے کہ ایک دفعہ میں نے ان کو کتاب بھیجی تھی تو انہوں نے صرف مطلب والا ورق درمیان میں سے پھاڑا لاتھا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی اسی قیمتی کتاب کو نقصان پہنچائیں۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ نہیں یہ لوگ مجھ سے ایسے سلوک نہیں کر سکتے۔ خصوصاً غلام رسول صاحب کی موجودگی میں کہ اُول تو وہ مسن بزرگ ہیں۔ دیگر یہ کہ میں نے ان کو چینیوٹ میں مار پیٹ سے بچایا تھا اور وہ اس وقت سے اپنی بزرگی کی وجہ سے احسان مانتے ہیں اور میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں۔ خیر قادری مربی سرجوڑ کر کتاب کا مطالعہ کرنے لگے اور شرمندگی کو اندر ہی اندر پینے لگے۔ اس کے بعد ان کوئی نوبتیں تقریر کے لئے ملیں اور مولانا صاحب نے کئی دفعہ مطالبہ کیا کہ فتح الباری کے حوالے کا کیا جواب ہے۔ لیکن قادری نے اخیر تک جواب نہ دیا۔ بلکہ کتاب بھی خاتمہ پر واپس کی۔ حضرت مولانا صاحب نے کتاب رکھ لی اور کھول کر نہ دیکھی کہ اسے کچھ نقصان پہنچایا ہے یا نہیں۔ کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ وہ مجھ سے ایسا سلوک نہیں کریں گے۔

### مولوی احمد الدین صاحب سچے

اس کے چند دن بعد جب مولانا صاحب کو فتح الباری کی اس جلد کے دیکھنے کا اتفاق ہوا تو دیکھا کہ وہ ورق بچ چھپھٹا پڑا ہے۔ لیکن چونکہ اس کی جلد موٹی تھی اور اس کی سلائی باہر کی تھی۔ اس لئے وہ ورق نکل نہیں سکا اور ٹیڑھا پھٹنے سے چوری ظاہر ہو جانے کا اندیشہ ہوا تو اسی طرح انکا ہوار ہنے دیا ہے۔ مولانا صاحب نے خطبہ جمعہ میں وہ کتاب صد ہا حاضرین کو دکھائی اور

سارے مذکورہ بالامراجع مولوی احمد دین صاحب گھر وی کی دورانی شی اور سابقہ بھر بے کے سنایا۔ حضرت مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ عبدالرحمٰن قادری (کیونکہ کتاب اتنی دیر تک انہی کے ہاتھ میں رہی تھی) کی بد تہذیبی اور گندہ زبانی کا قائل ہوں۔ اسی طرح ان کی بد دینی کا بھی قائل ہو گیا ہوں۔ کیونکہ یہ دوسرا موقع ہے کہ انہوں نے ایسی شرارت کی۔

پہلی شرارت یہ تھی کہ مباحثہ روپڑ میں جب انہوں نے سورہ انفال کی آیت غلط پڑھی تو میں نے اس کی تصحیح کے لئے اپنی حمال مترجم ذ پٹی نذر احمد صاحب مرحوم ان کے پاس بھیجی۔ اس وقت بھی غلام رسول صاحب ان کے پاس تھے۔ باوجود بار بار مطالبة کرنے کے نتودہ آیت کی غلطی کا اقرار کر دیں اور نہ حمال واپس کر دیں۔ آخر بہت اصرار کے بعد غلام رسول صاحب نے واپس لوائی۔ اب عبدالرحمٰن صاحب نے میری کتاب کو اس طرح نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ان کی نہایت پا جیانہ شرارت ہے۔ حضرت مولانا صاحب نے خطبہ جمعہ میں یہ بھی فرمایا کہ ایسی شرارت میں جماعت مزدیسہ پر شرعاً چار الزام قائم ہوتے ہیں۔

اول..... یہ کہ حق ظاہر ہو جانے پر بجائے تسلیم کرنے کے اس کوچھ پانے کی کوشش کی۔

دوم..... یہ کہ یہ کتاب عاریثہ دی گئی تھی اور بوجب حدیث شریف کے مستعار چیز امانت ہوتی ہے۔ (ابن ماجہ) اس لئے وہ خیانت کے مرتكب ہوئے۔

سوم..... یہ کہ بیگانی چیز کو مالک کی نظر سے اچھل بغیر اس کی رضا کے ورق نکالنے کی کوشش کی جو پوری ہے۔

چہارم..... یہ کہ بیگانی چیز کو نا حق اور بے وجہ نقصان پہنچایا جو منع ہے۔ حاضرین جمیعہ کو ائمہ اور کتاب کی یہ حالت دیکھ کر حیران رہ گئے اور قادریانیوں سے ان کی بے ایمانیوں کے بعد ان کی شراتوں کی وجہ سے بھی سخت تنفس ہو گئے۔ چنانچہ اب سیالکوٹ میں قادریانی سخت ذلیل و خوار اور حقیر و شرمسار ہیں۔

مولانا سیالکوٹی نے اپنی تقریر کے دوران مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کی عبارت کے جواب میں فرمایا کہ محمد سلیم صاحب اس عبارت کو سمجھنہیں سکے۔

فرضی طور پر کسی امر کو ان کراس کی تردید کرنے سے اس کا امکان وقوعی ثابت نہیں ہو سکتا۔ دیکھئے قرآن مجید میں ہے۔ ”قل ان کان للرحمٰن ولد فانا اول العابدین (ز خرف: ۸۱)، یعنی اگر خدا کا کوئی فرزند ہوتا میں سب سے پہلا عابد ہوں۔ (عبد بمعنی پرستار

یا بیزار) تو کیا آپ اس کے رو سے خدا کے لئے فرزند بھی ممکن کہہ سکیں گے۔ ایسے طریق کو اصطلاح میں تعلیق بالحال کہتے ہیں۔ جسے آپ غالباً نہیں جانتے۔

دیگر یہ کہ حضرت مولانا نافتوی خاتمیت کے درجہ فضیلت ہونے پر بحث کر رہے ہیں۔  
نہ کہ نبوت کے اجراء پر۔ فافهم!

مولوی محمد سلیم صاحب مجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو کیا وہ نبی نہ ہوں گے۔ اس سے ان کا یہ فرشا ہے کہ اگر وہ نبی ہوں گے تو آنحضرت ﷺ کے بعد نبی کا آنا مانا گیا اور اسی کے رو سے مرزا قادیانی نبی کہلاتے ہیں کہ مرزا قادیانی مسیح موعود ہیں اور اگر حضرت مسیح نبی نہ ہوں گے تو ان کی نبوت کا چھیننا جانا لازم آیا جو باطل ہے۔ سو اس کے جواب میں معروض ہے کہ یہ آپ لوگوں کا مغالطہ ہے۔ بحث اس امر پر ہو رہی ہے کہ نبوت آنحضرت ﷺ پر ختم ہو گئی اور اسی کے اثبات کے لئے میں نے قرآن شریف، حدیث شریف، نفت عرب اور امت محمدیہ کے اجماع کی دلیلیں بیان کی ہیں۔ جس کا مقادیہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد نہ کسی کو جدید نبوت ملے گی اور نہ کوئی جدید نبی ہو گا اور اسی کے متعلق جناب مرزا قادیانی کی تصریحات بیان کی گئی ہیں۔ جن کو آپ نے تسلیم کر لیا اور ظاہر ہے اور مسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنحضرت ﷺ سے پیشتر نبوت ملی تھی۔ نہ یہ کہ آپ کے پیچھے ملے گی اور وہ اسی سابقہ نبوت سے آئیں گے نہ یہ کہ نبی نبوت سے آئیں گے۔ یہ سکتے کی بات ہے جو آپ کی سمجھتے بالا ہے۔ دیکھئے علمائے سابقین نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔ چنانچہ علامہ زخیری آیت خاتم النبیین کے ذیل میں خود ہی سوال کرتے ہیں اور خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں۔

”(فان قلت) کیف کان اخر الانبیاء و عیسیٰ ینزل فی اخر الزمان (قلت) معنی کونہ اخر الانبیاء انہ لا ینبأ أحد بعده و عیسیٰ ممن نبئ قبلہ (تفسیر کشاف ج ۲ ص ۵۴)“ اگر تو کہے کہ آپ کس طرح آخری نبی سے سکتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ آخری زمانہ میں نازل ہوں گے تو اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے آخری نبی ہونے کے معنے یہ ہیں کہ آپ کے بعد کوئی شخص نبی بنا یا نہیں جائے گا اور حضرت عیسیٰ ان میں سے ہیں۔ جو آپ سے پہلے نبی بن چکے ہیں۔

۱۔ مرزا قادیانی تو اسے بھی بطور مجاز واستعارہ جائز جانتے ہیں۔ چنانچہ ان کا الہام ہے۔ ”انت منی بمنزلة اولادی“ ( واضح البلاء ص ۶ بخزانی ج ۱۸ ص ۲۲۲)

اسی طرح دیگر مفسرین نے بھی لکھا ہے اور حافظ ابن حزمؓ کی عبارت کل حیات مسح کے مناظر میں بیان کر چکا ہوں۔

اور مولوی علی محمد قادریانی بار بار جو خلافت کے متعلق فرمائے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں خلافت منہاج نبوت پر ہوگی اور اس سے وہ نبوت کے جاری رہنے کی دلیل پکڑ رہے ہیں۔ یا تو تجھاں عارفانہ ہے۔ یا غایت درجے کی جہالت ہے۔ جناب! خلافت کے طریق نبوت پر جاری ہونے کے یہ معنی ہیں کہ جس طریق پر امور سیاسیہ کو آنحضرت ﷺ نے چلا یا۔ اسی طرح مطابق آپؐ کی سنت کے مطابق آخری زمانہ کا امام مہدی چلائے گا۔ کہاں کسی امر کا مطابق سنت ہونا اور کہاں نبوت کا جاری رہنا۔

دیگر یہ کہ اسی حدیث میں آپؐ کے بعد متصل ہی شروع میں خلافت کا منہاج نبوت پر ہونا مذکور ہے اور اس سے مراد بالخصوص حضرات ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کی خلافت ہے۔ ان زمانوں میں آنحضرت ﷺ کی سنت کے مطابق علمدار آمد ہوتا رہا اور معلوم ہے کہ یہ چاروں حضرات نہ نبی ہیں اور نہ ان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پس یہ حدیث اجرائے نبوت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔

اور مخلوٰۃ کی حدیث میں یہ جو آپؐ نے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ وہ امت کس طرح ہلاک ہوگی۔ جس کے شروع میں میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ بن مریم ہو گا۔

(مخلوٰۃ ص ۵۸۳، باب ثواب هذه الامة)

اول تو اسے اجرائے نبوت سے کیا تعلق؟۔ دیگر یہ کہ اس میں سے آپ امام مہدی کا ذکر کیوں چھوڑ گئے۔ کیونکہ اس میں یہ بھی ہے کہ وسط میں مہدی ہے۔ غالباً آپ اس لئے چھوڑ گئے کہ اس حدیث سے مہدی اور عیسیٰ دو الگ شخصیتیں ثابت ہوتی ہیں اور مرتضیٰ قادریانی آنجمانی ایک ہی ذات شریف ہے و دعہدوں کے مدعا ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ یہ حدیث آپؐ کے خلاف ہے۔ آپ اس میں سے امام مہدی کا ذکر کر چھوڑ گئے۔ یہی آپ کی کارستیاں ہیں۔ جن کی وجہ سے آپ لوگوں کا اعتبار نہیں رہا۔ جس امر کا بھی آپ حوالہ دیتے ہیں۔ اس میں دھوکا فریب اور خیانت ہوتی ہے۔ اب میں آپ کے جملہ دلائل کا جو حقیقت میں شہادت ہیں۔ تاریخ پو دالگ کر کے ان کی دھیان اڑا چکا ہوں اور آپ سے میرے دلائل کا کچھ بھی جواب نہیں ہو۔ کہا اور نہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ قرآن و حدیث کی نصوص ہی نہ ہیں اور ان کے متعلق امت کے علماء اور علمائے کام جماعت ہے اور مسلم ہے کہ قرآن و حدیث اور اجماع امت کے خلاف سراسر گمراہی ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے

فُرمایا: "وَمَن يَشَاقِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولَهُ مَا تَوَلَّهُ وَنَصْلُهُ جَهَنَّمُ وَسَاءُتْ مَصِيرًا" (النساء: ۱۱۵)، کہ جو کوئی رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کرے گا۔ بعد اس کے کہ اس پر ہدایت ظاہر چکی اور مومنوں کے راستے کے سوارستے کی پیروی کرے گا۔ ہم اسے اسی طرح پھیرے رکھیں گے۔ جس طرح وہ پھر اور اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت بڑی بازگشت ہے۔

اور عاقب کی تفسیر میں جو الفاظ وارد ہیں۔ وہ کلمات مرفوع ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے خود ہی فرمائے ہیں اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی۔ چنانچہ حافظ ابن حجر فتح الباری میں اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ: "وَقَعَ فِي رِوَايَةِ سَفِيَّانَ بْنِ عَيْنَةِ عِنْدِ التَّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ بِلِفْظِ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِنِي نَبِيٌّ" (فتح الباری ج ۶ ص ۴۰۶، باب ماجاء فی اسماء رسول الله)، "امام سفیان بن عینہ کی روایت میں امام ترمذی وغیرہ کے نزدیک یہ الفاظ یوں ہیں۔ میں عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

پس یہ الفاظ مرفوع ہوئے نہ کہ کسی راوی کے لئے۔

آپ (قادیانی) لوگوں نے علم حدیث کسی محدث استاد سے نہیں پڑھا اور نہ آپ کو اس علم کا پورا مطالعہ ہے۔ اس لئے آپ حدیث کے مطالب کو نہیں سمجھ سکتے اور ہمیشہ ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔

خاکسار نے یہ علم اس زمانے کے ماہر ترین محدثوں سے بڑھا ہے اور خدا کی توفیق سے عمر کا بیشتر حصہ اسی علم کی خدمت میں صرف کیا ہے۔ اس لئے جو کچھ کہتا ہوں۔ اس فن کے ماہر آئندہ کی تصریحات سے کہتا ہوں۔

نوٹ: مولانا صاحب مظلہ کی اس آخری تقریر پر لوگ محیرت تھے کہ معلومات کے یہ جواہرات کس خزانے سے نکل رہے ہیں۔ متعنا اللہ بطول بقاء و افاض علینا من برکاتہ! امین!!

سبحان رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين! خاتمه بالخير!

اس تقریر کے خاتمے پر حاضرین کی خوشی اور مسرت کی کوئی حد نہیں تھی اور قادیانیوں کی

---

۱۔ قاضی عیاضؒ نے بھی (شفا، ج ۱۳۶، مطبوعہ مصر) میں ان الفاظ کو تکلم کے صفحے سے ذکر کیا ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ یہ تفسیر خود آنحضرت ﷺ نے فرمائی ہے۔

ہست دیکھنے کے قابل تھی۔ ان کی شرمندگی اور خجالت ہم الفاظ میں نہیں بتاسکتے۔ اس عام شرمندگی سے علاوہ جو ہر وقت ان کے چہروں پر نمایاں رہتی تھی۔ خاص اس خاتمے کے قریب جب انہوں نے آنحضرت ﷺ کی شان اقدس میں گتاخی کی تھی۔ تو ان پر اپنی کرتوت کی وجہ سے اس قدر خوف چھاگیا تھا کہ انہوں نے دفتر پولیس میں فوراً اطلاع کر دی۔ جو چند قدموں کے فاصلے پر سامنے تھا۔ جن سے قریباً سارے شہر کی پولیس اسی وقت جمع کر لی گئی۔ پولیس نے قادیانیوں کو گھیرے میں ڈال لیا۔ حقیقت تو پر حفاظت تھی۔ لیکن دیکھنے سے حرast کی صورت نظر آتی تھی۔ یہ سماں بھی دیکھنے کا تھا کہ چند مرزاں اپنی محضی سُنج کے ایک کونے میں دیکھے ہوئے کھڑے ہیں اور پولیس جوان کی تعداد سے تعداد زیادہ تھی۔ ان کے گرد گھیراڈا لے کھڑی ہے۔ بعض دوستوں نے مولانا صاحب سے عرض کیا کہ قادیانیوں کی اس حالت کا فوٹو لے لینا چاہئے۔ مولانا نے فرمایا عالم مثال میں اس کا فوٹو کھج گیا ہے۔ قادیانیوں کو پولیس کے پھرے میں دیکھ کر مسلمان ان سے اور بذلن ہو گئے اور ان کے خیالات پا یہ ثبوت تک پہنچ گئے۔ تمام مسلمان خوشی سے تکمیر کے نفرے لگاتے ہوئے واپس ہوئے اور قادیانی بصورت بالا پولیس کی حفاظت یا حرast میں کھڑے رہ گئے۔ فقط دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين!

### علمائے سیالکوٹ کی تصدیقات

اگرچہ ہم نے خود بھی واقعات کو نہیات احتیاط سے لکھا ہے۔ لیکن تائید کے لئے مقامی علماء کی تصدیقات بھی نقل کی جاتی ہیں۔

..... مولانا مولوی عبدالخان صاحب پشاوری سیالکوٹ تحریر فرماتے ہیں  
بسم الله الرحمن الرحيم! الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين  
اصطفى! اما بعد!

چونکہ میں اس مناظرہ میں اول سے آخر تک شریک رہا اور فریقین کے دلائل نہیات اطمینان سے سنتا رہا۔ اس لئے نہیات وثوق اور دیانت سے کہتا ہوں کہ فرقہ ضالہ مرزاں کو شکست فاش ہوئی اور طائفہ حقہ (اہل سنت وحدیت) نے جس خوبی سے اس عظیم الشان مناظرہ میں مرزاں کے زہر میلے اثر اور بے جا حملوں کی جس قدر قابلانہ عالمانہ طیز اور تحقیق تدقیق سے مداغعت کی ہے۔ وہ محتاج بیان نہیں۔ مجھے بہت سرت ہوئی۔ اول اس لئے کہ اجوہ نہیات معقول اور مدلل طور پر پیش کئے گئے۔ دوم یہ کہ طرز تقریر نہیات مہذب، اسلامی اخلاق اور اسلامی

تہذیب کا پور الحاظ طائفہ حق نے رکھا تھا۔ سوم اس لئے کہنا واقفوں کے لئے دھوکا کھانے کا موقع  
نہ رہا اور اللہ لا یہدی کید الخائنین کا مصدقہ ہو گیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ طائفہ  
حق کو بالعموم اور مولانا مولوی الحاج الحافظ محمد ابراہیم صاحب صدر شریعت غر اسی الکوٹ کو بالخصوص  
عزت کی زندگی میں اضافہ فرمائرا کہ اسلام کو ان سے نفع پہنچائے اور طالبین حق کے لئے ان کو ذریعہ  
ہدایت بنائے۔ آمین! یارب العالمین !!

وستخط خادم العلماء! محمد عبدالخان حنفی المذہب مدرس خطیب جامع مسجد کھڑاں سیالکوٹ  
مولانا سید محمد نوراللہ شاہ صاحب ارجام فرماتے ہیں۔ ۲  
اہل حدیثوں کا اگر مناظرہ ہوتا ہم ان کو امداد دے سکتے ہیں۔ بمقابلہ مرزا یاسیاں ہمارا ہو۔ یعنی  
حنفیوں کا مرزا یوسیوں کے ساتھ تو اگر اہل حدیث ہمیں امداد دیں تو بڑی خوشی سے لے سکتے ہیں۔  
کیونکہ مرزا یوسیوں کے متعلق ہمارا سب کا اتفاق ہے۔ ان کو وہ بھی کافر جانتے ہیں اور ہم بھی۔  
چنانچہ اسی اصول کے ماتحت حال میں مناظرہ قلعہ پر مرزا یوسیوں کے ساتھ اہل حدیثوں کا ہوا تو ہم  
سب علماء مناظرہ میں تافق تھے۔ گومناظرہ میں مجھ کو وقت نہیں دیا گیا تھا۔ کم سے کم ایک گھنٹہ مجھے  
بھی دیا جاتا۔ خیر مجھے کچھ افسوس نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا سیالکوٹ کی پلک پر واضح ہے۔ مرزا یوسیوں  
نے سخت پر لے درجے کی شکست کھائی۔ مولوی سلیم وغیرہ جو مولانا مولوی حافظ محمد ابراہیم میر  
صاحب کے مقابلے پر تھے۔ ان کو کوئی جواب بن نہ آیا۔ بلکہ حوالے کے لئے فتح الباری مرزا یوسیوں  
نے مولانا موصوف سے عاریٰ متنگوائی تھی۔ چنانچہ ان کو دی گئی۔ مگر اس کا حوالہ پڑھ کر انہوں نے  
مطلق نہ سنایا اور بجائے اس کے کہ وہ حوالہ پڑھ کر نہیں نے ظلم یہ کیا کہ اس کا ورق ہی  
پھاڑ کر کتاب کو داغدار بنا دیا۔ اس واقعہ کو دیکھ کر میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مرزا یوسیوں کے لئے درجے  
کے خیانت کرنے والے ہیں۔ لہذا آج سے میں نے بھی اپنے دل میں عہد کر لیا ہے کہ میں انہیں  
کبھی کوئی کتاب عاریٰ نہیں دوں گا۔

وستخط! خاکسار سید محمد نوراللہ شاہ خطیب محلہ کشمیریاں (سیالکوٹ)

۳..... جناب مولانا مولوی نور الحسن صاحب فرماتے ہیں۔ میں تصدیق کرتا ہوں  
کہ یہ واقعات درست اور صحیح ہیں۔ فقط بقلم ابو یوسف نور الحسن عفاللہ عنہ خطیب جامع مسجد کالاں  
تحقیصیل بازار سیالکوٹ

۴..... مولانا نور الحسن صاحب کے فرزند مولوی محمد یوسف صاحب تحریر فرماتے  
ہیں۔ ”مرزا یوسی جماعت ہمیشہ حق کے سامنے فرار ہونے والی جماعت ہے۔ موجودہ مناظرہ میں بھی

مصدق جاء الحق وزهق الباطل کے ایسی منکی کھائی کہ امید ہے کہ آئندہ سیالکوٹ  
میں دوبارہ مناظرہ کی جوأت نہ کریں گے۔ ”  
دستخط! محمد یوسف عفی عنہ

۵ ..... جناب مولانا مولوی قاضی عبدالعزیز صاحب ارقام فرماتے ہیں۔ ”فقیر

اس جلسہ میں ہر وقت موجود رہا ہے۔ جو واقعات ہیں سب صحیح ہیں۔ مناظرہ فیصلہ کن ہوا تھا۔ ”العبد  
البور شید محمد عبدالعزیز عفی عنہ خطیب مسجد جدید کالا جامع مسجد حنفیہ صوفیہ مبارک پورہ (سیالکوٹ)

۶ ..... مولوی حکیم محمد صادق صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن

الرحيم! مرزاںی جماعت باوجود سعی فرار کے طوعاً و کرہاً ان مناظرہ میں آگئی۔ مولانا محمد ابراہیم  
صاحب میر کی مناظرانہ تیراندازی نے مخالفین کے سینوں کو غربال بنادیا۔ حقیقت یہ ہے کہ  
جماعت حقہ کے مقابلہ میں فرقہ باطلہ مرزاںیہ کو ایسی شکست اور ہزیست ہوئی کہ مرزاںی لوگ اختتام  
مناظرہ پر یہ شعر پڑھتے ہوئے رخصت ہوئے ہوں گے۔

لکنا خلد سے آدم کا سنتے آتے تھے لکیں

بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہبم نکلے

دستخط! حکیم محمد صادق، صادق، شہر سیالکوٹ

۷ ..... جناب مولانا حاجی امام الدین صاحب رائے پوری تحریر فرماتے ہیں۔  
خاکسار اس جلسہ میں موجود تھا۔ واقعات سب صحیح درست ہیں۔

دستخط! امام الدین رائے پوری خطیب جامع مسجد صدر سیالکوٹ بقلم خود

۸ ..... مولوی عبدالغنی صاحب ارقام فرماتے ہیں۔ ”خاکسار تمام اجلاسوں میں  
حاضر تھا۔ جو کچھ تحریر لکھی گئی ہے۔ جہاں تک میری یاداشت کام دے سکتی ہے۔ بالکل درست اور  
صحیح ہے۔“

۹ ..... جناب مولانا مولوی محمد الدین صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ بسم اللہ

الرحمن الرحيم! الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على محمد خاتم  
النبيين اما بعد! خاکسار ان تمام مناظروں میں شریک رہا۔ فریقین کی تقاریر کو بگوش ہوش شاہ۔

لہمان مقررروں نے سیالکوٹ کے مسلمانوں کے دلوں کو ضیائے ایمان سے منور کر دیا۔ حضرت  
مولانا محمد ابراہیم صاحب میر کی عمر درازی کے لئے دعا میں مالگی جاتی ہیں۔ جن کے وجود باوجود کی

ست سیالکوٹ کے خطے کو ہمت حاصل ہے۔ اللهم متعنا بطول حیاتہ! آمين!!

دستخط! نیاز آگین ابو محمد سین محمد الدین (مشی فاضل) خطیب مدرس جامع مسجد شہر سیالکوٹ

لَا يَنْتَهِي لِلنَّسِينَ لَا يَنْبَغِي بَعْدَهُ شَيْءٌ

ام الزمان  
مهدی منتظر  
محمد درا

مولانا حافظ محمد ابراهیم میر سیاکلویی

## نَعَارِفْ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ!

حضرت مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب (دامۃ برکاتہم) نے جنوری ۱۹۳۷ء میں سکندر آباد کن میں جواہیک ماہ تک قیام کیا تو اس عرصہ میں جناب مددوح نے مختلف مجالس میں کئی ایک علمی عنوان پر جن کی زمانہ میں اشد ضرورت ہے۔ قابل قدرمضافین اپنے مخصوص انداز میں اور خداداد طرز پر استدلال سے بیان فرمائے تھے۔ سکندر آباد کی مقامی انجمن اہل حدیث نے ان مضافین کو تحریر میں لے آئے کہ انتظام خاص طور پر کر رکھا تھا۔ چنانچہ بعض مضافین اخبار اہل حدیث میں گذشتہ سال ہی چھپ گئے اور بعض رسائل کی صورت میں جمعیت تبلیغ اہل حدیث پنجاب کی طرف سے شائع ہو چکے ہیں اور ابھی بہت سے نادر علمی مضافین باقی پڑے ہیں۔ ان میں سے تین اہم مضافین یعنی امام زماں، مہدی منتظر اور مجدد دو راں جن کی فتنہ قادیانی کے مقابلہ میں خفت ضرورت ہے۔ ان اور اُن کی زینت کا موجب ہوتے ہیں۔ ہم انجمن اہل حدیث سکندر آباد کن کے شکر گزار ہیں۔ جن کی سائی جیلڈ سے مولانا صاحب مددوح کے یہ آبدار جواہر ریزے محفوظ ہوئے اور ہم تک پہنچے۔ کاش دیگر مقامات کے احباب اہل حدیث میں انجمن اہل حدیث سکندر آباد کے نقش قدم پر چلیں اور مولانا مددوح کی تقریر کے وقت مضمون کو کتابت میں لے آیا کریں اور نظر ثانی کے لئے حضرت مولانا صاحب کے پاس سیالکوٹ بھیج دیا کریں۔ تاکہ اس کو طبع کر اکر دیگر مقامات کے احباب کو بھی مستفیض کیا جاسکے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا صاحب سیالکوٹ کی صحت قائم رکھے اور اس صحت میں آپ کو علمی خدمات کی توفیق مزید عطا فرمائے اور تشکان توحید و سنت کو ان کے فیوض و برکات علم سے تادیر بہر کئے رکھے۔ آمین ثم آمین!

خاکسار! خادم سنت محمد عبد اللہ ثانی ناظم جمیعت اہل حدیث پنجاب!

مولانا مددوح (افاضل اللہ علیہا من برکاتہم) نے بعد خطبہ مسنونہ کے بعد

فرمایا: "حضرات! آج کے مضمون کا عنوان امام زماں، مہدی منتظر اور مجدد دو راں" ہے۔

یہ مسئلہ جس قدر آسان ہے اسی قدر جھوٹے مدیوں کی خود غرضی نے اسے مشکل بنادیا ہے۔ جن کے اثر سے تکھے پڑھے انسان بھی بھول بھیلوں میں پڑ گئے ہیں۔ لیکن خدا کے فضل و کرم سے یہ عاجز جس طریق پر اس کو بیان کرے گا اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ مسئلہ کس قدر بہل اور صاف ہے۔ ”وما توفیقی الا بالله“، اس مسئلے میں جو دشواری اور اشکال ڈالے گئے ہیں وہ دو طریق پر ہے۔ اول امام وقت کی حدیث سے جو یہ ہے۔

”من مات بغير امام مات ميتة جاهلية“ (مسند احمد ج ۴ ص ۹۶)  
کنز العمال ج ۱ ص ۱۰۳، حديث نمبر ۴۶۴، مسند الني دائرة ج ۲ ص ۴۲۵، حديث  
نمبر ۲۰۲۵) ”جو شخص مر گیا در آں حال کہ نہیں پہچانا اس نے اپنے زمانے کے امام کو وہ حالت  
جالبیت کی موت پر مرا۔

دوسری اشکال مجدد کی حدیث سے ڈالا گیا ہے جو یہ ہے کہ:

”ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد  
لهادينها (ابوداؤد ج ۲ ص ۱۳۲، کتاب الملاحم)، تحقیق اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا رہے گا  
واسطے اس امت کے ہر صدی کے سر پر ایسے شخص جو تازہ کردیں گے واسطے اس امت کے دین اس  
کا۔ سو پہلے میں مسئلہ امامت کو کسی قدر تفصیل اور تشریح سے بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد مسئلہ  
مہدویت اور سب کے بعد مسئلہ مجدد و دور اس کا۔ وما توفیقی الا بالله!

..... مسئلہ امامت کبریٰ

سو معلوم ہو کہ لفظ امام کے معنے پیشواء ہیں اور اس کا اطلاق تین طرح پر ہے۔ امام نماز،  
امام علم، کردار لوگ علم میں اس کے مختار اور پیر و ہوں۔ جیسے آئمہ اربعہ اور آئمہ محدثین  
رحمہم اللہ!

تیرے امام جہاد جو جہاد میں صاحب امر ہو کہ اسلامی شکر اس کے اشارے پر جان  
لڑادے۔ اسی کے متعلق دوسری حدیث میں آیا ہے۔

”انما الامام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به“ (الحدیث متفق علیه،  
بخاری ج ۱ ص ۴۱۵ باب يقاتل من وراء الإمام، مشکوٰۃ ص ۳۱۸، کتاب الامارة والقضاء،  
مسلم ج ۲ ص ۱۲۶، باب الإمام جنة يقاتل من ورائه)، ”امام ڈھال ہوتا ہے اس کے پیچے ہو  
کر قتال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دشمنوں سے بچاؤ پکڑا جاتا ہے۔

پس حدیث مذکورہ بالاعین "من مات ولم یعرف امام زمانہ" میں جس امام کی معرفت کا ذکر ہے اس میں وہی امام مراد ہے۔ جس کا ذکر دوسری حدیث الامام جنة میں کیا گیا ہے۔ مطلق امام مراد نہیں ہے اس امامت کو امامت کبریٰ کہتے ہیں۔ دیگر سب امامتیں اس کے تابع ہیں۔

دونوں حدیثوں کو سامنے رکھنے سے صاف کھل جاتا ہے۔ کہ آنحضرت ﷺ اپنی امت کا نظام قائم رکھنے کے لئے فرمائے ہیں کہ جس زمانے میں کوئی امام وقت یعنی صاحب امر ہوا اور وہ اعلائی کلمة اللہ کے لئے جہاد کرتا ہو۔ واجب ہے کہ ہر شخص قلبًا و عملًا اپنی اپنی حالت کے مطابق اس کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوا اور اس کی پیروی کرے۔ ورنہ جو شخص بھی اس جماعت مجاہدین سے الگ ہو کر مرے گا۔ وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ امام نوویٰ شرح صحیح مسلم میں حدیث الامام جنة کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ:

"قوله ﷺ الامام جنة ای كالسترلانہ یمنع العدو من اذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمى بيضة الاسلام ويتقى الناس ويخافون سطوطه ومعنى يقاتل من ورائه ای يقاتل معه الكفار والبغاء والخوارج وسائر اهل الفساد وينصر عليهم ومعنى يتقى به ای يتقى سر العدو وشر اهل الفساد والظلم مطلقاً (حاشیة مسلم ج ۲ ص ۱۲۶)" آنحضرت ﷺ کے قول الامام جنة کے معنے یہ ہیں کہ امام مثل ڈھال کے ہیں۔ کیونکہ وہ دشمن کو روکتا ہے۔ مسلمانوں کو تکلف پہنچانے سے اور مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے روکتا ہے اور اسلام کے دار الخلاف کی حفاظت کرتا ہے اور لوگ اس کی حکوم عدوی سے ڈرتے اور اس کی طرف سے خوف کھاتے ہیں اور یقاطل من ورائه کے معنے یہ ہیں کہ اس کے ساتھ ہو کر کفار سے اور باغیوں سے اور اطاعت سے خارج ہونے والوں اور دیگر اہل فساد سے قتال کیا جائے اور ان پر فتح حاصل کی جائے اور یتقى به کے معنے یہ ہیں کہ اس کے ساتھ اسلام اور مسلمین کے دشمنوں اور اہل فساد اور اہل ظلم کے شر سے بچاؤ کیا جائے۔

ان احادیث کا جو مطلب بیان ہوا۔ وہ دیگر احادیث میں بھی صاف صاف مذکور ہے۔

چنانچہ حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا کہ:

"من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق

الجماعة شبراً فيموت الامات ميته جاهلية (متفق عليه، مشكوة ص ۳۱۹)،  
كتاب الامارة والقضاء، ”جو شخص اپنے امیر سے کوئی ایسا امر دیکھے جسے وہ ناپسند جانتا ہے تو  
چاہئے کہ صبر کرے۔ کیونکہ ایسا کوئی نہیں کہ جماعت مسلمین سے ایک باشت برادر بھی جد اب اوامر  
وہ مر جائے مگر جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اس میں امام کی جگہ امیر کا لفظ آیا ہے۔ ایک اور  
حدیث شریف میں ہے۔

”من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميته جاهلية

(رواہ مسلم مشکوة ص ۳۱۹، کتاب الامارة والقضاء)،“

امیر جہاد کی معرفت و اطاعت واجب فرمائے ہیں اور اس کے امر سے خارج ہونے  
والے کی موت کو جاہلیت کی موت بتارے ہیں۔ لیکن مزید تشریح کے لئے ہم ان احادیث کی تائید  
قرآن شریف سے بھی بیان کرتے ہیں۔

”رب ابشر لى صدرى ويسرى امرى واحلل عقدة من لسانى

يفقهوا قولى ..... آمين! (طه: ۲۸۔۲۵)“

..... خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ذکر میں سورہ بقری میں فرمایا کہ:

”اذ قالوا النبى لهم ابعث لنا ملگاً نقاتل فى سبيل الله (بقرہ: ۲۴۶)،“  
بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے وقت کے بنی سے عرض کیا  
کہ ہمارے لئے ایک امیر و امام ۔ مقرر کیجئے کہ ہم اس کے نظام میں ہو کر قومِ عمالقات کے انہوں  
نے ہمارا ملک دبایا ہے۔ فی کبیل اللہ جنگ کریں۔

اس نبی نے خدا کے حکم سے حضرت طاولتؑ کو امیر مقرر کیا۔ موقع جنگ پر اکثر لوگوں  
بنے اپنے امیر کی اطاعت نہ کی اور اس کے ساتھ ہو کر اپنے اخوان مسلمین بنی اسرائیل سے مظالم  
دور کرنے اور اپنے ملک کو دشمنوں کے تغلب سے چھوڑانے کے لئے جہاد میں شریک نہ ہوئے۔  
خدا تعالیٰ نے امیر کی اطاعت سے روگردانی کرنے والوں کو ظالم کے لفظ سے یاد کیا ہے ۔ اور ان  
کی بزوی کے کلمات یوں ذکر کئے ہیں۔

۱۔ تفاسیر میں اس جگہ مذکا کے معنے صاحب امام ہی لکھتے ہیں۔

۲۔ جیسا کہ فرمایا کہ: ”فَلَمَا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْالَ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ  
بِالظَّالِمِينَ (بقرہ: ۲۴۷)“

”قالوا الا طاقة لنا الیوم بجالوت وجنوده (البقرة: ۲۴۹)“ انہوں نے  
کہا۔ آج ہم میں جالوت اور من بنی اسرائیل اور اس کے شکروں سے مقابلہ کرنے کی طاقت  
نہیں ہے۔

۲..... اسی طرح جنگ احمد کے ذکر میں منافقوں کی نسبت فرمایا کہ: ”وطائفہ  
قد ہمتہم انفسہم یظنوں بالله غیر الحق ظن الجahلیyah یقولون هل لنا من  
الامر من شئی (آل عمران: ۱۵۴)“ اور ایک دوسری جماعت تھی جن کو فرمیں ڈال رکھا تھا۔  
ان کی اپنی جانوں نے وہ ایک ساتھ غیر واقعی یعنی جاہلیت کا گمان کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ کیا اس  
امر میں ہمارے بس کی بھی کوئی بات ہے؟۔

اس آیت میں صاف بتلادیا کہ جہاد فی سبیل اللہ تے دل چرانے والے کی یہی تراش  
جاہلیت کی ہے اور اس کا قول بھی جاہلیت کا ہے۔

اس کا نتیجہ بالکل صاف ہے کہ قوم کو موت کے گھانت اترتے ہوئے دیکھ کر اپنی جان کی  
فکر میں پڑنے والے کی ذہنیت قول جب ایسا ہے تو وہ جاہل ہے۔ جو نہیں تمحتا کہ میری زندگی  
موت قوم کے ساتھ ہے۔ اُر قوم مرگی تو میں زندہ کیسے رہوں گا اور اگر بالفرض انفرادی حیات  
سے زندہ رہا بھی تو قوم کو میری زندگی سے کیا فائدہ؟۔

پس ایسی حالت میں اس کی موت بھی جاہلیت کی موت ہے۔ کیونکہ آدمیت کی تین  
صوتیں ہیں۔ ذہنیت، قول اور حالت عملی۔ جس میں اس کی زندگی گذرتی اور موت واقع ہوتی ہے۔  
جب اس کی ذہنیت جاہلیت کی ہے اور قول بھی جاہلیت کا ہے اور قوم سے الگ ہو کر اس کی طرز  
زندگی بھی جاہلیت کی ہے تو اس کی موت بھی جاہلیت کی کیوں نہ ہوگی؟۔ ”علیک بهذا فانہ  
دقیق ولطیف جداً“

پس اسی سنتے کو آنحضرت ﷺ سمجھا رہے ہیں کہ جس نے اپنے وقت کے امام یعنی  
صاحب امر کی معرفت حاصل نہیں کی اور وہ اس کی معیت میں ہو کر حفاظت دین حرast قوم  
میں الگ رہا۔ اپنی جان ہے بے پرواہ نہیں ہوا اور وہ اسی حالت میں مر گیا تو سمجھو کر وہ جاہلیت کی  
موت مر۔

۱۔ بنی اسرائیل کی مخالف فوج کے سردار کا۔

قرآن کریم میں اسی جاگیت کی ذہنیت کو درسے مقام پر عدم فقاہت اور فقدانِ دانش سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ جنگِ تبوک کے سفر میں کوتاہ بھتی دکھانے والے منافقوں اور بہانہ بازوں کی نسبت فرمایا۔

## دونوں آئیوں کا حاصل مطلب

۱..... ”رضوا بان يكعونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون (التوبہ: ۸۷)،“ وہ اسی بات پر سیر ہو گئے ہیں کہ گھروں میں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ میٹھریں۔ پس وہ فقاہت (گھبی سمجھ) اور علم (حقیقت شناسی) سے کوئے ہیں۔

۲..... ”رضوا بان يكعونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون (توبہ: ۹۳)“

اسی طرح جن لوگوں نے باوجود وعدہ کرنے کے حدیبیہ کے سفر میں آنحضرت ﷺ کی جماعت کی رفاقت نہ کی تھی۔ ان کی نسبت فرمایا کہ:

”بل كأنوا لا يفقهون الا قليلاً (فتح: ۱۵)،“ یعنی حقیقت ویسی نہیں جیسی یہ لوگ کہتے ہیں۔ بلکہ بات یوں ہے کہ یہ لوگ بہت تھوڑی سمجھ رکھتے ہیں۔

ان سب آیات سے واضح اور وشن ہو گیا کہ ضرورت کے وقت جو شخص بغیر عندر کے جہاد سے تقاضا داہر کوتاہ بھتی کرتا ہے اور قوم کو مظالم کے لحاظ پر دیکھ کر الگ رہتا اور اپنی جان کی فکر میں رہتا ہے۔ اس کی ذہنیت جاگیت کی ہے۔ وہ فقاہت و علم سے کورا، عقل و دانش سے بے بہرہ اور انعام بینی سے اندھا ہے۔ قوم کی موت کے وقت وہ اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہے۔ وہ جہالت کا پڑا ہے۔ اگر اسے اپنے اخوان مسلمین کی عزت و زندگی کی پروادا نہیں تو اسلام اور مسلمین کو بھی اس کی حیات کی حاجت نہیں۔ اسی معنی میں دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ:

”ان الله لا يجمع امتى على ضلاله ويد الله على الجماعة ومن شد شد فى النار (مشکوفہ: ص ۳۰، باب الاعتصام بالكتاب والسنۃ)،“ خداۓ تعالیٰ میری امت و گمراہی پر جمع نہیں کرے گا اور خدا کا ہاتھ جماعت پر ہے اور جو اکیلار ہے گا۔ وہ اکیلا ہی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ:

”ان الشيطن ذئب الانسان کذئب الغنم يأخذ الشاذة والقاصية وانساحية واياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة (رواه احمد، مشکوفہ

ص ۳۱، باب الاعتصام بالكتاب والسنة) "بیٹک شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ مثل بکری کی جوا کیلی اور ریوڑ سے دور رہی ہوئی اور ریوڑ سے ایک جانب ہٹی ہوئی بکری کو پکڑ لے جاتا ہے۔ یعنی اسی طرح شیطان جماعت مسلمین سے الگ رہنے والے انسان کو گمراہی کے نیچے میں گرفتار کر لیتا ہے اور پچھوم پکڑ ڈال دیوں سے (یعنی چھوٹے چھوٹے خود ساختہ رستوں سے بچے رہو اور شاہراہ سنت پر چلے جاؤ) اور لازم پکڑو عام جماعت کو۔

الغرض مذکورہ بالآیات و احادیث سے دو پہر کے سورج کی طرح روشن ہو گیا کہ آنحضرت ﷺ مسلمانوں پر اجتماعی زندگی واجب فرار دے رہے ہیں اور چونکہ اجتماع کو منظم رکھنے کے لئے کسی ناظم اور صاحب امر کی ضرورت ہے اور بغیر اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے اجتماع اور نظام کے فوائد حاصل نہیں ہو سکتے۔ لہذا اس کی اطاعت اور بوقت ضرورت اس کی رفاقت بھی واجب ہے اور اس نظام سے الگ رہنے والا اور اسی حالت پر مر جانے والا جاہلیت کی موت مرتا ہے۔

حضرت مولانا عبد العزیز صاحب حدیث میں "من مات ولسم یعرف امام زمانہ" کی شرح میں فرماتے ہیں کہ: "ظاهر است کہ اهل جاہلیت اتباع رئیس واحد نداشتند و هر فرقہ برائے خود رئیس میں کرد (فتاوی عزیزیہ جلد دوم ص ۷۷)"، یعنی اہل جاہلیت کسی ایک سردار کے تابع نہ ہوتے تھے۔ بلکہ ہر فرقہ اپنا سردار الگ مقرر کر رکھتا تھا۔ اسی طرح جو شخص عام جماعت مسلمین سے الگ رہ کر زندگی گذارتا ہے اور اسی حالت پر مر جاتا ہے۔ اس کی موت زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی سی ہے۔

اس کی مثال یوں سمجھو کر جس طرح تسبیح میں سو ۰۰۰ ادا نے ایک دھاگے کے اندر منظم و مرتب ہوتے ہیں اور اس دھاگے کے دونوں سروں پر ایک بڑا سادانہ ہوتا ہے۔ اس بڑے دانے کو بھی امام کہتے ہیں کہ وہ سب دانوں کا سر بند ہوتا ہے اور دانوں کو بھرنے سے روکے رکھتا۔ اگر کوئی دانہ اس تسبیح میں سے خارج ہو جائے تو وہ اس تسبیح میں شمار نہیں ہوگا۔ بلکہ وہ ایسے ہی ضائع ہو جائے کہ۔ لیکن بودانے اس تسبیح میں منظم ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح جو انسان اس صاحب امر امام کی پیچ وی اور تابع داری کے ذور سے میں مسلک ہو گیا۔ وہ محفوظ ہو گیا اور اس نے اپنی جان حصار میں کر لی۔ تسبیح مسلم کی حدیث مذکورہ میں الفاظ و معنی کے بھی یہی معنے ہیں۔

حاصل یہ کہ رسول ﷺ نے اس حدیث میں امام کے ساتھ رہ کر زندگی بسر کرنے کا حکم کر کے یہ سبق دیا ہے کہ مسلمان اجتماعی زندگی بسر کریں اور الگ الگ ہو کر اپنے آپ کو ضائع نہ

کریں۔ اسی امر لوزخ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ:

”واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا (آل عمران: ۱۰۳)“، یعنی  
مسلمانو! تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضمونی سے پکڑے رکھو اور تفرقہ اندازی مت کرو۔

### نظام ملی کی عملی تعلیم

ان لفظی تاکید بلیغہ کے علاوہ عملی طور پر بھی مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اجتماعی زندگی کا سبق دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے نماز ہے۔

..... نماز

پنج و قوتی نماز میں جماعت کی اسی وجہ سے سخت تاکید کی گئی ہے کہ اجتماعی زندگی مسلمانوں کا قومی اور مذہبی شعار سمجھا جائے۔ حالانکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے مکان کے اندر تہا نماز پڑھنے میں بہت سہولت ہے۔ نہ اس میں وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ نہ طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے نہ مصارف کا بار برداشت کرنا پڑتا ہے کہ ہزاروں روپے لگا کر مسجد تعمیر کرانی پڑیں۔ پھر ان میں روشنی، پانی، امام و موذن، چٹائیوں اور دریوں کے روزانہ اخراجات اٹھائے جاتے ہیں اور اگر اسے عامیانہ صوفیانہ نیک نیتی سے جو حقیقت میں نیکی کے رنگ میں شیطانی و سوسہ ہے۔ دیکھا جائے تو اسکیلے ہو کر نماز پڑھنا یا کاری سے دور اور حضور قلب کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ باوجود اس کے شریعت غرانے جس کا ہر ایک حکم حکیمانہ اور پرازمصالح ہے۔ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنا واجب قرار دیا اور بغیر عذر کے گھر میں تہا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”لا صلوٰة لجار المسجد الا فی المسجد (سنن دارقطنی ص ۴۲۰ ج ۱)“، یعنی نہیں ہوتی نماز مسجد کے ہمسایہ کی گمراہ مسجد میں۔

نیز فرمایا کہ جو لوگ آذان سن کر جماعت میں حاضر نہیں ہوتے۔ ان کی نسبت میں قصد کر چکا ہوں کہ ان کے گھروں کو آگ لگادوں۔ (متفق علیہ بلوغ المرام)

اس کی بھاری وجہ یہی ہے کہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے میں نظام ملی اور مساوات قومی کا عملی سبق ملتا ہے اور چونکہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے میں خرچ اور خرچ ہر دو اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس لئے نماز باجماعت کا ثواب پچیس یا تائیس درجے زیادہ رکھا ہے۔ (بلوغ المرام)

گویا بتا دیا کہ تم خدا کی راہ میں جس قدر محنت اٹھاؤ گے۔ اسی قدر اجر بھی حاصل کرو گے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا تھا کہ تجھے

تیرے حج کا اتنا ہی ثواب ملے گا۔ جتنا تو اس میں خرچ کرے گی اور جتنی مشقت اٹھائے گی۔

(صحیح بخاری)

الغرض اہل محلہ کے لئے دن میں پانچ بار اجتماعی زندگی کا عملی سبق ہے۔ اسی نقطہ خیال سے ہر محلہ میں مسجد بنانے کا حکم کیا گیا ہے۔ (بلوغ المرام برداشت عائشہ)

### ۲..... جمعہ

پھر اس کے بعد اجتماعی زندگی کا عملی سبق جمعہ کے قائم کرنے سے بھی کر دیا ہے کہ ہفتہ میں ایک دفعہ یعنی جمعہ کے دن اہل شہر یا کئی محلہ کروہاں کی بڑی مسجد میں نماز جمعہ ادا کریں تاکہ سارے شہر یا اکثر حصہ شہر کی اجتماعی زندگی کے مظاہرے سے مسلمانوں کی شان و شوکت دو بالا ہو اور اس اجتماع عظیم سے ان کے دلوں میں حرکت و زندگی پیدا ہو اور وہ خطبہ سے اپنی گذشتہ فروگذاشتوں پر متنبہ ہو سکیں اور آئندہ ہفتہ کا عملی پروگرام بھی سمجھ لیں۔

### ۳..... عیدین

ہفتہ وار اجتماع کے بعد عیدین کے دو اجتماعیں کہ سائل میں دو دفعہ یعنی عید الفطر اور عید الاضحی کے دن تمام شہر کے افراد مسلمین اجتماعی حیثیت سے دربار خداوندی میں یعنی عید گاہ میں جو شہر سے باہر ہو حاضر ہو کر اجتماعی زندگی کا مظاہرہ کریں۔ زیب و زینت اور عمدہ پوشانک میں نکلنے ہوئے تکمیریں پکارتے جائیں اور جس راستے سے عید گاہ میں جائیں اس سے دوسرے راستے سے واپس آ جائیں۔ تاکہ ہر طرف کے لوگوں کے لئے اس اسلامی جلوس کا ناظراہ مؤثر ہو سکے۔

### ۴..... حج

پھر اس کے بعد ایک چوتھا منظر بھی ہے۔ جس میں سارا شہر نہیں ملک کے ایک دو شہر نہیں دنیا کے ایک دو ملک نہیں بلکہ دنیا جہاں کے تمام ممالک کے اہل استطاعت مسلمین مرکز اسلام یعنی مکہ شریف میں جمع ہوں۔ جس کو اجتماعی زندگی اور قومی حیات کے ابھارنے میں بہت زیادہ دخل ہے۔ یعنی حج بیت اللہ کے اس میں تمام دنیا کے مسلمان نمائندے جمع ہو کر اجتماعی زندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہاں مرکز اسلام میں جو قیامت تک خطرات سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ ہر شخص اپنے دوسرے بھائی سے ملاقات کر کے انس و محبت کا تعلق قائم کرنے اور تبادلہ خیالات کرنے اور ایک دوسرے کے حالات سے اطلاع پالینے کا موقع پا سلتا ہے۔

واقعی اسلام اور مسلمین کی شان حج ہی کے موقع پر نظر آ سکتی ہے کہ تمام مسلمان حاضرین خواہ کسی ملک اور کسی نسل و قوم اور کسی زبان اور کسی رنگ و حلیہ کے بہوں ایک ہی لباس

(احرام کی دو چاروں) میں ملبوس اور ایک ہی انداز اور ایک ہی حالت میں ہو کر ایک ہی نعمۃ اللہم  
لبیک اللہم لبیک (خداوند! میں تیری جناب میں حاضر ہوں) سب کی زبان پر ہوتا ہے۔

**نکتہ:** حج کے اجتماع عظیم کو خدا تعالیٰ نے تصور و تخلیل پر نہیں رکھا۔ بلکہ اسے عملی طور پر ادا  
کرنے کی حکمت کی نسبت خاص الفاظ میں فرمایا کہ: "لیشہدوا منافع لهم (حج: ۲۸)"، یعنی  
لوگ پیدل چل کر اور سواریوں پر ہو کر حج کو آؤں۔ تاکہ وہ اس جگہ اپنے دینی اور دنیوی منافع کو  
آنکھوں سے دیکھ لیں۔

## ۵..... زکوٰۃ

اسلام کے پانچ عملی ستونوں میں سے ایک ستون زکوٰۃ بھی ہے۔ اس میں بھی ایک پہلو  
قومی نظام اور اجتماعی زندگی کا ہے کہ اس کے مصارف سے اجتماعی زندگی کی ضرورتیں پوری کی جاتی  
ہیں۔ چنانچہ اس کو مصارف کی نسبت فرمایا کہ:

"انما الصدقۃ للفقراء والمساكین والعاملین علیہا والمؤلفة  
قلوبہم وفے الرقاب والغارمین وفے سبیل الله وابن السبیل فریضۃ من  
الله والله علیم حکیم (توبہ: ۶۰)،" سوائے اس کے نہیں کہ صدقات (زکوٰۃ) احتاجوں اور  
مسکینوں کے لئے ہیں اور ان کے لئے جو ان کی تحریکیں پر عامل مقرر ہیں اور ان کے لئے جن کی  
تایف قلوب مطلوب ہے اور (غلاموں کی) گرد و نوں (کے آزاد کرنے) میں اور مقرہضوں کے  
قرض ادا کرنے میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی حاجت روائی میں خرچ کئے جائیں۔ خدا  
کے مقرر کردہ حصے ہیں اور اللہ علیم والا ہے۔ اس آیت جامعہ میں زکوٰۃ کے آٹھ مصارف  
 بتائے گئے ہیں۔ یہ آٹھوں مصارف تین قسم پر منقسم ہو سکتے ہیں۔

**اول:** وہ جن کی ذاتی مصلحت میں مال زکوٰۃ دیا جاتا ہے اور وہ یہ ہیں۔ فقراء،  
مساکین، ابنا سبیل اور مقرہض۔ ان کی حاجات میں مال خرچ کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اپنے  
مسلمان بھائیوں کو ذلیل ہونے اور تلف ہونے سے بچایا جائے۔ نیز ان کے متعلق یہ اندیشہ بھی  
ہو سکتا ہے کہ کوئی امیر قوم ان کو مالی طبع دے کر اپنی طرف کھنچنا چاہئے تو وہ شدت حاجت کی وجہ سے  
دین اسلام سے مرتد ہو جائیں۔ جیسا کہ ہم اپنے ملک میں اس زمانہ میں عیسائیوں کی ہمت و سعی  
دیکھ رہے ہیں۔

**نکتہ:** مخالفین اسلام کی اس کوشش میں رکھ کر آیات ذلیل کو دیکھو کہ کس قدر وضاحت  
سے اس امر کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ:

”وَدَكْثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ لَوْيَرُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسْدًا  
مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَيَّبَنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ  
بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئْ قَدِيرٌ وَاقْتِلُوا الظُّلْمَةَ وَاتُّو الزَّكْوَةَ وَمَا تَقدِمُوا لَا  
نَفْسَكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (بِقِرْهَ: ۱۱۰، ۱۰۹)“  
اہل کتب میں سے بہت لوگ دلی آرزو رکھتے ہیں کہ کاش وہ تم (مسلمانوں) کو تمہارے ایمان  
لے آنے کے بعد کافر کر کے مرتد بنادیں۔ (اور یہ کوشش) حسد کے روشنے (کرتے ہیں) اپنے  
نفسوں کے پاس سے بعد اس کے کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے۔ پس تم (اے مسلمانو! سردست)  
غفوودرگذر سے کام لو۔ حتیٰ کہ خدا تعالیٰ اپنا جہادی حکم کرے۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہرشے پر قادر ہے اور  
تم جو کچھ بھی نیکی کی جنس میں سے اپنے نفسوں کے لئے آگے بھیجو گے اسے خدا کے پاس (جزاء کی)  
صورت میں موجود پاؤ گے۔ بیشک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔)

اس آیت میں صاف فرمادیا کہ بہت سے اہل کتاب مشنری اے تم کو دین اسلام سے  
مرتد کرنے کی آرزو رکھتے ہیں اور تمہاری روز افزول ترقی اور کمثرت پر حسد کھارے ہے ہیں۔ سو تم ان  
کی اس سعی کے مقابلہ میں سردست ہاتھ نہ اٹھاو۔ بلکہ خدا کے حکم (جہاد) کے منتظر ہو اور سردست  
نمایز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے پر کار بندر ہو۔

اس مقام پر خدا تعالیٰ نے مخالفین کی مادی و مالی کوشش کے جواب میں مسلمانوں کو ایک  
تو روحاںی علاج بتایا ہے اور دوسرا مالی۔ روحاںی تو نماز ہے اور مالی زکوٰۃ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ  
مخالفین مسلمانوں کو دو طرح پر دین سے بچنے ناچاہتے ہیں۔ اہل کتابوں کی اشاعت اور مناظرات  
اور جلسوں کی تقریروں سے کہ ان میں شبہات و مغالطات و اعتراضات ذکر کئے جاتے ہیں۔ دوم  
مالی منافع و ملازمت وغیرہ کا طبع دے کر سو علمی شبہات و مغالطات و اعتراضات کے جواب میں  
نماز کا حکم فرمایا۔ کیونکہ اہل تو جو نماز سنت کے مطابق پڑھی جائے اس سے روحاںی قوت حاصل  
ہوتی ہے اور دل میں خدا کا نور اور حلاوت ذکر پیدا ہوتی ہے۔ اور شبہات پیدا نہیں ہو سکتے۔

اہل کتاب کا اسلامی مفہوم یہود و نصاریٰ ہیں۔ عرب میں یہی لوگ تھے ہمارے ملک  
میں آری لوگ بھی اپنی کتاب وید کی نسبت الہامی ہونے کے مدعا ہیں اور مسلمانوں کو مرتد کرنے  
میں ان کی کوشش عیسائی مشریوں سے کم نہیں ہیں۔ پس مسلمانوں کو ان سب دشمنان دین و مسلمین  
سے مسائل ناٹھیں اور ہتنا چاہے

دوم: یہ کہ نماز کی وجہ سے نمازی صحبت عالمیں حاضر رہتا ہے اور جمعہ اور مجالس وعظ میں شامل ہونے سے ان شبہات کو دور کر سکتا ہے۔

اور مالی منافع کے لائق کے جواب میں زکوٰۃ کا حکم فرمایا کہ جب ہم اپنے مساکین و فقراء اور مقرضوں کی خود دشیری کریں گے تو مخالفین ان کو اس وجہ سے دین اسلام سے برگشتہ کرنے کا موقع نہ پاسکیں گے۔ اس لئے آنحضرت ﷺ نے اس حکمنامہ میں جو آپ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن کا عامل مقرر کرنے کے وقت ان کو زکوٰۃ کے دستور اعمال کی نسبت لکھوا کر دیا تھا۔ یہ حکم بھی لکھ کر دیا تھا۔

”ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من أغنياائهم“

و ترد على فقارائهم (بخاري ج ۱ ص ۲۰۳، باب اخذ الصدقة من الاغنياء، بلوغ المرام ص ۱۶۵، كتاب الزكوة)، تحقیق اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ان کے ماںوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ جو مسلمان اغنياء سے لی جائے اور مسلمان فقراء کو دی جائے۔ غرض اس دشیری میں بھی نظام ملی کوختکی سے محفوظ رکھنے کا ایک پہلے ہے۔ علیک بہذا فانہ لطیف جداً دوسری قسم جن پر مال زکوٰۃ خرچ کیا جاتا ہے۔ محفوظین ہیں اور اس قسم میں عاملین کا ذکر کیا جو مال زکوٰۃ کے وصول اور جمع کرنے پر مقرر ہوں کہ ان کو اسی فند میں سے تنخواہ دی جائے اور ان کو مدحافظین میں اس لئے شمار کیا گیا ہے کہ بیت المال کی معموری ان کی کوشش سے ہوگی اور بیت المال کی معموری پر مہماں ملکی اور ضروریات ملی کا انحصار ہے۔ پس یوگ محفوظین اسلام کی مدد میں شمار ہو سکتے ہیں۔

دیگر لوگ اس قسم میں مجاہدین ہیں۔ جو قرآن شریف کے لفظ فی سبیل اللہ میں داخل ہیں۔ جو حفاظت اسلام میں سب سے اول نمبر ہیں۔ ان کی ذات پر ان کے عیال پر ان کے جنگی تھیاروں اور گھوڑوں اور خوارک کی بھی رسانی پر جو کچھ بھی خرچ کیا جائے وہ سب کچھ حفاظت دین متنیں میں شامل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جنگی گھوڑوں اور آلات جہاد کی نسبت فرماتا ہے۔

”وَاعْدُو اللَّهَمَّ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تَرْهِبُونَ عَدُوَّ

الله وَعْدُوكُمْ وَآخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمَ يُوفِي إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ (انفال: ۶۰)“ مسلمانو! تم ان کفار کے مقابلہ کے لئے جو کچھ کر سکتیا رکھو۔ قوت سے اور گھوڑوں کے رسائل سے ڈراوے گے۔ تم اس سے خدا کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے سوادیگروں کو بھی جن کو تم اس وقت نہیں جانتے۔

لیکن خدا ان کو جانتا ہے اور تم جو کچھ بھی خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تم کو اس کا (ثواب) پورا پورا دیا جائے گا اور تم کو کسی طرز کا نقصان نہ پہنچایا جائے گا۔

اس آیت سے صاف صاف معلوم ہو گیا کہ حوزوں کے رسائل اور آلات جہاد کا ہر وقت موجود رکن مسلمانوں پر لازم ہے اور یہ بھی کہ اس میں اسلام کی شوکت کا ظہور ہے اور اس سے مخالفین پر اسلامی سلطنت کی دھاک پڑتی ہے اور یہ بھی کہ اس مد میں جو کچھ بھی قوڑا یا بہت خرچ کیا جائے وہ عاقبت میں موجب اجر و ثواب ہے۔

نیز آنحضرت ﷺ نے نازیوں کے مال اور ان کے اہل و عیال کی نگہداشت و خبرگیری اور ان کی ضروریات جہاد میں اعانت کرنے والوں کی نسبت فرمایا۔

”من جهر غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في اهله بخيرٍ فقد غزا (صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۳۷، باب فضل اعانت المغارزي في سبيل الله)،“ جس نے خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے اوسامان دیا۔ تو اس نے بھی جہاد کیا ارجس نے مجاہد کے گھر میں نیکی کے ساتھ اس کی خلافت و نیابت کی اس نے بھی جہاد کیا۔

”حرمة نساء المجاهدين على القاعددين كحرمة امهاتهم (صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۳۸، باب حرمة نساء المجاهدين )“ مجاہدین کی بیویوں کی حرمت گھر میں بیٹھنے والوں پر ان کی ماوں کی طرف ہے۔

تیسرا قسم میں مؤذنۃ القلوب ہیں۔ یعنی لوگ کہ مالی امداد سے ان کی تالیف قلوب کر کے اسلام اور قوم مسلمین کو قوت کو مضبوط کیا جائے اور فتوؤں سے بچایا جائے۔ اس کی سورتیں ہیں۔ ایک یہ مسلمان ضعیف الاعقاد ہوا اور وہ مالی امداد پا کر مسلمانوں سے مانوس رہے اور اس کا اعتقاد بوجہ مسلمانوں کی اخلاقی بہت وہم روکی کے پختہ ہو جائے۔ دو میں یہ کوئی شخص داخل اسلام تو نہ ہو۔ لیکن اسلام اور مسلمانوں سے انس رکھتا ہو۔ مگر دنیا کے بعض منافع اسے قبول اسلام سے روکتے ہوں۔ تو مال سے اس کی تالیف کر کے اس کو اسلام کا حلقة گلوٹ کر لیا جائے۔

سوم: یہ کوئی غیر مسلم چال باز اور صاحب اثر ہو۔ اس کی عیاری کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہو۔ یا اس کے اثر سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہو۔ تو اس کے نقصان کو روکنے کے لئے فائدہ حاصل کرنے کے لئے اس سے مالی سلوک کیا جائے۔

تنسمیہ: اس عاجز کی عمر کا اکثر حصہ تبلیغی خدمات دینیہ میں گذراتا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا

کہ کتنے بزار غیر مسلم اس عاجز کے ہاتھ پر اسلام لا چکے ہیں۔ میں نے تبلیغ میں مددوں کا التلوب و  
بہت موثر پایا ہے۔

اگر مسلمان اپنے اخراجات باقاعدہ رکھیں اور زکوٰۃ و صدقات کو با نظام جمع کریں تو روز  
مرد کے پندوں کی ضرورت نہ ہے اور سب کام باقاعدہ چلتے رہیں۔ خدا کا شکر ہے اس نے اس  
عاجز کی آواز میں اثر رکھا ہے کہ ضرورت کے وقت سینکڑوں روپے خدمات دینیہ کے لئے جن  
کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔

ان سب اقسام اور اسب امور میں آپ غور کریں کہ ان سب میں خالصاً اسلام اور  
مسلمین کی خدمت اور خیر خواہی ہے۔

الغرض زکوٰۃ اسلام میں نظام قومی کو مضبوط کرنے کا ایک عظیم اور قومی ذریعہ ہے۔

والله ولی التوفیق!

## ۲..... تقریب امام

تفصیل بالا گو طویل ہو گئی ہے۔ لیکن جب مقصود یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں  
اجتماعی زندگی بتائی جائے تو میں نے اپنے آپ کو تفصیل سے روکنا نہیں چاہا۔ وما توفیقی  
الا بالله!

جب تفصیل بالا سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام میں اجتماعی زندگی خاص طور پر  
ملحوظ ہے۔ تو اب سمجھنا چاہئے کہ اجتماع کے فوائد خود اس امر کے مقضی ہیں کہ ان کے حاصل کرنے  
کے لئے کسی نظام کی اور اس کو درست رکھنے کے لئے ایک ناظم و سردار یا صاحب امر کی بھی  
 ضرورت ہے۔ جس کے ہاتھ میں اس نظام کی بارگ ڈور ہو اور وہ اپنی قوت و تدبیر سے احکام شرعیہ  
کو نافذ کر کے اندر وہی طور پر تو مسلمانوں میں نظام قائم رکھ سکے اور یہ وہی طور پر ان کو اور ممالک  
اسلامیہ کو غیروں کی دستبرد سے بچا سکے۔

حضرت شاہ ولی اللہ (قدس سرہ) نے اپنی بے نظیر کتاب ازالۃ الخفا، میں خلافت کبریٰ  
کی تعریف یوں کی ہے۔

”هی الرياسة العامة في التصدی لا قامة الدين باحياء العلوم  
الدينية واقامة اركان الاسلام والقيام بالجهاد وما يتعلّق به من ترتیب  
الجيوش والفرض للمقاتلة واعطائهم من الفئ والقيام بالقضاء واقامة

الحدود ورفع المظالم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر نياية عن النبي ﷺ (ازالة الخفاء ج ۱ ص ۱۳) "خلافت نام ہے عام سرداری کا۔ جو دین کے قائم کرنے کے لئے علوم دینیہ کے زندہ رکھنے سے اور ارکان اسلام کے قائم کرنے سے اور جہاد اور اس کے متعلقات کے قائم کرنے سے یعنی شکروں کے ترتیب دینے اور غازیوں کے حصے مقرر کرنے اور ان کو فتنے میں سے عطا کرنے سے اور قضاء کو قائم کرنے اور حدود شرعیہ کے قائم کرنے اور مظالم کے دور کرنے اور نیکیوں کا حکم کرنے اور برا نیکوں سے منع کرنے سے آنحضرت ﷺ کی نیابت میں۔

اس تعریف میں جس قدر انور ذکر کئے گئے ہیں۔ ان پر حضرت شاہ صاحبؒ نے خود سیر کن بحث کی ہے اور ان قیود کے فوائد بتائے ہیں۔ ہم مضمون کی طوالت سے نہ ڈرتے ہوئے چاہتے ہیں کہ ان تشریحات کا ترجمہ بطور حاصل مطلب یہاں بیان کر دیں۔ کیونکہ اس ملک میں ہمارے زمانے میں جتنے بھی مدعاں خلافت ہیں ان کی امامت کا خاتمہ اسی ترجمہ سے ہو جائے گا۔ حضرت شاہ صاحبؒ کا انداز بیان محتاج تعریف نہیں ہے۔ آپؒ کے علم کی ثقاہت اور دماغ کی فقاہت اور بیان کے وقت غیری تائید اور شرح صدر مسلم کل ہے۔ لہذا ہمارے ناظرین و سماعین حضرت شاہ صاحبؒ کے ان کمالات کو مد نظر رکھ کر ذیل کی سطروں کو پڑھیں۔ حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ: "اس تعریف کی تفصیل یوں ہے کہ ملت محمد ﷺ سے قطعی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ جب انحضرت ﷺ میتوں ہوئے تو آپؒ نے عام شلق اللہ (کی بدایت) کے لئے لوگوں سے معاملات بھی کئے اور تصرفات (احکام و منابی) بھی فرمائے اور ہر معاملہ کے لئے اپنے نائب بھی مقرر فرمائے اور ہر معاملہ میں نہایت درجہ کا اہتمام ملحوظ رکھا۔ جب ہم ان معاملات کی جستجو اور پڑھات کریں اور جزئیات سے کلیات اور ان کلیات سے ایک کلی کی طرف جو سب پرشامی ہو اتنا قال کریں تو اس کی جنس اعلیٰ اقامت دین ہوگی۔ جو سب کلیات کی مخصوص ہے اور اس کے تحت دیگر جنسیں ہیں۔ ایک ان میں سے علوم دینیہ کا زندہ کرنا ہے۔ جو قرآن و حدیث اور مذکورہ و موعظت ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ: "هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمَمِينَ" یعنی خداوند تعالیٰ وہ ذات پاک ہے جس نے برپا کیا۔ اسی لوگوں میں ایک (عظمی الشان) رسول انہی میں سے جو پڑھتا ہے۔ ان پر آئیں اس کی (قرآن) اور پاک کرتا ہے۔ ان کو اور سکھاتا ہے۔ ان کو کتاب (قرآن) اور حکمت (طریق عمل یعنی اپنی سنت) اور یہ بھی عام طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ

آنحضرت ﷺ صحابی تذکرہ موعظت میں بہت کوشش کرتے تھے اور دوسری جنہیں ارکان اسلام کو قائم کرتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی عام طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ آپ ﷺ جمیع اور عیدوں اور عام نمازوں کی جماعت میں امامت نفس نفیس کرتے تھے اور محلوں میں امام بھی مقرر کرتے تھے اور زکوٰۃ کی وصولی بھی کرتے تھے اور اسے مصارف میں خرچ بھی کرتے تھے اور اس امر کے لئے عمال کو مقرر بھی کرتے تھے اور اسی طرح ہلal رمضان اور ہلal عید کی شہادت بھی سنتے تھے اور ثبوت شہادت کے بعد روزے اور افطار کا حکم بھی صادر فرماتے تھے اور حج کو بھی آپ ﷺ نے خود قائم کیا اور نویں سال میں جبکہ آپ ﷺ کی تشریف برآ ری مکہ شریف میں تحقیق نہ ہو سکی تو آپ ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھیج دیا کہ وہ حج قائم کریں۔ (یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج مقرر کر کے بھیجا۔ آنحضرت ﷺ کا جہاد کو قائم کرنا اور لشکروں کے امیر مقرر کرنا اور لشکروں کو جہاد پر) بھیجا اور آپ ﷺ کا فعل خصومات کرنا اور اس کے لئے اسلامی شہروں میں قاضیوں کو مقرر کرنا اور حدود شرعیہ کو قائم کرنا اور امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کا کرنا ایسے مشہور امور ہیں کہ کسی تنہیہ یا اشترع کے محتاج نہیں ہیں۔ لیکن جب آنحضرت ﷺ رفیق اعلیٰ میں انتقال فرمائے تو دین کا قائم کرنا اسی تفصیل سے جواہر مذکور ہوئی۔ واجب ہوا اور دین کا قائم کرنا موقوف ہوا ایک ایسے شخص کے مقرر کرنے پر جو اس امر میں نہایت درجے کا اہتمام کرے اور آفاق و اطراف میں اپنے نائیں کو بھیجے اور ان کے حالات سے اطلاع رکھے اور وہ اس امر سے (سرمو) تجاوز نہ کریں اور اس کے اشارے پر چلیں اور وہ شخص آنحضرت ﷺ کا خلیفہ اور آپ ﷺ کا نائب مطلق کہلائے۔ پس اس تعریف کے کلمہ ریاست عامہ سے خارج ہو گئے وہ علمائے مسلمین جو علوم دینیہ کی تعلیم میں مشغول ہیں اور شہروں کے قاضی اور لشکروں کے امیر بھی جو خلیفہ کے حکم سے مقرر ہو کر یہ کام انجام دیتے ہیں۔ عصر اول میں وعظ تذکرہ خلافت کا ضمیر تھا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ نہیں وعظ بیان کرتا۔ مگر امیر یا مامور (جسے امیر کی اجازت ہو) یا متنکر (جو خود بخوبی مخصوص بیٹھے) اور لفظ فی التصدی لا قامة الدین سے وہ شخص خارج ہو گیا۔ جو اہل آفاق پر کسی وجہ سے غلبہ حکومت حاصل کر لے اور شرعی وجہ کے سوالوں سے خارج حاصل کرنے کے درپے ہو جائے۔ مثل جابر و مغلث بادشاہوں کے اور لفظ تصدی سے وہ شخص باہر ہو گیا۔ جو ہر چند کہ دین کو قائم کرنے کی قابلیت کامل طور پر رکھتا ہوا اور اپنے اہل زمانہ سے افضل بھی ہو۔ لیکن با فعل اس کے باหے سے امور مذکورہ بالا میں کچھ بھی سرزد نہ ہوتا ہو۔ پس پوشیدہ اور غیر منصور اور بے تسلط شخص (نواب بے ملک) خلیفہ نہیں ہو سکتا اور

قید نیا بہ عن النبی ﷺ مفہوم خلافت سے نکال دیتی ہے۔ انبیاء سائیں علیہم السلام کو ہر چند کہ قرآن شریف میں حضرت داود علیہ السلام کو خلیفہ کہا گیا ہے۔ کیونکہ اس مقام پر آنحضرت ﷺ کی خلافت کا ذکر ہے اور حضرت داود علیہ السلام (جو آنحضرت ﷺ سے پیشتر ہوئے ہیں۔ آپ کے خلیفہ نہیں بلکہ) خلیفہ اللہ ہیں۔ اس لئے حضرت ابو بکر صدیق اسم خلیفۃ اللہ سے راضی نہ ہوئے۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خلیفہ رسول اللہ ﷺ ہما کرو۔“

(انتهی مترجم ازالۃ الخفاء ج ۱ ص ۱۳ تا ۱۶ فصل اول)

## تو ضیح

ہم چاہتے ہیں کہ بیان بالا کو ایک اور طریق پر بھی واضح کر دیں تاکہ ہر طبقہ کے لوگ اس کی ضرورت اور اس کے فوائد کو سمجھ کر حدیث زیر بحث کا اصلی مفہوم درست طور پر سمجھ جائیں اور جھوٹے مدعیوں کے فریب سے فجح جائیں سو معلوم ہو کہ جس طریقہ سے خود اس عالم کا نظام صانع عالم پر دولالت کر رہا ہے اور یہ اتنا بڑا کارخانہ اس امر کو بتلارہا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا منتظم اور چلانے والا ضرور موجود ہے۔ (یعنی باری تعالیٰ عز اسمہ)

بس اسی طرح اس نظام قومی و اجتماعی زندگی کے لئے بھی ایک امام کی ضرورت ہے۔ جس کے ذریعے امن و امان قائم رہے۔ سب سے ضروری چیز نظام کے لئے یہی ہے کہ قوم میں امن و امان ہو اور فساد برپا نہ ہونے پائے اور اگر کوئی یہرہ فی طاقت فساد پر آمادہ ہو اور چاہے کہ اس نظام و اجتماعی شان و شوکت کو تبدیل و بالا اور زیر و زبر کر کے رکھ دے تو پورا نظام اور اجتماع اپنے امیر کے حکم پر اپنی جان بختیلی پر رکھ کر مردانہ وار پروانہ کی طرح قربان ہو جائے۔ اسی سے یہ امر بھی معلوم ہو گیا کہ اگر نظام نہیں ہے اور افراد تنہا ہیں تو مختلف قوت ایک ایک کر کے سب کو فنا کر دے گی۔ کیونکہ ان میں نظام محدود ہے۔ ہر شخص تنہا ہو کر پچھنیں کر سکتا۔ انسان کو جناب باری عز اسمہ نے بنایا ہی متین ہے کہ وہ اپنے بھجنوں سے ملک کر اپنی زندگی پوری کرے۔ کیونکہ اس کے معنے ہیں مل کر ایک جگہ رہنا۔ اسی لئے مدینہ شہر کو کہتے ہیں کہ اس جگہ بہت لوگ مل کر رہتے ہیں۔ بس اس طرح قوم سے الگ رہنے کے متعلق فرمایا کہ اگر اسی طرح رہو گے اور اپنے زمانہ کے امام کو نہ پہچانو گے اور اس کے مطیع نہ ہو گے اور ایک رشتہ اور سلسہ میں غسلک نہ ہو گے تو تم کو ہر شخص جاہلیت کی موت مار دے گا۔ اگر کسی کو کسی شخص نے نہ مارا اور وہ طبعی موت سے مر اتے بھی ہو جاہلیت ہی کی موت مرا۔ با نظام اجتماعی زندگی اور تمدن معاشرت کی موت تو یہ ہے کہ اس کی ایسے

حالات میں پرواز کرے کہ اس کا دل حفاظتِ اسلام کے لئے امیر المؤمنین اور خلیفہ اسلام کی اطاعت میں لگا بوا ہو۔

### ۳..... تصویر کا دوسرا رخ

صاحبان! آپ پرواضح ہو چکا ہے کہ تقریباً امام کی غرض و غایت کیا ہے اور کون شخص اس منصب عظیم کے لائق ہو سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ امام وہ ہے۔ جس کے ہاتھ میں حکومت ہو اور اس کے زیر فرمان فوجیں اور سالے ہوں اور مسلمانوں کے نظام داخلی کو درست رکھ کر ان کو اور اسلامی ممالک کو غیروں کی دشبرد سے محفوظ رکھ سکتا ہو۔

اس خلاصہ کو دماغ میں رکھ کر تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ مرزا غلام احمد قادریانی نے جب امام زمان ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے نہمانے والوں کو وہ جاہلیت کی موت پر مرنے سے ڈراتے ہیں تو اب دیکھنا چاہئے کہ آیا انہوں نے اس امامت کا دعویٰ کیا ہے جو حدیث زیر گور میں مراد ہے۔ یا یہ کہ وہ اس قسم کے دعوے سے صاف انکار کرتے ہیں۔ دیگر یہ کہ آیا انہوں نے امت محمدیہ کی خیر خواہی اور ان کے عروج کے لئے وہ خدمات انجام بھی دی ہیں؟۔ جو اس امام زمان یا خلیفہ اسلام کے متعلق سابقًا بالتفصیل مذکور ہو چکی ہیں۔ یا حقیقت یہ ہے کہ مرزا قادریانی نے اپنی عمر امام محمد ﷺ کی بد خواہی میں اور غیر اسلامی حکومت کی خوشامد میں اور اس سے اغراض واکرام حاصل کرنے میں صرف کر دی۔ میں ان امرلوں کی شہادت میں بے بنیاد بدظیاں اور خیالی تمہیں اور عوام الناس کے خیالات پیش نہیں کروں گا۔ بلکہ خدا کے فضل سے مرزا قادریانی کی اپنی تصریحات اور دیگر قادریانی مصنفوں کا لٹر پرچر پیش کروں گا۔

### ۱..... اقتباس اول..... خاندانی خدمات

..... ”میں ایک ایسے خاندان سے ہوں کہ جو اس گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے۔ میرا والد مرزا غلام مرتضی قادریانی گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیر خواہ آدمی تھا۔ جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گرینن صاحب کی تاریخ رئیساں پنجاب میں ہے اور ۱۸۵۷ء، میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مدد دی تھی۔ یعنی پچاس سوار اور گھوڑے بھیم پہنچا کر تین زمانہ بذر کے وقت سرکاری انگریزی کی امداد میں دیئے تھے۔ ان خدمات کی وجہ سے جو چھیلات خوشنودی حکام ان کو ملی تھیں۔ مجھے افسوس ہے کہ بہت سی ان میں سے گم ہو گئیں۔ مگر تین چھیلائ جو مدت سے چھپ چکی ہیں ان کی نقلیں حاشیہ میں درج کی گئی ہیں۔ پھر

نیرے والد صاحب کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر قادریانی خدمات سرکار میں مصروف رہا اور جب تھوں کی گذر پرمفدوں کا سرکار انگریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ سرکار انگریزی کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا۔

ب..... پھر میں (خود بدولت مرزا غلام احمد قادریانی) اپنے والد اور بھائی کی وفات کے بعد ایک گوشہ نشین آئی تھا۔ تاہم سترہ برس سے سرکار انگریزی کی امداد اور تائید میں اپنے قلم سے کام لیتا ہوں۔ اس سترہ برس کی مدت میں جس قدر میں نے کتابیں تالیف کیں ان سب میں سرکار انگریزی کی اطاعت اور ہمدردی کے لئے لوگوں کو ترغیب دی اور جب دلکشی مخالفت کے بارہ میں نہایت موثر تقریریں لکھیں اور پھر میں نے مصلحت سمجھ کر اسی امر ممانعت جہاد کو عام ملکوں میں پھیلانے کے لئے عربی اور فارسی میں کتابیں تالیف کیں۔ جن کی چھپوائی اور اشاعت پر ہزار ہا روپے خرچ ہوئے اور وہ تمام کتابیں عرب، بلاد شام، روم، مصر، بغداد اور افغانستان میں شائع کی گئیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ کسی نہ کسی وقت ان کا اثر ہو گا۔۔۔ اگر میں نے یہ اشاعت گورنمنٹ انگریزی کی سچی خیر خواہی سے نہیں کی تو مجھے ایسی کتابیں عرب، بلاد شام اور روم وغیرہ بلاد اسلامیہ میں شائع کرنے سے کس انعام کی توقع تھی۔” (حوالہ کتاب البریس ۲۷، خزانہ اشاعت ۱۳۸۲ ص ۸۲)

ج..... بالکل سچ ہے اسلام دشمنی اسی کا نام ہے۔ میر سیالکوٹی!

ج..... ”التماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو پچاہ برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جان ثانی خاندان ثابت کر چکی ہے۔ اس خود کاشتہ پودا کی نسبت نہایت جسم اور اختیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو واشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بھائے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا اور ناب فرق ہے۔“ (درخواست مرزا قادریانی بحضور نواب لفظت گورنر بہادر پنجاب، تبلیغ رسالت ج ۲۰، ۱۹ جمومہ اشتہارات ج ۲۱ ص ۲۱)

۱۔ قرآن میں مومن و کافر کی پہچان یہ ہے۔

”الذین امنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفرو یقاتلون فی سبیل الطاغوت (النساء: ۷۶)،“ یعنی جو مومن ہیں وہ خدا کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ غیر اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔

..... ”میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے سلسلہ جہاد کے معتقد مہم ہوتے جائیں گے۔ کیونکہ مجھے تیخ اور مہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔“ (درخواست مرزا قادیانی بکشور نواب الخشت گورنر بھادر پنجاب مندرجہ تلخ رسالت ج ۷ ص ۷۱، محمد شعبہ اشتبہارات ج ۳ ص ۱۹)

## ۲..... پچاس الماری

”میری عمر کا آخر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گذرائے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی احاطت کے بارو میں اس قدر کتاب میں لکھی ہیں اور اشتبہار شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتاب میں اکٹھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر گئی ہیں۔ میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب اور مصر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس گورنمنٹ کے سچے خیر خواہ ہو جائیں اور مہدی خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احمدیوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں۔“ (تریاق القلوب ص ۱۵۵، خزانہ اشتبہارات ج ۵ ص ۱۵۶)

## ۳..... بے نظیر کار گذاری

”پھر میں پوچھتا ہوں کہ جو کچھ میں نے سر کار انگریزی کی امداد اور حفاظت من اور جہادی خیالات کے روکنے کے لئے برابر سترہ سال تک پورے جوش سے اور پوری استقامت سے کام لیا۔ کیا اس خدمت نمایاں کی اور اس مدت دراز کی دوسرا مسلمانوں میں جو میرے مخالف ہیں۔ کوئی نظیر ہے؟ کوئی نہیں۔“ (کتاب البر یا اشتبہار صورت ۲۰ ستمبر ۱۹۹۷ ج ۸، خزانہ اشتبہارات ج ۱۳ ص ۸)

ایں کار از تو آید و مردان چنیں کند

## ۴..... اسلامی ممالک پر توجہ

”میں نے مناسب سمجھا کہ اس رسالہ کو بلاد عرب یعنی حر میں (مکہ شریف و مدینہ شریف) اور شام اور مصر وغیرہ میں بھی تبیح دوں۔ کیونکہ اس کتاب کے ص ۱۵۲ پر جہاد کی مخالفت میں ایک مضمون لکھا گیا ہے اور میں نے باکیس برس سے اپنے ذمہ یہ فرض کر رکھا ہے کہ ایسی کتاب میں جن میں جہاد کی مخالفت ہو اسلامی ممالک میں ضرور بھیج دیا کرتا ہوں۔“

(تجھیر مرزا قادیانی ۱۸ نومبر ۱۹۰۱ء، مندرجہ تلخ رسالت ج ۱۰ ص ۲۶، مجموعہ اشتبہارات ج ۳ ص ۲۲۲)

## ۵ ..... حکومتوں کا فرق

..... ”ہمیں اس گورنمنٹ کے آنے سے وہ دینی فائدہ پہنچا کہ سلطان رہم کے کارناموں میں اس کی تلاش کرنا عبث ہے۔“

(اشتہار مرزا قادیانی مندرجہ تبلیغ رسالت ن ۱۸ ص ۳۷، جماعت اشتہارات ن ۳۳، ۹۵)

ب ..... ”بلکہ اس گورنمنٹ کے ہم پر اس قدر احسان ہیں کہ اُنہم یہاں سے گل جائیں تو نہ ہمارا کمکہ میں گذر ہو سکتا ہے اور نہ قسطنطینیہ میں۔ تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے برخلاف کوئی خیال اپنے دل میں رکھیں۔“ (ارشاد مرزا قادیانی مندرجہ تبلیغ رسالت احمدیہ ن ۱۶)

ج ..... ”میں اپنے کام کونہ مکنہ میں اچھی طرح چلا سکتا ہوں نہ مددیں ۱۱ میں نہ روم میں نہ شام میں نہ ایران میں نہ کابل میں۔ مگر اس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لئے دعا کرتا ہوں۔ لہذا وہ اس الہام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس گورنمنٹ کے اقبال اور شوکت میں تیرے وجود اور تیری دعا کا اثر ہے اور اس کی فتوحات تیرے سبب سے ہیں۔ کیونکہ جدھر تیرا منہ اوہ خدا کا منہ ہے۔“ (اشتہار مرزا قادیانی ۲۲ مارچ ۱۸۹۷ء، مندرجہ تبلیغ رسالت ن ۸ ص ۶۹، محمد اشتہارات ن ۲۴ ص ۳۷۱، ۳۷۰) سبحان اللہ! یہ منہ اور مسور کی دال۔ میرے سیکھو!

## ۶ ..... شکایت و عنایت

”اب میں اس گورنمنٹ محدث کے زیر سایہ ہر طرح سے خوش ہوں۔ صرف ایک رنج اور درد غم ہر وقت مجھے لاحق حال ہے۔ جس کا استغاثہ پیش کرنے کے لئے اپنی محسن گورنمنٹ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور وویہ ہے کہ اس ملک کے مواوی مسلمان اور ان کی جماعتوں کے لوگ حد سے زیادہ مجھے ستاتے اور دکھدیتے ہیں۔“ (مجموعہ اشتہارات ن ۳۳ ص ۱۳۳)

## ۷ ..... راز کا مشورہ

”قرین مصلحت ہے کہ سرکار انگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے نافہم مسلمانوں کے لئے مکمل معظمر میں اس لئے نہیں چلا سکتے کہ وہاں الحاد پھیلانے والے کی نسبت حکم ہے۔

”وَمَنْ يَرْدِفِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نَذْقَهُ مِنْ عَذَابِ الْيَمِ (الحج: ۲۵)“

۸ اور مدینہ منورہ میں اس لئے نہیں چلا سکتے کہ آنحضرت ﷺ نے خبر دی کہ دجال یہاں پر داخل نہیں ہو سکتا۔

نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جائیں جو درپرداہ اپنے دلوں میں برٹش انڈیا کو دارالحرب قرار دیتے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ حکیم مزاج بھی ان نفعوں کو ایک ملکی راز کی طرح اپنے کسی دفتر میں محفوظ رکھے گی..... ایسے لوگوں کے نام معد پتہ و نشان یہ ہیں۔“ ۱

(تحریر مرتضیٰ قادریانی مندرجہ تبلیغ رسالت ج ۵ ص ۱۱، مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۲۲۸، ۲۲۷)

## ۸ ..... قادیانی فرض ..... فداح کاری

..... ”بیشک ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس گورنمنٹ محسن کے سچے دل سے خیرخواہ ہوں اور ضرورت کے وقت جان فدا کرنے کو بھی تیار ہوں۔ لیکن ہم اس طرح پر بھی غیر قوموں اور غیر ملکوں میں اپنی محسن گورنمنٹ کی نیک نامی پھیلانی چاہتے نہیں کہ کس طرح اس عادل گورنمنٹ نے دینی امور میں ہمیں پوری آزادی دی ہے۔ پس کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس محسن گورنمنٹ کا ان تمام تعریفوں کے ساتھ دنیا میں نام پھیلے اور اس کی محبت دور دوستک دلوں میں جاگریں ہو۔“  
(البان غ (جس کا درود مسلمان فریاد درد ہے۔) ص ۳۲، ۳۳، خزانہ ج ۱۳ ص ۳۰۰، ۳۰۱)

ب ..... ”یہ بحث ہے کہ چونکہ ہم اس گورنمنٹ کی رعایا ہیں اور دن رات بیٹھار احسانات دیکھ رہے ہیں۔ اس لئے ہمارا یہ فرض ہونا چاہئے کہ سچے دل سے اس گورنمنٹ کی اطاعت کریں اور اس کے مقاصد کے مددگار ہوں ۲ اور اس کے مقابل پر ادب اور غربت اور فرمانبرداری کے ساتھ زندگی بسر کریں ۳۔ مگر چاہئے کہ اعتقادی امور میں جو دار آخوت سے متعلق ہیں وہ طریق اختیار کریں۔ جس کی صحت اور درستی پر ہماری عقل ہمارا کاشنس ہماری فراست فتویٰ دیتی ہو۔ ۴ ہم تو بار بار خود گواہی دیتے ہیں کہ نہایت ہی بد ذات وہ ۵ لوگ ہیں جو متواتر احسانات اس گورنمنٹ کے دیکھ کر اور اس کے زیر سایہ اپنے مال اور جان اور عزت کو محفوظ پا کر پھر بغاوت کے خیالات دل میں پوشیدہ ہے رکھتے ہوں۔“  
(البان غ فریاد درود مصنف مرزا قادریانی ص ۵۵، خزانہ ج ۱۳ ص ۲۲۶)

۱ مہدی اور سعی بنے کے لئے اس سے زیادہ مسلمانوں کی خیرخواہی یا بالفاظ دیگر بد خواہی کیا ہوگی۔ حدیث میں وارد ہے کہ: ”الْمُسْلِمُ أَخْوَالُ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَ لَا يُسْلِمُهُ“ (مشکوہ ص ۴۲۲، باب الشفقة وارحمة على الخلق)، یعنی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کے لئے کسی دیگر کے سپرد کرتا ہے۔

۲ دن رات بے شمار احسانات کرتا تو خدا کی شان ہے۔ بندے سے یہ نہیں ہو سکتا۔  
۳ شاید اس سے مراد اسلامی بلاد کو فتح کرنا ہو۔ (باقیہ حاشیہ ۲۷، اگلے صفحہ پر)

۹ ..... اسلام اور مسلمانوں کی عیب شماری ..... (معاذ اللہ)

..... ”مسلمانوں میں یہ دو مسئلے نہایت خطرناک اور سراسر غلط ہیں کہ وہ دین کے لئے توارکے جہاد کو اپنے مذہب کا ایک رکن سمجھتے ہیں۔“ (ستارہ قیصرہ ج ۵ ص ۱۲۰)

ب ..... ”افسوس کہ یہ عیب غلط کار مسلمانوں میں اب تک موجود ہے۔ جس کی اصلاح کے لئے میں نے پچھاں ہزار سے کچھ زیادہ اپنے رسائلے اور مبسوط کتابیں اور اشتہارات اس ملک اور غیر ملکوں میں شائع کئے۔“ (ستارہ قیصرہ ج ۵ ص ۱۲۰)

ج ..... ”دوسراعیب! ہماری اے قوم مسلمانوں میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک ایسے خونی سمجھ اور خونی مہدی کے مفترض ہیں۔ جو ان کے زعم میں دنیا کو خون سے بھردے گا۔“ (ستارہ قیصرہ ج ۵ ص ۱۲۱)

د ..... ”غرض مسلمانوں کے جہاد کا عقیدہ مخلوق کے حق میں ایک بد اندریشی ہے۔“ (ستارہ قیصریہ ج ۵ ص ۱۲۲)

### نتیجہ الكلام

غرض اس قسم کے میمون حوالے ہیں۔ جن سے آفتاب دو پھر کی طرح ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی نے اس امامت کا ہرگز دعویٰ نہیں کیا۔ جو حدیث رسول اللہ ﷺ میں مراد ہے اور ان (باقیہ حاشیہ ۲۳ تا ۲۶، گذشتہ صفحہ) میں ایسی زندگی امام زمان و امام مہدی کی شان کے خلاف ہے۔

۵ یہ اسلامی طریق نہیں ہے کیونکہ دین جو عاقبت میں کام آنے والا ہے۔ اس کی بناء و جی پر ہے نہ کہ ایسے شخص کی کاشش پر۔

۶ قادیانی مہدی کی شیریں زبانی حدیث میں آیا ہے کہ امام مہدی سیرت و اخلاق میں آنحضرت ﷺ کے مشابہ ہوں گے اور آنحضرت ﷺ کی نسبت حدیث میں وارد ہے کہ آپ کسی کو گالی نہیں دیتے تھے۔ نہ غصہ رنج کی حالت میں نہ کسی اور طرح سے۔

۷ یہ غیب دانی کا دعویٰ ہے جو غلط ہے۔ مرزا قادیانی کا اصل مطلب گورنمنٹ کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے کا ہے۔ جو بخواہی اور چغلی ہے اور دعویٰ مہدیت کے خلاف ہے۔

۸ اگر مرزا قادیانی مسلمانوں کو اپنی قوم سمجھتے تو ان کے عقیدہ کو حکومت کے سامنے بذریعہ کر دینے والے طریق میں پیش کر کے ان کی بد خواہی نہ کرتے اپنا بن کر وشمی کرنا اسی کا نام ہے۔ یہ بات امام زمان کی شان سے بعید ہے۔

حوالہ جات سے یہ بھی ثابت ہے کہ مرتزاقا دیانی قومِ ملین کے پکے شان تھے اور وہ ہندوستان میں کجاد نیا جہاں کے مسلمانوں کی خود مختار اور با اقتدار حکومت کے بھی محنت خالق تھے۔ اگر کہا جائے کہ وہ اپنے مخالفوں کی خیر خواہی نہیں کر سکتے تھے اور جن لوگوں نے ان کی بیعت کر لی ان کی حمایت و حفاظت میں انہوں نے مماثلت جہاد کے وقت ان کا روپیہ اور تصنیف کے وقت اپنا پسینہ بھاڑایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روپیہ اور پسینہ قادیانیوں کو بھی اس معراج پر پہنچانے میں نہیں بھایا گیا۔ جو حدیث کا منشاء ہے۔ چنانچہ جیسا کہ بالا حوالوں سے معلوم ہوا کہ ستائیں برس کی محنت و برداشت اخراجات اور تصنیفات سے ان غرض صرف مخالفت جہاد اور گورنمنٹ انگلشیہ کی خدمت گذاری رہی ہے۔

پس مرتزاقا دیانی اپنی جماعت میں بھی بھیش کی ماتحتی اور زیر دستی کی روح پھونک گئے ہیں اور ان پر ضربت علیهم الذلة کی مہر لگائے گئے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے۔ "لا ینبغی لله مومن ان یذل نفسہ" (جمع المخارج ۵ ص ۲۷۴) یعنی مومن کو جائز نہیں کہ اپنے آپ (اسلامی وقار) کو ذلیل کرے۔

ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب مرحوم نے عنوان "حکمت فرعونی" کے تحت مرتزاقا دیانی کی زندگی اور موت کا نقش ان شعروں میں صاف صاف کھینچ دیا ہے۔

شیخ اولرزا فرنگی رامرید

گرچہ گوید از مقام بایزید

گفت دیں رارونق از محکومی است

زنگانی از خودی محرومی است

دولت اغیار رارحمت شمرد

رقصلہ اگرد کلیسا کردو مرد

لے عربی میں محاورہ ہے کہ: "دابة ذلول بینه الذل وذللها صاحبها" (اساں البلاغۃ) امثال میدانی میں ہے۔ "اذل من بعير سانية وهو البعير الذي يستقى عليه الماء" ان سب میں ذلت کا لفظ ماتحت ہوتے اور مکثر ہونے کے لئے مستعمل ہے۔ اس کے مطابق قرآن شریف میں بنی اسرائیل والی گائے یا ڈل کے نئے لا ذلول آیا ہے۔

دفعہ خل، ہمارا اعتراض اس جھت سے نہیں ہے۔ کہ مرزا قادیانی نے اپنی سابقہ پچاس سالہ موروثی اور خاندانی گورنمنٹ و فادراری کیوں ازسرنو قائم کرنی چاہی اور ایسی مبتذل اور خوشامد ان تحریرات سے گورنمنٹ انگلشیہ کی رعائیں کیوں لینی چاہئیں۔ کوئی اپنی مطلب برآری کرے اور کسی طریق سے کرے ہمیں کیا؟ نہ ہمیں گورنمنٹ سے پرخاش اور نہ مرزا قادیانی سے ان کے ذاتی مفاد کے خلاف شکایت، بلکہ ہمارا اعتراض اس لحاظ سے ہے کہ مرزا قادیانی نے امام زمان اور مہدی ہونے کا دعویٰ کر کے خدا کی زمین میں خدا کی شریعت کو قائم کرنے کی بجائے امت مرحومہ کو ہمیشہ کے لئے غیروں کے ماتحت رہنے کا جو سبق دیا وہ شان مہدویت کے خلاف ہے اور جس۔

نیز یہ کہ امت محمدیہ کی حمایت و حفاظت کرنے کی بجائے مرزا قادیانی ہمیشہ گورنمنٹ انگلشیہ کو مسلمانوں کی طرف سے یہ لکھ کر بدھن کرتے رہے کہ مسلمان ایک خونی مہدی اور خونی سچ کے منتظر ہیں اور ان کا یہ عقیدہ خطرناک ہے اور مخلوق کے حق میں ایک بداندیشی ہے۔

مرزا قادیانی کی یہ ساری سعی خود غرضی پر منی تھی۔ جس کی تکمیل کے لئے ان کو امت مرحومہ کی بدخواہی ضروری نظر آئی۔ جیسا کہ ان کی تحریرات مذکورہ بالا سے واضح ہے۔ بنابریں مرزا قادیانی مہدی منتظر نہیں ہو سکتے۔ بس ہمارا مقصد اس اعتراض سے صرف اتنا ہی ہے اور مرزا قادیانی کا بار بار یہ لکھنا کہ ہم پر گورنمنٹ کے احسانات میں کہ اس نے ہم کو مذہبی آزادی دے رکھی ہے اور اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کی طرف سے گورنمنٹ کو اس وحشت میں ڈالنا کہ وہ ایک خونی مہدی کے منتظر ہیں۔ اس میں انہوں نے دو مختلف امور کو بیجا کر کے گورنمنٹ کو یہ دھوکا دینا چاہا ہے کہ مسلمان باوجود یہ کہ ان کو ہر طرح کی مذہبی آزادی حاصل ہے۔ پھر بھی اپنے دلوں میں بغاوت کا خیال پوشیدہ رکھتے ہیں اور یہ بات سراسر ناطق اور حقیقت سے خالی ہے۔

اول اس لئے کہ گورنمنٹ کی ساری مسلمان فوج فاطمی سید امام مہدی کی منتظر ہے۔ جس کے وجود مسعود کو آپ گورنمنٹ کی نظر میں ایک ہوابنا کر گورنمنٹ کو وحشت میں ڈالنا چاہتے ہیں اور یہ عقیدہ ان کو نہ تو گورنمنٹ کی فوجی ملازمت سے روک رہا ہے اور نہ بغاوت پر آمادہ کر رہا ہے۔ صورت واقعی کے خلاف ہبھا سراسر بہتان نہیں تو اور یہا ہے؟۔

دوم اس لئے کہ احسان کا شکر یا الگ امر ہے اور مذہبی عقیدہ میں محسن سے جدا ہونا الگ امر ہے۔ چنانچہ خود مرزا قادیانی، مذہب میں گورنمنٹ انگلشیہ سے جدا ہیں اور مطلب پرست شکر لگز رہیں اول درجے کے ہیں۔

## دعویٰ مہدویت

بیان سابق سے واضح ہو چکا ہے کہ مرزا قادیانی نے نہ تو صاحب سیف امام مسلمین ہونے کا دعویٰ کیا اور نہ انہوں نے اس منصب کی خدمات بحق سیاست اسلامی و قوم مسلمین انجام دیں۔ بلکہ وہ ساری عمر ایک غیر مسلم حکومت کی تھنی میں امت محمدی کی بذخواہی کرتے رہے۔ پس وہ امام زمان یا خلیفۃ المسالمین نہیں ہو سکتے۔

اب ہم ان کے اس دعوے کو دیکھتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ میں مہدی موعود ہوں۔ جس کے ظہور کی احادیث نبویہ میں خبر ہے۔

سو معلوم ہو کہ بیان سابق ہی سے مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ بھی باطل ثابت ہو سکتا ہے۔ کیونکہ امام مہدی موعود بھی مجملہ آنحضرت ﷺ کے خلافاء کے ایک خلیفہ اور امام ہوں گے۔ جو صاحب سیف اور حاکم عادل اور مجاہد و غازی ہوں گے۔

پس جب مرزا قادیانی والی حکومت ہی نہ ہوئے تو امام مہدی کس طرح ہو سکتے ہیں۔

علاوه ازیں تفصیلی بیان یوں ہے کہ (سنن البیهقی دا درج ص ۱۳۱، اذل کتاب المہدی اور جام ترمذی ج ۲ ص ۷۷، باب ماجاء فی المہدی وغیرہما) اکتب حدیث میں حضرت عبد اللہ بن مسعود وغیرہؓ صحابہ سے امام مہدی کے متعلق جو احادیث مذکورہ ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کا ظہور قریب قیامت کے علامات میں سے ہے اور ان کی شان یہ ہو گی کہ:

..... ”ان کا نام آنحضرت ﷺ کا نام ہو گا یعنی محمد ﷺ۔“

(مشکوٰۃ ص ۰۷۷، باب الشراکۃ الساعۃ ذکر حضرت مہدی)

..... ”ان کے باپ کا آنحضرت ﷺ کے باپ کا نام ہو گا یعنی عبد اللہ۔“

(مشکوٰۃ ص ۰۷۷، باب الشراکۃ الساعۃ ذکر حضرت مہدی)

..... ”وہ سید آل رسول ہوں گے یعنی خاتون جنت حضرت فاطمہؓ از ہرا بنت رسول ﷺ کے دو فرزندوں امام حسنؑ اور امام حسینؑ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ باپ کی طرف

۱۔ مشلاً ابن مجہہ ہزار، حاکم، طبرانی، ابو لعلے، موصیٰ۔

۲۔ مشلاً حضرت علیؓ، ابن عباسؓ، ابن عمرؓ، طلحہؓ، ابو ہریرہؓ، انسؓ، ابو سعیدؓ، ثوبانؓ، قرہ بن ایاسؓ، علی الہبائی، عبد اللہ بن حارث بن جزء اور امہات المؤمنین میں سے حضرت ام جبیبؓ اور حضرت ام سلمہؓ۔

سے ایک کی اولاد میں سے اور ماں کی طرف سے دوسرے کی اولاد میں سے یعنی حسنی جیسی۔“

(ابن ماجہ ص ۳۰۰، باب خروج المهدی)

ان تینوں امروں میں مرزا قادیانی فیل نظر آتے ہیں۔ آپ کا نام سندھی اور پھر غلام احمد تھا اور آپ کے باپ کا نام حکیم نلام مرتضی تھا اور آپ قوم مغل سے تھے۔ نہ کہ اہل بیت رسول ﷺ سے۔ جیسا کہ لفظ مرزا بتارہ ہے۔

..... ۴ ..... ”پھر یہ کہ امام مہدی ملک عرب کے والی حکومت ہوں گے۔“

(مشکوٰۃ ص ۱۷۲، باب الشراکۃ السالۃ فصل الثانی)

اور مرزا قادیانی عرب کے بادشاہ کجا؟۔ قادیانی کے نمبردار بھی نہ تھے۔

۵ ..... ”ام المؤمنین حضرت امہ سلمہؓ کی روایت میں ہے کہ امام مہدی کی بیعت بین الرکن والمقام ہوگی۔ یعنی خانہ کعبہ کے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی۔ لوگ ان کی بیعت کرنا چاہیں گے اور وہ بیعت لینے سے بھاگیں گے۔ لیکن پھر لوگوں کے اصرار سے بیعت لیں گے اور جہاد قائم کریں گے۔“ (مشکوٰۃ ص ۱۷۲، ذکر حضرت امام مہدی باب الشراکۃ السالۃ)

ادھر مرزا قادیانی کو دیکھئے کہ خود لوگوں کے یچھے پڑتے ہیں کہ مجھ کو امام مانو اور میری بیعت کرو۔ لیکن جہاد کی نسبت فرماتے ہیں کہ اب موقوف ہے جو اس کا نام لے وہ کافر قرآن ہے۔

اس حدیث کے رو سے جب امام مہدی علیہ الرضوان کی بیعت کا رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان واقع ہونا مسلم ہے تو معلوم ہوا کہ امام مہدی طواف کعبہ بھی کریں گے۔ لیکن دوسری طرف دیکھو تو مرزا قادیانی کو حج ہی نصیب نہیں ہوا۔ ساری عمر قادیانی کے گول کمرے ہی میں بیعت لیتے رہے۔ نہ خانہ کعبہ پہنچنے والا جا کر بیعت لی۔

دیگر یہ کہ حضرت امام مہدی بیعت جہاد کے لئے لیں گے۔ جیسا کہ ان کے بعد واقعات سے ثابت ہے۔ لیکن مرزا قادیانی محض پیری مریدی کے لئے بیعت لیتے رہے اور تحصیل زر کرتے رہے۔ جو حقیقت الوجی میں مذکور ہے اور اس طریق سے حاصل کردہ روپیہ زندگی میں ذات خاص اور اپنے اہل و عیال کے مصارف میں خرچ کرتے رہے اور بعد موت کے اپنے وارثوں کے لئے چھوڑ گئے۔

اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو بیریہؓ سے مردی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ یعنی مجھے اس ذات کی قسم ہے۔ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام فوج روحاء سے حج کالبیک پکاریں گے۔ (مختصر)

اس حدیث سے مرزاقادیانی کا دعویٰ میسیحیت بھی باطل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حج کرنا نہ کور ہے اور مرزاقادیانی بغیر حج کے مر گئے۔

افسوں مرزاقادیانی کو یہ نہ سوچی کہ انگریز پرسن کے صدر میں جدہ میں انگریزی تونصل کے ہمراہ چلے جاتے تو اپنی خاص روشن سے خدمت بھی اچھی طرح انجام دیتے اور حج بھی کر آتے۔ بلکہ چند ہندی مریدوں کو ساتھ لے جا کر کن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت بھی لے لیتے اور سب کام بخوبی انجام پا جاتے۔ لیکن جس کی سمجھ خدام دے اسے کوں راہ پر لائے اور ایسا سلوک خدا تعالیٰ نے ان سے اس لئے کیا کہ وہ دعویٰ میں جھوٹے ثابت ہوں۔

صحیح حدیث جس میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر اجمال اور اشارہ سے آتا ہے۔ صحیح مسلم کی ہے کہ آپ علم جہاد بلند کر کے اور مدینہ شریف کی فوج کو کہ اس وقت خیاراہل ارض ہوگی۔ ساتھ لے کر قسطنطینیہ پر کہ اس وقت غیر مسلموں کی حکومت میں ہوگا۔ حملہ کر کے اسے فتح کریں گے اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ (مشکوٰۃ ص ۳۷، ۳۸، ذکرمہدی)

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام دوالگ الگ شخص ہیں۔ ایک ہی شخص کے دو اوصاف نہیں ہیں۔ لیکن مرزاقادیانی عیسویت اور مہدویت ہر دو کا دعویٰ کرتے ہوئے فاتح قسطنطینیہ ہوئے۔ پہلے زمانہ میں جب قسطنطینیہ مسلمانوں کے قبضے سے نکلا۔ تو سلطان صلاح الدین نے کل یورپ کے مقابلہ میں جہاد قائم کر کے قسطنطینیہ واپس لیا اور اس زمانہ میں عازی مصطفیٰ کمال حنفی نے۔ لیکن مرزاقادیانی کی امت قسطنطینیہ کو نصاریٰ کے قبضے سے نہ چھوڑا سکی۔ اگر ان کی امت یہ کام کر دکھائی تو کہا جا سکتا تھا کہ ان کے سُج و مہدی نے تو موقع نہیں پایا۔ لیکن ان کی امت نے کر دکھایا ہے۔ تو مجازی طور پر یہ کام صاحب امت کی طرف منسوب ہو سکتا تھا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے مرزائیوں کو اس کام کی توفیق نہ دی اور توفیق ملتی بھی کیسے؟

۱۔ ہم اس وقت ان سب عذرات کو جو مرزائیوں کی طرف سے مرزاقادیانی کے حج نہ کرنے کے متعلق کئے جاتے ہیں۔ نظر انداز کرتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت اصل مقصود علامات مہدی کا بیان ہے۔ اگر مرزاقادیانی مہدی ہوتے تو یہ علامت انہی میں ضرور پوری ہوئی اور خدا تعالیٰ سب موافع کو دور کر کے ان کو حج کرواتا ”واذ لیس فلیس“

۲۔ آج وہ مرحوم فوت شدہ ہیں۔

کیونکہ مرزا قادیانی تو سنا کیس سال تک قسطنطینیہ وغیرہ بلاد اسلامیہ میں بھی ہوا پھیلاتے رہے کہ جہاد حرام ہے۔ یہ کام نہ کرنا اور ظاہر ہے کہ مفتوح علاقہ کا واپس لینا بغیر جہاد کے نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ نے یہ توفیق غازی مصطفیٰ کمال کو جوشی کر اس نے ہاتھوں سے نکلا ہوا قسطنطینیہ جہاد کر کے واپس لے لیا۔ جس کی بابت مرزا قادیانی ترکوں کو یہ وعظ سناتے رہے کہ اب جہاد حرام ہے۔ اگر ترک مرزا قادیانی کے ہمراہ میں آ جاتے تو قسطنطینیہ مسلمانوں کے قبیلے میں واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اس سے مرزا قادیانی کی اسلامی دشمنی ظاہر ہے۔ پس وہ مہدی منتظر و معج موعود نہیں ہو سکتے۔

تنبیہ: قسطنطینیہ کی واپسی کے بعد امام مہدی کے ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پیشتر ایک اور دفعہ قسطنطینیہ مسلمانوں کے قبیلے سے نکل جائے گا۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام بوجب احادیث صحیح کے اسے فتح کر کے غیروں کے قبیلے سے نکالیں گے۔ ساتویں حدیث (صحیح مسلم ج ۸۷ باب نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام) میں حضرت جابرؓ کی ہے۔ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت ان کے ایک امیر (امیر المؤمنین) کی بھی خبر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے نزول پر وہ امیر المؤمنین کہے گا۔ ”تعال صل لنا“ یعنی حضرت! آئیے اور ہمیں نماز پڑھائیے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ: ”لا ان بعضکم على بعض امراء تكرمة الله هذه الامة“ یعنی میں جماعت نہیں کراؤں گا۔ تمہارا امیر تم میں سے ہے۔ خدا تعالیٰ نے (یہ امامت) اسی امت کے لئے صورت عزت بنائی ہے۔

اس حدیث سے سب سے پہلا مقصود تو لفظ امیر کی تشریع ہے کہ اس سے مراد امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ جو دیگر احادیث میں بالتفصیل ذکور ہے۔ چنانچہ علامہ قسطلانی صحیح بخاری کی حدیث ”واما مکم منکم“ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ: ”واما مکم فی الصلوٰۃ منکم کما فی مسلم انه یقال له صل لنا فیقول لا ان بعضکم على بعض امراء تكرمة الله لهذه الامة“ علامہ قسطلانی کی عبارت کا اصل یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں جس امام کا ذکر ہے وہ وہی ہے۔ جس کا ذکر صحیح مسلم کی حدیث زیر شرح میں ہے۔ اس طرح حافظ ابن حجر نے بھی شرح بخاری میں لکھا ہے کہ: ”ابو الحسن ضعی ابدی نے مناقب الشافعی میں کہا کہ یہ امر متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ مہدی اس امت میں سے ہوگا اور یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس

کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ امام ابو الحسن نے یہ اس حدیث کی تردید کے لئے کہا ہے جو ابن ماجہ نے حضرت انس سے روایت کی ہے اور اس میں یہ مذکور ہے۔ **وَلَا مَهْدِيَ إِلَّا عَيْسَىٰ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا وَلَاهُ مَهْدِيٌّ نَبِيٌّ** ہے۔  
(فتح الباری شریف بخاری ج ۶ ص ۳۵۸)

دوسرے افادہ اس حدیث سے یہ ہے کہ نازل ہونے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر وہ امت کے افراد میں سے ہوں تو جماعت نہ کرانے کے عذر میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ امت اسی امت کے لئے موجب عزت ہے۔

- آٹھویں حدیث حضرت ابوسعیدؓ سے مردی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک ایسی مصیبت کا ذکر کیا جو اس امت کو پہنچے گی۔ حتیٰ کہ ان کو بوجہ ظلم کے کہیں پناہ نہ ملے گی تو اس حالت میں خدا تعالیٰ میری عترت اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو برپا کرے گا۔ جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ (مشکوٰۃ ص ۳۷۰، باب اشراف ال ساعت)

اس حدیث میں امام مهدی علیہ السلام کے اہل بیت سے ہونے کے علاوہ یہ بھی مذکور ہے کہ ان کا ظہور ایسے وقت میں ہو گا کہ عام طور پر امت محمد ﷺ ایسی ختنی اور تنگی میں بنتا ہو گی کہ ان کو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ ایسے وقت میں امام مهدی کا ظہور امت مرحومہ کے لئے باعث سرت ہو گا کہ وہ امت کو اس ذلت و ماتحتی سے نکال کر عروج شاہانہ پر لے آئیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔

لیکن مرزا قادیانی ختنی کے وقت میں مبعوث نہیں ہوئے۔ بلکہ امن و آسائش کے وقت میں جیسے کہ وہ عمر بھر گورنمنٹ انگلشیہ کی مداحی کے گیت گاتے رہے۔ پس مرزا قادیانی مهدی نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ مهدی تو وہ ہو جو امت مرحومہ کو ختنی کے وقت پناہ دے۔ نہ کہ وہ جو خود دوسرے کی

---

۱۔ مزید بحث اس روایت کے متعلق آئندہ فصل مرزا قادیانی کے دلائل مہدویت کی فصل میں دیکھو۔

۲۔ اس حدیث کا حوالہ صاحب مشکوٰۃ سے چھوٹ گیا ہے۔ لیکن حاشیہ میں بحوالہ مرقاۃ لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام حاکم نے متدرک میں روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ متدرک اس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابوسعیدؓ کی اس حدیث کی نسبت اس میں لکھا ہے۔ ”**هذا حدیث صحيح الاسناد**“ (ج ۳ ص ۴۶۵)

پناہ کے سہارے زندگی بس رکرے اور اپنے گاؤں میں اپنی اور اپنے عیال اور اپنے مریدوں کی حفاظت کے لئے دوسروں سے حفاظتی پولیس مانگے۔

دیگر یہ کہ مرتaza قادیانی اپنی عمر کا اکثر حصہ اپنے منصب یعنی مہدی ہو کر امت مرحومہ کو پناہ دینے کے برخلاف اٹھ ان کی شکایتیں کر کے گورنمنٹ انگلشیہ کوان سے بدلن کرنے میں خرچ کر گئے کہ مسلمان ایک خونی مہدی اور خونی تصحیح کے منتظر ہیں اور یہ عقیدہ خطروناک ہیں۔ نیز یہ شکایت اس رنگ میں بھی کی کہ جب سے میں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ خبر سنائی ہے کہ کوئی خونی مہدی یا خونی تصحیح دنیا میں آنے والا نہیں ہے بلکہ ایک شخص صلحکاری کے ساتھ آنے والا تھا جو میں ہوں۔ اس وقت سے یہ نادان میولوی مجھ سے بغض رکھتے ہیں اور کافر اور دین سے خارج ٹھہراتے ہیں۔<sup>۱</sup>

جب مرتaza قادیانی کی عملی ہمی یہ ہے کہ وہ امت مرحومہ کو پناہ دینے کی بجائے ان کی چغلیاں کر کر کے حکومت وقت کو ان سے بدلن کرتے ہیں تو اس کے یہ معنے ہیں کہ وہ ان پرختی کرانا چاہتے ہیں اور یہ بدخواہی ہے نہ کہ خیرخواہی۔

### تنبیہ و دفع دخل

اگر کہا جائے کہ کیا وہ مسلمان جو کسی غیر اسلامی حکومت کے ماتحت ہیں۔ قانون ملکی میں اس غیر مسلم حکومت کی اطاعت نہیں کرتے؟۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت اور رعیت کے معاملات کو خوش معاملگی سے بھانا اور امن و آسائش سے زندگی بس رکنا امر دیگر ہے اور کسی امر کو اعتقادی و مذہبی امر جان کر کرنا جواہر و ثواب آخرت کی نیت سے ہوتا ہے۔ امر دیگر ہے اور مرتaza قادیانی نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اس ملک کے غیر اسلامی حکام کی اطاعت آیت ”واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم (النساء: ۵۹)“ کی تقلیل ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرتaza قادیانی نے خلاف منشاء ربانی کتاب اللہ کی معنوی تحریف کی ہے۔ چنانچہ مرتaza قادیانی فرماتے ہیں کہ ”اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ ناطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اولو الامر سے مرا جسمانی طور پر جو شخص ہمارے مقاصد کا مخالف نہ ہو اور اس

<sup>۱</sup> تحقیق قیصریہ مصنفہ مرتaza غلام احمد قادیانی جو ملکہ کنور یہ آنجہانی کی شست سالہ جوبلی کے موقع پر تھفتہ یا بالغاظ دیگر خوشامد انہ طریق پر نذر کیا گیا تھا۔

سے مذہبی فائدہ ہمیں حاصل ہو سکے اور وہ ہم میں سے ہے۔ اس لئے یہی نصیحت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریزوں کی بادشاہت کو اپنے اولی الامر میں داخل کریں اور دل کی سچائی سے ان کے مطیع رہیں۔” (رسالہ ضرورتہ الامام ص ۲۳، جزء اول ص ۳۹۲)

قرآن شریف کا غثاء، اس کے اپنے الفاظ مکالم سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں مسلمان حکام کی اطاعت کا حکم ہے۔ اور اس میں کسی غیر مسلم کو داخل کرنا یا تو ظاہری خوشنامد اور بناوی لجاجت ہے۔ یا باطنی یہاری اور یہ دونوں امر شان امامت کبریٰ اور منصب مہدویت کے منافی ہیں۔ دیگر یہ کہ جور عیت ہوا سے تو اطاعت کرنی پڑی خواہ ہماری طرح خوش معاملگی کے لئے خواہ مرزا قادیانی کی طرح بناوی اعتماد و مذهب جتنے کے لئے۔ لیکن افغانستان، ایران، عراق، عرب، مصر اور قسطنطینیہ کے مسلمانوں کو بھی یہی سبق دنیا اور ان کی مادری زبان فارسی و عربی میں تلقینیف کر کے ان کے جہادی جذبات کو مٹانا اور اسلامی عمارت کے کنگرے پر کوپست کرنا یہ کونسی امامت و مہدویت ہے؟۔ پس مرزا قادیانی کا ان خدمات کے ہوتے امامت کبریٰ اور مہدویت کا دعویٰ بالکل باطل ہے۔

اس ساری تفصیل کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ناظرین کی سبولت کے لئے ایک نقشہ بنا کر ایک کالم میں حضرت امام مبدی علیہ السلام کی شان اور دوسرے میں مرزا قادیانی کے اوصاف تحریر کریں تاکہ تعریف الاشیاء باضدادہ سے حقیقت کھل جائے اور جملہ اشتباہات دور ہو جائیں۔ واللہ ولی التوفیق!

### امام مبدی منتظر علیہ السلام کے اوصاف

۱.....	نام.....	محمد ﷺ
۲.....	ولدیت.....	عبد اللہ

۱۔ مرزا قادیانی نے خوشنامد کے لئے ناجی قرآن شریف کی تحریف کی۔ امن کی شکر گزاری اور وفاداری کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے ضروری نہیں کہ ہم آیت قرآنی میں ان کو بھی شمار کر لیں۔ جو اس میں داخل نہیں ہیں اور صاف مفہوم قرآنی کو بگاڑ دیں۔ کیونکہ احسان کے معاوضہ میں شکر گزاری اور رعایت معابدات کی احادیث اس مطلب کے لئے کافی ہیں۔

۲۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ جس میں جہاد کو ذرورة سنام الاسلام الجهاد فی سبیل اللہ (مندرجہ ذیل ص ۲۲۵) کہا ہے۔ یعنی جہاد اسلام کی کوہاں کا اوپر کا کنگرہ ہے۔

نب	.....۳
حلیہ	.....۲
سیرت	.....۵
بیعت	.....۶
شان	.....۷

رکن یہاں اور مقام ابراہیم کے درمیان حرم کعبہ میں جہاد کی  
بیعت ہوگی اور وہاں سے اشکر تیار کر کے جہاد قائم کریں گے۔  
ملک عرب کا والی اور پھر فاتح عالم "خصوصاً فاتح قسطنطینیہ"  
افواج کفار پر غلبہ پا کر امت مسلمہ کو سیاسی عروج پر پہنچانا اور  
شریعت محمدیہ کے آئین پر دنیا کا ظلم و نسل چلانا۔

### مرزا غلام احمد قادریانی کے اوصاف

نام	.....۱
ولدیت	.....۲
نسب	.....۳
حلیہ	.....۴
سیرت	.....۵
بیعت	.....۶
شان	.....۷

سرخ نہ اسانولہ رنگ کم تعداد اور چھوٹی چھوٹی پکلوں والی  
چند ہیائی ہوئی آنکھیں۔ جو کسی قدر ریڑھی بھی تھیں۔ پیشانی  
ابھری ہوئی جو نذر کورہ بالا آنکھوں کو اور بذریب کر دیتی تھی۔  
زودرن، کینہ دوز، خنت زبان، عام مسلمانوں اور علماء اور  
مشائخ کو گالیاں دیتے تھے۔ نہایت درجہ کے الحمد، پیری  
مریدی سے لاکھوں رہ پے جمع کئے۔ غیر اسلامی حکومت کے  
باں مسلمانوں کی چغیاں کرنا ان کا خاص مشن تھا۔

حرم کعبہ میں گذر بھی نہیں ہوا۔ اپنے مکان واقع قادریان کے  
گول کرے میں پیری مریدی کی بیعت لیتے تھے جہاد کی۔  
اس امر میں مرزا قادریانی بالکل صفر ہیں۔ غیر اسلامی حکومت  
کے اونٹی اولی عہدیداروں کے سامنے خو شامانہ غرض داشتیں  
کرنا اور ان کی پناہ ڈھونڈنا اور ممانعت جہاد کے رسائل شائع  
کرنا۔ ان کا کام مسلمانوں کو آزاد اور مسلمانوں کو آزاد اور ممالک از دست

رفتہ کو واپس لینا اور اسلامی شریعت کو نافذ کرنا خاص کر قسطنطینیہ  
کو فتح کرنا کہاں ہوا اور جہاد کی ممانعت سے یہ کام کس طرح  
ہو سکتا ہے۔

ناظرین! اس نقشہ کی دنوں جانبیں کو نظر میں رکھ کر خود دیکھ لیں کہ کیا مرزا قادیانی ان  
اوصاف و خدمات کے ساتھ مهدی منتظر ہو سکتے ہیں؟ اور امت مرحومہ ایسے تجھ اور ایسے مهدی  
کے ساتھ ہو کر اپنی گئی ہوئی عظمت پر حاصل کر سکتی ہے؟۔

ڈاکٹر محمد اقبال صاحب مرحوم نے ایرانی اور قادیانی نبوت کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ:  
رفت ازو آن مستی وذوق وسرور دیس اوندر کتاب واوبگور  
صحبتیں باعصر حاضر درگرفت حرف دیس راز دو پیغمبر گرفت  
آن زایران بوروایں هندی نژاد اس زحیج بیگانہ واں از جهاد  
تاجہاد و حج نہ ماند از واحبیات رفت جان از پیکر صوم و صلوٰۃ  
روح چوں رفت از صلوٰۃ و از صیام فرونما ہموار و ملت بے نظام  
سینہ ها از گرمائی قرآن تھی از چنیں مردار چہ امید بھی  
وہ نبوت ہے مسلمان کے لئے برگ حیثیں  
جس میں نہیں قوت و شوکت کا پیام

### مہدی برحق

دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضربہ  
بو جس کی نگہ زلزلہ نام افکار

### امامت کبریٰ

فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی  
جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے

### الہام و آزادی

مُحَمَّمْد کے الہام سے اللہ بچائے  
غارت گر اقوام ہے وہ صورت پیگیز

(ما خواه از ضرب کلیم)

## سرسید صاحب اور مرزا قادریانی ۱

ہم چاہتے ہیں کہ اس تمام پر امام مہدی کے متعلق بعض امر میں سرسید صاحب اور مرزا قادریانی کی موافقت واشترائک اور بعض امر میں جزو میں فرق بھی بتا دیں۔ سو معلوم ہو کہ اس ملک ہندوستان میں انکار مہدی کا مسئلہ سب سے پہلے سرسید صاحب علی گڑھی نے نکالا۔ اس کی ضرورت یہ پڑی کہ سرسید صاحب انگریزوں کے دوست تھے۔ جیسا کہ ان کی زندگی کی مساعی ہو رخا ص کر خطاب سرستے نواز اجانے اور ان کے فرزند ارجمند سید محمود مرحوم کے الٰ آباد بائیکورٹ کا نجح ہونے اور انہیں نیشنل کانگرس کے مقابلہ میں انگریزوں کی مدد و ہمایت کرتے رہنے سے ظاہر ہے۔

اوھر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی امید میں مسلمانوں کے سینوں میں جوش بھرا رہتا تھا اور ان کے جہادی جذبات ہر دم تازہ رہتے تھے۔ اس سے انگریزوں کو خوف ہو سکتا تھا کہ یہ چنگاری کبھی نارظیم نہ بن جائے۔

۱ یعنوان سکندر آباد کی تقریر میں بیان نہیں ہوا تھا۔ نہ اس وقت سوجھا تھا۔ اب مضمون کو طبع کانے کے لئے بعض جگہ محو اشتات کی اور بعض جگہ اختصار والماق کی ضرورت پڑی۔ کیونکہ مسودہ کی عبارت ایک دوسرے شخص نے لکھی تھی۔ لکھنے لکھنے یعنوان بھی خدا نے دل میں ڈال دیا۔ اس لئے اسے مفید و کار آمد جان کر بیان الحاق کر دیا گیا۔ مرزا قادریانی سرسید کی موافقت کو بعض جگہ سنداپیش کرتے تھے۔

۲ میر اتمام مسلمانوں کی طرح یہی عقیدہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور ضرور ہو گا۔ وہ مجاہد و غازی اور صاحب سیف حاکم عادل ہوں گے۔ اور خدا کی مدد سے بھرا ہی عیسیٰ علیہ السلام قوم مسلمین اور دین اسلام کو سیاسی طور پر سب ادیان پر غالب کر دیں گے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ دیگر قومیں اسلام قبول کر لیں جیسا کہ جنگ شروع کرنے کے پیشتر دعوت الی الاسلام کا حکم ہے۔ اس صورت میں حکومت اور صاحب حکومت قوم میں انقلاب نہیں ہوتا۔ ہاں شاہی قوم کے مذهب میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ جس کا اس قوم کی قوت و سیاست پر کچھ بھی اثر نہیں پڑتا۔ دیگر یہ کہ کوئی قوم غلیظ اسلام سے بر سر پیار کار ہو کر مغلوب ہو جائے اور ما تھی اختیار کر لے۔ اس صورت میں بھی قومی حکومت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اول تو ہمیں یہ معلوم نہیں کہ امام مہدی کے ظہور کے وقت ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت ہو گی۔ یا کس کی؟۔ اور اگر اس وقت ہو بھی تو یہ معلوم نہیں کہ انگریز صلح سے دین اسلام قبول کر لیں گے۔ (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

پس ایسے شروری وقت میں سریں صاحب نے مذہبی علمی تحقیقات کی صورت میں انتظارِ مہدی کے مسئلہ پر اثرِ النے کے لئے یا ان جذبات کو مختدا کرنے کے لئے جن سے نارظیم بھڑکنے کا اندریشہ ہو سکتا تھا۔ احادیث مہدی پر خامہ فرمائی شروع کی اور ان سب کو ضعیف قرار دیا۔ حالانکہ ان میں سے بعض کو آئندہ محدثین نے صحیح کہا ہے اور بعض کو حسن کہا ہے۔ بے شک بعض کو ضعیف بھی کہا ہے۔ لیکن خاص اس سند کی رو سے اسی روایت کو ضعیف کہا ہے۔ جس سے وہ روایت مردی ہے۔ نہ کہ بخلافِ ثبوتِ مسئلہ کے۔ یہ وہ آئندہ حدیث ہیں۔ جن کے سامنے سریں صاحب کا نام لینا محض ان بزرگوں کی نہیں بلکہ علم حدیث کی بھی ہٹک اور ناقدر شناسی ہے۔

سریں صاحب نے یہ طریق کیوں اختیار کیا؟۔ حالانکہ یہ ان کا منصب نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی مذہبی اعتقاد پر اثرِ النے کے لئے لازم ہے کہ اس مسئلہ کے خلاف مذہبی پہلو

(بقدحِ حاشیہ گذشتہ صفحہ) یا لڑائی سے مغلوب ہو کر ماتحتی اختیار کریں گے۔ بہر حال یہ سب خطرات قبل از وقتِ محض درجہ و ہم میں ہیں۔ بلکہ ہمارا تو اعتقادِ جازم ہے کہ انگریز اس وقت بلا مقابلہ حلقة بگوشِ اسلام ہو جائیں گے۔ کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ ایک ہی ہے اور جہادوں میں ہر دو شامل ہوں گے۔ جیسا کہ فتح قسطنطینیہ کی حدیث سے جو (صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۹۲، کتاب الفتن و اشراف النساء) میں مذکور ہے۔ ثابت ہوتا ہے اور آیت ”وَانْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنْ بِهِ (النساء: ۱۵۹)“ سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر تمام اہل کتاب یہود و نصاریٰ تمام بدیٰ کے عقائد چھوڑ کر اور شرک و کفر ترک کر کے مسلمان ہو جائیں گے۔ پس قوم انگریز کے جو اس وقت عیسیٰ ہیں۔ اس وقت مسلمان ہو جائیں گے۔ پس امام مہدی کے ظہور و عروج سے خائف ہونے کے کوئی معنی نہیں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ قوم انگریز جو اس وقت عیسیٰ ہو کر حکومت کرتی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت اگر اس وقت تک ان کی حکومت قائم رہی تو مسلمان ہو کر حکومت کرتی رہے۔ ترک کسی زمانہ میں بدترین دشمنان اسلام تھے۔ لیکن اب صدیوں سے بہادر ترین حافظین اسلام ہیں۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ: ”عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادُتُمْ مِنْهُمْ مُوْدَةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (متحنہ: ۷)،“ یعنی مسلمانو! تم امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم میں اور ان لوگوں میں سے بعض میں جو اس وقت تمہارے دشمن ہیں دوستی پیدا کر دے گا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم بھی ہے۔

اختیار کیا جائے اور جن دلائل پر اس مذہبی عقیدہ کی بنیاد ہو۔ ان کو علمی شبہات سے عوام کی نظر میں ضعیف کر کے دکھایا جائے۔

سرسید صاحب اس سکیم میں بہت سے نو تعلیم یافتہ لوگوں کے خیالات پلنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن چونکہ آپ مذہبی پیشوanon تھے۔ اس لئے ان کی تحریرات کا اثر آئندہ مساجد اور مسجدوں کے حاضر باش نمازوں اور عام مسلمانوں پر نہ پڑا۔ بلکہ علمائے وقت نے ان سب شبہات کے دور کرنے میں تحریر اور قریب اہ طرح کی سعی کی جو سید صاحب نے پھیلائے تھے اور جن کی حیثیت غلط فہمی اور مغالطہ دہی سے اوپر نہیں تھی۔ ”فجز اہم اللہ عننا خیر الجزاء“

سرسید صاحب کی انہی مسامی جملہ کے وقت مرزا غلام احمد قادریانی نے نشوونما پایا۔ انہوں نے دیکھا کہ انتظار مہدی کے مسئلہ میں مسلمانوں کے خیالات میں تبدیلی کرنے سے حکومت وقت کی دوستی حاصل ہو سکتی ہے اور ہمارا خاندان جو سابق اسکھوں کے عہد میں سرکار انگریزی کی خدمات بجالا چکا ہے۔ اب مغلوک الحال ہے۔ اس تدبیر سے زائل شدہ عزت پھر حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے لئے مذہبی پیشوanon ضروری ہے۔ تاکہ عوام اور مذہبی طبقہ میں بھی قبولیت ہو سکے۔ کیونکہ یہ کوشش کرنا کہ مہدی کا عقیدہ ایک فرضی اور وہی بات ہے۔ مسلمانوں کے دلوں سے نکالنا نہایت مشکل امر ہے۔ اس لئے انہوں نے اس سکیم کی شکل ہی تبدیل کر دینی چاہی اور سیالکوٹ سے انگریزی ملازمت جو نہایت حیرتی یعنی پندرہ روپے ماہوار کی تھی ترک کر کے اپنے گاؤں قادریان (ضلع گورا اسپور) میں چلے گئے اور مذہبی لائن اختیار کر لی۔

اور مذہبی کتب و رسائلے اور شدہ شدہ الہامات و بیعت کے اشتہارات چھپانے شروع کر دیئے۔ جن کی وجہ سے آئندہ مساجد اور مسجدوں کے حاضر باش نمازی اور مذہبی مذاق رکھنے والے بعض نو تعلیم یافتہ لوگوں اور عوام میں رسوخ ہو گیا اور لوگ مرید ہونے لگ پڑے۔

جب مرزا قادریانی پیری مریدی کی سکیم میں کامیاب ہو گیا تو چند سال بعد مہدویت و عیسیویت و مجددیت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ بایس طور کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ امام مہدی پیدا ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور ہر صدی کے سر پر ایک مجدد ہوتا ہے۔ سب کچھ درست ہے۔ لیکن اس صورت میں نہیں جس طرح مسلمان مانتے ہیں۔ بلکہ اس صورت

1۔ ممکن ہے کہ سیالکوٹ کی ملازمت کے ایام میں یہ منصوبہ گانٹھا گیا ہو۔ چنانچہ مرزا قادریانی کا اپنے مشن کو گورنمنٹ کا خود کاشتہ پودا قرار دینا اس کی شہادت میں پیش ہو سکتا ہے۔

میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے ان کا مثیل مراد ہے اور مہدی بھی کوئی الگ شخص نہیں ہو گا۔ بلکہ وہی مثیل مسیح امام مہدی بھی ہو گا۔ یعنی ایک ہی شخص دو صفتوں کا مالک ہو گا اور وہ میں ہوں اور اس صدری کا مجدد بھی میں ہی ہوں اور جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور امام مہدی غازی و مجاہد ہوں گے۔ یہ بھی غلط ہے۔ میں امن پسند مسیح اور بے تھیار مہدی ہوں اور گورنمنٹ انگلشیہ کی نصرت میرا فرض ہے۔ کیونکہ مجھے ان کی سلطنت میں وہ امن ملا ہے جو بُلد اللہ الامین یعنی خدا کے امن والے شہر مکہ شریف اور رسول اللہ ﷺ کے شہر مدینہ منورہ میں نہیں مل سکتا اور یہ بات کہ کوئی خونی مہدی اور خونی مسیح آئے گا۔ بالکل باطل ہے اور دنیا کے لئے خطرناک ہے۔

مرزا قادیانی کی یہ سیکیم سید صاحب کے مقابلہ میں بدوجہ چل نکلی۔

اول! اس وجہ سے سید صاحب نے محض تخریبی کام کیا تھا۔ یعنی یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ کہہ کر ہمیشہ کے لئے رخصت کر دیا اور ان احادیث کو جوز دل مسیح علیہ السلام کے متعلق ہیں۔ بیان قرآنی کے خلاف سمجھ کر اعتبار سے گردایا۔ کیونکہ احادیث جن میں نزول مسیح علیہ السلام کا ذکر ہے وہ اسی عیسیٰ علیہ السلام کی بابت خبر دیتی ہیں۔ جسے قرآن کریم میں عیسیٰ مسیح، ابی مریم، روح اللہ اور رسول اللہ کہا گیا ہے۔ کیونکہ مختلف احادیث نزول میں آنے والے مسیح علیہ السلام کے یہی نام وارد ہوئے ہیں اور ان کے ہوتے کسی غیر کے لئے مثیل بن کر دعویٰ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پس وہ جس کا احادیث میں ذکر ہے جب فوت ہو چکا ہے اور فوت شدہ عمل کے لئے دنیا میں واپس نہیں آتے تو وہ جملہ احادیث جن میں نزول مسیح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ خلاف عقل و نقل قرآنی ہونے کی وجہ سے قابل اعتبار نہیں ہیں اور اگر واقعی وہ احادیث آنحضرت ﷺ کے دہن مبارک سے نکلی ہوئی ہیں تو ان سے سوائے اصلی مسیح علیہ السلام کے کوئی نعلیٰ مسیح مراد لینا رسول اللہ ﷺ کے کلام کو معنوی طور محرف کرنا ہے۔ جو سراسر گمراہی ہے۔

پس جب اصل نہیں آ سکتا اور مثیل ہو کر دعوے کرنے کی گنجائش ہی نہیں تو یہ بھی باطل ہے اور ظہور مہدی کی احادیث کو جب سید صاحب نے ساقط الاعتبار قرار دے دیا ہے تو کسی

لے یہ مرزا قادیانی کی تقریر کا خلاصہ ہے۔ جن میں بعض حوالہ جات سابق لفظ بے لفظ نقل ہو چکی ہیں۔

غازی، مہدی یا خوشامدی مہدی کا انتظار عبث و بیکار ہے۔  
مگر سید صاحب کے ایسے بیانات عام مسلمانوں میں موثر نہ ہوئے۔ کیونکہ جن عقائد کو مسلمان قرآن و حدیث کی شہادات کے علاوہ بطریق توارث اباً عن جدٍ اور نسلًا بعد نسلِ سلف امت صحابہ و خیار تابعین سے لے کر اپنے زمانہ تک بلا اختلاف مشرق و مغرب کے مسلمانوں میں مسلم پاتے آئے ہیں۔ ان عقائد کو سید صاحب کے بیانات سے کیسے چھوڑ دیں۔ جن کی حقیقت شہادات و مسادیں کے سوا کچھ بھی نہیں اور جن کا علم ان علمائے متقدمین و متاخرین کے سامنے نام لینے کے قابل بھی نہیں ہے۔

لیکن مرزا قادیانی نے سید صاحب کے مقابلہ میں گورنمنٹی خدمات کے انجام دینے میں تخریب و تعمیر ہر دو طرح کے کام کئے۔ تخریب میں تو وہ سید صاحب کے نقش قدم پر چلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ تو فوت ہو چکے ہیں اور وہ دوبارہ نہیں آسکتے اور حسni و حسni مہدی جس کا مسلمانوں کو انتظار ہے کہ وہ مسلمانوں کے ازدست رفتہ ممالک کو فتح کر کے پھر زیر نگین اسلام کر دے گا۔ بالکل غلط ہے۔ لیکن تعمیری کام میں مرزا قادیانی سید صاحب سے بالکل الگ چال چلے بلکہ اس کے موجود بننے کے یوں کہا کہ ہاں احادیث میں جو ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کا مصدق میں ہوں اور حضرت مسیح کے نام پر اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ امت محمدیہ کو جو یہودی صفت ہو گئی ہے۔ راہ راست پر لااؤں اور گورنمنٹ انگلشیہ کی جس کا نہ ہب عیسویت ہے۔ سچی اطاعت سکھاؤں۔ چنانچہ مرزا قادیانی تخفہ قیصریہ کے نہایت شروع میں لکھتے ہیں کہ:

”یہ عریضہ مبارکہ اسی اس شخص کی طرف سے ہے جو یہو ع مسیح کے نام پر طرح طرح کی بدعتوں سے دنیا کو چھوڑانے کے لئے آیا ہے..... اور اپنے بادشاہ ۲ ملکہ معظمه سے جس کی وہ رعایا ہیں۔ سچی اطاعت کا طریقہ ۳ سمجھائے۔“ (تخفہ قیصریہ، خزانہ اسناد، ج ۱۲، ص ۵۲)

۱۔ یہ تقریر سید صاحب کے طریقہ استدلال کی تصویر ہے۔ جس میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی رفع و حیات سماوی کی آیات اور احادیث نزول کو ساقط الاعتبار کرنے میں بوجہ فساد عقیدہ وقلت علم سخت غلطی کھائی ہے۔

۲۔ قادیانی سلطان القلم مؤذن (ملکہ معظمه) کے لئے الفاظ اپنے بادشاہ لکھتے ہیں۔ لفظ اپنے بھی نہ کرو بادشاہ بھی نہ کر یہ عریضہ یا تخفہ ملکہ معظمه و کثوریہ آنجمانی کے جشن شصت سالہ پر پیش کیا گیا تھا۔ (باقیہ حاشیہ نمبر ۱، ۲، ۳، ۴ لگے صفحہ پر)

اور ظہور مہدی کی احادیث کے مصدق بھی خود بدولت بنے اور اس میں مسلمانوں سے گذر کر گورنمنٹ کو بھی سخت دھوکا دیا اور اپنے مریدوں کی آنکھوں میں بھی نمک چھڑک دیا۔ جو یہ کہا کہ مہدی بھی میں ہی ہوں۔ لیکن غازی اور مجاہد نہیں ہوں۔ امام زمان بھی میں ہی ہوں۔ لیکن بالکل بے دست و پا ہوں۔ کیونکہ وہ روحانی طور پر محمدی فوجوں کا سپہ سالار ہوتا ہے۔

(رسالہ ضرورت ۱۱۱ امام ص ۶، خراائن ج ۱۳ ص ۷۷)

نیز یہ کہا کہ: ”ایسے مہدی کا وجود ایک فرضی وجود ہے جو نادانی اور حکومت سے مسلمانوں کے دلوں میں جما ہوا ہے اور صحیح یہ ہے کہ بنی فاطمہ سے کوئی مہدی آنے والا نہیں اور ایسی تمام حدیثیں موضوع اور بے اصل اور بناوٹی ہیں۔“ (کشف الغطاء نسخہ ۱۲، خراائن ج ۱۳ ص ۱۹۳)

پس جب وہ تمام احادیث جن میں مہدی کے بنی فاطمہ میں سے ہونے کا ذکر ہے۔ (معاذ اللہ) موضوع میں تو مرزا قادیانی کے دعوے کی بنیاد کن احادیث پر ہے؟ جملہ صحیح احادیث اس امر پر متفق ہیں کہ مہدی منتظر خاتون جنت حضرت فاطمہ لخت جگر رسول اللہ ﷺ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اس امر میں کوئی اختلاف نہیں۔ بعض ان احادیث میں سے صحیح ہیں اور بعض حسن ہیں۔ پس اگر یہ سب احادیث موضوع اور بے اصل اور بے بنیاد ہیں تو اس کا نتیجہ تو یہ چاہئے کہ مہدی کے ظہور کا مسئلہ ہی ہے بنیاد اور بے اصل اور بناوٹی ہو۔ اس کے بعد مرزا قادیانی کے لئے مہدی بننے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ کسی حدیث صحیح میں یہ مذکور نہیں کہ وہ مہدی کوئی مغل بچہ ہو گا۔

(باقیہ حاشیہ نمبر ۳ گذشتہ صفحہ) ۳ شاہ وقت کے ان قوانین میں جن میں مذہبی امور میں مداخلت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو سبق دینے کی ضرورت نہیں ہے اور جو خصوصی طریق مرزا قادیانی سمجھاتے ہیں یعنی ذیل طریق سے خوشامد و لجاجت کر کے مطلب برآری کرنا اور قوم مسلمین کی چغی اور بد خواہی کر کے اپنے اکرام کی خواہش کرنا سو یہ طریق شرافت خودداری سے بعید اور بالخصوص دعوے مہدویت و امامت کبری کے متعلق ہے۔

۱۔ امام ترمذی نے امام مہدی کے اہل بیت میں سے ہونے کی حدیث و طریق ذکر کر کے ان دونوں کو صحن صحیح کہا اور امام حاکم نے آنحضرت رسول اللہ ﷺ میں سے ہونے کی حدیث روایت کر کے اسے صحیح کہا۔ اسی طرح دیگر آئندہ حدیث کے بھی اقوال ہیں۔ ان کے مقابلہ میں مرزا جی کا احادیث مہدی کو موضوع کہنا اس شے کی طرح ہے جیسے کہتے ہیں کہ وہ نہ زمین میں ہے اور نہ آسمان میں۔

دوسری! وجہ سید صاحب کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کی کامیابی کی یہ ہوئی کہ سید صاحب مذہبی پیشوائیں تھے۔ وہ گورنمنٹ کے زیر سایہ مسلمانوں کی دینی ترقی کے خواہاں تھے۔ تخت دہلی کی شان و شوکت بھی ان کی نظر میں تھی اور زمانہ غدر میں جو مسلمانوں کا نقصان ہوا اس کو بھی انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا اور آئندہ گورنمنٹ کے خدمات کو بھی سمجھتے تھے۔ حالات کو مساعدہ جانتے ہوئے انہوں نے یہ راہ اختیار کی اور اسی طریق سے مسلمانوں کی بگڑی حالت کو سنوارنے لگے۔ لیکن چونکہ انہوں نے بعض اعتمادی اموں میں مسلمانوں سے اختلاف کیا۔ اس لئے وہ ایسی صورت میں نہ تو گورنمنٹ کی پوری خدمت کر سکے اور نہ عوام مسلمانوں میں قبولیت حاصل کر سکے۔

لیکن مرزا قادیانی نے اس شترنج کی چال ہی بدل دی اور مذہبی پیشوائی کا چولہ پہن کر اور امام مہدی کی سیاسی حیثیت کا انکار کر کے خود مہدی بن گئے۔ اس لئے انہوں نے دونوں کام ایک ہی ہاتھ سے کر دکھائے۔ یعنی گورنمنٹ کو بھی راضی کر لیا اور لوگوں کے اذہان کو امام مہدی کی طرف سے ہٹا کر اپنی طرف مصروف کر لیا اور خود امن پسندی کا خیالی جامد پہن کر موقعی جہاد کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ: ”وقاتلواهم حتى لا نكون فتنة و يكون الدين كله لله“ (انفال: ۳۹)

لیکن سید صاحب اور مرزا قادیانی کی روشن میں ایک بہت بڑا فرق بھی ہے۔ وہ یہ کہ سید صاحب بیشک انگریزوں کے دوست تھے۔ لیکن مسلمانوں کے دلی خیرخواہ بھی تھے۔ وہ لجاجت پسند اور خوشامدی بھی نہ تھے اور مبتدل طریقوں سے منت سماجت کرنے والے بھی نہ تھے۔ انہوں نے انگریزوں کے سامنے اسلامی عظمت و وقار کو برابر قائم رکھا اور قوم کے عروج کا خیال آخوندی تک ان کے دل و دماغ میں رہا۔ لیکن مرزا قادیانی نے اس کے برخلاف انگریزوں کی دوستی خوشامد کے رنگ میں کی اور اسلامی عظمت و وقار کو خود یا اور اپنی غرض کے لئے ناطح ہریروں سے گورنمنٹ انگلشیہ کو قوم مسلمین سے بدلن کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کی اور اس میں نہ تو کذب و افتراء سے پر ہیز کی اور نہ خوشامد و لجاجت سے بچے۔ اسلوب بیان سے واقف اور خنثیں احباب قادیانی مسیح دوران، مہدی زمان اور ان کے مقولہ بالا کلام لجاجت التیام پر دوبارہ نظر؛ ایس گے تو خدا کے فضل سے ہمارے بیان کی تصدیق کریں گے۔ جس کے اتنے بڑے دعوے ہوں۔ وہ قلبی

۱۔ اگر سید صاحب مذہبی امور میں دخل نہ دیتے تو مسلمانوں کے لئے بے نظیر ثابت ہوئے۔

ارادتمندی سے ایک دنیوی حکومت کے سامنے اتنا مبتدل نہیں ہو سکتا اور خلافت کبریٰ کا مدعا جس کا فرض تجھیز جیوش اور سد شہر اسلام ہے۔ وہ ایک غیر اسلامی حکومت کے ادنیٰ ادنیٰ ملازموں کے سامنے نہایت گرے جوئے الناظم میں عاجزانہ عرض داشتیں نہیں گزار سکتا۔ بس مرزا قادیانی کی ساری خوشامد اسی اور قوم مسلمین کی بدنواہی پر یہی اعتراض ہے کہ آپ ان دعاویٰ کے ساتھ ایسی مبتدل حرکتیں نہیں کر سکتے۔ ورنہ عام دنیا دار لوگ حکام وقت کے سامنے خوشامدیں کیا ہی کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ: ”لا ینبغی للمؤمن أن یذل نفسه“ (مجمع البحار ج ۴۷۱)، یعنی من اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا۔ یہ حدیث صحیح میں ہے کہ: ”الْمُسْلِمُ أَخْوَالُهُ لَا يُظْلِمُهُ وَ لَا يُسْلِمُهُ“ (مشکوٰۃ ص ۴۲۲، باب الشفقة والرحمة على الخلق)، یعنی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نہ تو وہ اس پر خود ظلم کرتا ہے اور نہ اسے کسی کے پر درکرتا ہے کہ وہ اس پر ظلم کرے۔ قادیانی امام و مهدی و مجدد و مسیح نے یعنی مرزا قادیانی نے یہ دونوں کام کئے اپنے آپ کو خوشامد و منت و ماجست کا خوگیر بھی بنایا اور مسلمانوں کی جھوٹی چغلیاں کر کے گورنمنٹ کو ان کی طرف سے بدظن کرنا بھی چاہا۔ پس ایسے امام زمان اور مهدی دور ان کو مسلمان دور ہی سے سلام کرتے ہیں۔

### مرزا قادیانی کے دلائل مہدویت

مرزا قادیانی کے دلائل عموماً ملجم سازی کے ہوتے ہیں۔ جس طرح بن پڑے اپنا مطلب سیدھا کر لیتے تھے۔ کسی روایت کا صحیح ہونا یا اس معنے کا درست ہونا یا طریق استدلال کا مطابق قواعد ہونا ان کے نزدیک ضروری نہیں تھا۔ اپنے مطلب کے خلاف کچھی سے کچھی بات میں شکوک و شبہات پیدا کر لینے اور اپنے مطلب کی جھوٹی سے جھوٹی بات کی تائید و تقویت کے لئے ہوائی اور خیالی قلعے بنائیں ان کے با میں ہاتھ کے کھیل تھے۔ اس قبیل سے ان کے دلائل مہدویت ہیں۔

چنانچہ ان کی جوئی کی دلیل یہ روایت ہے کہ: ”لا مہدی الا عیسیٰ (ابن ماجہ ص ۲۹۲، باب شدة الزمان)“ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی دیگر مہدی نہیں۔

چونکہ مابدلت عیسیٰ موعود ہیں۔ اس لئے ہمارے سوا کوئی دیگر مہدی نہیں ہو گا۔ ہر چند کہ یہ حدیث بالتفاق آئندہ حدیث ناقابل اعتبار ہے۔ پھر بھی مرزا قادیانی اپنے مطلب کے لئے

اس کی ہوا اس طرح باندھتے ہیں۔ مہدی کی حدیثیں سب ناقابل اعتبار اور قرآن شریف کے خلاف ہیں۔ ان میں اگر صحیح حدیث ہے تو یہی ہے کہ: ”لا مهدی الا عیسیٰ (اخبار الحکم ۲۳، جولائی ۱۹۰۰ء، ص ۵ کالم: ۲)“ جن احادیث کو حدیثین صحیح و حسن کہیں وہ مرزا قادیانی کے خلاف ہونے کی وجہ سے ناقابل اعتبار اور جس کو تمام حدیثین بالاتفاق ناقابل اعتبار کہیں اور مرزا قادیانی کا کام بنتا ہو وہ صحیح۔ سبحان اللہ!

اس کا جواب اول تو یہ ہے کہ یہ روایت بالاتفاق آئندہ حدیث ناقابل اعتبار ہے۔ کسی نے اسے موضوع کہا۔ کسی نے منکر قرار دیا اور کسی نے ضعیف۔ سب سے پہلے خود امام حاکم صاحب کتاب کافیصلہ سنئے۔ جو متدرک میں اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

”میں نے اس روایت کو اس کتاب میں اس کی (بے اعتباری کی) علت معلوم کر کے از روئے تجھ ذکر کیا ہے۔ نہ کہ شیخین (امام جخاری و مسلم کی کتابوں) پر استدراک کے لئے۔ کیونکہ اس مقام پر اس سے زیادہ لائق ذکر امام سفیان، امام شعبہ اور امام زائدہ وغیرہم آئندہ مسلمین کی حدیث ہے۔ جو عبد اللہ بن مسعود سے اس طرح مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ (دنیا کے بقاء کے) دن اور رات نہ گذریں گے۔ حتیٰ کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ہو گا۔ جس کا نام میرے نام پر (محمد) اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر (عبد اللہ) ہو گا۔ وہ زمین کو انصاف و عدل سے بھردے گا۔ جس طرح کہ وہ زیادتی اور ظلم سے بھری ہو گی۔“

(متدرک ج ۵ ص ۲۳۰، حدیث نمبر ۸۳۲)

تو توضیح امام حاکم کی اس سے یہ غرض ہے کہ احادیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو الگ الگ اشخاص ہیں اور اس روایت سے امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی شخص معلوم ہوتا ہے۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسرائیلی ہیں نہ کہ آل محمد ﷺ۔ اس لئے یہ روایت قطعاً ناقابل اعتبار ہے۔

۲..... اسی طرح شیخ محمد طاہرؒ (مجموع الماجار ج ۵ ص ۲۲۷) میں نقل فرماتے ہیں کہ: ”لا

مہدی الا عیسیٰ موضوع“ یعنی روایت لا مہدی الا عیسیٰ بناوٹی ہے۔

۳..... اس روایت کے راویوں میں سے ایک راوی محمد بن خالد جندی ہے۔ امام

ذہبیؒ (میزان الاعتدال ج ۶ ص ۱۳۲، طبع یروت) میں اس کے ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ: ”قال الاذدی

منکر الحدیث۔ قال ابو عبد اللہ الحاکم مجھوں، ”یعنی امام ازدیؒ نے کہا کہ یہ راوی منکر حدیث میں روایت کیا کرتا ہے اور امام حاکم نے کہا کہ یہ راوی مجھوں ہے۔

اس کے بعد امام ذہبیؒ اسی راوی محمد بن خالد جندی کی خاص اسی روایت لامہدی الا عیسیٰ کی نسبت لکھتے ہیں کہ: ”حدیثہ لا مهدی الا عیسیٰ بن مریم وہ خبر منکر اخرجه ابن ماجہ“، (یعنی اس راوی (محمد بن خالد جندی) کی روایت کردہ حدیث لا مهدی الا عیسیٰ بن مریم اور وہ منکر روایت ہے۔ اسے امام ابن الجہنؓ نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد امام ذہبیؒ نے اس روایت کے منقطع ہونے کے وجہ مفصل لکھے ہیں۔ غرض اسے ہر طرح ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔

امام ابن تیمیہؓ جن کو سب مرزاںی ساتویں صدی کا مجدد مانتے ہیں (عمل مصنفی ج ۱۶۸) فرماتے ہیں کہ: ”الحادیث الذی فیه لا مهدی الا عیسیٰ بن مریم رواه ابن ماجہ ضعیف“ (منهاج السنۃ ج ۲ ص ۱۳۴)“

..... ۳ علامہ ابن خلدون مغربیؓ جن کی تنقید احادیث پر سید صاحب نے ظہور امام مہدی کا انکار کیا ہے اور دیگر آئندہ حدیث کی تصحیح و تحسین کو نظر انداز کر دیا ہے۔ خاص کر اس روایت لامہدی..... الخ کی نسبت محمد بن خالد جندی کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ: ”وبالجملة فالحادیث ضعیف مضطرب (مقدمہ ابن خلدون ص ۲۲۲ طبع بیروت)“، (یعنی حاصل کلام یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور بوجہ کبھی کسی طرح اور کبھی کسی طرح روایت کرنے کے مضطرب بھی ہے۔

..... ۵ اسی طرح حضرت نواب صاحبؒ نے حجج الکرامہ میں کئی ایکسا آئندہ کے اقوال اس روایت کی تضعیف میں ذکر کئے ہیں۔ جو بخوف طوالت ہم نقل نہیں کر سکتے۔

### دوسری دلیل

مرزا قادریانی کی مہدویت کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہمارے مہدی کی دون شانیاں ہیں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں۔ وہ کبھی واقع نہیں ہو سکیں کہ چاند کو گرہن لگے گا۔ رمضان کی پہلی رات کو اور سورج کو گرہن لگے گا اس کے نصف میں

اور یہ دونوں امر نہیں ہوئے۔ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں اور

(سنن دارقطنی الجز الثانی ص ۶۵، باب صفة صلاة الخسوف والكسوف)

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میرے زمانہ میں ماہ رمضان شریف ہی میں آفتاب کو بھی اور ماہتاب کو بھی گر ہیں لگا۔ گویا دونوں گر ہیں تھیک ان تو ارنخ پر نہیں لگے۔ جو اس حدیث میں مذکور ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان تو ارنخ پر گر ہیں لگا ہی نہیں کرتا۔ بلکہ وہ ہمیشہ چاند نی راتوں میں لگا کرتا ہے۔ تو اس حدیث کی بیان کردہ تو ارنخ سے یہ معنے ہیں کہ چاند کو گر ہیں کی راتوں میں سے پہلی رات کو چاند کو گر ہیں لگے گا۔

سواس کا جواب کئی طریق پر ہے۔ اول یہ کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے۔ بلکہ امام محمد بن علیؑ یعنی امام باقرؑ کا قول ہے۔ پس مرزا قادیانی یا ان کی امت کا اسے حدیث رسول اللہ ﷺ کہنا فریب کاری ہے۔ مرزا قادیانی کے خاص حواری مرزا خدا بخش صاحب نے مرزا قادیانی کی زندگی میں کتاب عمل مصطفیٰ لکھی اور اس میں اسے رسول ﷺ کی حدیث قرار دیا۔ جو سراسر دھوکا ہے۔ دوم یہ کہ روایت امام باقر سے بھی صحیح اسناد سے مروی نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے اوپر نیچے دوراوی (استاد و شاگرد) یعنی عمرو بن شمر اور جابرؓ ضعیف ہیں اور قابل احتجاج نہیں ہیں۔ چنانچہ (التعليق المعنى شرح سنن دارقطنی ص ۶۵ ج ۲) میں لکھا ہے۔

۱..... ”قوله عمر و بن شمر عن جابر كلاماً ضعيفان لا يحتاج بهما“ یعنی عمرو بن شمر کی جابرؓ سے روایت ہے کہ یہ دونوں ضعیف ہیں اور جدت پکڑنے کے لائق نہیں ہیں۔

۲..... حافظ ذہبیؒ نے (میزان الاعتدال ج ۲ ص ۱۰۸) میں جابرؓ کی نسبت

۱۔ امام عطاء بن ابی رباح امام مالکؓ کے دادا استاد ہیں۔ امام ذہبیؒ ان کی بابت لکھتے ہیں کہ ”سید التابعین علماؤ عملاً و اتقاناً فی زمانہ بمکہ..... اخذ عنه ابو حنیفہ و قال مارايت مثله (میزان الاعتدال ج ۵ ص ۹۰، طبع بيروت)“ یہ وہی عطا، ہیں جن سے صحیح بخاری میں امین کی بابت مروی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن زیرؓ کی امامت میں مقتدى اتنی زور سے آمین کہتے تھے کہ مسجد میں آوازیں مل کر لہر پیدا کر دیتی تھیں۔

حضرت امام ابوحنیفہ نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ: ”ما رایت فیمن رایت افضل من عطا و لا اکذب من جابر الجعفی“ یعنی میں نے کئی آدمی دیکھے ان میں سے عطا اتابی سے بڑھ کر کسی کو صاحب فضیلت نہیں دیکھا۔ جابر چھپی سے بڑھ کر کسی کو جو ٹھانہ نہیں دیکھا۔

..... تقریب میں حافظ ابن حجرؓ نے جابر چھپی کی بابت لکھا ہے کہ: ”ضعیف رافضی“ یعنی ضعیف ہے اور رافضی ہے۔

..... اور عمرو بن شمر کی بابت تو حافظ ذہبیؓ نے اتنا برالکھا ہے کہ اس کی نقل موجب طوالت ہے۔ لیکن اس کا خلاصہ ہم ان الفاظ میں بتادیت ہیں۔

”لیس بشبئی، ذائع کذاب۔ رافضی یشتم الصحابة وبروى الموضوعات عن التقاط منكر الحديث لا يكتب حدیثه۔ یضع للرواوض“ پس اس حدیث سے سند پکڑنا اور اسے اپنے دعویٰ کی دلیل میں پیش کرنا علم حدیث سے ناقشی کا نتیجہ ہے۔ (میزان الاعتadal ج ۵ ص ۲۴)

سوم یہ کہ جو تواریخ اس روایت میں گرہن کی بتائی گئی ہیں۔ مرزا قادیانی کے پیش کردہ گرہن ان تواریخ پر واقع نہیں ہوئے۔ اس کے جواب میں یہ کہنا کہ روایت کی مذکورہ تواریخ میں گرہن ہوا نہیں کرتا۔ درست نہیں ہے۔ کیونکہ اس روایت میں یہی تو کہا گیا ہے کہ ان تواریخ پر گرہن جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں کبھی نہیں ہوئے۔ صرف امام مہدی منتظر کے لئے بطور نشان ان تواریخ پر گرہن لگیں گے۔ پس یہ غذر روایت کے الفاظ سے باہر ہوتے ہوئے قابل سماught نہیں ہے۔

اس کے جواب میں قادیانیوں کی طرف سے بتلقین مرزا قادیانی یہ کہا جاتا ہے کہ پیدائش دنیا سے لے کر اس وقت تک اس نشان کے نہ ہونے کی صورت یہ ہے کہ ایسا کسوف و خوفس جو ماہ رمضان شریف میں ہوئیں ہوا۔ سواں کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ چاند اور سورج ہر دو کے گرہن کا ایک مہینہ میں واقع ہونا اس حساب کے مانحت ہے۔ جو خداۓ عزیز و حکیم نے ان کے لئے مقرر کیا ہوا ہے۔ جب وہ حساب پورا ہو جاتا ہے تو دونوں کو ایک ہی ماہ میں گرہن لگ جاتا ہے۔ اسی قاعدے کے مانحت جس طرح باقی گیارہ مہینوں میں ہر دو کے گرہن جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان میں بھی جمع ہو جاتے ہیں اور ماہ رمضان ہی میں ایسے

اجماعات علمائے پیيات کے نزد یک کئی دفعہ ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اکٹر عبدالحکیم صاحب پٹیالوی نے مرزا بیت سے تائب ہونے کے بعد مرتضیٰ قادریانی کی تردید میں بہت سے رسائل شائع کئے اور ایک رسالہ خاص اسی مسئلہ میں لکھا اور اس میں بتایا کہ آج تک سابق زمانہ میں کتنے اجماعات کسوف و خسوف کے ماہ رمضان شریف میں ہو چکے ہیں۔ پس مرتضیٰ قادریانی اور قادریانی کا یہ عذر بھی قابل ساعت نہیں۔

### حالت حاضرہ

ہمارے قدیمی دوست مولوی غلام رسول صاحب قادریانی آف رائیکے۔ جو شاید قادریوں میں اجتہاد کا درجہ رکھتے ہیں اور اسی لئے ادھر ادھر کی ہائنس میں بہت مشاق ہیں۔ آج کل سیالکوٹ میں نزول فرمائیں۔ وہ یکے بعد دیگرے قادریانیت کی دعوت میں نمبر وارٹریکٹ نکلواتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں ٹریکٹ نمبر ۲ میں آس مددوح نے لکھا ہے کہ: ”۵، قرآن کریم کی سورہ تکویر، سورہ تحمل، سورہ قیامت، سورہ زلزال وغیرہ اور صحیح مسلم وغیرہ کتب حدیث میں صحیح موعود کے زمانہ کے لئے یہ نشان بطور پیشگوئی قرار پائے تھے کہ ..... چند سورج کو رمضان کی معین تاریخوں میں گرہن لگے گا۔“

اس حوالہ میں سورہ القيامة کا بھی ذکر ہے اور اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ اس سوت میں و خسف القمر و جمع الشمس والقمر جو آیا ہے۔ تو اس سے مراد یہی اجتماع کسوف و خسوف اور ماہ رمضان ہے۔ جو صحیح موعود کے لئے ایک نشان ہے۔

ہم نے اس کے جواب میں اشتہار کھلی چھٹی میں مولوی صاحب موصوف سے مطالبه کیا ہے کہ آپ نے جو یہ دعویٰ کیا ہے اس کے ثابت کرنے کے لئے علماء اور دیگر مسلمانوں کے سامنے آپ قرآن مجید کی سورتوں میں سے جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے۔ ایسے الفاظ دکھائیں دیں جن کا ترجمہ یہ ہو کہ یہ نشانات صحیح موعود کے زمانہ ظہور کے ہیں۔

مولانا مولوی غلام رسول قادریانی نے ہماری کھلی چھٹی کا جواب ناصواب تو شائع کرایا لیکن اس میں ہمارے مطالبه کا ہاں یانہ میں کچھ بھی ذکر نہیں فرمایا۔ معلوم نہیں کیا سبب ہو گیا۔ ورنہ وہ تو (بنے یانہ بنے) کسی بات کے جواب سے رکتے نہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہو گی کہ ہمارا مطالبه مجلس علماء اور دیگر مسلمانوں کے سامنے نکال کر دکھانے کا ہے اور یہ بات ان سے ہونہیں سکے گی۔

اس لئے خاموشی مناسب جانی۔ اپنی جگہ بینچہ کرٹریکٹ شائع کر دینا اور بات ہے اور مجلس علماء میں حریف کے سامنے قرآن شریف کھول کر دکھانا اور بات ہے۔

### عام چیلنج

ہم اپنی صداقت کی بناء پر کھلے طور پر عام علمائے قادریانی کو چیلنج کرتے ہیں کہ مولانا مولوی غلام رسول صاحب اور دیگر جو جو بھی اوپر کی باتوں میں ان سے موافقت رکھتے ہیں وہ علمائے اسلام کی مجلس میں قرآن شریف میں سے اس مفہوم کے الفاظ دکھائیں کہ یہ نشانات مُقحِّم موعود کے زمانہ ظہور کے ہیں۔ بس ہمارا مطالبہ پورا ہو جائے گا ورنہ ظاہر ہو جائے گا کہ قادریانی گروہ اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ پر افتراق اباند ہستے ہیں اور قرآن و حدیث میں تحریف کرتے ہیں۔

قادیریانی لٹریچر میں دلائل مہدویت کا مدار کارا نہیں دو روایتوں پر ہے۔ جن کو ہم نے بدلاں و تصریحات آئندہ محمد شین سراسرنا قابل اعتبار ثابت کر دیا ہے۔ بس مرزا قادریانی کا ادعائے مہدویت سراسر باطل نہ ہے۔

### محمد در درواز

مرزا قادریانی کی امامت و مہدویت کا توفیصلہ ہو گیا۔ اب رہی یہ بات کہ شاید آپ مجدد درواز ہوں۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ نے ہر صدی کے سرے پر مجدد ہونے کی بشارت دی ہے اور مرزا قادریانی نے اس منصب کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ سواس کی نسبت بھی معلوم ہو کہ مرزا قادریانی کی یہ ہوس بھی بے جا ہے اور خیال باطل ہے۔ کہاں مہدویت اور کہاں مرزا قادریانی۔ مرزا قادریانی محدث فی الدین ہیں نہ کہ مجدد۔ اس کی تفصیل دو طرح پر ہے۔ اول حدیث کے رو سے فرائض مجدد سے۔ دوم سابق مجدد دین کے احوال سے۔ مرزا قادریانی ان دونوں معیاروں پر پرکھنے سے کھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔

طریق اول: یعنی حدیث کے رو سے فرائض مجدد کا بیان یوں ہے کہ سُنَّةِ ابِي دَاوُد میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: "اَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأَمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مائِةٍ سَنَةٍ مِنْ يَجْدِ دَلْهَا دِينَهَا" (ابوداؤد ج ۲ ص ۱۳۲، اول کتاب الملاحم)۔ بیشک اللہ تعالیٰ اس امت کے لئے میوث کرتا رہے گا۔ ہر صدی کے سر پر ایسے شخص جو تازہ کر دیا کریں گے واسطے اس امت کے دین اس امت کا۔

شیخ شيخنا حضرت سید نواب صاحب "حجج الکرامہ" میں اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ: "قد اتفق الحفاظ علی تصحیح هذا الحديث (حجج الکرامہ ص ۱۳۳)"، یعنی اس حدیث کی صحیح پر حفاظ حدیث کا اتفاق ہے۔

اس کے بعد معلوم ہو کہ اس حدیث کے رو سے اس امر کے بھئیں میں کوئی بھی مشکل نہیں کہ آنحضرت ﷺ دین کو تازہ کرنے کی بشارت سنارہے ہیں نہ کہ دین میں نئے مسئلے ایجاد کرنے کی۔ کیونکہ آپ ﷺ کے الفاظ ہیں۔ دینہنا یعنی اس امت کا دین اور اس امت کا دین وہ ہے جس کی نسبت خدا تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ پر عرفات میں جنت الوداع کے دن آیت "الیوم اکملت لكم دینکم و اتممت عليکم نعمتی و ورضیت لكم الاسلام دینا (مائہ: ۲)" نازل فرمایا کہ مکمل دین اور اسلام کو بحاظ دین پسند کرنے کا مرشد دنیا یا۔ نیز اس امت کا دین وہ ہے جس کی بابت آنحضرت ﷺ تاکید کر کے فرمائے گئے۔

"ترکت فيكم امرین لن تضلوا ما تمسّکتم بهما كتاب الله و سنة رسوله (مشکوٰۃ ص ۳۱ باب الاعتصام بالكتاب والسنة)" میں چھوڑ چلا ہوں تم میں دو چیزیں تم گمراہ نہ ہو گے۔ جب تک ان کو مضمبوٹی سے پکڑے رکھو گے خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔

اس آیت اور حدیث سے صاف معلوم ہو گیا کہ دینداری نام ہے قرآن و حدیث کی تابعداری کا۔ اسی طرح آنحضرت ﷺ نے دین میں نئے مسائل اختراع کرنے سے بہت ڈرایا اور اسے ضلالت قرار دیا اور نئے مسائل نکالنے والے کی نسبت فرمایا کہ جتنے آدمی اس کی ایجاد کردہ بدعت پر عمل کریں گے ان سب کے گناہوں کے مثل اس پر بھی بوجہ ہو گا اور ان عمل کرنے والے کو بوجھ سے کچھ بھی بکانہیں کیا جائے گا۔

پس اگر مرزا قادریانی کو اس کسوٹی پر پرکھا جائے تو وہ بجائے مجدد ہونے کے محدث (بدعیت نکالنے والے) ثابت ہوتے ہیں۔

..... ختم نبوت کی آیت قرآن شریف میں صاف الفاظ میں موجود ہے۔ دین کا مکمل ہو جانا قرآن میں منصوص ہے۔ ختم نبوت کی احادیث نہایت کثرت سے نہایت واضح الفاظ میں صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہیں۔ جن میں نہ تو کسی طرح کے کلام کی گنجائش ہے اور نہ کسی

تاویل کی صورت۔ لیکن مرزا قادیانی نے اپنے مطلب کے لئے سب نصوص کو بالائے طاق رکھ کر صاف صاف الفاظ میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ دین کی تجدید ہے یا تحریک؟ اس نقطہ نگاہ سے آنحضرت ﷺ نے اپنے بعد کئی ایک کے دعوے نبوت کرنے کی پیش گوئی بھی فرمادی ہے اور ان سب کے کاذب ہونے کی ایک بھی دلیل فرمائی کہ وہ دعوے نبوت و رسالت کریں گے۔

پس مرزا قادیانی کا مجرم دعوے نبوت کرنا ہی ان کے کاذب ہونے کی دلیل ہے۔ ان سے ان کی نبوت کی صداقت کے دلائل طلب کرنے اور ان کی تردید کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح مرزا قادیانی نے دیگر عقائد باطلہ بھی پیدا کئے جو ان کے کاذب مدعاً نبوت ہونے کے بعد بیان کرنے ضروری نہیں۔

دوسر اطريق: یعنی سابق مجدد دین کے احوال سے مرزا قادیانی کا ابطال۔ سواس کا بیان اس طرح ہے کہ تجدید دین اسے کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے بعد لوگوں کی غفلت یا درازی زمانہ یا قلت علم یا ظہور بد عادات کی وجہ سے دینداری میں سستی پیدا ہو جائے تو کوئی بندہ خدا یا مختلف علاقوں میں مختلف مقبولان بارگاہ لوگوں میں دین داری کی روح پھونک دیں۔ بد عادات کو دور کر کے سنت رسول ﷺ کو قائم کر دیں۔ جہالت کو علم سے بدل دیں اور ان کو رسول ﷺ کے زمانے کی حالت پر لے آئیں اور سو ۱۰۰ اسال کی معیاد اس لئے رکھی کہ ۱۰۰ اسال کے بعد نسلیں بد جاتی ہیں۔ عادات میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ پس امت کو اصل طریق سنت پر لانے کے لئے ایسے صاحب برکت آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سو خدا تعالیٰ ان کو پیدا کر کے اور اپنی تائید ان کے شامل حال کر کے دین کو قوی اور تازہ کر دیتا ہے۔

تفویت: یہ اسلام کا ایک پہلوت وہ ہے۔ جس کا بیان ہوا کہ علم و عمل بالسنت کو رواج دیا جائے۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کی سستی یا غلط کفار کی وجہ سے مسلمانوں میں جو ضعف آگیا ہوا سے دور کر کے مسلمانوں کو قوی و مضبوط کر کے مذہب اسلام اور سیاست اسلامیہ کو محفوظ رکھا جائے۔ یہ کہا جس وقت نبأہ کفار مذہبی امور اور قومی مقاصد میں مزاحم ہو جاتا ہے۔ پس جب تک اس مزاحمت و دور نہ کیا جائے۔ مقاصد پورے نہیں ہو سکتے اور یہ معلوم و ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ کی نبوت کے بوجہ آپؐ کے سید المرسلین اور خاتم النبیین ہونے کے دو پہلو ہیں اور آپؐ کی شریعت مطہرہ جامع دین دنیا ہے۔ ایک پہلو علم شریعت کا ہے۔ جس سے اصلاح و عقائد

واعمال اور تہذیب اخلاق و تزکیہ نفوس ہوتا ہے اور دوسرا سیاست ملکی کا ہے کہ اس کے متعلق یہ امور ہیں۔ عدل و انصاف کو قائم کرنا جو رواستبداد اور ظلم و تعدی کو دور کرنا لوگوں کے مال و جان اور ان کی عزت و ناموس اور ان کے باہمی حقوق و معاملات کی حفاظت کرنا۔ فرش کاری و بدکاری، قمار باری و مبتکواری، سرقہ و رہنمی، فتنہ و بغاوت وغیرہ۔ برائیوں کا انسداد جن سے امن عامہ اور نظام ملک میں خلل واقع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان فرائض کی ادائیگی بغیر حکومت کے نہیں ہو سکتی اور خدا نخواست اگر حاکم ظالم ہوں یا ان برائیوں سے جن کا اذپر ذکر ہوا خود ملوث ہوں۔ تو وہ دنیا میں عدل و انصاف سے حکومت نہیں چلا سکتے اور لوگوں کے ناموس محفوظ نہیں رہ سکتے اور وہ امت آسائش میں رہتے ہوئے باعزت زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس لئے لازم ہے کہ ان کے ظلم و استبداد کے توڑنے اور لوگوں کو ان کی دستبرد سے آسائش دینے کے لئے قوت و شوکت حاصل کی جائے اور حکومت کی بآگ ڈور ان افراد کے ہاتھ میں دی جائے جو خدا سے ڈرنے والے اور عدل و انصاف سے لوگوں کے حقوق و ناموس کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ چنانچہ جب غریب مسلمانوں پر کفار ملک کے مظالم حد سے بڑھ گئے اور وہ بے چارے اپنے مالوف وطن چھوڑ کر پر دیں میں بحیرت کر جانے پر مجبور ہو گئے اور ان ظالموں نے وہاں مدینہ شریف میں بھی ان کو امن نہ لینے دیا تو ان مظلوموں کو اپنی حفاظت کرنے اور ظالموں کی مزاحمت دور کرنے کے لئے جہاد کی اجازت دوی گئی اور آئندہ کے لئے بشارت بھی سنادی گئی۔

”الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة وامرروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الامور (الحج: ٤١)“ وہ مہاجرین کا اگر ہم نے ان کو زمین میں با اختیار کیا تو وہ سرکش نہیں ہوں گے بلکہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ بھی دیا کریں گے اور نیک کاموں کا حکم اور برے کاموں سے منع کیا کریں گے اور سب کاموں کا انجام خدا کے اختیار میں ہے۔

اس آیت میں جہاں غریب مہاجرین اور مظلوم مسلمانوں کو بشارت فتوحات سنائی جا رہی ہے اور ان کے نیک کردار اور نیکی کی اشاعت کرنے والے اور برائیوں سے پر بیزگار بلکہ ان سے روکنے والے ہونے کی خبر بھی دی جا رہی ہے وہاں ان کی اصولی طور پر حکومت کے فرائض بھی بتائے جا رہے ہیں اور انہی امور کو ہم نے بالا جمال گن کرنا پر بتا دیا ہے۔

پس جیسا کہ سابقًا مضمون امامت و خلافت کبریٰ میں بالتفصیل بیان ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ بیہاں بھی سمجھ لیں کہ مجدد وقت کا ایک یہ کام بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کے سیاسی ضعف کو دور کر کے ان کو قوتی و توانا بنا دے۔ ہی لئے خدا تعالیٰ نے بعض مجددین سے احیائے سنت کے پہلو کام لیا اور بعض سے احیائے ملت کا اور بعض سے ہر دو کا ہر دو پہلو میں شریعت اسلامیہ کو قائم کرنے والا خلیفہ اکبر کہیں یا خلیفۃ المسیمین یا امیر المؤمنین یا امام وقت یا امام زماں۔ یہ سب القاب ایک ہی منصب کے فرائض بجالانے والی بابرکت ہستی کے ہیں۔ یہ منصب محض ادعائی اور ہنی و خیالی یا زبانی جمع و خرچ کے متعلق نہیں ہے۔ بلکہ اس کی حقیقت اور حقیقت عمل و خدمت سے تعلق رکھتی ہے۔

ہر کہ شمشیر زندہ سکہ بنا مشن خواند

نہ ہر کہ سربراشد قلندری داند

سورہ حج کی آیت جو ہم نے اوپر لکھی ہے۔ اس پر دوبارہ نظر ڈالیں کہ اس میں یہ فرائض عمل سے متعلق کچے گئے ہیں اور ان کو حقائق کی صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ یا محض اذعا اور ہنی تخیلات کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ اے بھولے مسلمان! جب خدا نے تیرپے دل کو نور ایمان سے منور کیا ہے تو تو بصیرت کی آنکھ سے حقائق کو دیکھو اور محض ادعائی خیالی جمع و خرچ والے مدعاں مجددیت کے دام فریب سے بچا رہو!

اب ہم حقائق مذکورہ بالا کو واقعات کی روشنی میں دکھاتے ہیں۔ پہلی صدی کے مجدد اعظم بالاتفاق خلیفہ عمر بن عبد العزیز ہیں۔ آپ خلیفہ اکبر بھی تھے۔ ملت و ملک کے نظام کی باگ ڈور آپ کے ہاتھ میں تھی۔ عدل و انصاف کے مجسم تھے۔ اس امر میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اسی سب سے انکا زمانہ خلافت باوجود چہار یار کے بہت بعد ہونے کے بھی خلافت راشدہ میں گنا جاتا ہے۔ علاوہ اس کے علم و عمل بالست قیامت میں بھی خصوصیت سے یاد کئے جانے کے قابل ہیں۔ رسول ﷺ کی سنت کے یہ دفاتر جو آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ جن سے آنحضرت ﷺ کی سیرت اور عملی زندگی کی ایک ایک حرکت و ارادہ پہر کے سورج کی طرح نمایاں اور آپ کے انفاس طیبہ کا ایک ایک کلمہ فضائے عالم میں گونج رہا ہے۔ صرف آپ کی فرائض شناسی اور حسن خدمت کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ ”آپ نے ابو مکبر بن حزم کو لکھا کہ رسول ﷺ کی حدیث (کی جنس) سے جو کچھ بھی ہوا سے دیکھو اور اسے کتابت میں کرو۔ کیونکہ مجھے (اس) علم کے مت جانے اور علماء کے چلے جانے کا خوف ہے اور سوائے رسول ﷺ کی حدیث کے کچھ بھی قبول نہ

کیا جائے اور چاہیے کہ علماء علم کو عام کریں اور اس کی مجالس قائم کریں۔ حتیٰ کہ وہ شخص جو علم نہیں جانتا علم سیکھ جائے۔ کیونکہ علم ہلاک نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ وہ پوشیدہ ہو جائے۔“ (تو گم ہو جاتا ہے) (صحیح بخاری کتاب الحدیث ص ۲۰۷، باب کیف یقہض الحدیث)

ناظرین! آپ نے دیکھا کہ خلیفہ وقت نے جو بالاتفاق پہلی صدی کا مجدد ہے۔

شریعت اسلامیہ کے ہر دو پہلوؤں کی حفاظت کی۔ دوسری صدی کے بالاتفاق مسلم مجدد امام شافعی ہیں۔ مختلف علوم عربیہ کی جامعیت میں آپ کو اپنے زمانہ اور اس سے پیشتر کے سب علماء پر فوقيت ہے۔ خصوصاً علوم حدیث اور علوم ادبیہ میں تو کوئی بھی امام مذہب آپ کا ہم پل نہیں ہوا۔ آپ کے زمانہ تک مختلف اسباب سے جن کے ذکر کا یہ موقع نہیں ہے۔ روایت حدیث میں بعض بے احتیاطیاں پیدا ہو گئیں تھیں اور تنقید استاد کے بعض تاریک گوشوں پر متقد مین کی نظر بوجہ قرب عہد کے نہ پڑ سکی تھی اور استنباط و قیاس کے اصول کتابی طور پر مدون نہ ہونے کی وجہ سے فقاہت میں بھی شخصی رائے و قیاس کا رواج ہو گیا تھا اور خلیفہ ہارون الرشید کے عہد میں امام محمد بن حسن شیباںی کے قاضی اور امام ابو یوسفؓ کے قاضی القضاۃ ہونے کے سبب خنی مذہب کے فتوؤں پر فیصلہ ہوتے تھے اور عام علمائے عراق کا قلیل الحدیث ہونا مسلم کل امر ہے اور اس بات کے سمجھنے میں کوئی بھی مشکل نہیں کہ جس قاضی و مفتی کے پاس ذخیرہ حدیث کم ہو گا وہ رائے و قیاس سے زیادہ کام لے گا اور جب زمانہ میں استنباط تفقہ کے قواعد بھی منضبط نہ ہوں تو قیاس میں بھی بے احتیاطی کا احتمال ہے۔ خواہ ان کے ذہن روشن اور ان کی نیتیں نیک ہوں۔ لیکن حالات زمانہ کے تاثر اور عوارض بشریہ سے بغیر خدا کی وحی کے معصوم رہنمائی میں مشکل ہے۔ نیز یہ کہ عالمگیر فتوحات اسلامیہ کے باعث صحابہؓ و کبار تابعین مختلف بلا مفتوحہ میں پھیل گئے اور ہر ایک نے اپنے علاقہ میں اپنے مسموعات روایت کئے تو ان مختلف روایتوں میں مطابقت و موافقت پیدا کرنے یا وجودہ ترجیح کے قواعد بھی مدون نہ ہونے کے سب مسائل میں بھی اختلاف عام ہو گیا اور ان سب مردیات کو یکجا جمع کرنے کے لئے مختلف بلاد کا سفر ضروری تھا اور قواعد جمع و تطبیق کے بیان کی شدید حاجت تھی۔

ایسے حالات میں خدا تعالیٰ نے خاندان قریش سے امام شافعیؓ کو پیدا کیا۔ زبان عرب کی قابلیت جن کی گھٹی میں تھی اور ان کی ذات میں اتنے کثیر علوم جمع کردیئے اور قرآن و حدیث سے برآ راست استنباط کرنے کی ایسی باریک سمجھے عطااء کی کہ آپ سے پہلے یہ کیفیت کسی دیگر امام میں پیدا نہیں کی تھی۔ اس امر میں ہرگز اختلاف نہیں کہ جامعیت علوم اور ذخیرہ حدیث اور وقت فہم

میں آپ سبقین پر فوکیت رکھتے تھے۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اصول فقدم دن کئے اور مختلف احادیث میں جمع و تقطیق اور ترجیح کے قواعد منضبط کئے ہیں اور تقدیر روایت کی پار کیاں سمجھائیں اور مختلف علاقوں کا سفر کر کے اور حدیث کے بڑے بڑے استادوں سے روایت کر کے اپنے سابق لوگوں سے زیادہ ذخیرہ حدیث جمع کیا۔ آپ کی کتاب کتاب الام ان سب امور کی زندہ شہادت موجود ہے ہیں۔ حدیث اور فقہ کو ایسے طور پر لکھا ہے کہ اس کے مطالعہ کرنے سے یہ آیت یاد آتی ہے۔ ”مرج البحرين یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان (الرحمٰن: ۲۰۱۹)“

علم حدیث کی ایسی ہی خدمات کی وجہ سے آپ کا لقب ناصر الحدیث تھا۔ آپ نے علم حدیث کی وہ خدمت کی کہ پہلوں کی فروگذاشتیں ظاہر ہو گئیں اور آپ اپنے پچھلوں کے لئے مسلم کل مقتداء قرار پائے۔ جمہور محدثین تقدیم حدیث میں آپ ہی کے نقش قدم پر ہیں۔ غرض آپ کا نام ان مجددین کی فہرست میں نمبر اول پر ہے۔ جن سے خدا تعالیٰ نے احیائے سنت نبویہ کا کام لیا۔

امام شافعی کی مجددیت قادریانیوں میں بالاتفاق مسلم ہے ہیں اب ہم ان حضرات سے جو مرزا قادری کو مجدد کہتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا مرزا قادریانی نے امام شافعی کے مقابل میں علم حدیث کی کوئی خدمت کی۔ خدمت کیا کرتے؟ وہ سرے سے اس فن سے واقف ہی نہ تھے۔ بلکہ وہ تو خود ارقام فرماتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں مجھے اس فن سے انس ہی نہ تھا۔ نیز یہ کہ

ل صاحب کشف جو خلیق مذهب ہے۔ علم اصول فقه کے بیان میں لکھتا ہے۔ ”اول

من صنف فیہ الام الشافعیٰ . ص ۱۱۴“

۲ شرح نخبۃ ثاتمة الحفاظ ص ۳۲

۳ یہ کتاب مصر میں چھپ پچھی ہے اور سات مطبوعہ جلدیوں میں ختم ہوئی ہے۔ الحمد لله! کہ اس عاجز کے پاس موجود ہے۔

۴ دیکھو کتاب عمل مصنفہ مرزا خدا بخش قادریانی ج اص ۱۶۲ سے ص ۱۶۵ تک فہرست مجددین۔ یہ کتاب مرزا قادریانی کی زندگی میں قادریانی نور الدین صاحب کے کتب خانہ کی مدد سے تیار ہوئی۔ مرزا قادریانی نے اس کا لفظ بلطف گوش ہوش سے سن اور مصنف کی وادی، لاہوری اور قادریانی ہر دو گروہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔

اقع بھی یہی ہے کیونکہ ان کے طالب علمی کے ایام میں پنجاب میں کوئی درگاہ تحریک حدیث کے لئے نہ تھی اور مرزا قادیانی تحصیل علوم کے لئے پنجاب سے باہر نہیں گئے۔ یہ تو ان کے علم کا حال ہے۔ اب حدیث کے متعلق ان کے عمل و اعتقاد کا حال بھی معلوم کیجئے کہ اپنے مطلب کے لئے بالاتفاق ضعیف اور منکر بلکہ موضوع روایتوں سے بھی دلیل پکڑ لیتے تھے اور مطلب کے خلاف صحیحین کی متفق علیہا احادیث سے بھی صاف انکار کر جاتے تھے۔ حاصل یہ کہ مطلب کے بندے تھے۔ حدیث کے تبع نہ تھے۔ جب ان کا اپنا اعتقاد عمل سنت کے مطابق نہیں اور اس کا علم بھی نہیں تو پھر آپ کس بناء پر ان کو مجدد مانتے ہیں۔ یادو خود کس برترے پرمددیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ صاحب حکومت وہ نہ تھے۔ خلیفہ عمر بن عبد العزیزؓ کی طرح نہ تو اسلام کی سیاسی خدمت کی نہ ان کی طرح نہ امام شافعیؓ کی طرح علم سنت کو کوئی خدمت کی۔ تو مجددیت کی حصہ میں ان کے منہ میں کیوں پانی بھرا آیا۔

..... اچھا ایک تیرے مجدد کا بھی حال سنئے۔ جسے مرزا قادیانی مجدد مانتے ہیں اور خود مرزا قادیانی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؓ ہیں جو ساتویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی خود آپ کی بابت لکھتے ہیں۔ ”فضل و محدث و مفرِ بن تیمیہ“ جو اپنے وقت کے امام ہیں۔ ”(کتاب البر یہ ص ۲۰۳ حاشیہ، خزانہ حج ۱۴۱۳ھ ص ۲۲۱)“ ان کے علمی اور عملی کارنامے لکھنے کے لئے ایک دفتر درکار ہے۔ گوہ صاحب حکومت نہ تھے۔ ایک عدیم المثال امام علوم تھے۔ لیکن سپاہیانہ رنگ میں تکوار سے اور علمانہ رنگ میں قلم اور زبان سے وہ خدمات بجا لائے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں ٹھہر کر رہ گئیں اور بعد والے ان کی علمی خدمات اور حق گوئی اور جہادی مساعی سے جیران و ششدروہ گئی کہ خدا تعالیٰ نے اس مرد حق پرست کو کیسی جامع الاضداد طبیعت بخشی تھی۔ آپ (منقولی و معقولی) جملہ فنون عربیہ میں بے مثل عالم ہوئے ہیں اور ترویج سنت میں جو گرم جوشی اور اس کے ساتھ حق گوئی کی جو جرأت آپ کو تھی۔ وہ مخالف و اموافق ہر دو طرح کے لوگوں میں مسلم ہے۔ اس کے علاوہ آپ صاحب قوت و شجاعت سپاہی اور صاحب عزم و استقلال مجاهد بالسیف بھی تھے۔ شام اور مصر کے کاہل و بزرگ حکام کو اپنی انقلاب پیدا کرنے والی تقریروں سے او بھار کر ان میں جہادی قوت کی روح پھوکی اور ترکوں کے سیالاب عظیم کے مقابلہ میں جو اس وقت غیر مسلم قوم تھی۔ صفاتی کر کے مذہب اسلام اور قوم مسلمین کی حفاظت کی اور فتنہ تارکو فرو دیا۔ کیا ان کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کوئی علمی یا فوجی خدمت بجا لئے؟۔ جس سے اسلام و قوم مسلمین کو نفع پہنچا ہو۔ جب نہیں تو کیوں ان کا نام لے کر مجددیت

کے نام کی ہٹک کرتے ہو؟۔ وہ بچارے تو ساری عمر نصاریٰ کی منت و خوشامد کرتے اور ان کے مانے امت مرحومہ کی چغلیاں کھاتے رہے اور جہاد کو قائم کرنے کی بجائے دنیا جہان کے مسلمانوں سے جہادی قوت زائل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جیسا کہ آپ کو مضمون امام زمان میں ان کی اپنی تصریحات سے معلوم ہو چکا ہے۔ پس مرزا قادریانی کا دعویٰ مجددیت بھی سراسر اطہل ہے۔

### دوسرے طریق

مرزا قادریانی کی مجددیت کے پرکھنے کا دوسرا مجددین سابقین سے عقائد میں موافقت یا مخالفت ہے۔ اس کا بیان اس طرح ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک، ہی دین سکھایا۔ اس دین میں باطل کے لئے کوئی راہ نہیں۔ اس کے بیان میں کوئی بھی نہیں، مسائل میں مخالفت نہیں۔ ان میں ریب و شک کی گنجائش نہیں۔ جو بات ہے دونوں ہے۔ جزم و یقین سے بیان کی گئی ہے۔ اس میں نقی و اشباع کو برابر نہیں رکھا گیا اور کفر و اسلام میں امتحان نہیں ڈالا جو بات ایک وقت میں ہدایت ہے وہ دوسرے وقت میں ضلالت نہیں ہو سکتی اور جو بات ایک وقت میں اسلام ہے۔ وہ دوسرے وقت میں کسی خاص شخص کی شخصیت سے کفر نہیں ہو سکتی۔

جب اصولی طور پر آپ نے یہ بات سمجھی تو اب دیکھنا چاہئے کہ اگر مرزا قادریانی واقعی پچھے مجدد تھے تو ان کے عقائد سابق مجددین کے موافق ہائیں یا مخالف؟۔ اگر آپ کی بے لوث ضمیر موافقت کی شہادت دیتی ہے تو آئیے اس معیار پر دیکھیں کہ پہلے مجددین کے عقائد دربارہ رفع وزوول عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے۔ ہم ان میں سے بعض کی تصریحات ذیل میں لکھتے ہیں اور یہ یاد رہے کہ ہم اس جگہ صرف انہی کی تصریحات نقل کریں گے۔ جو مرزا نیوں کے نزدیک مسلم مجدد ہیں اور ان کی قابل فخر کتاب (عمل صحیح کی جلد اول کے ص ۱۶۳ سے ۱۶۵) تک جو فہرست مجددین کی لکھی گئی ہے۔ اس میں ان بزرگوں کے اسماء گرامی بھی درج ہیں۔

..... امام نبی ﷺ قادریانیوں کے نزدیک چوتھی صدی کے مسلم مجدد ہیں۔ آپ اپنی ماہر ناز کتاب (الاساء والصفات ص ۲۲۲ طبع پیردت) میں خدا تعالیٰ کے لئے جہت علوثابت کرنے کے باب میں آیت ”انسی متوفیک و رافعک“ کے ذیل میں اپنی روایت سے یہ حدیث ذکر کرتے ہیں۔

”عن ابى هریرةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلْتُ أَبْنَ مَرِيمَ مِنَ السَّمَاءِ فِيكُمْ وَأَمَّا مِنْكُمْ مِنْكُمْ“ کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا تم اس وقت

کیے ہو گے جب کتم میں حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور تمہارا اما تم ہی میں سے ہو گا۔

..... محدث و مفسر شہیر حافظ عماد الدین ابن کثیر "جملہ قادریانیوں کے نزدیک چھٹی صدی کے مسلم مجدد ہیں۔ ان کی تفسیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کے حوالوں سے بھری پری ہے۔ خصوصیت سے چند حوالے درج ذیل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ:

"هكذا وقع فان المسيح عليه السلام لما رأى في السماء  
تفرقـت أصحابـهـ شـيعـاـ (تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۴۰) "اوـيـهـ بـاتـ اـسـ طـرـحـ وـاقـعـ ہـوـيـ۔  
كـوـنـكـ جـبـ خـداـعـالـيـ نـےـ حـضـرـتـ مـسـيـحـ عـلـيـهـ السـلـامـ کـوـ آـسـانـ کـیـ طـرـفـ اـخـالـيـاـ توـ آـپـ کـےـ اـصـحـابـ گـرـوـهـ گـرـوـہـ ہـوـ گـئـےـ۔

اسی طرح آیت "وَانِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (النَّسَاءُ: ۱۵۹)" کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ:  
"بِلِ الْمَرَادِ بِهَا الَّذِي مَا ذُكِرَنَا هُنَّا مِنْ تَقْرِيرٍ وَجُودٍ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ  
وَبِقَاءُ حَيَاتِهِ فِي السَّمَاءِ وَإِنَّهُ سَيَنْزَلُ إِلَيْنَا الْأَرْضَ قَبْلَ يَوْمِ القيمة" (تفسير ابن  
کثیر ج ۲ ص ۴۰۳) " بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ جو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں  
زندہ موجود ہونے کی بات بیان کی اور یہ کہ آپ روز قیامت سے پیشتر زمین پر ضرور ضرور نازل  
ہوں گے۔

اسی طرح آپ آیت "وَانِ لَعْنَ اللَّسَاعَةِ (زُخْرَفٌ: ۶۱)" کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ:  
"وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَحَادِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّهُ أَخْبَرَ بِنْزُولِ  
عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلَ يَوْمِ القيمة" (تفسير ابن کثیر ج ۷ ص ۲۱۷) " اور  
اُنْخَضَرَتْ تَعَالَى إِنَّهُ أَخْبَرَ بِنْزُولِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ کے  
روز قیامت سے پیشتر نازل ہونے کی خبر دی۔

غرض سب امور کی تصریح صاف الفاظ میں بکثرت موجود ہے اور ایک مقام بھی ایسا  
نہیں جس میں اپنا عقیدہ اس کے خلاف لکھا ہو۔

۱۔ حدیث صحیح مسلم کے حوالہ سے حضرت جابرؓ کی روایت جو کتاب میں گذر چکی ہے اسی  
سے بھی یہی عیاں اور واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کا اس وقت کا امام زمان دو  
الگ ٹکڑے شخص ہوں گے اور بوجب دیگر احادیث کی تصریحات کے جو امام ترمذی اور ابو داؤد کے  
روایت کی ہیں۔ وہ امام مہدی ہیں۔

۳..... امام رازیؒ قادر یانیوں کے نزدیک پھری صدی ہجری کے مسلم مجدد ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفع اور نزول آخر الزمان کے متعلق ان کی تصریحات سے ان کی تفسیر کبیر بھری پڑی ہے اور اس مسئلہ کو اس تفصیل و سط سے امام رازیؒ کے برابر شاید کسی دوسرے نے نہ کھا ہے گا۔ آپ کی صرف ایک عبارت جو ہر دو امر کی جامع ہے۔ یہاں نقل کی جاتی ہے۔

”قد ثبت الدليل انه حى وورد الخبر عن النبى ﷺ انه سينزل ويقتل الدجال ثم انه تعالى يتوفاه بعد ذالك (تفسیر کبیر ج ۸ ص ۷۲)“ تحقیق لیل سے ثابت ہو چکا ہے کہ آپ زندہ ہیں اور آنحضرت ﷺ سے بھی حدیث وارد ہوئی جو کہ وہ ضرور نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ فوت ہوں گے۔

۴..... شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ قادر یانیوں کے نزدیک ساتویں صدی کے مسلم مجدد ہیں۔ آپ کی متعدد تصانیف میں رفع عیسیٰ کا ذکر آتا ہے۔ چنانچہ آپ اپنی قابل قدر کتاب منہاج الشیعہ میں فرماتے ہیں کہ:

”فَانْ الْمُسِيْحُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رُفِعَ وَلَمْ يَتَّبِعْ خَلْقَ كَثِيرٍ (منہاج ج ۲ ص ۲۶۱)“ کیونکہ حضرت تصحیح علیہ السلام ایسے حال میں مرفاع ہوئے کہ زیادہ خلقت آپ کی پیروانہ ہوئی تھی۔

۵..... حافظ ابن قیمؒ جو قادر یانیوں کے نزدیک ساتویں صدی کے مسلم مجدد ہیں۔ اپنی مختلف تصانیف میں رفع اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا انکار کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی صفات کا مصدق نہیں ہو سکتا۔ (اقام القرآن ص ۲۲) نیز آپ اپنی کتاب اجتماع الجمیع الاسلامیہ میں خدا تعالیٰ کے فوق العرش اور فوق اسلوٹ ہونے کے قرآنی دلائل میں آیت یعنیسی انبیاء متوافق کہ و را فعال اللہؐ کو بھی ذکر کرتے ہیں۔

۶..... فاتحۃ الکفاۃ حافظ ابن حجرؒ قادر یانیوں کے نزدیک آٹھویں صدی کے مجدد ہیں۔ ان کی شرح صحیح بخاری کا باب نزول عیسیٰ علیہ السلام تو رفع اور نزول فی آخر الزمان کے دلائل سے بھرا پڑا ہے۔ جن کا احتساب بھی موجب طوالت ہے۔ صرف ایک خواہ پر کفایت کی جاتی ہے۔ آپ حضرت اور یعنی علیہ السلام کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ:

”لَمَّاْنْ يَعْسِيَ أَيْضًا قَدْ رُفِعَ وَهُوَ حَىٰ عَلَى الصَّنْدِيقِ (فتح الباری ج ۶ ص ۲۶۷)“ تحقیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی صحیح مذہب کے مطابق زندہ ہی اٹھائے گئے ہیں۔

..... امام جلال الدین سیوطی<sup>ؒ</sup> قادیانیوں کے نزدیک نویں صدی کے مسلم مجدد ہیں۔ ان کی تفسیر میں صاف الفاظ موجود ہیں۔ چنانچہ آپ آیت سورہ آل عمران کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

”ومَكَرَ اللَّهُ بِهِمْ بَانَ الْقَيْ شَبَهَ عِيسَىٰ عَلَىٰ مِنْ قَصْدَ قَتْلِهِ فَقَتَلُوهُ وَرَفَعَ عِيسَىٰ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُاَكْرِينَ أَعْلَمُهُمْ بِهِ إِذْ كَرِ اذْقَالَ اللَّهُ يَعِيسَىٰ أَنِي مَتَوْفِيكَ قَابِضُكَ وَرَافِعُكَ الَّتِي مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ مَوْتٍ (جَلَالِينَ مُجْتَبَائِي ص ۵۲)“ اور خدا نے بھی ان کے ساتھ تمدیر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہیدیہ اس شخص پر ڈال دی۔ جس نے آپ کو قتل کرنے کا قصد کیا تھا۔ پس انہوں نے اسے قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور بر اٹھالیا اور اللہ سب سے بہتر تمدیر والا ہے۔ یعنی ان سے بہتر تمدیریں جانتا ہے۔ (اے نبی) یاد کر جب کہا غادنے اے عیسیٰ تحقیق میں لے لینے والا ہوں۔ تجھ کو اور اٹھانے والا ہوں تجھ کو طرف اپنی دنیا سے بغیر موت کے۔

اسی طرح آپ اپنی دوسری تفسیر اکلیل میں آیت و رفع کی میں فرماتے ہیں کہ: ”فِيهِ اشارةٌ إِلَىٰ قصَّةِ رَفْعِ عِيسَىٰ إِلَى السَّمَاءِ (تفسیر اکلیل مطبوعہ مطبع فاروقی، تفسیر جامع البیان ص ۸۳)“ اس میں اشارہ ہے کہ عیسیٰ کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے قصہ کی طرف۔

اور آپ کی مبسوط تفسیر الدر المنشور وہ تو احادیث نزول عیسیٰ اور تصریحات صحابہ و تابعین کی روایات سے بھری پڑی ہے۔

..... ملا علی قاری<sup>ؒ</sup> قادیانیوں کے نزدیک دویں صدی کے مسلم مجدد ہیں۔ آپ کی تصریحات دربارہ رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام بیش از بیش ہیں۔ اس جگہ ہم صرف شرح فقا اکبر کے حوالہ پر اتفاقاً کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ:

”وَنَزَولُ عِيسَىٰ مِنَ السَّمَاءِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنَّهُ إِي عِيسَىٰ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ إِي عَلَمَةُ الْقِيَامَةِ وَقَالَ اللَّهُ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا يَؤْمِنُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ إِي قَبْلَ مَوْتِ عِيسَىٰ بَعْدَ نَزْوْلِهِ عَنْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ ..... عَنْدَ نَزْوْلِ عِيسَىٰ مِنَ السَّمَاءِ فَيَجْتَمِعُ عِيسَىٰ بِالْمَهْدِيِّ (شرح فقه اکبر ص ۱۳۶)“ اور نزول عیسیٰ کا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام البتہ علامت ہیں قیامت کی نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں ہوگا کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لے آئے گا۔ پیش اس کے یعنی عیسیٰ علیہ

السلام کی موت کے بعد آپ کے نازل ہونے کے قیامت قائم ہونے کے قریب..... میراں  
ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کے وقت پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام درم  
مهدی علیہ السلام کے ساتھ جمع ہوں گے۔

..... ۹ ..... شیخ محمد طاہر ثقہ گجراتی بھی قادریوں کے زدیک دسویں صدی کے مسلم  
مجدد ہیں۔ آپ مجتمع الحمار میں فرماتے ہیں کہ:

”متوفیک و رافعک علی التقدیم والتاخیر وقد يكون الوفاة قبضًا  
لیس بموت او متوفیک مستوفی کونک فی الارض (مجمع البحار ج ۵ ص ۹۹)“  
پورا کرلوں گا تجھ کو اور اٹھالوں گا تجھ کو اس میں تقدیم و تاخیر ہے اور کبھی پورا لے لینا بغیر موت کے  
بھی ہوتا ہے۔ یا یہ معنے ہیں کہ دنیا میں تیرے رہنے کی مدت پوری کروں گا۔

..... ۱۰ ..... حضرت شیخ احمد صاحب سرہندی قادریوں کے زدیک گیارہویں صدی  
کے مسلم مجدد ہیں۔ آپ کے مکتوبات میں متعدد جگہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔  
چنانچہ آپ خان جہان کے لئے عقائد اہل سنت ارقام فرماتے ہیں۔

”خاتم النبیاء محمد رسول اللہ ﷺ است و دین اوناسخ ادیار  
سابق است و کتاب او بہترین کتب مانقدم است و شریعت اور انساخ  
نخواهد بود بلکہ تاقیا م قیامت خواهد ماندہ عیسیٰ علی نبینا و علی  
الصلوٰۃ والسلام کہ نزول خواهد نمود عمل بشریعت او خواهد کرد  
و بعنوان امت خواهد بود (مکتوب نمبر نمبر ۶۷ ج ۲ ص ۱۸۴، ۱۸۵)“ خاتم الانبیاء حضرت  
محمد رسول اللہ ﷺ ہیں اور آپ ﷺ کا دین سب سابقہ ادیان کا ناسخ ہے اور آپ ﷺ کی کتاب  
(قرآن مجید) کتب سابقہ سے بہتر کتاب ہے اور آپ کی شریعت کو منسون کرنے والا کوئی نہیں  
ہوگا۔ بلکہ وہ تاقیا م قیامت قائم رہے گی اور عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو آپ ہی کی  
شریعت پر عمل کریں گے اور آپ کے امتی ہو کر رہیں گے۔

..... ۱۱ ..... حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی بارہویں صدی میں قادری کے  
زدیک مسلم مجدد ہیں۔ مرزا قادری ان کی شان میں رئیس المحدثین کامل ولی اور صاحب خوالق  
و کرامات بزرگ ایسے الفاظ لکھتے ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اور نزول آپ کی متعدد تصانیف میں مرقوم ہے۔  
ترجمہ قرآن میں آیت ”وَانْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَيْهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ“

(النساء: ۱۵۹) ” کے ترجمہ میں قبل موت کی خمیر کے مرجع کی نسبت کھول کر لکھتے ہیں۔

البته ایمان اور دین عیسیٰ پیش از مردن عیسیٰ اور اس کے حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ ” مترجم گوید یعنی یہودی کہ حاضر شوند نزول عیسیٰ را البته ایمان آرند ” یعنی وہ یہود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت موجود ہوں گے وہ سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔

اسی طرح آپ الفوز الکبیر عربی میں لکھتے ہیں کہ:

” وايضاً فمن ضلاله أولئك انهم يجزمون انه قتل عيسى عليه الصلوة والسلام وفي الواقع وقع اشتباہ في قصته فلمارفع الى السماء طنوا انه قد قتل ويروون هذا الغلط كابراً عن كابرٍ فازال الله سبحانه هذه الشبهة في القرآن العظيم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبة لهم (الفوز الكبير في احوال تفسير ص ۱۹) ” نیز نصاریٰ کی گرامی میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کردیے گئے تھے اور واقعی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو آپ کے متعلق اشتباہ واقع ہو گیا تھا۔ پس جب آپ آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو انہوں نے غلن کیا کہ وہ مقتول ہو گئے ہیں اور غلط بات وہ اپنے بڑوں سے زمانہ بزمانہ روایت کرتے آئے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کو قرآن عظیم میں دور کر دیا کہ فرمایا نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ صلیب دیا۔ لیکن وہ تشیہ دیا گیا وہ اسٹے ان کے۔

اسی طرح تاویل الاحادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ ” كان عيسى كانه ملوك يمشي على وجه الأرض فاتهمه اليهود بالذندة واجمعوا على قتلها فمكرهوا مكر الله والله خير الماكرين فجعل له هيئة مثالية ورفعه إلى السماء (ص ۶۰) ” حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے گویا کہ ایک فرشتوئے زمین پر چلتا ہے۔ پس یہود نے آپ پر (معاذ اللہ) بے دینی کی تہمت تراشی اور آپ کے قتل کا پختہ قصد کر لیا۔ انہوں نے اس مقصد کے لئے تدبیریں کیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی ہو رہی سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ پس آپ پر عالم مثال کی ایک معیت طاری کی اور آپ کو آسمان کی طرف اٹھالیا۔

امام شوکانیؒ بھی قادیانیوں کے نزدیک بارہویں صدی کے مسلم مجدد ہیں۔ آپ کی قفر فتح القدر عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی اور نزول عیسیٰ کے بارے میں بھری پڑی ہے۔ ہم اختصار

کی وجہ سے صرف ایک حوالہ ذکر کرتے ہیں۔

”تواترت الاحادیث بنزول عیسیٰ جسمًا اوضع ذلك الشوکانی“  
 (فتح البیان ج ۲ ص ۲۹۳) ”زندگی اور جسم کی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق احادیث بالتواتر ثابت ہیں۔

..... ۱۳ شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی مرزا یوں کے نزدیک تیرھویں صدی کے مسلم مجدد ہیں۔ آپ تفسیر موضع القرآن میں آیت ”وَانْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَ بِهِ قَبْلِ مَوْتِهِ (النساء: ۱۵۹)“ کا ترجمہ یوں کرتے ہیں اور جتنے فرقے ہیں کتاب والوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاویں گے۔ ان کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن ہوگا۔ ان کا بتانے والا۔ اس کے بعد فائدہ میں لکھتے ہیں ”یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔ چوتھے آسمان پر جب یہودیوں میں دجال پیدا ہوگا۔ تب اس جہان میں آن کرائے ماریں گے اور یہود و نصاریٰ سب ان پر ایمان لاویں گے کہ موئے نہ تھے زندہ تھے۔“

اسی طرح آپ آیت ”وَانْهُ لَعْلَمَ لِلْسَّاعَةِ (زخرف: ۶۱)“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں ”اور بیشک عیسیٰ علیہ السلام خبر دینے والا ہے۔ قیامت کی یعنی انکا اتنا آسمان سے ایک نشانی ہے۔ قیامت کی دجال کے پیدا ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آویں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ پھر یا جو ج ماجوہ پیدا ہو کر سارے عالم کو خراب کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مَوْمُونُوں کو لے کر کوہ طور پر جا کر چھپیں گے۔ غرض یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نشانی ہیں قیامت کی۔“

ناظرین! آپ نے دیکھ لیا کہ گذشتہ مجددین جن کو مرزا ای جماعت بالاتفاق (قادیانی اور لاہوری) مجدد تسلیم کر پہلی ہے۔ ان سب کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کے متعلق کیا ہے۔ لیکن مرزا قادیانی ان سب کے خلاف عقیدہ رکھ کر مجدد بنتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ نہیں اٹھائے گئے۔ بلکہ وہ نبوت ہو گئے ہیں اور دنیا میں نہیں آئیں گے اور جس کے آنے کی خبر ہے وہ میں خود ہوں اور ظاہر ہے کہ تیرہ صد یوں کے مجددین جو علم میں کامل سنت رسول اللہ کے عامل اور تقویٰ دیانت میں ممتاز تھے اور جن کو خود مرزا قادیانی بھی مجدد مانتے ہیں۔ سب کے سب گمراہی پر نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ میری ساری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ (مکملۃ المسالک، باب الامتحان بالكتاب، والسنۃ) تجھ بھے کہ صالحین کی ایک جماعت ایک امر کو ایمان کئے تو وہ ابھی مجدد ہا اور ایک گمراہا۔

شخص جس کے بیسوں عقیدے خلاف قرآن و حدیث ہوں اور اس کا علم بھی تاقص ہو اور وہ باوجود استطاعت کے فریضہ حج کا بھی تارک ہو اور اس کی روزی کا انحصار حیلہ اور فریب سے لوگوں کے چندے پر ہوا اور وہ ان سب صاحین کے برخلاف اسی عقیدہ کو کفر و شرک قرار دے تو وہ بھی مجدد یہ کیسے ہو سکتا ہے؟۔

لپس صحیح بھی ہے کہ مرزا قادیانی دعوے مجددیت میں بھی مثل دعوے رسالت اور دعوے امامت کبھی نہیں اور دعوے مجددیت اور دعوے مسیحیت کے کاذب ہیں۔

**سوال اول:** سرصدی سے کیا مراد ہے؟۔

**الجواب:** مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ ”چونکہ میر انشو نما چودھویں صدی کے اوائل میں ہوا ہے۔“ اس نے برصدی سے مراد صدی کا آغاز ہے اور یہ غلط ہے۔ کیونکہ حساب نمبر اسے شروع ہوا کرتا ہے نہ کہ نمبر ۱۳ سے۔ اس کی تشریح یوں ہے کہ پہلی صدی کے مدد بالاتفاق خلیف عمر بن عبد العزیز ہیں۔ ان کی وفات سنہ ۱۰ھ میں ہوئی اور علم حدیث کو صدی کے اخیر میں جمع کرایا اور دوسری صدی کے مدد بالاتفاق امام شافعی اور ان کی وفات سنہ ۲۰ھ میں ہوئی۔ آپ کی علمی خدمات بھی صدی کے آخری حصے میں ہیں۔ پس سرصدی سے مراد صدی کا آخری حصہ ہے۔ چنانچہ (عون المعبود شرح منی ابی داؤد ح ۳۸ ص ۷۷) میں ہے اور اس امر کی واضح دلیل کہ سرصدی سے مراد اخیر صدی ہے۔ نہ کہ ابتداء یہ ہے کہ امام زہریؓ وغیرہ معاشرے متفقین و متاخرین اس بات پر متفق ہیں کہ پہلی صدی کے سر پر عمر بن عبد العزیز ۱۰ھ میں چالیس برس کی عمر میں فوت ہوئے اور ان کی عمر چون ۵۲ برس کی تھی۔

**سوال دوم:** کیا مجدد کے لئے صاحب الہام ہو نا ضروری ہے؟۔

**الجواب:** ہرگز ضروری نہیں۔ نبوت ختم ہو چکی سنت قائم ہو چکی۔ آنحضرت ﷺ رخصت ہوتے وقت قرآن و حدیث کی پیروی کی تاکید کر گئے۔ نئی دھی اور الہام کی کیا ضرورت؟۔ بس مجدد قرآن و حدیث کا علم کامل حاصل کرنے کے بعد انہی کی پیروی سکھاتا ہے۔

”تَمَّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَعْبُودِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ صَاحِبِ  
الْمَقَامِ الْمُحْمَدُوْدِ وَعَلَى الَّهِ وَاصْحَابِهِ اِجْمَعِينَ إِلَى الْيَوْمِ المشهودُ وَإِنَّا الْعَبْدُ  
لِلَّاثِيمِ الحَقِيرِ النَّاسُوتِيِّ مُحَمَّدُ ابْرَاهِيمُ مِيرُ السِّيَالِكُوْتِيِّ“

تاریخ ۱۳ شوال ۱۳۵۷ھ مطابق ۲۷ دسمبر ۱۹۳۸ء بعد از نماز ظہر ختم شد۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

# کھلی چھٹی نمبر ۲

خدمت

مولوی غلام رسول راجیکی قادریانی

حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوئی

بسم - الرحمن الرحيم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

## کھلی چٹھی نمبر ۲

خدمت دوست قدیمی مولوی غلام رسول صاحب قادریانی حال وار دیا لکوٹ آپ نے میری کھلی چٹھی نمبر اکا جواب ارتقام فرمائے کی تکلیف اٹھائی اس کا ٹھکریو ہے۔ آپ نے اس کا نام ”جواب ہاصواب“ لکھا ہے۔ لیکن وہ از روئے حقیقت سرا ارسنا صواب ہے۔ حقیقت کے پہچانے اور اس کے اعتراض سے کھرانے میں بہت کوشش کی گئی ہے۔ اس کی خاتمت یوں ہے۔

آپ نے میری اس ٹھکایت کو تسلیم کر لیا کہ مجھے زیکٹ نمبرہ جس میں میرے نام کی چھپی درج ہے بھیجا گئیں گے۔ لیکن لگتے ہاتھ آپ نے اپنی طرف سے بھی ٹھکایت کر دی کہ میں نے ابھی آپ کو کھلی چٹھی نہیں بھیگی۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ کھلی چٹھی آپ کی خدمت میں بدست مسرتی محمد صادق نبیکی کی تھی۔ لیکن آپ اس وقت تشریف نہ رکھتے تھے۔ یہ باعث نمیک اسی طرح ہے جس طرح آپ اس ”جواب ہاصواب“ کے (من ۲) کے اخیر میں زیر عنوان نوٹ لکھتے ہیں کہ ”مولوی صاحب کی خدمت میں ہم نے بروقت اپنے زیکٹ کی دو کاپیاں بدست نظام حسن بنج وی تھیں۔ لیکن مولوی صاحب موصوف سا ہو وہ اس لئے لگے ہوئے تھے۔“

آپ نے اس ارسال کردہ زیکٹ کا نمبر نہیں لکھا کہ کون سا زیکٹ بھیجا تھا۔ میری ٹھکایت زیکٹ نمبرہ کی ہابت ہے۔ زیکٹ نمبرہ کے نہ ارسال کرنے کا آپ نے ان الفاظ میں تسلیم کر لیا ہے۔

خوب ہم حصہ جو اسے ہوا۔ (من ۱) تیر خلقت بر تی گئی ہے۔ (من ۱) لیکن اس میں بھی آپ نے حقیقت پر ہر دلائی کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ کہ اس کے متعلق لکھتے ہیں۔ ”بفرض محال اگر جتنا بدل والا جس دلائی ہے کہ آپ نے وہ زیکٹ بھیجی نمبرہ جس میں میرے نام کی چٹھی درج ہے۔“ لیکن نہیں بھیجا۔ خواہ خلقت سے خواہ مدد ا تو بفرض محال کہنے کا کہا موقع ہے اور اگر تحریکی کا مکمل نتیجہ ہے۔“

صف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں نمبر ۷۔ جناب مرزا می  
آجہانی کو صحیح قرآن نہ جانے کی زد سے بچانے کے لئے آپ نے دو راستیں ذکر کی ہیں۔  
پہلی یہ کہ الحضرت ﷺ نے ایک شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے سناتے فرمایا کہ اللہ اس  
شخص پر حکم کرے کہ فلاں فلاں سورت کی فلاں فلاں آیت جو میں بھول گیا تھا مجھے یاد دلا دی۔

## جواب

اس کا جواب تفصیل سے سننے کا آپ نے دو علائق اور غیر متعارض امر وں کو ہم جس  
باتے ہیں۔ سخت غلطی کھائی یا لوگوں کو غلطی میں ڈالنا چاہا۔ کیونکہ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ  
مرزا قادیانی کی تحریرات میں جو تبلیغ صورت میں ہیں۔ کفرت سے الکی عربی عبارتیں پائی جاتی  
ہیں۔ جن کو آیات قرآنیہ ظاہر کیا گیا ہے اور وہ ان الفاظ اور اس ترتیب سے جو مرزا قادیانی نے  
لکھی، قرآن شریف میں نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں آپ کا یہ کہنا کہ کسی وقت میں  
آنحضرت ﷺ کے خیال سے بھی ایک آیت اتر گئی تھی اور وہ کسی صحابی کے پڑھنے سے  
آپ ﷺ کو یاد آئی درست نہیں۔ کیونکہ اذل تو خیال سے کسی بات کا اتر جانا امر دیگر ہے اور اپنی  
یاد سے غلط طور پر اسے بیان کرنا امر دیگر ہے۔ مرزا قادیانی کا آیات کو غلط طور پر لکھنا  
آنحضرت ﷺ کے کسی واقعہ کی نظر اس صورت میں بن سکتا ہے کہ معاذ اللہ آنحضرت ﷺ بھی  
کسی آیت کو مرزا قادیانی کی طرح غلط طور پر تبلیغ کریں۔ جب آپ اسے کبھی بھی ثابت نہیں کر  
سکتے اور روایت پیش کردہ میں یہ صورت نہیں ہے تو پھر اسے پیش کرنا اپنی غلط فہمی یاد و سروں کو مخالف  
دینا نہیں تو اور کیا ہے؟۔

آنحضرت ﷺ کے اس واقعہ کا درست بیان یوں ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ  
ایک رات آنحضرت ﷺ گھر میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور ایک صحابی (عبد بن بشر نام)  
مسجد میں نماز تہجد اونچی قرأت سے پڑھ رہا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے اس کی قرأت سن کر مجھ سے  
پوچھا کہ کیا یہ آواز عباد کی ہے۔ میں نے کہا ہاں! یا حضرت! آپ نے فرمایا خدا عباد پر حکم کرے۔  
اس کے پڑھنے سے خدا نے مجھے ایک آیت یاد کرادی۔ جو میرے ذہن سے اتر گئی تھی۔

اس میں یہ مذکور نہیں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس آیت کو غلط طور پر پڑھا تھا اور عبادؐ کے پڑھنے سے آپؐ نے اس کی محنت کی۔

اس کی حقیقت یہ ہے کہ پڑھنے والا پڑھتا جاتا ہے اور سننے والا اسے سنتا ہے۔ جس طرح پڑھنے والے کے تمام دماغی قومی پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں۔ اس طرح سننے والے کے نہیں ہوتے۔ خاص کر جب وہ اپنے شغل میں مصروف ہو اور وہ شغل بھی خاص نماز کا ہو تو وہ اپنے دل و دماغ کو دوسرا طرف متوجہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایسی حالت میں بھی اگر کوئی اونچی آواز اس کے کان میں پڑ جائے تو بوجہ فطری قوت ساعت اور وقت فہم کے آوازنی اور سمجھی جاسکتی ہے اور یہ بات بھی یاد رہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سننے والے کا خیال پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ نہیں چلا۔ بلکہ بیچھے رہ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں کوئی بات اس کے ذہن سے اتر سکتی ہے۔ جو اسے پڑھنے والے کے پڑھنے سے یاد آ جاتی ہے۔ بس یہی حقیقت ہے۔ آنحضرت ﷺ کے اس واقعہ کی کہ آپؐ نماز کی حالت میں مشغول تھے۔ اپنی قرأت یا تسبیحات میں مصروف تھے۔ اس وقت آپؐ ﷺ نے مسجد سے ایک شخص کے قرآن پڑھنے کی آوازنی نماز کی مشغولی کی وجہ سے آپؐ اور ہر توجہ نہیں دے سکتے تھے اور وہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے حال میں اگر عبادؐ نے کوئی آیت پڑھ گئی۔ جس میں اس وقت آپؐ کا خیال عبادؐ کی قرأت کے ساتھ نہ جل سکا۔ تو یہ میرزا قادریانی کی غلط آیات لکھنے کی نظیر نہیں بن سکتی۔

”وانى هذا من ذاك . فافهم ولا تكن من القاصرين ” دیگر یہ کہ آنحضرت ﷺ کو کسی آیت کا کسی خاص وقت میں نیایا ہو جانا امر تبلیغ میں نیایا نہیں ہے۔ کیونکہ انہیاء علیہ السلام کو تبلیغ دین میں سہو نیایا نہیں ہوتا۔ چنانچہ شیخ کمال الدین این حامم کتاب المسارہ میں فرماتے ہیں۔

”واما فيما طریقہ الابلاغ فهم معصومون فيه من السهو والغلط“  
(طبعہ مصر ص ۲۰۰)

اُسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ مُنهاج النہد میں فرماتے ہیں کہ فانہم متفقون علی اَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ فِي تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ (ج ۲۰ ص ۸۳)  
اُسی طرح شیخ بخاری کی ہرسہ شروح (فتح الباری، عمدة القاری اور ارشاد الساری) میں بھی اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے۔

لیکن مرزا قادیانی کی حالت اس کے برخلاف ہے۔ کیونکہ انہوں نے مخلط آیات تبلیغی سلسلے میں لکھی ہیں۔ چنانچہ بعض تو ایسی کتابوں میں ہیں۔ جن کا نام ہی تبلیغ رسالت ہے اور بعض کا نام حقیقت الوجی ہے اور بعض کا نام البلاغ ہے۔ اور بعض کا نام برائین احمد یہ ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ آنحضرت ﷺ کا نیان اور جنس سے ہے اور مرزا قادیانی کی غلطی اور جنس ہے۔ ”فافترقا فلا یقادس احدها علی الاخر“ اور دوسرا روایت حضرت ابی والی جو آپ نے پیش کی ہے اس میں تو آپ نے غضب ڈھادیا ہے۔ آپ لوگوں کی عام عادت ہے کہ مرزا قادیانی کو بچانے کے لئے منہ پھاڑ کر آنحضرت کی ذات اقدس پر وہی بات لے آتے ہیں۔ جس سے ایک مومن کے رو ٹکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

ای طرح مورخ ۲۳ جون ۱۹۳۳ء کو جو چار مناظرے میدان قلعہ سیالکوٹ میں ہوئے تھے۔ ۲۳ جون کے مناظرے فتح نبوت میں میرے اس اعتراض کے جواب میں کہ مرزا قادیانی قرآن شریف اور احادیث کے الفاظ میں بھی زیادتی کر لیتے تھے اور اس کی مثال میں مرزا قادیانی کی تصنیفات حقیقت الوجی اور آئینہ کمالات اور فریاد درد میں سے وہی مخلط آیتیں پیش کی تھیں۔ جو کھلی چھپی نمبرا میں درج کی گئی ہیں۔ جن کے جواب میں آپ کے مولوی محمد سلیم قادیانی نے یہ کہا کہ اگر مرزا قادیانی نے یہ آیتیں اسی طرح لکھی ہیں۔ تو آنحضرت ﷺ نے بھی فرمایا ہے کہ ہر نبی نے دجال کی خبر دی ہے۔ یہ بات ہر نبی کی کتاب میں کہاں ہے؟۔ اور نیز قرآن شریف نے کہا ہے کہ سعی علیہ السلام نے بشارت سنائی کہ میرے بعد احمد رسول ہے گا تو انجلیں سے دکھایا جائے کہ احمد کہاں لکھا ہے۔

ای طرح آپ نے بھی یہی لکھا کہ آنحضرت ﷺ نے بھی ایسی آیات پڑھیں۔ جو قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ یہ باہماری افتراء اور بہتان ہے۔ جو آپ نے آنحضرت ﷺ کی ذات اقدس پر لکھا یا۔

اب اس کا تحقیقی جواب منے کہ قرآن شریف کی قرآنیت کا مد اور احادیث کے بیان پر نہیں ہے۔ کیونکہ احادیث میں سوائے چند محدود آیتوں کے دیگر آیات کا ذکر نہیں آتا تو کیا اس کا

---

ا جب ان انجیل سے یہ حوالے دکھائے گئے تھے تو آپ سب کے منہ پر مہر لگ گئی تھی۔

یہ نتیجہ لکھنا چاہئے کہ جتنی آیات احادیث میں مذکور ہیں۔ قرآن شریف اتنا ہی ہے۔ اگر یہ نتیجہ درست ہے۔ تو ان چند آیات کے سوا جو دیگر ہزاروں آیات ہیں۔ ان کو آیت کہاں سے اور کسی دلیل سے قرآن قرار دیں گے؟۔ مثلاً حدیث میں آیا کہ آنحضرت ﷺ بعض وقت جمع کے خطبے میں اور عیدین اور فجر کی نماز میں سورہ ق والقرآن المجید بھی پڑھا کرتے تھے اور اسی طرح عیدین کی نماز میں بعض وقت سورہ ق، سورہ قمر اور بعض وقت سورہ سبع اسم ربک الاعلیٰ اور هل اُنک حدیث الغاشیة بھی پڑھا کرتے تھے اور جمع کے روز فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں الہ سجدہ اور دوسری میں سورہ دھر پڑھا کرتے تھے اور اسی طرح دیگر نمازوں میں دیگر سورتوں کا بھی ذکر ہے تو کیا آپ ان سورتوں کی آیات احادیث سے ثابت کر سکتے ہیں؟۔ اگر نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکیں گے تو پھر ان سورتوں کی آیات کہاں سے حاصل کریں گے؟۔ جہاں سے حاصل کر سکنے کی بابت آپ کہیں گے۔ وہاں سے سورہ بینہ میں وہ الفاظ جن کو آپ آیات قرار دیتے ہیں۔ وکھادیں تو ہم تسلیم کر جائیں گے کہ واقعی آنحضرت ﷺ نے ان الفاظ کو قرآن شریف کی آیات قرار دے کر پڑھا تھا۔

آپ میرے قدیمی دوست ہیں اور حافظ قرآن نہیں ہیں۔ اس لئے میں آپ کو اس مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ قرآن شریف کی قرآنیت کا ثبوت کس بات پر ہے۔ لہذا اس مشکل کو آپ کی پاس خاطر سے میں خود ہی حل کر دیتا ہوں۔ اس کے لئے سب سے پہلے قرآن شریف کی تعریف نظر میں رکھیں جو یہ ہے۔

”القرآن كتاب الله المنزَل على محمد ﷺ المكتوب في الصحف المحفوظ في الصدور المقر و على الالسنة المنقول عنه نقلًا متواترًا لا شبهة فيه“ اس تعریف میں جس قدر قیود ہیں وہ سب قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں۔ مگر ہم اس وقت صرف قید تو اتر و بلاشبہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے مقصود کو زیادہ تر تعلق اسی سے ہے۔

سواس کا بیان اس طرح ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بحکم آیت ”يَا يَهُا الرَّسُولُ بَلَغَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ رَبِّكَ“ (مائده: ۶۷) اور ”بِمَوجَبِ آيَتٍ وَ يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ وَ الْحِكْمَةُ“

بزرارہا صحابہؓ کو قرآن شریف کی تبلیغ میں پڑھ کر سنایا اور سبقتاً پڑھایا لکھایا اور احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ نزول قرآن کے وقت اپنے بعض کتابین قرآن کو جو مقرر تھے بلوکرا آیات متر لکھوادیا کرتے تھے اور ان کا موقع محل بھی بتادیا کرتے تھے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۳۶۷، باب کاتب النبی و سسن ابی ذائود) علاوه بریں یہ کہ آپ نے بزرارہا صحابہؓ کو پڑھ کر سنایا اور لکھایا۔ اس کے علاوہ خود روزانہ منزل کے طور پر تادوت بھی کرتے تھے۔ نمازوں میں بھی پڑھتے تھے۔ خطبوں میں بھی قرآن پڑھ کر وعظ فرماتے تھے۔ سونے کے وقت بسترے پر کئی ایک بڑی بڑی لمبی سورتیں پڑھ کر سوتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے صد بھی صحابہؓ کو قرآن حفظ کرایا۔ جن کی صحیح تعداد صرف خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ چاہ مونہ پر جن حفاظ قرآن کو مشرکین نے قتل کر دا لاتھا۔ (بخاری ج ۲ ص ۵۸۶)

فتح الباری اور عمدة القاری میں ان کے علاوہ انھیں حفاظ صحابہ کے اسماء ذکر کئے ہیں اور عمدة القاری میں اس کے بعد کہا ہے کہ ”وقد ظهر من هذا ان الذين جمعوا القرآن على عهده ﷺ لا يحصلهم احد ولا يضيّع لهم عدد“ کہ اس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ جن لوگوں کو آنحضرت ﷺ کے عهد میں قرآن مجید حفظ تھا۔ ان کو کوئی گن نہیں سکتا اور نہ کوئی خاص عدد ان کو ضبط کر سکتا ہے۔

آنحضرت ﷺ کے بعد صحابہؓ نے بھی قرآن شریف کو محفوظ رکھنے کے وسائل وی جاری رکھے۔ جن کی بنیاد پر رسول اللہ ﷺ قائم کر گئے تھے۔ یعنی خود حفظ کرنے کے بعد اپنی اوپر کو حفظ کروایا اور ان نوشتتوں سے جو آنحضرت ﷺ اپنے مبارک عهد میں لکھوا گئے تھے۔ نقل کروا کر چار دنگ عالم میں پھیلادیا اور ان کے بعد تابعین نے بھی اس سنت کو قائم رکھا اور انے بعد عهد بعهد الٰی یوم منا هذا مسلمانوں کا بھی دستور چلا آیا ہے۔

اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ قرآن شریف نبی ﷺ سے تواتر نقل ثابت ہے۔ پس جن الفاظ میں تواتر نہ پایا جائے۔ وہ جزو قرآن نہیں ہیں۔

نور الانوار میں ملا احمد استاد حضرت اور نگریب عالمیؒ نے تواتر ابی اشہب کی شرح میں فرمایا کہ ”واحترذ بقوله متواترًا عما نقل بطريق الأحاديث القراءة ابی فی قضاۓ رمضان فعدة من ایام اخر متنتابعات و عما نقل بطريق الشهادة القراءة ابن

مسعود فی حد السرقة فاقطعوا ایمانها وفی کفارۃ الیمین فحسیام ثلاثة ایام متتابعات وقوله بلاشبہ تاکید علی مذهب الجمهور لان کل ما یکون متواترا یکون بلاشبہ وعند الخصاف هوا جتر از عن المشهور لان المشهور عنده قسم من المتواتر لکن مع شبهہ وهذا کله علی تقدیر ان یکون اللام فی المصاحف للجنس واما اذا كان للعهد فتخرج القراء الغیر المتواترة کلها بقوله فی المصاحف ویکون قوله المنقول عنه الی اخره بیانا للواقع (ص ۹۰) پس اگر آپ حضرت ابی دالی روایت سے یہ صحیح ہے کہ (معاذ اللہ) آنحضرت ﷺ نے یہ عبارت ای یعنی "ان الدین عند الله الحنفية المسلمۃ ولا اليهودیة ولا النصرانية ..... الخ" باوجود قرآن شریف میں نازل ہونے کے قرآن کی آیت قرار دے کر پڑھی تھی تو آپ آنحضرت ﷺ کی زبان پاک سے ثابت کردیں کہ آپ نے اسے قرآن شریف کی آیت قرار دیا تھا۔ صاحب من! یہ آنحضرت ﷺ پر سراسر بہتان وافتراء ہے۔ نہ آنحضرت ﷺ نے اسے قرآن کا جزو قرار دیا۔ نہ حسب تفصیل بالا کا تبیین کو قرآنی مثل میں تحریر میں لانے کا حکم کیا۔ نہ صحابہؓ کو سکھائی اور نہ حضرت ابو بکرؓ کے عبد میں ان پاک فرشتوں کے نقل کرنے میں جو آنحضرت ﷺ خود کھوائے تھے۔ یہ عبارت پائی گئی اور نہ کسی دیگر حافظ صحابی نے ہزارہا حفاظت میں سے سوائے حضرت ابی عاصی کے اسے روایت کیا تو اس کا تو اتر کیاں ثابت ہوا؟۔ کیا صرف ایک شخص کے لفظ قر، سے آپ ان الفاظ کی قرآنیت ثابت کیجھتے ہیں؟۔ اگر ایسا کیجھتے ہیں تو ملا احمد رحومؑ کی عبارت مذکور انفوہ کا پھر مطابعہ کریں۔

اصل بات یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ بعض وقت تفسیری نوٹ بھی فرماتے تھے۔ کیونکہ جس طرح تبلیغ الفاظ قرآن آپ کا ذمہ ہے۔ اس طرح بیان مقاصد قرآن بھی آپ بھی کا ذمہ ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ: "وانزلنا اليك الذکر لتبيين للناس مانزل اليهم (نحل: ۴۴)" اور جیسے کہ حدیث خطبہ جمعہ میں آیا ہے کہ: "يقرء القرآن ويذكر الناس (مسلم ج ۱ ص ۲۸۳، کتاب الجمعة)" یعنی آپ خطبہ جمعہ میں قرآن شریف بھی پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو وعظ بھی کرتے تھے۔ پس اس طرح سورت بینہ کی قرأت کے وقت آپ نے مخلصین لہ

الدين حنفاء اُتغیر میں یہ بھی فردیا کہ خدا کا دین وہ ہے جو تنی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے قائم شدہ ہے اور اس میں سب غیر اللہ سے بیزاری ہے۔ یہو یہت اور نصرانیت بصورت موجودہ خدا کا دین نہیں ہے۔

پونکہ الفاظ قرآن اور بیان مقاصد قرآن ہردو ایک ہی زبان پاک سے صادر ہوتے تھے اور ایک ہی زبان عربی میں ہوتے تھے۔ اس لئے اگر کسی سامع کو الفاظ قرآن اور آپ کے تفسیری بیان میں بوجہ مشاہدت مضمون والفاظ اشتباه پڑ جائے تو یہ اس کی اپنی صحیح ہے۔ آنحضرت ﷺ کی ذات القدس اس سے بری ہے۔ اس کی مثالیں کتب حدیث میں بہت ہیں اور بعض صحابہ سے بعض الفاظ ایسے منقول ہیں۔ جن سے وہم پڑ سکتا ہے کہ وہ قرآن کا جزو کجھے جاتے تھے۔ ان کی حقیقت بس یہی ہے کہ وہ احادیث کی عبارتیں ہیں۔ جو آنحضرت ﷺ نے کسی آیت قرآنی کی تفسیر فرمائیں اور کسی نے ان کو اس اشتباه سے جو اور پر مذکور ہوا۔ ان الفاظ کو آیت قرآنی سمجھ لیا۔ پڑنا نچہ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۵۲) میں حدیث لوكان لابن ادم اے کے آخر میں ہے کہ حضرت انس رَبِّکَتْہُ میں کہ: ”کنانری هذا من القرآن حتى نزلت الهم التكاثر (بخاری ج ۲ ص ۹۵۳، کتاب الرقاق)“ ہم اسے قرآن میں سے مگان کرتے تھے۔ حتیٰ کہ سورت الہم التكاثر۔

اس مقام پر حضرت انسؓ نے بتا دیا کہ پہلے تما اگمان ایسا تھا۔ لیکن چیچھے نہ رہا۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ: ”فَلَمَا نَزَّلَتْ هَذِهِ السُّورَةِ وَتَفَعَّلَتْ مِعْنَى ذَلِكَ مَعَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ عَلِمُوا أَنَّ الْحَدِيثَ مِنْ كَلَامِ رَبِّكُمْ وَالَّذِي لَيْسَ قَرَأَنَا (مطبوعہ مصراج ۹ ص ۲۴۰)“ جب یہ سورت اتری اور اس میں یہی مضمون مع کچھ زیادتی کے آگیا۔ تو صحابہ نے جان لیا کہ یہ آنحضرت ﷺ کے کام سے ایک حدیث ہے اور قرآن نہیں ہے۔

فتنہ الباری میں بھی اسی طرح ہے اور اسی کو اولیٰ کہا ہے۔ فتنہ و تدریب، آنحضرت ﷺ کے علاوہ صحابہؓ نسبت بھی ایسی بہت سے روایتیں ہیں کہ انہوں نے بعض الفاظ قرآن کی تشریع و توضیح میں کوئی دوسرا لفظ کہا تو وہ بھی ایک قرأت سمجھی گئی۔ یا کسی مسئلہ فقہی والی آیت کو نظر پر دیگر دلائل کسی قید سے مقید کیا۔ تو اسے بھی ایک قرأت سمجھا گیا اور یہ باقی صرف فقہاء صحابہؓ کی

---

۱۔ حضرت ابی زیر جواب میں بھی ان الفاظ کا ذکر ہے۔

روایات میں پائی جاتی ہیں۔ مذکورہ حضرت بن مسعود اور ابن ام مونین حضرت عائشہؓ چنانچہ مسلم بن حمارت مذکورہ حق میں جن الفاظ و فرائص سمجھا گیا ہے۔ ان کی حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے بخشن تفسیر اور حل مسئلہ متعلقہ وہ الفاظ ذکر کئے ہیں۔ یہی حقیقت حضرت عائشہؓ کی شخصی رسمات والی روایت ہے اور نہیں۔

اس ساری تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ ہمارے قدیمی دوست مولوی غلام رسول قادریانی نے جانب مرزا قادریانی کے ذیلیں میں جو روایات ذکر کی ہیں۔ وہ ان کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے اور نہ اس بات کو سمجھ سکے ہیں کہ مرزا قادریانی والی غلط آیات کو ان روایات سے کوئی بھی تعلق نہیں دعویٰ اور دلیل میں مطابقت جانتا علم منطق سے ہوتا ہے اور ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے قدیمی دوست مولوی غلام رسول علم منطق سے مرزا قادریانی کی طرح مطلق کو رے ہیں۔ لیکن مرزا قادریانی باوجود خود منطق نہ جاننے کے تھوڑی سی منطق دانی کو ضروری جانتے تھے۔

ان روایات کے علاوہ آپ نے دوسرے مرزا قادریانی کی غلط آیات کی بابت یہ کیا ہے کہ کاتب کی غلط نویسی ہے۔ صاحب من! اس کی نسبت تو میں نے پہلے ہی صاف صاف لکھ دیا تھا کہ ان انглаط میں کاتب نے غلطی کا عذر صحیح نہیں ہو گا۔ کیونکہ اول تو بعض آیات مرزا قادریانی نے متعدد جگہ اسی طرح لکھی ہیں۔ کاتب ہر جگہ پر عین وہی غلط الفاظ نہیں لکھا کرتا۔ دیگر اس لئے کہ مرزا قادریانی نے جو ترجمہ خود لکھا ہے وہ عربی عبارت محروم کے مطابق ہے۔ کیا اسے بھی کاتب نے بدلتا۔ اس کا جواب آپ نے کیا دیا؟۔ صرف یہ کہ جن عذروں کا جو آپ کرنے والے تھے۔ میں نے خود ذکر کر کے ان کے جواب بھی لکھ دیئے تھے۔ آپ نے دوبارہ ان کو وہ رادیا اور آپ نے جو یہ عذر کیا ہے کہ مرزا قادریانی نے خود اپنی کتب میں فرمایا ہے کہ بوجہ عجلت نظر ثانی ان سے نہیں جی جا سکی اور پروف گور سے نہیں پڑھ گئے۔ اس کا جواب کی طرح پڑھے۔

اول یہ کہ مجیدہ ”نظر ثانی“ ان سے نہیں فی جا سکی“ کے سمجھنے سے میں قاصد ہوں کے لفظ ”سے“ کے بیان کیا معنی ہیں؟۔ دوم یہ کہ آپ نے اس عبارت کا حوالہ نہیں لکھا۔ اخیر میں صرف اتنا لکھ دیا ہے۔ (ملخص)

کیا ملخص مرزا قادریانی کی کتاب کا نام ہے؟۔ اگر ہے تو اس کا نمبر صفحہ لکھیں اور اگر نہیں ہے اور آپ نے خود اس نئی عبارت کا خلاصہ کیا ہے تو آپ کی عادت سے اتفق ہوتے ہوئے میں آپ کے ملخص کا اقتدار نہیں کر سکت۔ اصل کتاب کا نام درج کر کے نمبر صفحہ لکھیں۔

سوم یہ کہ ان اغلاط کا ہے مذ مرزا قادریانی نے کہے ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مرزا قادریانی کو لوگوں کی روکوک سے معلوم ہو چکا تھا کہ مجھے قرآن شریف کسی یاد نہیں ہے اور میری کتابوں میں بہت سی آیات غلط لکھی ہوئی پائی جاتی ہیں۔ کیونکہ مرزا قادریانی کی تعاویث قرآن مجید کی مراویت نہیں تھی۔ اس لئے انہوں نے جاہلوں کو پرچانے کے لئے پیش بندی کے طور پر لکھ دیا کہ بجهہ عجالت کے نظر ثانی نہیں کی جاسکی اور پروف غور سے نہیں پڑھے گئے۔ چہارم یہ کہ اس عذر سے بھی مرزا قادریانی کی خلاصی نہیں ہوتی۔ کیونکہ کاتب نے متعدد جگہ جو ایک ہی عبارت لکھی تو از خود نہیں لکھی۔ بلکہ اسی صورت میں لکھی کہ مصنف نے اس ان موقع پر اسی طرح لکھا تھا۔ کیونکہ کاتب متعدد جگہ ایک دوسری زبان کی عبارت از خود بنا کر نہیں لکھ سکتا۔ دیگر اس لئے کہ بعض غلط آیات اسی ہیں کہ وہ مرزا قادریانی کی مختلف کتابوں میں ایک ہی طرح پر پائی جاتی ہیں۔ حالانکہ ان کے کاتب اور سال طبع اور مطابع مختلف ہیں۔ تو اگر وہ سہو کاتب سے غلط لکھی گئیں تو کیا ان کتابوں نے باوجود اس کے کوہ ایک دوسرے سے الگ زمانے میں اور الگ مقام پر لکھتے رہے۔ کہیں ایک جا بینہ کر مشورہ کر لیا تھا کہ مرزا قادریانی کی تصانیف میں ہم از خود غلط آیات لکھ کر بدنامی ان کے سر جڑ دیں۔ مولوی صاحب! مرزا قادریانی تو صاحب غرض تھے۔ انہوں نے تو ایسا لکھ دیا لیکن آپ کو تو چاہیے کہ مرزا قادریانی کی بات کو دانش اور تحریک کی کسوٹی پر رکھ کر پڑھیں اور پھر وہ ان مبارک یا قلم مبارک سے نکالیں۔ اچھا میں فیصلہ کی ایک سہل تجویز پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اسے منظور فرمائیں گے۔ وہ یہ کہ کتابوں اور مصنفوں کی ایک مجلس قائم کریں اور ان کے سامنے اس امر کو رکھا جائے۔ میں اپنے دلائل بیان کروں گا کہ اس قسم کے اغلاط مصنف کی غلط نویسی سے ہوتے ہیں۔ آپ ان کا جواب دیں۔ پھر میں ان کا جواب الجواب دون گا اور فیصلہ مصنفوں کی کثرت رائے پر ہو گا۔ لیکن روز مرہ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔

آپ نے یہ بھی ارقام فرمایا ہے کہ مولوی صاحب نے یعنی اس عاجز محمد ابراہیم میر نے صرف سات غلطیوں پر اکتفاء کی ہے۔ جناب والا! مرزا قادریانی آنجمانی نے صرف سات غلط آیات نہیں لکھیں۔ بلکہ میرے پاس جوان ختاب ہے۔ وہ پچاس اور دس یعنی سانچھے غلط آیات پر مشتمل ہے۔ جو تھوڑی تعداد میں شائع ہوتی رہیں گی اور کیا جائیں کہ کسی اور مقام سے کوئی اور اسی آیت بھی معلوم ہو جائے جو غلط ہو۔

اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ مرزا قادریانی نے انہی آیات کو بعض دیگر تصانیف میں صحیح

طور پر لکھا ہے۔ اس میں بھی آپ نے خلق خدا کی آنکھوں میں خاک ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ دیگر ہو سکتی ہیں۔ اول یہ کہ مرزا قادیانی نے پہلی تصنیف میں غلط لکھیں۔ دوسری تصنیف کے وقت تک کسی نے مرزا قادیانی کو غلطی پر متنبہ کر دیا تو مرزا قادیانی نے تحریف یا غلط یادوں کے الزام کو دور کرنے کے لئے اس کی اصلاح کر کے اپنی غلط نویسی کو بیگناہ کے سر مرڑھ دیا۔ دوم یہ کہ بعض کتابیں جو مرزا قادیانی کے وقت میں حصیں ان میں تو مرزا قادیانی ہی کے بیاض کی نقل سے غلط آیات لکھی گئیں۔ لیکن جب مرزا قادیانی کی وفات کے بعد وہ کتاب دوبارہ یاسہ بارہ چھپی تو کسی صحیح نے ان کو صحیح کر دیا۔ تاکہ اگر مرزا قادیانی پر اعتراض کریں تو ان کو جدید الطبع کتابیں دکھا کر سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کیا جاسکے۔ جناب یہ بھیل آپ کے روزمرہ کے ہیں اور واقعہ کار لوگ اسے خوب جانتے ہیں۔ چنانچہ ہم انشاء اللہ کسی موقع پر ایسی آیات بھی لکھیں گے۔ جو مرزا قادیانی کے بیاض سے نقل کی ہوئی کتابوں میں تو غلط لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن ان کی صحیح کردی گئی ہے۔ کسی غیر کی اسی صحیح سے مرزا قادیانی پر جو قرآن صحیح نہ جانے کا الزام ہے دونہیں ہو سکتا۔

ہاں یہ تو بتائیے کہ ہماری کھلی چھپی میں نمبر اول پر جو غلط آیت آئینہ کمالات کے حوالہ سے نقل کی گئی ہے۔ اس کو کیوں چھوڑ گئے۔ جواب میں اسے کیوں ظاہر نہیں کیا اور اس کی نسبت بھی سہو کا تب کا عذر کیوں نہیں کیا۔ اب ہی بتا دیجئے کہ اس میں بھی سہو کا تب ہے۔ اس کا صحت نامہ تو اس کے ساتھ ہی چھپا ہوا ہے۔ اس میں تو اس آیت یعنی ”يَا يَهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِنْ تَقُوا اللَّهَ“ کو بھی شمار کیا ہوا ہے۔ اس میں تو آپ کو اچھا خاصہ کیا کرایا عذر مل سکتا تھا۔ اسے کیوں چھوڑ دیا۔ مولوی صاحب میں آپ کو اپنی قدیمی دوستی کے حق پر کہتا ہوں کہ ضمیر کی آواز کے خلاف بات نہیں کرنی چاہئے کہ آپ کو اندر سے آواز آ رہی ہے کہ اس غلط آیت میں اس کے باوجود صحبت نامہ میں درج ہونے کے اور مرزا قادیانی کی آنکھوں کے سامنے اس صحت نامہ کے تیار ہونے کے اور اصل کتاب کے ساتھ ہی شامل ہو کر کتاب کے شائع ہونے کے سہو کا تب کا عذر نہیں ہو سکتا۔ پس خدا سے ذریعے اور حق گوئی کی جرأت کر کے صاف الفاظ میں اعلان کر دیجئے کہ ہاں واقعی! یہ آیت مرزا قادیانی کو اسی طرح یاد چھپی اور آپ اسے قرآن مجید کی آیت جانتے رہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اس ترتیب سنتے جس سے مرزا قادیانی نے لکھی ہے موجود نہیں ہے۔ اور میری کھلی چھپی میں نہیں۔ اور آپ جواب ناصواب میں نمبر ۲ پر جو غلط آیت ”يَوْم

یاتی رب فی ظلل مِن الغمام۔ (بحوالہ حقیقت الوجی ص ۱۵۲) لکھی۔ اس کے جواب میں تو آپ نے کمال کر دکھا۔ جو یہ لکھا کہ مرزا قادیانی نے نہیں لکھا کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ (ص ۲) جناب اُسی عبارت کو قرآن مجید کی طرف نسبت کرنے کے لئے صرف یہی الفاظ اور جملی شدہ نہیں ہیں کہ کسی آیت کی تاو ات یا تحریر کے ساتھ لفظ قرآن مجید ہی لکھا جائے۔ بلکہ اُسی عبارت کو جزو قرآن قرار دینے کے لئے کئی الفاظ ہیں۔ جن میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یوں لکھا جائے کہ خدا فرماتے ہے کہ: یعنی جناب مرزا قادیانی نے بھی یہی لفظ لکھے ہیں۔

(دیکھو حقیقت الوجی ص ۱۵۲، ۸ اسٹر ۱۹۷۹)

(نوٹ اب قادیانیوں نے آیات کی خزانہ میں صحیح کر کے پہلے کے تمام قادیانی مناظرین کے تمام عندرات پر سیاہی مل دی کہ وہ سب جھوٹ بولتے رہے۔ نیز خزانہ میں آیات کی صحیح کی مگر ترجمہ کو نہیں بدلا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کو مرزا کی جہالت و تحریف قرآنی قادیانیوں کی موجودہ صحیح کے باوجود بھی موجود ہے کہ وہ محرف قرآن تھا۔ فقیر مرتب ۱۲ ارشوال ۱۴۲۷ھ)

اور میری کھلی چھپی کی ترتیب میں نمبر ۵ اور آپ کے جواب ناصواب کی ترتیب سے نمبر ۶ پر جو آیت بحوالہ حقیقت الوجی ص ۱۳۰ لکھی ہے۔ اس کے جواب میں آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس سے بھی آپ نے لوگوں کی نظر میں خاک ڈالنے کی کوشش بے کاری ہے۔ جناب والا! اگر کاتب نے غلطی سے عربی عبارت غلط لکھی تھی تو کیا اس عبارت کے مطابق اردو ترجمہ جو اس عبارت کا صحیح ترجمہ ہے۔ وہ بھی کاتب نے بنایا تھا۔ جناب! کچھ تو غور فرمایا کریں اور آپ کا یہ کہنا کہ ترجمہ میں جہنم کا لفظ ہے۔ یہ غذر بھی درست نہیں۔ کیونکہ اس جگہ نارتے جہنم ہی مراد ہو سکتی ہے۔ مرزا قادیانی نے نار کا ترجمہ جہنم لکھا ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ مرزا قادیانی کی یاد میں اس جگہ لفظ بھی جہنم کا تھا۔ کیونکہ عبارت یہ دخلہ ناراً خالداً فیها کا ترجمہ مرزا قادیانی نے یوں کیا ہے۔ خدا اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اگر مرزا قادیانی کے بیاض میں یوں لکھا ہوتا "فان ل نار جہنم جو صحیح ہے۔ تو اس کا ترجمہ مرزا قادیانی کے قلم سے یوں لکھا ہوا ہونا چاہئے تھا۔ پس واسطے اس کے یا اس کے لئے جہنم کی آگ ہے یا ہوگی۔ نہ کہ یہ داخل کرے گا۔ اسے جہنم میں صاف ظاہر ہے کہ یہ ترجمہ اسی بے جا آیت کا ہو سکتا ہے۔ نہ کہ صحیح آیت کا۔

باقی رہا آپ کا تصدیقہ عربیہ کے جواب کا مطالبہ۔ سو اس کی نسبت یہ گذارش ہے کہ اس کے لئے جلدی نہ مچائیے ہر امر اپنے وقت پر اور اپنی ترتیب پر مناسب ہوتا ہے۔ انشاء اللہ عنقریب

اس کی عرب و فارسی اور نحوی اغلاط شائع کر کے اور اس کے مقابلہ میں صحیح زبان میں اور مطابق بواحد قصیدہ پیش کر کے آپ کو خفہ اکر دیا جائے گا۔ لیکن آپ کا مقصد یہ ہے کہ خلط مبحث کر کے لوگوں کے اذہان اس طرف لگادیئے جائیں کہ میدانِ مشاعرہ میں کون بڑھ کر ہے۔ یہ عاجزِ محمد ابراء نیم یا مولوی غلام رسول قادریانی۔ کیونکہ اصل مبحث یہ ہے کہ مرزا قادریانی کثرت سے خلط آیات لکھتے تھے۔ یا تو بہ نیت تحریف، یا بجهہ صحیح یاد نہ ہونے کے سوا آپ کے علامہ تھانی ہونے سے مرزا قادریانی کی تحریف کردہ یا غلط تحریر کردہ آیات صحیح نہیں ہو جائیں گی۔

دیگر یہ کہ آپ نے اپنے ”جواب ناصواب“ کے صفحہ ۷ میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے تحریر کروایا ہے۔

”اب آسان طریق فیصلہ یہ ہے کہ آپ القصيدة العربية کا جواب تحریر کر کے دنیا کو بتا دیں کہ آپ حق پر ہیں۔“ اگر آپ کا یہ طریق فیصلہ درست ہے تو بتائیے۔ اگر اسی طرح حضرت لبید بن ربيعہ شاعر یا حضرت حسان شاعر ایک قصیدہ لکھ کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کر کے کہتے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو ہمارے مقابلہ میں قصیدہ لکھیں جو کچھ جواب آنحضرت ﷺ دیتے یا آپ خود آنحضرت ﷺ کی طرف سے درست تجویز کریں۔ وہی آپ اپنے قصیدہ کے جواب میں تصور فرمائیں۔

مولانا! (غلام رسول قادریانی) پنج بحثیے کہ مرزا قادریانی کے دعوے نبوت اور آپ لوگوں کی ایسی ایسی تحریرات سے مسلمانوں کو کامل یقین ہو چکا ہے کہ مرزا قادریانی کے دعوے اور آپ لوگوں کی غلط حمایت کا لازمی نتیجہ آنحضرت ﷺ کی نبوت ﷺ میں شکوک و شبہات کا پیدا کرنا ہے۔ کیونکہ آگر آپ کا یہ مطالبہ کہ میری سچائی آپ کے قصیدہ کا جواب لکھنے پر منحصر ہے۔ لوگوں کو یہ سبق سکھاتا ہے کہ شاعر انہ قابلیت ہی حقانیت کی دلیل ہے اور چونکہ آنحضرت ﷺ شاعر نہ تھے۔ اس لئے معاذ اللہ (خاک ان مونبوں میں جو اس طریق مقابلہ کو فیصلہ کن سمجھیں)

بس خوب بادرکھئے کہ قادریانی نبوت کی دھیان اڑانی اور اس کا تارو پودا لگ کر کے کھانا نہارا اصل مقصد ہے اور ہم اسے کبھی نہیں بھول سکتے اور نہ دوسروں کو بھولنے دیں گے۔ اس لئے خدا کے فضل سے ہم سب کچھ باقاعدہ کریں گے، بے قاعدہ نہیں چلیں گے۔

محمد ابراء نیم مریا الکوئی ... از مقام مرسر! ۱۰ اکتوبر ۱۹۳۸ء

لَا نَنْهَاكُنَا لَمَّا كُنَّا طِفَالًا  
وَلَا يَعْلَمُونَا إِذْ كُنَّا صِرْبَانًا

# تردید مغالطات

# مرزا سیہ نمبر ۲

مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیاکلوی

”الحمد لله ذي المجد والثنا والصلوة والسلام على رسوله  
محمد آخر الانبياء وعلى الله اهل الكساء وأصحابه الاصفقاء وعلى  
تابعיהם الاتقياء“

۱..... اما بعد! ان ایام میں مرزا قادیانی کے دعوائے مجددیت، مہدویت و مسیحیت اور نبوت کی تردید میں علمائے اسلام کم و بیش ایک ماہ سے متواتر تقریریں فرمائے ہیں۔ لیکن مرزا نیوں نے ان باتوں کے جواب سے اعتراض کر کے یہ دستور اختیار کر رکھا ہے کہ ان اعتراضوں کے جواب کی طرف مطلقاً رخ نہیں کرتے۔ بلکہ نہایت گہری چال سے ہر روز کوئی نہ کوئی اشتہار یا تریکٹ شائع کرتے رہتے ہیں۔ جن کے عنوان تو مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن مضمون قبیل ایک ہی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ان پر لازم ہے کہ ان اعتراضات اور اذیمات کا جواب دیں۔ جو علمائے اسلام مرزا قادیانی کے ان دعاویٰ پر وارد کرتے ہیں۔ کیونکہ مذکور الفوق دعاویٰ کے لئے سب سے پہلی شرط صحت اعتقاد صدق احوال اور کفر و بدعت اور کذب و خیانت سے برپی ہونا ہے۔ جب مرزا قادیانی قرآن و حدیث کی رو سے صحیح الاعتقاد اور صادق الاحوال نہیں ہیں۔ بلکہ ان کی ضد کفر و شرک اور کذب و خیانت سے موصوف ہیں۔ تو وہ اپنے دعاویٰ میں کیسے صادق نہ ہر سکتے ہیں۔

۲..... بعض لوگوں نے ہم کو توجہ دلائی کہ ان تقریریٰ و عظوں کے علاوہ مرزا نیوں کے ان اشتہارات کے تحریری جوابات بھی ہونے چاہئیں۔ تاکہ لوگ فرصت کے وقت مقابلہ مرزا نیوں کے ان اشتہاری مغالطوں کا صحیح جواب پا کر مرزا نیوں کی فریب کاری کو سمجھ سکیں۔ کل ۱۹ اگست ۱۹۵۲ء کو ایک دوست نے ہمیں امت مرزا نیے کے شائع کردہ دو اشتہار دیئے۔ ان میں سے ایک میں یہ مذکور ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر فرمایا تھا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو وہ صدیق نبی ہوتا اور دوسرا عنوان آخری مسجد ہے۔ جس میں یہ مذکور ہے کہ میں آخر الانبیاء ہوں اور میری مسجد آخر المساجد ہے۔ اس اشتہار میں یہ حاشیہ آرائی کی گئی ہے کہ کیا مسجد نبوی کے بعد نیا میں کوئی مسجد نہیں بنائی گئی؟۔

ان دونوں اشتہاروں کا جواب میں نے خطبہ جمعہ ۱۹ اگست ۱۹۵۲ء میں سامعین کو سنادیا کہ یہ ہر دو امر وہ ہیں۔ جو مرزا نیوں کی طرف سے جون ۱۹۳۳ء کے مباحثہ میں بمیدان قلعہ

سیالکوٹ مرزائی مولوی محمد سلیم نے بیان کئے تھے اور ان کے شانی اور منفصل جوابات اس عاجز (محمد ابراہیم میر سیالکوٹی) نے اس وقت رو در رو مسلمانوں کے پانچ سات ہزار کے مجمع میں ایسے دئے تھے کہ مولوی محمد سلیم کو جواب کی سخت نہ رہی تھی۔ سیالکوٹ کے وہ چاروں مناظرات جو دودن تک ہوتے رہے تھے۔ ان کی روایت ادا نہیں دیا میں حرف بحر بصورت رسالہ بنام کشف الحقائق شائع کردی گئی تھی۔ بیس سال کا عرصہ ہونے کو ہے۔ مگر آج تک امت مرزائی کی طرف سے اس رسالہ کا کوئی جواب شائع نہیں ہوا۔ حیرانی ہے کہ قادیانی لوگوں میں کتنی جرأت ہے۔ کیا ان کو یاد نہیں کہ یہ وہی شہر سیالکوٹ ہے۔ جہاں سے ان کو ان پاتوں کا مفصل اور بدیل جواب مل چکا ہے اور جواب دینے والا بھی خدا کے فضل سے تاحال زندہ وسلامت ہے۔ اس حقیقت کوں کر سائیں جمع بہت خوش ہوئے اور بعض احباب نے مجھے توجہ دلائی کہ ان ہر دواشہاروں کا جواب اسی کتاب کشف الحقائق میں سے نقل کر کے دوبارہ شائع کر دیا جائے تاکہ وہ احباب بھی جوانانقلاب حکومت کے سبب بیروفجات سے سیالکوٹ میں آ کر سکوںت پذیر ہو چکے ہیں۔ نیز وہ نوجوان جو اس وقت بچے تھے یا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے اور اب وہ جوان ہیں۔ اس مباحثہ کی کیفیت سے واقف ہو جائیں۔ مولوی محمد سلیم صاحب قادریانی نے مباحثہ جون ۱۹۳۳ء میں اجرائے نبوت کے جو دلائل برخلاف اصول مناظرہ بیان کئے تھے۔ ان میں پانچوں دلیل یہ تھی۔

پانچوں دلیل یہ ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کا فرزند ابراہیم فوت ہوا تو آپ نے فرمایا کہ: ”لوعاش (ابراہیم) لکان صدیقاً نبیا“ یعنی اگر میر ابیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو صدیق نہیں ہوتا۔ (ابن ماجہ ص ۱۰۸)

اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبوت جاری ہے۔ ورنہ آنحضرت ﷺ ایسا نہ فرماتے اور مولا ناصاحب سیالکوٹی نے جو فرمایا کہ خاتم کے معنی آخری ہیں۔ ہم کو مسلم ہیں۔ لیکن آخر بھی تو عربی لفظ ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے بعد کوئی نہ ہو۔ دیکھئے حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: ”فانی اخر الانبیاء، وان مسجدی اخر المساجد“ یعنی میں آخری نہیں ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے۔ (مسلم ص ۳۳۶)

پس جس طرح آنحضرت ﷺ کے بعد مسجدیں بنتی بنتیں ہو گئیں۔ اسی طرح آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت بھی بنتیں ہو گئی۔

(از تقریر مولوی محمد سلیم قادریانی مندرجہ کشف الحقائق ص ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، مطبوعہ شانی پرس امرتسر جون ۱۹۳۳ء)

اس کا جواب جو میں اس مجلس میں بالشافیہ دیا تھا۔ وہ کشف الحقائق ص ۱۲۵ سے ۱۲۸ تک یوں مرقوم ہے اور مولوی محمد سلیم قادریانی نے پانچوں دلیل میں جو حدیث ”لوعاش ابراہیم لکان صدیقاً نبیا“ پیش کی ہے۔ اس کے جواب میں یہ غرض ہے کہ این ماجہ کے

حاشیہ تی پر لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیونکہ اس میں ایک راوی (ابو شہبہ ابراہیم بن عثمان مجتبی ص ۱۰۸) متروک الحدیث ہے۔

نوٹ! صحیح الفاظ جو آنحضرت ﷺ کے فرزند کی وفات کے متعلق منقول ہیں یہ یہ ہیں۔

”لوقضی ان یکون بعد محمد ﷺ نبی عاش ابنه ولكن لا نبی بعده“ یعنی اگر خدا کی قضاء میں یہ بات ہوتی کہ محمد ﷺ کے بعد کوئی نبی ہو تو آپ کا بینا (ابراہیم) زندہ رہتا۔ لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔ یہ حدیث صحیح (بخاری ج ۲ ص ۹۱۳) میں بھی ہے اور (ابن ماجہ ص ۱۰۸) میں بھی اوپر کی حدیث سے پہلے مکتوب ہے۔ لیکن مولوی محمد سلیم صاحب کو یا تو نظر نہیں آئی یا انہوں نے جان بوجہ کر مسلمانوں کو دھوکا دینا چاہا اور صحیح روایت کو چھوڑ کر ضعیف کو بیان کرد ہے۔ نیز اسی کے ہم معنی الفاظ امام بغویؒ نے آیت خاتم النبیین سے ذیل میں حضرت ابن عباس سے نقل کئے ہیں۔ ”قال ابن عباس پرید لولد اختم به النبیین لجعلت له ابنا یکون بعدہ نبیا“ یہز“ ان اللہ تعالیٰ لما حکم ان لا نبی بعدہ لم یعطه ولد ذکرا یصیر رجلا (تفسیر معالم التنزیل ج ۲ ص ۱۷۸)“ یعنی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مراد اس آیت خاتم النبیین سے یہ ہے کہ اگر میں نے اس پر یعنی محمد ﷺ پر نبیوں کو قسم نہ کر دیا ہوتا تو میں اس کا بینا ایسا کرتا جو اس کے بعد نبی ہوتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا تو آپ کو ایسا کوئی بینا نہیں دیا جو بالغ ہوتا۔ (یہ رواہیں صاف بتا رہی ہیں کہ آنحضرت ﷺ پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔)

اور مولوی محمد سلیم نے خاتم کے معنی آخری مان کر بھی آخری سے مراد آخری نہیں لی۔

بلکہ اس کے لئے بھی المساجد والی حدیث پیش کی ہے۔ سواس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری ہے۔ جو کسی نبی نے بنائی ہے۔ اس کا مقابلہ یہ ہے کہ میرے بعد جو بھی مسجد بنے گی وہ کسی نبی کی بنائی ہوئی نہ ہوگی۔ یہ متنے میں نے اپنے پاس سے نہیں کئے۔ بلکہ وہ سری حدیث سے کئے ہیں۔ یہ دیکھئے (کنز العمال ج ۲ ص ۲۷۰ حدیث نمبر ۳۴۹۹ فضل الحرمین) ہے۔ ”انا خاتم الانبیاء ومسجدی خاتم مساجد الانبیاء“ یعنی میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد انہیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے۔ لیکن اب تو گھر پورا ہو یا۔ اسی حدیث سے درست نہ کھنٹنے سے آپ کو لمحن تھی۔ اب تو وہ بھی صاف ہوئی اب کیا عذر ہے۔

مرزا نیوں کے ٹریکٹ نمبر ۲ کا جواب

مرزا نیوں نے ایسے ٹریکٹ نمبر ۲ میں ابن ماجہؒ کی اس حدیث کے متعلق جس کا کر

مودی محمد سعید صاحب تا، یانی کی مذکور الفوق تقریر کے ضمن میں گذر چکا ہے۔ ایک نیا حوالہ تفسیر بیضاوی بخش شہاب خفاجی کی طرف سے یہ دیا ہے۔ لاماصحد الحدیث فلاشبہہ فیہا لانہ رواہ ابن ساجہ وغیرہ۔ سواس کا جواب یہ ہے کہ شہاب خفاجی محدث نہیں ہیں کہ کسی حدیث پر صحت یا شعنف کا حکم لگا سکیں۔ وہ صرف متعلم ہیں۔ جب آئندہ حدیث اس حدیث کے راوی ابراہیم بن عثمان بیسی کی نسبت یا تصریحات کرتے ہوں کہ وہ (راوی) متروک الحدیث، ضعیف، لیس بثقة، منکر الحدیث، ضعیف الحدیث، ترکوا حدیث، ساقط، ضعیف لا یکتب حدیث، روی مناکیر، لیس بالقوی، کذبہ شعبۃ، کان یزید علی کتابہ ہے۔ تو اس کے متعلق کسی غیر محدث کو کس طرح حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کی صحت کے متعلق حکم دے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے (کتاب تہذیب التہذیب جلد اول مصنف حافظ ابن حجر زادہ ابراہیم بن عثمان) وہم یہ کہ شہاب خفاجی کا اس حدیث کو اس بناء پر صحیح کہنا کہ وہ سفن ابن ماجہ میں ہے۔ ان کے علم حدیث میں ضعیف النظر ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ امام ابن ماجہ نے اپنی اس کتاب میں امام بن حارثی و امام محمد بن حنفیہ نے اس کتاب کو صحیحین کا درجہ دیا کہ محضر اس میں درج ہونے کی وجہ سے اس کو صحیح مان لیا جائے۔ بلکہ آئندہ حدیث نے تصریح کی ہے کہ ابن ماجہ میں بہت سی ضعیف اور منکر اور بعض موضوع احادیث بھی ہیں۔ اسی بناء پر بعض محمد بن حنفیہ نے ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شمار نہیں کیا اور جس نے کیا ہے۔ تعلمیاً کیا ہے۔ و دیکھئے (مقدمہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مشمول مکملۃ شریف ص ۸۹) دیکھئے کتاب (اتحاف النبیا مقصد اول ص ۸۹) بلکہ ابن ماجہ مطبوعہ مطبع فاروقی دہلی کے حواشی پر اس حدیث کو صاف الفاظ میں ضعیف اور اس کے راوی ابراہیم بن عثمان کو متروک لکھا ہے۔ بلکہ نفس متن میں بھی بین السطور اس راوی کے نام کے نیچے لفظ متروک لکھا ہے۔

۳ ..... شہاب خفاجی کا کہنا کہ اس کو ابن ماجہ کے علاوہ اور لوں نے بھی روایت کیا ہے۔ سواس کا جواب یہ ہے کہ اول تو شہاب خفاجی نے کسی امام کا نام نہیں لکھا۔ دیگر یہ کہ ابن ماجہ کے سوا جس کسی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ آیا اس نے اس راوی ابراہیم بن عثمان کے سوا کسی دیگر شق راوی سے روایت کیا یا اسی ابراہیم بن عثمان کی روایت سے۔ اس کی تخریج کا حوالہ تا، یانی لوں کے ذمہ ہے۔ جب تک اس حدیث کو با اسناد پیش نہ کیا جائے۔ وہ معرض استدلال میں پیش نہیں ہو سکتی۔ (کمال تقریبی اصول الحدیث)

فوتوحات مکیہ وغیرہ کی جو عبارتیں آپ اپنے اشتہاروں میں بار بار نئے نئے رنگ میں شائع کرتے رہتے ہیں تو ان کا جواب گذشتہ دنوں میں ماہ اگست میں جلسہ واقعہ امام باڑہ میں دیا جا چکا ہے اور انہی حوالوں کی تحقیقات کے لئے ہم نے آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ علماء کی مجلس میں آپ ان کتابوں کو پیش کریں۔ تا کہ پبلک پر واضح ہو جائے کہ آن حوالہ جات کے مصنفین کے

عقلائد آپ کے موافق یا مخالف ہیں؟۔

### پمپلٹ دعوت مناظرہ کا جواب الجواب

مگر آپ نے اپنے مطبوعہ اشتہار میں جو میرے مطالبہ کے جواب میں شائع کیا ہے۔ میرے مطالبہ کو اس غدر سے نالنا چاہا ہے کہ میں حکام ضلع سیالکوٹ سے مباحثہ کی تحریری اجازت حاصل کروں۔ جواباً معروض ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ جب سے تحریک مرزا نیت سیالکوٹ میں شروع ہوئی ہے۔ اس وقت سے لے کر جون ۱۹۳۳ء تک مناظروں کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس امر کی ضرورت کبھی نہ پڑی نہ مطالبہ کیا گیا۔ علاوه بریں آج کل بھی حکومت کی طرف سے مناظروں اور جلوسوں پر کوئی پابندی نہیں اور نہ کسی لا یکمنس یا اجازت نامہ کی ضرورت ہے۔

آپ نے اپنے اشتہار میں حاضرین مجلس مناظرہ کی تعداد بہترین کی طرف سے پھیس پھیس تحریر کی ہے۔ سو جواباً معروض ہے کہ اشتہار تو آپ تقیم کریں۔ لاکھوں آدمیوں کے درمیان اور ان کا جواب سنایا جائے صرف پھیس کو۔ ایں چہ؟۔

مباحثہ تحریری ہو یا تقریری مجمع عام میں ہوتا چاہئے۔ جیسا کہ پہلے ہوتا رہا ہے۔ باقی ربا میری حیثیت کا سوال تو وہ آج بھی وہی ہے۔ جو آج سے سانحہ سال پہلے تھی۔ جب مرزا قادیانی سیاحت کا نیا نیا دعویٰ کر کے سیالکوٹ میں وارد ہوئے تھے اور ان سے بال مشافہ مسجد میر حسام الدین صاحب میں گفتگو ہوئی تھی اور اس کے علاوہ سیالکوٹ اور بیرنجات میں بیشوں مناظروں میں رہی ہے۔ اپنے مطبوعہ پمپلٹ کی شرط نمبرا میں جو آپ نے بذریعہ اشتہار جواب مانگا ہے۔ سو یہ رودر و مناظرہ کو تالئے کا ایک حیلہ ہے۔ جب آپ کتب محولہ مجلس میں پیش کریں گے تو آپ ہی سے ان عبارتوں کو پڑھو اکر بتا دیا جائے گا کہ وہ عبارتیں آپ کے خلاف ہیں۔ نیز آپ کو یاد رہے کہ جیسا کہ سیالکوٹ میں مرزا قادیانی سے رودر و گفتگو کرنے والا سب سے پہلے یہی عاجز ہے۔ اسی طرح جس کے آخری خطاب پر لا ہور میں مرزا قادیانی کا خاتمہ ہو گیا۔ یہی عاجز ہے۔ جس کی مختصر تفصیل یوں ہے کہ میں نے ۲۵ مئی ۱۹۰۸ء کو لا ہور میں مرزا قادیانی کو دعوت مناظرہ کا خط لکھا اور مرزا قادیانی نے وہ خط جواب کے لئے مولوی فورالدین صاحب اور مولوی محمد احسن امروہی کے پرداز کیا۔ لیکن خدا کی قدرت ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کی صبح ہوتے ہی مرزا قادیانی اس جہان سے چل گئے۔ اس واقعہ کی روئیداد بنام فیصلہ ربانی بر مرگ قادیانی انہی دنوں میں پنجابی نظم میں لکھی گئی تھی۔ جو دو فتح چھپ بھی ہے۔ اس میں سے یہ اقتباس ملاحظہ ہو۔

(نوت! ”فیصلہ ربانی بر مرگ قادیانی“، مکمل احتساب کی اسی جلد میں موجود ہے۔ اس لئے اس طویل اقتباس کی عدم ضرورت کے باعث حذف کر دیا ہے۔ فقیر مرتب)

اللهم تبصّر لاني بغيرك

# مسئلہ ختم نبوت

مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی

## حرف اول

حضرت مولانا الحاج حافظ محمد ابرائیم صاحب میر فاضل سیالکوئی نے قرآن کریم کی ایک تفسیر تبیہ الرحمن لکھنی شروع کی تھی۔ تیرہ سے پارہ میں آئی مبارکہ الہ ترا الی الذین اوتو نصیباً من الكتاب (نساء: ۴۴) کے تحت مسئلہ ختم نبوت بھی آگیا۔ جس پر آپ نے سیر حاصل بحث کی اور بطرز بدیع ایسے علمی نکات لکھ کر جنمے اسے الگ رسالہ کی صورت میں شائع کرنا از حد مفید سمجھا۔ چنانچہ وہی مضمون اس رسالہ کی شکل میں نذر ناظرین ہے۔ امید ہے کہ بہت پسند کیا جائے گا۔ (مبارکبندی دسویڈ، کیرم، مئی ۱۹۵۶ء)

## مسئلہ ختم نبوت

اوتو نصیباً من الكتاب (نساء: ۴۴) سے مراد یہود اور نصاریٰ ہیں۔ جن کے انہیاء علیم الاسلام کو قرآن شریف سے پیشتر قورات، زبور، انجیل دی گئی۔ ان کو ایک حصہ کتاب کاملاً اس لئے فرمایا کہ قورات اور انجیل خاص بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے نازل کی گئی تھیں۔ ان کی تعلیم عالمگیر اور بیشکار لئے تھی۔ اس لئے بنی اسرائیل میں سلسلہ نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قائم رہا۔ پس ان کی کتابوں کی تعلیم ایک محدود و قوم اور محدود زمانہ تک تھی۔ لیکن ان کے مقابلے میں قرآن شریف جامع کل اور تاقیام دنیا بیشکار ہے والا ہے اور اس کی شریعت کامل ہے۔ کیونکہ رسول کریم کی دعوت عالمگیر ہے اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد وہی نبوت و رسالت بند کردی گئی ہے۔ باں والا یت اور سلسلہ الہام بغیر اسم نبوت کے جاری ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ قال النبی ﷺ  
قد کان فی من قبلكم من بنی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء  
فان یک فی امتی منهم احد فعمربن الخطاب (بخاری ج ۱ ص ۵۲۱ باب مناقب عمر)  
یعنی بنی نے فرمایا کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے آدمی ہوتے تھے جن سے (اللہ کی طرف سے)  
کلام کیا جاتا تھا۔ بغیر اس کے کہ وہ نبی ہوں۔ پس میری امت میں سے اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو عمر  
(اولی) ہے۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عمر بن جوہنؓ و محدث ہونے کے نبی نہیں کہا  
سکتے۔ یہ کلیہ کہ ہر محدث ملہم بناء بر الہام نبی کہلا سکتا ہے۔ جس پر مرزانت قادریانی کے دعوے کی تباہ  
کہ ”چونکہ مجھ سے خدا تعالیٰ کثرت سے کلام کرتا ہے۔ اس لئے مجھے نبی بھی ہبھا گیا ہے۔“ (حقیقت

الوچی ص ۳۹۱، خزانہ ج ۲۲ ص ۳۰۶) یہ کلیہ اور مرزا قادیانی کا دعویٰ منظوق حدیث مذکور الفرق کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ اگر حضرت الہام کی بناء پر کوئی شخص نبی کہلا سکتا ہے۔ تو حضرت عمرؓ سے پہلے اس اسم سے موسوم ہونے چاہئیں۔ اس حدیث کی رو سے ہم نے جو یہ لکھا ہے کہ ملہم کے لئے بناء بر الہام ضروری نہیں کہ وہ نبی ہو۔ اس پر مرزا قادیانی کی بھی تصدیق بالفاظ ذیل ملاحظہ فرمائیجئے۔

”اس عاجز کے رسالہ قبح الاسلام تو پُرِّح المرام ازالہ اوہام میں جس قدر ایسے الفاظ موجود ہیں کہ حدیث ایک معنی میں نبی ہوتا ہے..... یہ تمام الفاظ حقیقی معنوں پر محمول نہیں۔ صرف سادگی سے ان کے لغوی معنوں سے بیان کئے گئے ہیں۔ مجھے بہوت حقیقی کا ہرگز دعویٰ نہیں..... سو مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان لفظوں سے ناراض ہیں تو وہ ان کو ترمیم شدہ تصویر فرمائے جائے اس کے حدیث کا لفظ میری طرف سے سمجھ لیں..... ابتداء سے میری نیت جس کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اس سے مراد یعنی لفظ نبی سے مراد بہوت حقیقی نہیں۔ بلکہ صرف حدیث مراد ہے۔ جس کے معنے آنحضرت ﷺ نے مکالم مراد نئے ہیں۔ یعنی محدثوں کی نسبت فرمایا۔ لقد کان فی من قبلکم من بنی اسرائیل یکلمون من غیر ان یکونوا النبیاء“ (مجموعہ اشتہارات ج اس ۳۱۲)

اور یہی معنی مرزا قادیانی کے اپنے شعر۔

من خستم رسول و نیا و رده ام کتاب  
ہاں ملہم ہستم و خداوند منذر مرم

(از الہ اوہام ص ۸۷، خزانہ ج ۳۳ ص ۱۸۵) یہاں مرزا قادیانی سے بھی ثابت ہے کہ وہ پہلے مصرع میں رسول ہونے اور صاحب کتاب ہونے کی نفی کرتے ہیں اور دوسرے مصرع میں ملہم ہونے کا اثبات، اگر ہر ملہم رسول اور نبی ہو سکتا ہے تو مرزا قادیانی اس شعر میں نفی اور اثبات کو جمع کرتے ہیں۔ حالانکہ نفی اور اثبات آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ (کتب منطق بحث تناقض) اور اس شعر کی یہ تاویل مندرجہ اشتہار (ایک غلطی کا ازالہ ص ۷۷، خزانہ ج ۱۸ ص ۲۱، نومبر ۱۹۰۱)، کہ ”میں رسول تو ہوں۔ لیکن صاحب کتاب رسول نہیں ہوں۔“ اسی شعر کے دوسرے مصرع سے باطل ہو جاتی ہے کہ مرزا قادیانی ملہم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پہلے مصرع میں رسول اور صاحب کتاب ہونے کا انکار کرتے ہیں اور معلوم رہے کہ ہر رسول اور نبی کے لئے صاحب کتاب ہونا لازم نہیں ہے۔ مویٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی تھے۔ ان کے بعد کئی ایک رسول اور نبی مویٰ علیہ السلام اور تورات کی متابعت میں بھیجے گئے۔ ان پر کوئی دیگر کتاب نازل نہیں کی گئی تھی۔ جیسا کہ فرمایا ”ولقد اتینا موسیٰ الكتاب و قفینا من بعده بالرسل“ (بقرہ: ۸۷)، اور البتہ تحقیق دی ہم نے مویٰ علیہ السلام کو کتاب اور بھیجے ہم نے اس کے قدموں پر کئی رسول، نیز فرمایا ”انا انزلنا التوراة فیها هدی و نور“

یحکم بہا النبیوں الذین اسلموا للذین هادوا والربانیوں والاحبار (مائده: ۴۴)“ تحقیق ہم نے اتاری تھی تورات نقش اس کے ہدایت اور نور تھا۔ حکم کرتے تھے انبیاء علیہم السلام جو خدا کے فرمانبردار تھے۔ ساتھ اس کے، واسطے ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے اور حکم کرتے تھے ساتھ اس کے) مشائخ اور علمائے ربانی۔“ اس آیت بے دنوں باقی معلوم ہو گئیں۔ یہ بھی کہ تورات کی متابعت میں بنی اسرائیل میں کئی بنی بیسمجے گئے۔ لیکن ان پر کوئی دیگر کتاب نہیں اتاری گئی۔ دوسرے یہ کہ مشائخ اور علمائے ربانی بھی اس کے مطابق حکم کرتے تھے اور بنی نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عمرؓ والی حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ بھم تو تھے۔ مگر بنی نہیں تھے۔ یہی معنی شیخ اکبر (محی الدین ابن عربی) کی عبارات مندرجہ کتاب فتوحات مکہ کے ہیں اور اس کے بھی معنی امام عبدالواہب شعرانی نے کتاب الیوقیت والجوہر میں لکھے ہیں اور سید عبدالقار صاحب جیلانيؒ سے بھی یہی معنی نقش کئے گئے ہیں کہ ہماری امت کے ایسے بزرگوں کو انبیاء تو نہیں۔ بلکہ اولیاء کہتے ہیں ہم کو اسم نبوت سے روکا گیا ہے اور خدا تعالیٰ ہم کو ہمارے باطنوں میں اپنے رسول کے کلام کے معانی سے آگاہ کرتا ہے۔  
(الیوقیت والجوہر ج ۱۶ ص ۲۹۹، فصل فی کون محمد خاتم النبیین)

### ختم نبوت کی دلیل میں حضرت عمرؓ کے متعلق دوسری حدیث

نبوت خدا تعالیٰ کی بخشش ہے ادعائی یا کبی نہیں ہے۔ یعنی نہ تو محض اپنے دعوے سے ثابت ہو سکتی ہے اور نہ کسب اور عمل سے ملتی ہے۔ بلکہ خدا تعالیٰ کی بخشش اور احسان ہے۔ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ فرمایا ”قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده (ابراهیم: ۱۱)“ کفار کو ان کے رسولوں نے جوان کی طرف بیسمجے گئے تھے۔ کہا کہ ہم نہیں مگر بشر مثل تمہاری لیکن اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے اور پرس کے چاہے اپنے بندوں میں سے، حضرت عمرؓ کے حق میں باوجود ان کی کمال صلاحیت عمل اور صفائی قلب اور تقویٰ طہارت کے آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں۔ اگر میرے بعد کوئی بنی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ جیسا کہ (جامع ترمذی ج ۲ ص ۲۰۹، باب مناقب عمر بن خطاب) میں حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں قال رسول الله ﷺ لوگان نبی بعدی لکان عمر بن خطاب یعنی فرمایا رسول ﷺ نے اگر میرے بعد کوئی بنی ہونا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اس حدیث کو ذکر کر کے امام ترمذی کہتے ہیں۔ ہذا حدیث حسن اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ نبوت آنحضرت ﷺ پر ختم ہو چکی ہے۔ آپؐ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ خواہ وہ کتنا ہی نیکوکار کیوں نہ ہو۔ اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ حدیث مذکور قیاس استثنائی کی صورت میں ہے۔ جس کا ماحصل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نبی نہ ہوئے۔ اس

لئے کہ نبی ﷺ کے بعد کوئی میانی ہونے والا نہیں تھا۔ اس لئے حضرت عمرؓ نبی نہیں ہوئے۔ ورنہ اگر یہ امر مانع نہ ہوتا تو حضرت عمرؓ نبی ہوتے اور یہ معلوم ہے کہ حضرت عمرؓ نبی نہیں تھے۔ نہ انہوں نے دعویٰ کیا اور نہ صحابہؓ یادگیر علمائے امت میں نہ کسی نے ان کے متعلق یہ اعتقاد سکھایا۔

### قرآن شریف سے ختم نبوت پر ایک نادر استدلال

خدا تعالیٰ نے سورت فرقان کے شروع میں فرمایا ”تبارک الذی نزَّل الفرقان علی عبده لیکون للع لمین نذیرا“ (الفرقان: ۱)، یعنی بڑی برکت اور خیر کشیر والا ہے۔ وہ خدا جس نے آہستہ آہستہ نازل کیا یہ قرآن شریف جو فرق کرنے والا ہے۔ حق و باطل اور حلال و حرام میں اور پر اپنے کامل بندے محمد ﷺ کے تاکہ ہو وہ واسطے تمام عالمین کے ڈر سنانے والا۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو تمام عالمین ارضی یعنی جن و انس عربی و عجمی کے لئے نذر یکر کے بھجاتا۔ آپؐ سے پیشتر جس قدر انبیاء آئے۔ وہ اپنی اپنی قوم کے لئے آئے۔ جیسا کہ حدیث صحیح مسلم میں ہے ”ارسلت الی الخلق کافہ و ختم نبی النبیوں (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۹۹، کتاب المساجد)“، یعنی میں رسول بنا کر بھیجا کیا ہوں۔ تمام خلقت کی طرف اور ختم کے گئے ساتھ میرے انبیاء علیہم السلام، اور اسی سورت فرقان: ۱۵ میں فرمایا۔ ”لو شئنا لبعثنا فی کل قریة نذیراً“ یعنی اگر ہم چاہتے تو ہم ہر ہبستی میں ایک ایک نذر مبوعث کرتے۔ اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ علم میزان کی رو سے یہ قیاس استثنائی ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہبستی میں الگ الگ نذر مبوعث کرتے۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں چاہا کیوں نہیں چاہا۔ اس لئے کہ سورت فرقان کے شروع میں فرمادیا کہ تمام عالمین کے لئے محمد رسول ﷺ کو نذر یکر کے بھیجا ہے۔ جس سے دنیا جہاں میں وحدت مل پیدا ہو سکے گی۔ پس اس مصلحت کے لئے تمام جہاں کے لئے ایک ہی نذر بنا یا گیا۔ چنانچہ امام شوکانیؒ اپنی تفسیر میں آیت ”لو شئنا لبعثنا فی کل قریة نذیرا“ کے ذیل میں لکھتے ہیں۔ ”کما قسمنا المطر بینهم ولکن الام تفعل ذالک بل جعلنا نذیراً واحداً وهو انت يا محمد“، یعنی جس طرح ہم نے آسمان سے پانی ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر کے اتنا رہے۔ (اے طرح ہم رحمت نبوت بھی ہبستی کو تقسیم کر کے بخشئے) لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ بلکہ ہم نے دنیا جہاں کے لئے ایک ہی نذر بھیجا اور وہ اے ﷺ آپ میں اور صاحب تفسیر حملی نے اس آیت کی تفسیر یوں فرمائی ہے۔ ”(لو شئنا لبعثنا فی کل قریة) رسولًا لیکون عن الکفر لهم (نذیراً)“ لکن لم نشئا لا نه یقضی تفرق الا ومام و تکثرا لا ختللافات فجعلنا الواحداً نذیراً للکل لیطیعوہ او یقائلہم“، یعنی اگر ہم چاہتے تو ہبستی میں ایک رسول پیدا کرتے تاکہ ہوتا وہ ان

سب کو کفر سے ڈرانے والا۔ لیکن ہم نے نہ چاہا۔ کیونکہ اس کا تقاضا امتوں کا ترقق اور اختلافات کی کثرت ہوتا۔ پس ہم نے ایک ہی نذرِ تمام کے لئے بنایا تاکہ وہ سب اس کی اطاعت کریں۔ یادوں ان سب سے جہاد کرے۔ اسی طرح دیگر کئی تفاسیر میں بھی ہے۔

### علمین کا مفہوم

اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علمین کا لفظ قرآن شریف میں کن کن موقعوں پر آیا ہے۔

اول..... شروع قرآن میں فرمایا: "الحمد لله رب العلمين (فاتحہ: ۱)"

دوم..... کعبۃ اللہ کے لئے فرمایا: "ھدی للعلمین (بقرہ: ۲)" اور قرآن شریف کے لئے فرمایا: "ان هو الا ذکری للعلمین (انعام: ۹۰)"، یعنی نہیں ہے یہ قرآن شریف مگر نصیحت واسطے علمین کے، اور آنحضرت ﷺ کی شان میں فرمایا: "وما ارسلنک الارحمة للعلمین (انبیاء: ۱۰۷)" اور اسی طرح آپ ﷺ کی شان میں سورت فرقان میں فرمایا: "لیکون للعلمین نذیرا (فرقان: ۱)"، پہلی آیت میں تمام علمین کے لئے ایک رب کا ہونا فرمایا۔ دوسرا آیت میں دنیا جہان کے جن و اُس کے لئے چاہے وہ صحرائی ہوں چاہے دریائی چاہے پہاڑی ہوں چاہے میدانی ایک ہی کعبہ کا قبلہ ہونا فرمایا۔ تیسرا آیت میں تمام جہان کے لئے ایک ہی قرآن کو نصیحت نامہ تایا۔ چونھی اور پانچویں آیات میں ایک ہی نبی ﷺ کو حجۃۃ اللعلمین اور نذرۃۃ اللعلمین فرمایا۔ ان سب مقاموں پر غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کیے تمام دنیا کے لئے رسول ہیں۔ پس اسی لئے آپ پربنوت ختم کی گئی۔ کیونکہ دنیا جہان کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو آنحضرت ﷺ کی تبلیغ رسالت سے مشتمل ہو کہ دنیا پر کسی نئے نبی کے پیدا کرنے کی ضرورت پڑے۔ جب رب العلمین کے ہوتے ہوئے کسی رب کی ضرورت نہیں اور قرآن کے ہوتے ہوئے کسی قرآن کی ضرورت نہیں۔ کعبہ کے ہوتے ہوئے کسی کعبہ کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح محمد رسول اللہ ﷺ کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے کہ سب علمین کے لئے کافی وافی ہیں۔ چنانچہ اس معنے میں (مسند امام احمد حیثی میں) حضرت مقداد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پشت زمین پر کوئی گھر گارے یا وون (خیمه) کا باقی نہیں رہے گا۔ مگر اس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل کر دے گا۔ یعنی دنیا جہان کے شہری اور صحرائی آبادی میں کلمہ اسلام کی گونج پڑ جائے گی۔ چاہے اسے کوئی عزت سے قبول کرے چاہے ذلت سے اس کے تابع ہو جائے۔ (مشکوٰۃ شریف ص: ۱۶، کتاب الایمان) اسی معنے میں ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کہا ہے۔ جسے ہم قدرے ترمیم کے ساتھ یوں لکھتے ہیں۔

دنیا کی وادیوں میں گنجی اذال ہماری

تحتتا نہ تھا کسی سے سیل روں ہمارا

## ایک آیت کی تفسیر

قادیانی لوگ آنحضرت ﷺ کے بعد اجرائے نبوت کے لئے یہ آیت بھی پیش کرتے رہتے ہیں۔ ”یہنی ادم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیتی فمن اتقى و اصلح فلاخوب علیهم ولاهم يحزنون“ (اعراف: ۳۵) ”جو خدا تعالیٰ جملہ نبی آدم کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اے بیٹو! آدم علیہ السلام کے اگر آؤں تمہارے پس رسول تم میں سے بیان کریں، اوپر تمہارے آیتیں میری، پس جو کوئی پرہیز گاری کرے گا اور اصلاح کرے گا۔ نہیں ڈراو پر ان کے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وجہ استدلال کی یہ بیان کرتے ہیں کہ یاتین مُستقبل کا صیغہ ہے۔ جو ان شرطیہ کے بعد آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کتنی ایک رسول آتے رہیں گے۔ جن کی گنتی خدا ہی کو معلوم ہے۔ کیونکہ رسول بصیدہ تکرہ ہے اور اسے کسی خاص معین عدمیں محسوس نہیں کیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی مفہوم یا اشارہ دیا دلالت یا قیاس یا استنباط خلاف نص قطعی کے قابل قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ کتب اصول میں مصرح ہے کہ مفہوم منطق کے مقابلہ میں اور اشارت اور دلالت عبارت انص کے مقابلے میں اور کوئی قیاس یا استنباط منصوص کے مقابلے میں قابل ساعت اور اعتبار نہیں ہے۔ ورنہ (معاذ اللہ) آیات قرآنیہ و احادیث رسول اللہ میں تعارض و تناقض واقع ہو گا اور یہ باطل ہے۔ (دیکھو کتب علم اصول) مثلاً حصول الحمول مصنفہ شیخنا نواب صاحب مرحوم دنور الانوار وغیرہ ختم نبوت کے متعلق قرآن و احادیث کے دلائل صحیحہ منصوص اور قطعی ہیں اور یہ بھی معلوم رہے جس استدلال کی بنا پر ہوتے پر ہو اسے دلالت کہتے ہیں اور سابق یہ بیان ہو چکا ہے کہ کوئی دلالت یا اشارت منصوص کے خلاف قابل اعتبار نہیں ہے۔ پس قادیانیوں کا استنباط آیت ”ماکان محمد ابا احمد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین وکان الله بكل شيءٍ علیہما (احزاب: ۴۰)“ کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ (نہیں میں محمد ﷺ پاپ تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے۔ لیکن میں خدا کے رسول اور خاتم النبیین اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔) (یعنی وہ جانتا ہے کہ آئندہ کوئی رسول نہیں ہو گا) اس آیت کے معنی مرزاقادیانی نے بھی کہے ہیں۔ چنانچہ وہ ازالہ وہام میں لکھتے ہیں۔ ”یعنی محمد ﷺ تم میں سے کسی مرد کا باب نہیں۔ مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والانبویں کا۔“ (از الہ وہام م ۱۱۲، بخاری، ج ۳ ص ۲۳۱)

اگر علم اصول کے اس قاعدے کا لحاظ نہ کیا جائے تو ہر باطل پرست اپنی خواہش کے مطابق قرآن و حدیث کے خواص و عام اور مطلق و مقید اور منطق و مفہوم اور عبارت و دلالت میں کھیج تاں کر کے ان میں تناقض پیدا کر سکے گا۔ جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ نصوص اور عبارات (معاذ اللہ) بیکار ہو جائیں گی۔ مثلاً قرآن شریف میں عام انسانوں کی پیدائش کے متعلق فرمایا: ”انا خلقنا الانسان

من نطفہ امشاج (دہر: ۲) ”**﴿تَحْقِيقٌ بِيَدِكُمْ هُمْ نَاسٌ كُوْلَهُونَ نَطْفَةٌ سَهْلَهُونَ﴾** دوسری جگہ خاص آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق فرمایا: ”خلق الانسان من صلصال كالفالخار (الرحمن: ۱۴) ” اور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا: ”وَخَلَقَ مِنْهَا زوجَهَا (نساء: ۱) ” اور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا: ”أَنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مُرِيمٍ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ الْقَهَّاَءُ إِلَيْهِ مُرِيمٌ وَرُوحٌ مِنْهُ (نساء: ۱۷۱) ” اگر ان آیات میں خاص اور عام کا لحاظ نہ کیا جاوے تو کوئی باطل پرست اپنی خواہش کے مطابق کہہ سکتا ہے کہ چونکہ آدم اور حوالیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہیں۔ اس لئے وہ بھی (معاذ اللہ) ماں اور باپ کے ملے ہوئے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح محترمات نکاح کی آیت میں چند رشوں سے نکاح کی حرمت ذکر کرنے کے بعد فرمایا: ”وَاحِلْ لَكُمْ مَا وَرَأَتُمُ الْكُلُومْ (نساء: ۲۴) ” اور حلال کی گئیں واسطے تمہارے وہ جو سوائے ان (مذکورہ بالا) کے ہیں۔ **﴿وَأَرْحَلَلَكُمْ كَيْمَيْنَ وَاسْطَيْنَ﴾** اور خاص آنحضرت ﷺ کی ازدواج مطہرات سے نکاح کی حرمت کے متعلق فرمایا: ”وَلَا ان تنكحوا ازواجاً من بعد ابداً (احزان: ۵۳) ” **﴿أَوْ نَسِيْهُ جَانِزَهُ كَمْ نَكَاهُ كَرُوا... اَنْ سَبَعَادَآ پَ كَبُھِيْ بُھِيْ...﴾**

تو کوئی باطل پرست گناہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ آنحضرت ﷺ کی ازدواج مطہرات سورت نساء کی مذکورہ محترمات کے سوا ہیں۔ اس لئے (معاذ اللہ) رسول ﷺ کے بعد ان سے بھی نکاح حلال تھا۔ اسی طرح اس کی مثالیں قرآن شریف میں بہت ہیں کہ خاص و عام اور منطق و مفہوم کے مقابلے کے وقت خاص اور منصوص کا لحاظ ہوتا ہے۔ پس اسی طرح ختم نبوت کے دلائل جو قرآن و احادیث میں منصوص ہیں۔ وہ عموم استدلال سے جن سے قادیانی استدلال پکڑتے ہیں۔ ان سب پر مقدم ہوں گے۔ نوٹ! اوپر کا جواب علم اصول کی بناء پر ہے۔ جس سے قادیانی علماء عموماً آشنا ہیں۔ خصوصاً مزرا قادیانی بھی اس سے نابعد محض تھے۔ اب قرآن شریف کے سلسلہ کلام کو بلوظ رکھتے ہوئے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ جس سے پہلے ایک تبیہ کا بیان ضروری ہے۔ قرآن شریف مربوط اور موصول کلام ہے۔ جس کی صحیح تفصیل کے لئے سلسلہ کلام کو بلوظ رکھنا ضروری ہے۔

..... یہ امر مسلم کل ہے کہ قرآن شریف کلام خدا ہے اور درجہ اعیاز کو پہنچا ہوا فصح و بلغ کلام ہے۔ پس ایسے کلام کے لئے ضروری ہے کہ اس کا بیان اور سلسلہ کلام باہم موصول اور مربوط ہو۔ اس کے کلمات کی ششگی اور معانی کی لطافت کے علاوہ اس کے کلمات کی ترتیب اور آیات کا ارتباً اور بیان کا تسلسل نہایت موزوں اور مناسب صورت میں ارف نہ ہو۔ جس کلام میں ایسے اوصاف نہ ہوں۔ وہ کلام مجذہ کیا اس کا وزن فصحاً، عرب کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔

..... اس قاعدے کی تائید میں آیات ذیل ملاحظہ ہوں کہ جن میں قرآن شریف نے اپنے آپ کو کلام موصول اور ترتیب میں احسن ہونے کی حیثیت میں پیش کیا ہے۔ پہلی آیت ”ولقد وصلنا لہم القول لعلہم یتذکرون“ (قصص: ۵۱)، یعنی حق تعالیٰ نے فرمایا: البت تحقیق ہم نے ان لوگوں (کی ہدایت) کے لئے اس قول یعنی قرآن شریف کو موصول کر کے بھیجا ہے۔ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اس استدلال کی تائید میں اس آیت کے ذیل میں تفاسیر ذیل ملاحظہ ہوں۔

امام رازی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ”ولقد وصلنا لہم قول و توصیل القول“ ہو ایتنا بیان بعد بیان وہو من وصل البعض بالبعض (تفسیر کبیر ج ۲۶۲ ص ۲۴) ”اور توصیل کلام کا معنی ہے۔ ایک بیان کا بعد دوسرا بیان کے اور وہ جوڑنا ہے ایک کو دوسرے کے ساتھ، اسی طرح (تفسیر ابن الصورج ج ۱۸ ص ۱۸) میں ہے۔“ ”ولقد وصلنا لہم قول و قری بالتخفیف ای انزلنا القرآن علیہم متواصلاً بعضه اثر بعض حسیها تقتضیه الحکمة والمصلحة“ یعنی وصلنا (باتشد) کو تخفیف یعنی بغیر شد کے بھی وصلنا پڑھا گیا ہے۔ یعنی ہم نے قرآن کو بازیل کیا موصول ہے۔ بعض کا پچھے بعض کے مطابق اس کے جس کا تقاضا کرے۔ حکمت اور مصلحت اس آیت اور تفاسیر کے حوالہ جات سے واضح ہو گیا کہ قرآن شریف کا بیان اکھڑا پھرہ اکلام نہیں۔ بلکہ موصول ہے اور نہایت باحکمت ربط سے ہے۔ دوسری آیت سورت (فرقان: ۳۲) میں فرمایا: ”ورتلناه تربیلا“ یعنی حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن شریف کو عمدہ ترتیب میں بیان کیا ہے۔ ترتیل کے معانی کی تحقیق کے لئے لغت کی مندرجہ ذیل کتابوں کے حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔

چنانچہ (السان العرب ج ۵ ص ۱۳۲) جو عربی زبان کی سب سے بڑی لغت کی کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے ”الرتل حسن تناسق الشئی ..... ورتل الكلام احسن تالیفه وابانه“ یعنی رتل کے معنی ہیں کسی شے کی ترتیب کی خوبی اور عمدگی اور رتل الکلام کے معنی ہیں۔ اس نے کلام کی تالیف اچھی طرح سے کی اور اسے خوب واضح طور پر بیان کیا۔ (قاموس ج ۲ ص ۳۹) میں اسی کی وضاحت کے ساتھ یوں لکھا ہے۔ ”محركۃ حسن تناسق الشئی ..... والحسن عن الكلام والطيب من كل شئی“ یعنی رتل کی فتح کے ساتھ اس کے معنی ہیں۔ کسی شے کی ترتیب کی خوبی اور عمدگی اور کلام کی جنس میں سے عمدہ کلام اور ہر شے کی نہایت پاکیزہ اور سترھی صورت اس طرح لغت کی دوسری کتابوں میں بھی انہی معنی کی تائید کئی محاورات سے کی ہے۔ مثلاً لغات وحیدی، اساس البلاغت، مصباح المغیر، صراح وغیرہ ان حوالہ جات کی تائید کے لئے، تیسری آیت ملاحظہ کیجئے۔ جو سورت زمر

میں ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ”اللَّهُ نَرَأَ أَحْسَنَ الْحَدِيثَ كَتَابًا مِتَّشَابِهً مَثَانِي (زمر: ۲۳)“ یعنی اللہ نے اتراسب سے عمدہ کلام جو کتاب ہے۔ متشابہ یعنی جس کی ایک آیت دوسری کی تفسیر کرتی ہے اور وہ آیات مکر رسم کی گئی ہیں۔ اس آیت کی کچھ وضاحت کے لئے چند امور ضروری ہیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو احسن الحدیث فرمایا۔ یعنی سب سے عمدہ کلام جو عجاز کو پہنچا ہوا ہے۔ جس کا مقابلہ انسانی علم اور لیاقت سے بالا ہے اور اس کی شہادت میں دو صفحہ فرمائے۔ متشابہ اور مثالی جس سے مراد یہ ہے کہ اس کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں اور ان میں تناقض نہیں ہے۔ بلکہ ایک آیت دوسری آیت کی تائید و تصدیق اور تفسیر کرتی ہے۔ جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، دو صفحہ مثالی فرمایا۔ یعنی اس کی آیات پند و صحبت کے لئے مکر رسم کر دیا گی ہے۔ جن میں تناقض ہرگز نہیں ہے۔ اس آیت سے بھی ثابت ہے کہ قرآن شریف کے کلمات اور آیات باہم موصول ہیں اور ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں اور ان میں ہرگز تناقض اور تعارض نہیں ہے۔ اس طویل تمہید لیکن از بس مفید کے بعد واضح ہوا کہ سورت اعراف کی آیت آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت جاری رکھنے کے متعلق نہیں ہے۔ بلکہ آدم علیہ السلام کے بہشت سے نکالنے اور زمین پر آباد کرنے کے بعد زمانے کے متعلق ہے۔ جو آدم علیہ السلام کے وقت سے مستقبل میں ہونے والا تھا کہ اس زمانے میں اولاد آدم علیہ السلام کی ہدایت کے لئے خدا کے رسول آتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد پر خدا تعالیٰ نے آیت خاتم النبیین بھیج کر بتلا دیا کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے آخری نبی ہیں اور آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح طور پر فرمادیا۔ ”أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيٌّ بَعْدِي“ (ترمذی ج ۲ ص ۴۵، باب لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ كَذَابُونَ) ”میں خاتم النبیین ہوں۔“ بعدی (ترمذی ج ۲ ص ۴۵، باب لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ كَذَابُونَ) ”میں خاتم النبیین ہوں۔“ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ جو کہا کہ سورت اعراف کی آیت حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اجرائے نبوت کی دلیل ہے۔ اس کو ہم سورت اعراف کی آیات کے سلسلہ کلام اور دیگر مقامات کی آیات کی تائیدوں سے ثابت کرتے ہیں۔ جس کے بھیخت کے لئے ہم نے اوپر کی تمہید کا بیان ضروری سمجھا تھا۔ آپ سورت اعراف کی آیت سے پیشتر نظر کریں کہ اوپر مسلسل طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور اس سے متعلقہ ضروری ہدایات کا بیان چلا آرہا ہے۔ اسی طرح (بقرہ: ۳۸) میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی مطالعہ کریں۔ جس میں ان کے اور ان کی سکونت جنت اور پھر جنت سے نکالے جانے اور زمین پر اترنے اور قصور کی معانی کے ذکر کے بعد فرمایا: ”قُلْنَا إلَهُبْطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَامَا يَاتِينَكُمْ مِنِي هُدَىٰ فَمَنْ تَبَعَ هُدَىٰ فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ یعنی کہا ہم نے اترواں سے سب۔ پس اگر آؤے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پس جو کوئی پیروی کرے گا ہدایت میری

کی۔ پس نہیں ڈراوپر ان کے اور نہ وہ غم کھاویں گے۔ اور ظاہر ہے کہ خدا کی ہدایت خدا کے رسولوں کی معرفت آتی رہی ہے۔ چنانچہ یہ قرآن شریف رسول ﷺ کی معرفت آیا اور اس کی نسبت فرمایا: ”ذالک الكتاب لا رب له هدى للمتقين“ (بقرہ: ۲) ”اور تورات اور انجلیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معرفت آئیں۔ ان کی بابت فرمایا: ”انزل التورات والإنجيل من قبل هدى للناس“ (آل عمران: ۴) ”یعنی قرآن مجید سے پہلے تورات اور انجلیل لوگوں کی ہدایت کے لئے اتاریں۔ اس مضمون کی آیات قرآن مجید میں کثرت سے ہیں اور جیسا کہ سورت اعراف: ۳۵ میں فرمایا: ”لا خوف عليهم ولاهم يحزنون“ اسی طرح سورت (بقرہ: ۳۸) کی مندرجہ بالا آیت میں فرمایا: ”فمن تبع هدای فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون“ اور جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی نہیں ہوگا۔ کوئی خوف اور پر ان کے اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ دونوں جگہ رسولوں اور ہدایت رباني کی پیروی کا نتیجہ ایک ہی فرمایا۔ دوسرا مقام سورت طا میں دیکھئے کہ سکونت کرنے اور وہاں سے نکالے جانے کے ذکر کے بعد فرمایا۔ ”فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى“ (طہ: ۲۳) ”یعنی (ہم نے فرمایا)“ فاما یاتینکم منی هدی ”پس اگر آدمؑ کو میری طرف سے ہدایت۔ پس جو کوئی پیروی کرے گا۔ میرے ہدایت کی پس نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بد بخت ہوگا۔“

دیکھو ان تین مقاموں میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہدایت رباني کے جاری ہونے کا سلسلہ مذکور ہے۔ یہ تینوں مقامات آپس میں مشابہ یعنی ملتے جلتے اور ایک دوسرے کے صدق ہیں۔ پس سورت اعراف کی پیش کردہ آیت کے ساتھ خاتم النبیین کو ملانے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت جاری رہتے ہوئے حضور سرور کائنات فخر موجودات ﷺ پر آ کر ختم ہوگا۔ ہمارے اس بیان کردہ طریق سے قرآن شریف کی آیات اور احادیث مشبہ ختم نبوت میں مطابقت قائم رہتی ہے اور قرآن شریف کی آیات اور احادیث صحیحہ کے مصوصات و مفہومات کی راہنمائی ایک ہی طرف رہتی ہے کہ نبوت حضور رسول ﷺ پر ختم کر دی گئی۔ قرآن وحدیث کی نصوص بینہ کے بعد بھی اگر سورت اعراف کی آیت کے یہ معنی سمجھے جائیں کہ سلسلہ نبوت آنحضرت ﷺ کے بعد جاری ہے تو قرآن شریف کی آیات اور احادیث صحیحہ میں تناقض و تعارض واقع ہو جائے گا اور قرآن مجید کی آیت اور رسول ﷺ کی احادیث صحیحہ بجائے ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرنے کے آپس میں مختلف ہو جائیں گی اور اختلاف منافی صداقت ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف ہی کی صداقت کی نسبت فرمایا۔ ”لوکان من عند غير الله لوجودوا فيه“

اختلافاً كثيراً (نساء: ۸۲)۔ ﴿إِنَّمَا أَكْرَمَ قِرْآنَ شَرِيفِ خَادِمِكَمْ كَمَا كُسِّيَ أَوْ كَيْ طَرْفِ سَهْتَهُ تَوْبَةٌ پَاتَتِ إِلَيْكُمْ مِّنْ أَنْخَلْفَتِ الْحَقْقَانِيَّةِ بِهِتَّهُ بَعْدَهُ مَعْنَى جَوْهَرِهِ اُورَسُولِهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمِنْ مَرَادِهِ هُنَّ﴾ کی مراد ہیں۔ ان کو بدل کر اور حدیث لا نبی بعدی کے مقابلہ میں مقید معانی جنس ہے۔ شرعی اور غیر شرعی کا ایتiaz کر کے صاحب شرع کی قید بڑھائی جائے تو تحریف معنوی اور خدا کے رسول ﷺ کی مراد کو بگاڑ کر از خود اضافہ ہو گا اور یہ ہر دو امر باطل اور حرام ہیں۔ ”دفع دخل مقدر“ اگر کہا جائے کہ سورت اعراف کی آیت میں بنی آدم کو خطاب کر کے یہ بنی ادم فرمایا ہے اور سورت بقر اور سورہ طہ کی آیتوں میں ایسا نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورت بقر اور سورت طہ کی آیتوں میں اما یا تینکم کے خطاب میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ساتھ ان کی اولاد بھی شامل ہے۔ دیکھئے ہر سہ مقامات پر ہدایت کی پیروی کا نتیجہ بتیرتیب یوں فرمایا ہے۔ ”فَمَنْ تَبَعَ هَدَى فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ (بقرہ: ۳۸) اور ”فَمَنْ اتَّقَى وَاصْلَحَ فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ (اعراف: ۳۵) اور ”فَمَنْ اتَّبَعَ هَدَى فَلَا يَضُلُّ وَلَا يَشْقَى“ (طہ: ۱۲۳) اس باری کی کی تائید کے لئے سورت اعراف: ۲۲، ہی کی آیات کو دیکھئے کہ جنت سے نکلنے کا حکم دینے کے بعد خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو فرمایا ”قالَ أَهْبِطُوا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ لَّكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقْرٍ وَمُتَّعِّنِ الِّي حَيْنَ“۔ قالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تَخْرُجُونَ“ ﴿إِنَّمَا فَرِمَيْتَ جَاهَدَ بَعْضَ تَهَبَّرَ وَاسْطَعَ بَعْضَ كَوْثَنَ بَعْضَ كَوْثَنَ هُوَنَ گَرَّهُ اور وَاسْطَعَ تَهَبَّرَ زَمِينَ مِنْ تَهَبَّرَ نَكَّى جَدَّهُ ہو گی اور زندگی کے اسباب (بھی) ایک مدت تک (نیز) فرمایا۔ اس میں تم زندہ رہو گے اور اس میں مرد گے اور اسی سے (قیامت کے دن قبروں سے) نکالے جاؤ گے۔﴾

دیکھئے ان آیتوں میں خطاب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ہو رہا ہے۔ حالانکہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے درمیان دشمنی واقع نہیں ہوئی۔ بلکہ ان کی اولاد میں دشمنی ہے اور جو امر اس کے بعد ذکر کئے گئے ہیں۔ ان میں ان کی اولاد بھی شامل ہے۔ پس اسی طرح سے سورت اعراف کی زیر بحث آیت میں یہ بنی ادم سے خطاب کر کے فرمایا اور اسی لحاظ سے ہے۔ اس طریق سے سب مقامات پر خطاب کے صیغہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ سورت اعراف کی زیر بحث آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سلسلہ ثبوت جاری رہنے کا ذکر ہے۔

نہ کہ آیت خاتم النبیین کی نص صریح کے خلاف حضور رسول ﷺ کی بعثت کے بعد بھی۔

الحمد لله رب العالمين

مَنْ كَوْمَلْ طَوْرِيرْ آسَانِي سَمْجَادِيَّا ہے۔ فَلَلَّهُ الْحَمْدُ!

اللهم إني أسألك النعمتين اللتين يعودنـي

# اغلاط ماجدیہ

حضرت مولانا مفتی عبداللطیف رحمانی

بسم الله الرحمن الرحيم

اغلاط ماجدیہ جس میں مولوی عبدالماجد قادریانی کے رسالہ القاء کے ایک ورق میں بتیں  
غلطیاں دھائی گئی ہیں اور خدا کی قدرت کا نمونہ ظاہر کیا ہے کہ جو شخص صوبہ بہار میں مرزاںی  
جماعت کا مایہ فخر ہو پھر وہ مدت کی جان کا ہی اور دید و ریزی کے بعد اہل حق کے مقابلہ میں ایک  
رسالہ لکھے اور اس کے ایک ورق میں بتیں غلطیاں ہوں۔

مرزاںی گروہ کی بڑے مولوی پر چینجخوں کی بوچھاڑ

خوب پر دہ ہے کہ چمن سے لگے بیٹھے ہیں  
صف پچھتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں

چونکہ گروہ مرزاںی جھوٹے مدعی کا پیرو ہے اس لئے ان کا سرمایہ جھوٹ اور دروغ گوئی  
نظر آتا ہے۔ ان کے ایک اشتہار میں بہت جھوٹ دیکھے اس میں ایک یہ بھی تھا۔ ہماری طرف سے  
چینچ پر چینچ دیا جاتا ہے اور مخالف خاموش ہیں۔ یہ ایسا صریح جھوٹ ہے کہ جو حضرات ہماری  
تحریروں سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ صرف جناب مولانا مفتی عبدالطیف صاحب کی طرف  
سے چینچ مولوی عبدالماجد کے مقابلہ میں اور ایک اس کے مرشد اور مرشدزادے کے مقابلہ میں  
شائع ہو چکا ہے اور یہاں سے قادریان تک کسی نے جواب نہیں دیا اب:  
ساتوال چینچ

اس رسالہ کے اخیر میں دیا گیا ہے۔ اگر قادریانی مولوی صاحب میں کچھ بھی ہمت اور  
اپنے مذہب کی حمایت کا جو شہ ہے تو مردمیدان نہیں اور سامنے آؤں، مولانا محمد عبد الشکور صاحب  
مدیر الجمیع نے کس زور و شور سے چینچ دیا اور ”تاہجانہ بایدرسانید“ پر پورا عمل کیا مگر مولوی عبدالماجد  
قادیریانی سامنے نہ آئے باوجود یہ کہ ان کے بھاگنے کی تمام شرطیں منظور کر لی گئیں اور صرف خط و  
کتابت ہی نہیں ہوئی بلکہ مناظرہ کے طے کرنے کیلئے بارہ معززین ان کے مکان پر گئے۔ مگر بجز  
باتیں بنانے کے سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی۔

## حامداً و مصلياً

شہرت اور صحت دو ایسے لفظ ہیں جو اپنے معنی اور نیز مصدقہ کی رو سے جدا جدا ہیں۔ اگرچہ کسی موقع پر دونوں کا اجتماع بھی ہو جاتا ہے مگر اس سے یہ سمجھنا سخت غلطی ہے کہ شہرت اور صحت دونوں ایک ہیں اور مشہور بات ضرور صحیح ہوتی ہے آج دنیا میں بہت سی باتیں اس درجہ پر شہرت یافتہ ہیں کہ قبولیت عام کی سند حاصل کر چکی ہیں لیکن کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ تمام صحیح ہیں اور واقعیت کی حدود میں ان کا کوئی تشاں بھی ہے؟ جو لوگ بعض شہرت کے واقعیت اور صحت کی سند بنایتے ہیں اور اپنے معلومات کی عمارت اسی بنیاد پر اٹھاتے ہیں وہ بڑے مغالطہ میں پڑ جاتے ہیں اور صراط مستقیم سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں۔ اس لئے طالب حق اور تحقیق کا یہ منصب ہے کہ کبھی شہرت اس کی طلب اور تحقیق کی آخری حد نہ ہو بلکہ اس کی طرف اس کو اصلاً توجہ نہ ہوئی چاہئے۔ ورنہ یہ اس کے لئے سدرہ ہوگی۔ اس لئے میں نے بھی شہرت کو کبھی اپنے علم کا بنی نہیں ٹھہرایا۔

مولوی عبدالماجد قادریانی جن کی ذات منگیر بھا گلپور کی قادریانی جماعت کے لئے فخر اور مایہ ناز ہے۔ اور جن کو اپنے فضل و کمال کا بڑا اذعاء ہے۔ میرا پہلا تعارف ان سے یہ ہے کہ ندوہ العلاماء کے واعظوں کی فہرست میں میں نے ان کا نام دیکھا۔ آپ خیال فرمائتے ہیں کہ کسی انجمن یا مدرسہ کے واعظوں کی صفت میں جگہ پانے سے اہل علم اور صاحب فضل و کمال کی نگاہ میں ایسا شخص علم و کمال میں کس درجہ کا مستحق ہوگا۔ آیا بعض اس فہرست میں نام داخل کرانے سے علماء کی مجلس کا رکن اور عالم کے خطاب کا اصلی مستحق قرار پاسکتا ہے یا نہیں؟ کیا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ آج کل زیادہ تر انجمن اور مدرسہ کے واعظوں میں ایسے ہی علماء نظر آتے ہیں جو بدنام لکنڈہ تکونا مے چند کاپوراپورا مصدقہ ہیں۔ اس کے بعد جب میں منگیر حاضر ہوا تو عوام میں ان کی شہرت عقیدت کے ساتھ پائی، لیکن عوام کی اس شہرت و عقیدت نے بھی میرے معلومات میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا جس سے میرا خیال متاثر ہو کر متغیر ہوتا اور اپنی حدود سابق سے ایک اچھے بھی تجاوز کرتا کیونکہ عوام کیا خواص میں بھی شہرت اور عقیدت کو میں اپنے علم کا ذریعہ نہیں ٹھہراتا، تاوقتیکہ میں خود اپنے طور سے اسے نہ سمجھ لوں۔ اسی لئے میں عبدالماجد قادریانی کے علم کے متعلق کسی قسم کی رائے قائم کرنے سے معدود رہا۔ اگرچہ میرے بعض خاص ان احباب نے جو اہل علم سے ہیں موصوف کی طبائی و قیرہ کی

تعریف کی۔ اس کے پچھے عرصہ بعد جب میں پھر موئیگر حاضر ہوا تو ہر چہار طرف سے میرے کانوں میں یہ صدا پہنچی اور ہر خاص و عام اعلیٰ ادنیٰ کی زبان سے سنا کہ مولوی صاحب موصوف نے اپنا مذہب بدل دیا اور اب وہ مسلمان سے قادیانی ہو گئے لیکن انہیں زبانوں سے پہلے میرے کانوں میں چونکہ مولوی صاحب کے فضل و کمال کی طویل داستان پہنچی تھی پھر انہیں زبانوں سے اس طولانی داستان کا انداز اور قضیہ نامرضیہ سننا اور ہر شخص کو پہلی شہرت کی غلطی کا مقر اور اپنی عقیدت کی خطاء کا معرف پایا۔ تو مجھے ان لوگوں پر نہایت تعجب افسوس کے ساتھ ہوا کہ کیوں وہ اول بلا سمجھے اور بغیر تحقیق ایک رائے ایسی قائم کر لیتے ہیں جو عقیدت کے درجہ تک پہنچ جائے اور جب حق کی روشنی سے اس جہالت کی سیاہی کا پردہ تاریخنگوت کی طرح پارہ پارہ ہو جاتا ہے جس پر ان کی عقیدت کی عمارت قائم تھی تو پھر وہ حیرت سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور اس۔ کے خلاف خود ہی فیصلہ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن مجھے اس شہرت سے بھی اپنے اصول کے موافق کسی قسم کا استفادہ نہ ہوا۔ ہاں عبدالماجد قادیانی موصوف کے تبدیلی مذہب اور مسلمان سے قادیانی ہو جانے کا جب مجھے اپنے طور پر یقین ہو گیا اور میری تحقیق نے اس میں کسی قسم کے شبہ اور تاویل کی گنجائش نہ رہنے دی، تو عبدالماجد قادیانی کا یہ تغیر و تبدل میرے لئے ایسا آئینہ شفاف ہوا جس میں عبدالماجد قادیانی، موصوف کے فضل و کمال اور علمی قابلیت کا پورا پیکر مجسم ہو کر سامنے آ گیا اور ہر خط و خال صاف صاف نظر آنے لگا۔ یہ ان کا تبدل و تغیر میرے ہی لئے آئینہ نہیں ہے بلکہ ہر اہل علم و فضل بلکہ طالب علم اور جاہل سمجھدار بھی جب مرزا قادیانی کے دعویٰ تزویر و تلبیس کی چادر اٹھا کر دیکھے گا تو اس کو یہ امنہایت روشن نظر آئے گا کہ کوئی علم والا تو کیا جاہل سمجھدار بھی اپنے پاک دل کے صفات میں ان دعووں کو ایک لمحے کے لئے بھی جگہ دنیا پسند نہ کرے گا اور اپنے اعتقاد کی طہارت و نزاکت کو اس سے آلوہ و کثیف نہ ہونے دے گا۔ مثلاً ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جناب سرور انبیاء آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں۔ قرآن و حدیث اور تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ آیت ”ماکان محمدًا با احمد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین (الاحزاب: ۴)،“ اپنے ظاہر معنی پر ہے اور لغت عرب میں خاتم النبیین کے معنی آخر انبیاء کے ہیں یعنی تمام انبیاء کے آخر میں آنے والے، آپ کے بعد کسی کو نبوت کا مرتبہ نہیں مل سکتا۔ اس میں کوئی تاویل نہیں اور نہ کسی شبہ کی گنجائش ہے لیکن مرزا قادیانی بھی مدعا نبوت ہیں اور بہت سے انبیاء سے مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنے کو افضل اور اعلیٰ کہتے ہیں اور محض یہی نہیں کہ اپنے کو نبی خیال کرتے ہوں بلکہ صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ ہے جس نے مرزا قادیانی کی

کتابیں دیکھی ہیں اس پر یہ بات ظاہر ہے ہاں جنہوں نے نہیں دیکھیں وہ صحیفہ رحمانیہ نمبر ۶، ملکوا کر ملاحظہ فرمائیں۔ (احساب قادر یادیانی نمبر ۵ میں صاحب اکف رحمانیہ ۱۷۲۷ یکجا شائع ہو چکے ہیں۔ فلحمد للہ! مرتب) اس سے مرزا قادر یادیانی کے عقائد معلوم ہو جائیں گے تو اب اسی حالت میں کوئی ذی علم مسلمان مرزا قادر یادیانی کے ان خیالات کی تصدیق کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ایسے ہی مسلم اور نا مسلم عالم و جاہل یہ جانتا ہے کہ نبی ہدایت و راستی کا آفتاب ہے جس کی شعاعوں سے گمراہی جھوٹ و فریب کی تاریکی کا پردہ نکلنے کے لئے ہو ہو کر ہباءً منثوراً ہو جاتا ہے اس کے اقوال اس کے اعمال اس کے اخلاق اس کے معاملات عالم کے لئے اسوہ حسنہ بن کر چکتے ہیں اور اسی کی روشنی سے تمام خلق منزل مقصود پر پہنچتی ہے اور اس کا قول وہی ہوتا ہے جو اس کا عمل ہے اور عمل بھی قول پر پورا منطبق ہوتا ہے قول و فعل میں سرموتفاوت اور اختلاف کارائی بھی نہیں ہوتا اب جو شخص مرزا قادر یادیانی کے اقوال، اعمال، اخلاق، معاملات کو اس منہاجِ نبوت پر پر کھے گا تو یہ اختیار بول اٹھے گا۔ ”ان ہی الا افک افتخاری“ فیصلہ آسمانی میں اسی منہاجِ نبوت پر قول کر دکھلایا گیا ہے۔ تاکہ اس سے ذی علم سے لے کر ایسی تک اور مسلم و نا مسلم تمام کو یکساں فائدہ ہو اور اس روشن اور کھلی ہوئی بات کو ہر شخص سمجھ لے یعنی منکوحہ آسمانی والی پیشیں گوئی غلط ثابت ہوئی جو کہ مرزا قادر یادیانی کی موت کا نہایت عظیم الشان جھنڈا تھا۔ اور نیز اس میں یہ بھی دکھلایا ہے کہ مرزا قادر یادیانی کو اپنی اس پیشیں گوئی پر خوب بھی کامل و ثوق اور اعتبار نہ تھا اور نہ حالت بے اختیاری میں بذریعہ خطوط کے منکوحہ آسمانی کے باپ سے وہ تحریکات اور معروضات نہ فرماتے اور خوف در جا لے کا پھاٹک نہ دکھلاتے جوان سے ظہور میں آیا۔ یاد رکھو اور خوب سمجھ لو کہ آسمانی آواز سے بڑھ کر نبی کے لئے کوئی شے باعثطمینان قلب اور تسکین خاطر نہیں ہو سکتی اب محمدی بیگم کے نکاح کی صد اگر آسمانی صداقتی تو وہ ضرور پوری ہو کر رہتی اور اس نامرادی کے عالم میں ترپ ترپ کے مرزا قادر یادیانی کی روح پر وازد کرتی اور نہ مرزا قادر یادیانی سے یہ مضطربانہ تحریریات ان فطرتی جذبات سے وقوع میں آتیں جنہوں نے مرزا قادر یادیانی کی قوت اختیار یہ کوکیتہ زائل کر دیا تھا اب جس شخص کا قول کچھ ہو اور فعل کچھ ہو اور دونوں کی ڈنڈوں میں بون بعید ہو تو اس پر اس منہاجِ نبوت سے جو فتوی ہو سکتا ہے فیصلہ آسمانی

۱۔ عالم اسباب میں تداہیر انبیاء بھی کرتے ہیں مگر تداہیر کے اقسام اور اس کے موقع ہیں جس قدر الہامات مرزا قادر یادیانی نے منکوحہ آسمانی کے نکاح میں آنے کی نسبت بیان کئے ہیں اور کامل و ثوق ان الہاموں میں دلایا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ پریشانی اور بے اطمینانی جیسی مرزا قادر یادیانی کے خطوط سے ظاہر ہے کسی اہل اللہ نہیں ہو سکتی۔ فیصلہ آسمانی حصہ اول غور سے دیکھئے۔

میں جماعت احمد یہ کو خصوصاً اور مسلمانوں کو عموماً اسی طرف توجہ دلاتی گئی ہے۔

الغرض مولوی صاحب موصوف کا قادریانی ہونا تو ایسا ہے جس سے خود مولوی صاحب کو بھی انکار نہیں اور مسلمہ فریقین ہے اور یہ مقدمہ بھی نہایت واضح اور بدیہی اولی ہے کہ کوئی ذی علم اور سمجھدار قادری نہیں ہو سکتا جیسا کہ میرے بیان سابق سے اس پر پوری روشنی پڑتی ہے اور فیصلہ آسمانی خاص اسی موضوع پر لکھا گیا ہے۔ ان دونوں باتوں سے جس یقین اور اعتقاد کے فطرت ہر انسان قریب ہو جاتا ہے اور جو صورت اس آئینہ میں نظر آتی ہے میں بھی مولوی صاحب کے متعلق اس اعتقاد رکھنے پر مجبور تھا اور واقعی اس میں ان کے فضل و کمال اور علم کی اصلی صورت نظر آتی اس کے سوا بھی میرے پاس بہت سے ایسے دلائل قاطعہ ہیں جن سے اس اعتقاد و یقین کی بنیاد یہ نہایت ہی مضبوط اور غیر متزلزل ہو جاتی ہیں جن میں سے بعض کو میں یہاں بیان کرتا ہوں۔

فیصلہ آسمانی کو میں نے اول سے آخوند بغور پڑھا ہے اور اس وقت بھی وہ میرے سامنے ہے اس میں شک نہیں کہ اس کے دیکھنے سے پہلی بات جو ہر شخص پر مہر نہروز کی طرح ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہایت نیک نیتی اور اخلاص سے لکھا گیا ہے اس کے ہر ہر فقرہ اور جملہ سے اس کے مصنف کا اخلاص اور اسلامی ہمدردی پتختی ہے اور اس کی بناء اعلا، حکمة اللہ کے سوا کچھ معلوم نہیں ہوتی۔ دوسرا سے اس میں صرف اس امر کو ثابت کیا ہے کہ مرزا قادریانی نے جو نبوت کا اذ عا کیا ہے اس کی تصدیق اور تکذیب میں ہمیں کسی خارجی دلائل پر نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مرزا قادریانی خود ہی اپنی زبان اپنے قلم سے آپ ہی مکذب ہیں اور اپنے ہی کلام سے خود علی روؤں الا شہاد منادی کر رہے ہیں کہ میرا یہ دعویٰ غلط ہے اور میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں اب جبکہ مرزا قادریانی کو خود اپنے اس دعویٰ نبوت پر ایمان اور یقین نہیں تو افسوس ہے ان لوگوں کی فہم اور ایمان پر جوان پر ایمان لائے ہیں اور ان کے اس دعوے کی تصدیق کرتے ہیں۔

پہلی بات کہ مرزا قادریانی نے اذ عانبوت کیا ہے ان کی کتابوں اور رسالوں سے ایسی ثابت ہے جس میں کوئی تردید و شبہ نہیں اور جس کو اس میں شک ہو وہ صحیفہ نمبر ۶، کو دیکھئے، رہا دوسرا امر یعنی مرزا قادریانی خود ہی اپنے کلام سے اپنے مکذب ہیں اور جھوٹے نہ ہوتے ہیں اور اس سے ثابت ہے کہ مرزا قادریانی نے منکوحہ آسمانی کی پیشگوئی کی اور اسے اپنی صداقت کا اتنا بڑا جھنڈا بنا یا کہ جس کا سر عرش معلیٰ تک ہے لیکن پیشگوئی پوری نہ ہوئی اور جھوٹی نکلی، تو اب اپنے

ہی قول سے مرزا قادیانی کا ذب بھبرے۔ یہ دو باتیں ایسیں ہیں جو فیصلہ آسمانی میں اس طور سے ثابت ہیں کہ اس کے دیکھنے کے بعد ان میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ اور ان کا یقین ہو جاتا ہے اور ان کی صحت اور واقعیت اظہر میں اشتمس ہو جاتی ہے اب جو شخص واقعات اور امور حق کی خلافت کرے اور ان کو جھٹلائے وہ سو اس کے کچھ نہیں کہ اپنی اندر وہی تاریکی پر روشی ذات ہے اور اپنے لئے ایک مضبوط شہادت قائم کرتا ہے۔ مثلاً اقلیدیس نے ثابت کیا ہے کہ مشکل کے دو ضلعوں کا مجموعہ تیرے ضلع سے بھیش زیادہ ہو گا اور کبھی مشکل کا تباہ ایک ضلع دو ضلعوں سے نہیں بڑھ سکتا، یادو اور دو چار نہیں ہوتے تو ایسے دعوے کرنے والے کے متعلق قبل اس کے کہ اس کی دلیل پر غور کریں کیا رائے قائم کی جائے گی اور اہل علم اور صاحب فہم اس کو کیا سمجھیں گے؟۔ ایسے ہی فیصلہ آسمانی کا جو کہ اپنے نام کی طرح واقعی آسمانی فیصلہ ہے۔  
الاسماء تننزل من السماء مشہور بات ہے اگر وہی جواب دے اور اس کی خلافت کرے تو اس کو بھی عقلاً عدماً اسی کے پہلو پہلو بھائیں گے جو مشکل کے تباہ ایک ضلع کو دو سے بڑا کہے یادو اور دو کے مجموعہ کو چار نہ کہے۔ اسی لئے مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ عبدالماجد قادیانی موصوف فیصلہ کا جواب لکھ رہے ہیں تو اس یقین کو جوان کے تبدیل مذہب سے مجھے ہوا تھا اور زیادہ مدد ملی اور اب یہ سمجھا کہ خدا خیر کرے مرض لاغلاق ہے کیونکہ دو ایسیں نہیں بلکہ مرکب ہے۔

.....  
مونگیر میں اہل حق نے قادیانی جماعت کو مسجد واقع دلادر پور سے اس بناء پر روکا کہ وہ اپنے امام ساتھوں ایک جدادجیہ جماعت قائم رہنا چاہتے تھے قادیانی جماعت نے اپنے استقری ارجمند کا استغایش عدالت میں واپسیا۔ مستغیث کی طرف عبدالماجد قادیانی موصوف بھی گواہوں میں تشریف فرمائے۔

اب یہاں چند باتیں تقابل توجہ ہیں۔ اول تو یہ مائن کل عدالت میں گواہ یہاں تک اپنی صداقت اور راست گفتاری سے کام لے سکتا ہے اور ایک نامہ راست باز اس منصب کے لئے کس درجہ کا استحقاق رکھتا ہے اور کیا علامہ کامیکی کام ہے کہ وہ حال کی عدالتوں میں گواہی دیا کریں؟۔ دوسرے یہ کہ اس مقدمہ میں عبدالماجد قادیانی کو یہ خیال کرنا ہے تمہن ضروری تھا کہ ان کی گواہی کیا ضرورت ہے اور مقدمہ کے متعلق وہ کیا شہادت دے سکتے ہیں میں نے خود بھی جماعت سے کہا کہ اس مقدمہ میں گواہی شہادت کی ضرورت نہیں بلکہ مضر ہے۔ مگر عبدالماجد قادیانی نے اسے نہ سمجھا اور گواہی دیکر پناہ بنا لیا تھا بھی کھو دیا۔ اسی لئے اہل حق نے اپنی طرف

تے سن عالمہ وادی میں پیش نہیں آیا اور ان کے ملائے فرمایا کہ مسائل کے لئے کتابیں بہتر گواہ ہیں۔ مسائل کے سوا اس متدہ میں نام رے بیان سے وہی تعلق نہیں ہے۔ اس واقعہ سے علم کے بعد عبد الماجد قادیانی کی فہم اور اسے پر بھی کامل و شنیدنی تھے۔ کمالات علمیہ کے سوا ماشاء اللہ موصوف برے معاملہ فہم اور اسی بوس اور فہمید ہیں۔

### بریں عقل و دانش بباید گریست

فیصلہ آسمانی کے جواب میں جب القا شائع ہوا اور میں نے اسے دیکھا تو ۳..... معلوم ہوا کہ اس کی اشاعت سے غرض صرف عوام کا فریب ہے اور ان کو یہ دکھانا ہے کہ ہم بھی پانچ یہ سواروں میں ہیں۔ ورنہ حقیقت میں فیصلہ کا جواب دینا تو کارے دارو۔ اس کے مطالب کا مون عبد الماجد قادیانی کے پرواز فہمی سے نہیں بالاتر ہے اور سبقتاً پڑھنے سے بھی مرحلہ کے طے و نہ کی امیہ و بھم کی حد، سے آئے نہیں بڑھتی۔ اسی بناء پر بذریعہ اعلان حکایت یہ چاہا گیا کہ عبد الماجد قادیانی حکم مقرر کے زبانی اس فیصلہ کا جواب اس میں ہے یا نہیں؟ غرض اس سے صرف یہ ہے کہ یہ راز سربست منظر عام میں روپنا ہو۔ مگر یہاں تو موصوف نے بڑی دو راندہ نہیں سے کام لیا اور سامنے آنے کی بہت نہ کی۔ اور یہ فرمایا کہ ہم بھی اس کے لئے اپنے شکر و موتمر کریں گے ابلحق نے اسے بھی تسلیم کیا اور کہا کہ جمیں اس میں بھی عذر نہیں کر آپ کا شاگرد ہی اس کا فیصلہ کرے لیکن مشکل تو یہ ہے۔ آج تک آپ نے اسی و تمام کتب دریہ پر تاکر سندھ عظیم مانی بھی ہے یا نہیں؟۔

### قابلِ رحم بے اس شخص کی رسولی بھی

پردے پردے ہی میں بخخت جو سوا بوجا

جب دیکھا گیا کہ عبد الماجد قادیانی اور شاگرد صاحب دونوں سامنے نہیں آتے تو میر فیض علی صاحب صندل پوری کو اس پر آمادہ یا گیا کہ وہ قادیانی موصوف کی دعوت کریں اور اس میں عبد الماجد قادیانی اور میر صاحب اور ایک شخص اہل حق سے ہو اور ان کے سوا کوئی اور نہ ہو اور پھر وہاں عبد الماجد قادیانی سے اس میں آنٹنگو ہو۔ چنانچہ میر صاحب نے قادیانی موصوف کی دعوت کی اور اس نے اسے قبول کیا اور آندہ ہفتہ میں آنے کا وعدہ کیا اور حسب وعدہ آئندہ ہفتہ میں خوش خوش ٹھیک وقت متبرہ پر عبد الماجد قادیانی بھاگپور سے مولیٰ یعنی اور یہاں پہنچ کر اسی طرح نے اس کا پیغام عبد الماجد قادیانی و پیاس گیا کہ میر صاحب کے یہاں یہ شخص کھانے کی ہی

دعوت نہیں ہے بلکہ سربست راز کے تجھیلے نگرہ کشمائی کی تقریب بھی ہے اور القاء کے صفات میں فیصلہ کے انوار کو جس سیاہ چادر سے چھپا کر عوام کو فریب دیا گیا ہے آج آفتاب صداقت کے طلوع سے وہ صحیح کاذب کی طرح حق کی روشنی سے پاش پاش ہو جائے گی۔ پس اب تو خمن تھا پر بھلی گرنگی اور خوشی اور صرفت کی جگہ پر افسردوں اور ناکامی نے پنا قبضہ جمایا۔ اور فوراً ہی عبدالماجد قادریانی نے بذریعہ رقعد میر صاحب کو اطلاع دی کہ اگر آپ مجھ سے کچھ نصائح سننا منتظر ہوں تو خیر! اور نہ اگر مناظرہ مقصود ہے تو میں آپ کے یہاں نہیں آ سکتا اور اس طرح سے وہ سربست راز کا تھیلہ محفوظ بچا کرو اپس لے گئے۔

کہہ رہی ہے حشر میں وہ آنکھ شرمائی ہوئی  
اس بھری محفل میں کیسی بائے رسولی ہوئی

مقدمہ مسجد کے دوران میں وکیل عبدالمجید صاحب اور قاضی ابوظفر صاحب کے رو برو کہا گیا کہ آج عبدالماجد قادریانی بھی یہاں موجود ہیں۔ بہتر ہو کر زبانی گفتگو سے فیصلہ کر لیا جائے۔ حکیم محمد خلیل صاحب نے اول تو منع کیا مگر کچھ دیر بعد عبدالماجد قادریانی راضی ہو گئے اور قاضی صاحب کے مکان پر شام کو گفتگو قرار پائی لیکن عبدالماجد قادریانی شام کے قبل ہی چار بجے بھاگلوں روانہ ہو گئے اور اس کے بعد پھر آخر مقدمہ تک عبدالماجد قادریانی عدالت میں نظر نہ آئے حالانکہ اس کے بعد بہت روز تک مقدمہ رہا اور اس کے قبل ہر پیشی پر عبدالماجد قادریانی عدالت میں نظر آتے تھے۔ کیا ناظرین ان حالات پر واقفیت کے بعد بھی عبدالماجد قادریانی کے فعل و کمال فہم و فراست سے روشنائی نہ ہوگی۔ نہیں نہیں ضرور ہوگی بقول حافظ شیرازی۔

نهان کے ماند آر رازے کزو سازند محفلها

مگر یاد رہے کہ عبدالماجد قادریانی اگر فیصلہ کا جواب نہ دیتے تو شاید کچھ روز یہ پہلی اور نہ حل ہوتی مگر تھی۔

چوں خدا خوابد کہ پردہ کس درد  
میلش اندر طعنہ پاکان برد  
الحاصل جب یہ یقین ہو گیا کہ عبدالماجد قادریانی کبھی سامنے ہو کر درد بد و فیصلہ نہ کریں  
گے اور خفیہ راز کا پردہ فاش نہ ہونے دیں گے اس لئے مجبور پھر ہمیں کافی صفات کی طرف  
رجوع کرنا پڑا اور اسی کے ذریعے سے عبدالماجد قادریانی کے ان مضامین کو جوالقا میں لکھے گئے ہیں

داد دینی پڑی۔ یہاں اول یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ محروم، رکا تب کے لئے یہ لازمی ہے کہ اس کا  
الملاء صحیح ہو۔ اس کی تحریر اور انشائیں بد نہاد غیرہ ہو۔ اعلا، کی صحبت یا انسی شنے ہے کہ ہر کا تب کے  
لئے یہ پہلی منزل ہے جس میں الاء کی صحبت نہ ہو وہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ معمولی روزمرہ کا کام خط  
و کتابت بھی کر سکے۔ فن تحریر میں اول بچوں کو الاء کی صحبت بتائی جاتی ہے اس کے بعد مصنف پر  
خصوصاً اس شخص کے لئے جو کسی کا جواب دینا چاہئے۔ دو باقی میں ضروری ہیں۔

اول ایک جس کا جواب دے اس کے کلام کو سمجھئے اور اس کی غرض اور مقصد پر مطلع ہو،  
تاکہ خود غلطی میں نہ پڑے۔

دوسرے ایک دعوے اور دلیل میں فرق کرے اور دلیل کا معیار سمجھئے کہ دلیل کو دعوے  
پر انطباق تمام ہے یا نہیں اور اس کو تسلیم ہے یا نہیں۔

تیسرا ایک اپنے بلغ استعداد اور جس کے مقابلہ میں لکھی یا جس مسئلہ پر بحث  
کرے اس میں موازن لرے اور ان تمام سے مقدم یہ ہے کہ فہم کی استقامت اور طبیعت کی سلامتی  
سے آراستہ ہو۔ القاء، ربائی کے دیکھتے ہے جو اس کے لائق مصنف کی بابت ہر منصف ذی علم  
پر روشن میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام امور مذکورہ بالاست مصنف عبد الماجد قادریانی موصوف  
معز اہے اور ان کی جگہ ان کے اندادوں نے لی ہے۔ ان احساف کے نہ ہونے سے قلم کا سافر  
اپنی حرکت میں اس سطح پر جس قد رخواکریں کھا سکتا ہے مصنف مذکور و پونکہ وہ تمام رخواکریں لگی ہیں  
اور اس منزل کی حدود سے ایک انجی بھی اس نے نہیں کیا بلکہ رخواکروں کی کثرت نے اسے  
اوندھا گرایا ہے اس لئے اس الدل سے اسے کان تو ناممکن ہو گیا ہے۔ باں اس کے پھیلنے اور  
اوندھا گرنے کے موقع و وسایا اور راہ پر مشتمل ہدایت رکھ دینا ممکن تھا۔ اس لئے میں چاہتا ہوں  
کہ اس کی رخواکر اور پھیلنے کی جگہ کو دیکھاؤں تکر پونکہ ہر بحث میں ان کی تعداد بہت ہے اس لئے  
ناظرین کی سیبولت کے لئے اور نیز عبد الماجد قادریانی کے غور و خونش کے لئے یہ بہتر سمجھا کہ القاء کی  
ہر ہر بحث کو علیحدہ علیحدہ دلخواہیں ورنہ تمام کو ایک بار، حاصل ہے میں کتاب بہت بڑھ جائے گی جس  
کے دیکھنے میں وقت کا بڑا حصہ صرف کرنا ہو گا۔

مولوی عبد الماجد قادریانی نے اپنی کتاب القاء میں فیصلہ آسمانی کے مضامین کو تین  
اعتراضوں پر منقسم کیا ہے اس میں سے پہلے اعتراض کو خمنی قرار دے کہ اس میں گیارہ غلطی گنانی  
ہیں۔ اب میں یہاں ان کی پہلی ہی غلطی سے شروع کرتا ہوں اور مولوی قادریانی سے نہایت ادب

سے کہتا ہوں کہ بندوں کا قصور معاف ہو، یہ غلط آپ کے فہم کی ہے جسے نافہی سے آپ دوسروں کے ذمہ عائد کرنا چاہتے ہیں۔ ”خود غلط بود آنچہ ماینڈ اشتیم“ اب آپ ذرا سنبھل جائیے اور گوش ہوش سے میری معروضات کو سنئے۔

اس پہلی غلطی میں مولوی عبدالماجد قادریانی نے جس قدر رخوکریں کھائی ہیں نہایت اختصار سے وہ موقع دھکھلاتا ہوں۔

### مولوی عبدالماجد قادریانی کو پہلی ٹھوکر املاء میں

اول! میں یہاں ایک ایسا قاعدہ بیان کرتا ہوں جس سے عربی مدارس کے ابتدائی جماعت کے طالب علم بھی واقف ہیں اور وہ یہ کہ مخفی اسم مفعول ہے تدقیقی سے جو مصدر ہے باب تفعیل کا جیسے تصلیب سے مصلحتی تزکیہ نے مزکی تخلیہ ہے مغلی لیکن مولوی عبدالماجد قادریانی نے مخفی کو مقصہ ہائے ہوزت سے لکھا ہے۔ یہاں میں ان کی بعینہ عبارت نقل کرتا ہوں۔ ملاحظہ ہو صفحہ ۹ سطر ۱۲۰ القائے ربانی (اعجازِ امسک) میں جس طرح متفہ اور مجمع عبارت ہے اس سے مدرج السالکین کو تو کوئی تعلق ہی نہیں) یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مولوی قادریانی کے نزدیک عبارت کے مخفی اور مسجعی ہونے کو بھی کلام کی خوبی اور اعجاز میں دخل ہے۔ حالانکہ محض متفہ ہونا کوئی عدمگی نہیں بلکہ آنحضرت ﷺ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ حدیث مثل ذلك یطل ملاحظہ ہو۔

اب جس شخص کا علمی معیار یہ ہو کہ اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ لفظ مخفی ہے یا مقصہ جس کو فارسی و انگریزی جانتے ہیں۔ اور قرآن خوان بھی سمجھتا ہے افسوس ہے اس کی فرست پر کہ وہ علمائے کرام کے سامنے کہنے کی جرأت کرے اور اپنی حالت پر نہ شرمائے۔ ہم عبدالماجد قادریانی مولوی سے دریافت کرتے ہیں کہ مخفی کیا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں اور اس کا کس لفظ سے اشتقاق ہے؟۔ اگر آپ اسی کو بتا دیں تو اس سے آپ کی علیمت کا پتہ اور قابلیت کا انکشاف ہو جائے گا اور یہ توہارے درجہ کا جواب معمولی ہے کہ کاتب کی غلطی ہے لیکن اہل فہم اس سے بخوبی واقف ہیں کہ ایسے موقع میں غریب کاتب کی کہاں تک دست رہی ہو سکتی ہے۔ مگر باں قادریانی مولوی نے اپنے ہاتھ کا مسودہ جس سے کاتب نے نقل لی ہے۔ دھکھائیں اور وہ کاتب غلطی کی تصدیق کرے تو اس وقت غریب کاتب ہی قابل نفرین ہو گا یہاں مولوی قادریانی نے حقیقت میں چار غلطیاں کی ہیں۔

اول علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ کی تفسیر کی عبارت کی فصاحت اور بلا غلط کو نہیں

سمجھے اور اس کی خوبی اور عمدگی سے جاہل رہے اور اپنی اس جبل کو علم سمجھا  
 ۲ ..... دوسری مرزا قاچوہانی کی عامینہ عبارت کو فضیح و بلیغ سمجھے حالانکہ اسے  
 فصاحت و بлагوت سے کوئی تعلق نہیں اسے جبل علم خوب سمجھتے ہیں۔  
 ۳ ..... تیری متفہی اور مسخنگ ہونے کو بlagوت اور فصاحت کا معیار سمجھا حالانکہ اس کو  
 فصاحت سے کچھ تعلق نہیں۔  
 ۴ ..... متفہی کا الاء غلط لکھا۔  
 قادیانی عبدالماجد یہاں مجھے آپ سے یہ بھی دریافت کرنا ہے کہ کسی جاہل کی جہالت  
 کا پردہ فاش کرنا بھی علمی اعتراض ہو گایا نہیں۔

۵ ..... مولوی عبدالماجد قادیانی کو دوسری ٹھوکر الفاظ کی ترکیب میں  
 قادیانی مولوی فرماتے ہیں کہ اس وقت اس کے مجرمانہ دعوے کو..... اخ! (القاء ربانی  
 ص ۸) کیا مولوی صاحب دعویٰ خود مجرم ہے جیسا کہ آپ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے یا اعجاز کا  
 دعویٰ ہے؟۔ مگر غالباً آپ کے نزدیک تو مجرمانہ دعویٰ اور دعویٰ اعجاز میں کچھ فرق ہی نہیں ہو گا اور نہ  
 مجرمانہ دعوے کا لفظ آپ کے قلم سے نہ لکھتا اس امتیاز و فرق کے لئے تو فہم کی ضرورت ہے اور اس  
 کے ساتھ تھوڑا اس اعلیٰ بھی درکار ہے خدا کی قدرت ہے کہ جس شخص کے علمی پایہ کا یہار اس قدر روزش  
 ہے کہ مجرمانہ دعوے اور دعویٰ اعجاز اس کی روشنی میں ایک نظر آتی ہیں وہ فیصلہ آسمانی کا جواب لکھے؟  
 اور یہ کہے کہ اس میں کوئی نیا علمی اعتراض نہیں ہے جب اس روشنی میں یہ تیزی اور صفائی ہے کہ  
 الفاظ کے معنی کا امتیاز نہیں رہتا تو پھر اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ فیصلہ آسمانی میں نیا علمی  
 اعتراض نظر نہ آئے؟۔

۶ ..... مولوی عبدالماجد قادیانی کو تیری ٹھوکر اسی وادی میں  
 قادیانی مولوی لکھتے ہیں۔ (مدارج السالکین محدثین کے اصول بیان و طرز بحث پر  
 ایک کتاب ہے) (القاء ربانی ص ۹) ناظرین بانصاف کیا مدارج السالکین میں محدثین کے بیان و  
 بحث کے اصول و قواعد کو لکھا ہے کہ ان کا بیان اور بحث کن کن اصول کے تحت میں ہوتا ہے۔  
 افسوس ہے کہ جو شخص اپنے مافی الصیر کے ادا پر بھی قادر نہ ہو اور جو خود کہے اسے بھی نہ

صحیح وہ اہل مم کے مقابلہ میں آنے سے نہ شامائے اب جس شخص کا اماماء غلط ہو الفاظ غلط ہوں نہ لکھنا جانے نہ بولنا وہ نیا علمی اعتراض کیا صحیح ہے کا؟۔

## ۴..... چوتھی ٹھوکر مسلک محمد شین

قادیانی مولوی تکھتے ہیں (اکثر مسائل بر طبق مسلک محمد شین) (اقالی ربانی ص ۹) ناظرین؛ را اس جملہ کو ملاحظہ فرمائیں کہ یہ فارسی ہے۔ یا عربی یا اردو ہے یا ترکی؟۔

اے صاحب آپ تو کتاب اردو میں لکھ رہے ہیں۔ اردو، لکھتے تکھتے بر طبق مسلک محمد شین پر کہاں پہنچ گئے؟۔ اسی بناء پر نئے علمی اعتراض کی تلاش ہے انہی اردو لکھتا سکتے پھر علمی نی اعتراض خود نظر آنے لگے گا۔

## ۵..... پانچویں ٹھوکر مطلب نہ سمجھنے سے

بھیں جماعت قادیانیہ سے عموماً اور مولوی قادیانی سے خصوصاً امید نہیں کہ وہ اصل بات کو سمجھیں اگر وہ سمجھتے اور راستی انصاف کے حکام لیتے تو آج وہ قادیانی نہ ہوتے، خاص کر آسمانی فیصلہ کے بعد تو وہ ضرور علیحدہ ہو جاتے اور یلقی الشیطان فی امنیتہ کی نوبت نہ آتی لیکن عام مسلمانوں کی واقفیت اور انصاف پرستوں کے لئے پہلے میں یہاں فیصلہ آسمانی کے مطلب کو لکھتا ہوں جس سے ناظرین خود فیصلہ کریں گے کہ مولوی صاحب نے فیصلہ کو سمجھا ہے یا نہیں؛ اصل یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے یہ یہو کے کیا ہے کہ اعجاز است اور اعجاز احمدی مججز ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ان دنوں کے مجزوہ ہونے کے بھی معنی میں کہ یہ دنوں کلام مججز ہیں۔ دیکھو، آن کی نسبت مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا مجزوہ ہے اور خود قرآن نے بھی یہ بھوئی کیا ہے تھا۔

مطلب بھی یہی ہے کہ قرآن کلام مجزوہ ہے اور کلام مجزوہ یہ معنی ہیں کہ آن کام میں اسے بلاغت سے مرتبہ کی جو کہ انسانی طاقت سے بلاستہ اور کوئی انسان ایسے بلیغ کلام پر قادر نہ ہوا وہ مجدد، فیاض نے انسانوں میں جو ملکہ اور قوت و دیعت کیا ہے وہ ایسے کلام کے ترتیب اور ترکیب سے عاجز ہوا اور یہ مرتبہ اس کی قوت سے باہر اور اعلیٰ ہو۔ چنانچہ کوئی اہل علم اس سے ناواقف نہیں عالمہ تنہاز ان مطول شرح تخلیص میں لکھتے ہیں۔ ”وهو ان يرتفقى الكلام فى بلاغته الى ان يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته“ یعنی کلام کا اعجاز یہ ہے کہ اس کی بلاغت اس وجہ کی ہو جو انسانی طاقت سے باہر ہو۔ اب مرزا قادیانی کا ان دنوں کتابوں کو اعجاز کہنے اس کے

یہی معنی ہے کہ یہ دونوں کلام اپنی بلاغت میں اس درجہ پر ہیں کہ فطرت انسانی اس کے مقابلہ سے عاجز ہے اور یہ ان کی طاقت سے باہر ہے جس طرح سے قرآن پاک مجذب ہے اس کے بھی یہی معنی ہیں کہ ایسا کلام انسان کی مجال نہیں کہ بنائے اور ہر اہل علم اس سے بھی ناواقف نہیں کہ کلام کی بلاغت میں یہ بھی مجملہ اور باتوں کے لازمی ہے کہ اس میں صرفی، نحوی، اور لغت اور اصطلاحات کی انگلاط نہ ہوں۔ جس کلام میں صرفی غلطی ہو یا نحوی ہو لغت کی ہو۔ یا اصطلاحات کی ہو وہ کلام بلیغ بھی نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ مجذب ہون۔ اس جگہ غالباً مجھے یہ ظاہر کر دینا بھی نامناسب نہیں ہو گا کہ مرزا قادر یانی کے ان دونوں رسالوں میں ان تمام قسم کی غلطیاں کثرت سے ہیں اور علماء نے خود مرزا قادر یانی کو بھی اس سے مطلع کیا تھا اور ”ابطال اعجاز مرزا“، جو چھپا ہے اسے ناظرین ملاحظہ فرمائیں اور پھر ہمارے اس دعوے کو ذکریں اور معلوم ہو گا کہ مرزا قادر یانی نے یہ محض عوام کو فریب دیا ہے۔

الحاصل: مرزا قادر یانی نے ان دونوں کے اعجاز کا دعوے تو کیا لیکن اپنے اس دعویٰ پر کوئی دلیل نہیں بیان کی اور نہ آج تک کسی قادر یانی نے اس دعوے کو دلیل سے منور کیا۔ اس وقت تک یہ دعویٰ محض تاریکی میں ہے اور یہ نہایت موئی اور کھلی ہوئی بات ہے جس کو ہر شخص جانتا ہے کہ محض دعوئی قبل ساعت نہیں تا وقٹیکہ شہادت سے اسے ثابت نہ کیا جائے اور اسی لئے ہر طالب حق کو یہ استحقاق ہے کہ وہ مدعا سے اس کے دعوے پر دلیل کا مطالبہ کرے۔ اسی لئے فیصلہ آسمانی میں مرزا قادر یانی کے اس دعوئی پر دلیل کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ میں یہاں فیصلہ آسمانی سے اس کی بعینہ عبارت نقل کرتا ہوں جس سے ناظرین کو ہمارے اس بیان کی تصدیق ہو گی۔ اور اس کا پتہ چلے گا کہ قادر یانی مولوی افسوس ہے کہ اردو ہی نہیں سمجھتے فیصلہ آسمانی حصہ دوم صفحہ ۷ کی سطر دوم میں ہے (ایک اور حیرت یہ ہے کہ دو کتابیں مرزا قادر یانی نے لکھی ہیں ایک کا نام اعجاز آشیق اور دوسری کا نام اعجاز احمدی ہے۔ ان دونوں رسالوں کو مجذبہ مانا جاتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے خیال میں ان کے مضامین ایسے عالی اور مفید خلائق ہیں کہ دوسرے عالم لکھنے میں سکتا یا اس کی عبارت ایسی فصح و بلیغ ہے کہ دوسرے ادیب نہیں لکھ سکتا یا دونوں باتیں ہیں) صاحبو! یہ عبارت نہایت صاف اور واضح ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ان دونوں کا اعجاز روشن اور ظاہر تو نہیں ہے جس کو مان لیا جائے۔ بلکہ یہ دعوئی بیان کا محتاج ہے اور جبکہ یہاں عام مجذبہ میں بحث نہیں ہے بلکہ خاص مجذبہ میں گفتگو ہے۔ یعنی اس کلام میں جو مجذبہ ہے اور جس کے اعجاز کا دعوئی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ کلام مجذبہ ہی ہو سکتا ہے جو انسانی طاقت سے بالا ہو۔ تو ان رسالوں کے مجذبہ نے کہ بھی یہی معنی ہوں گے

کہ ایسا لکھنا انسانی طاقت سے باہر ہے ورنہ مجھ نہیں ہو سکتے۔ اسی لئے فیصلہ میں اس کا مطالبہ کیا گیا کہ ان کی وجہ اعجاز کو بیان کرنا ضروری ہے اور اسی کے ضمن میں اس دعوے کے نظری ہونے کی تائید میں یہ بھی کہا گیا کہ ان میں اعجاز بخلاف مضاہیں ہے اور نہ بخلاف عبارت کیونکہ مدارج السالیین اور اعجاز البیان کیا، بخلاف مضاہیں اور کیا بخلاف عبارت دونوں اعتبار سے ان دونوں سے نہیں ہیں بلکہ اہل علم و فضل کی نگاہ میں مرزا قادیانی کے رسائل بدر جہا گھٹھیا ہیں۔ پھر ایسی حالت میں مرزا قادیانی کا دعویٰ اعجاز بہت زیادہ محتاج بیان ہو جاتا ہے اور اس قابل نہیں کہ بلا دلیل اس کو مان لیا جائے۔ اب مرزا قادیانی یا کسی قادیانی کا یہ کہنا کہ رسائل اس زمانہ کے علماء کے مقابلہ میں لکھے گئے ہیں اور ایک وقت معین تک اس کا اعجاز ہے۔ یہ بات اگرچہ عوام اور ناواقفوں کے دام میں لانے کے لئے گوپکھ کام آؤے مگر اہل علم کے سامنے وہی کہہ سکتا ہے جو آنکھوں پر پٹی باندھ لے یا خود جاہل ہو۔ ورنہ اگر کسی قادیانی میں غیرت و شرم ہے تو وہ دکھلانے کے کسی نے بھی کلام مجھ کے یہ معنی بیان کئے ہیں جو قادیانی جماعت کہتی ہے اور اگر کلام مجھ کے یہ معنی جماعت قادیانی کی خود من گھڑت اور ان کے اپنے دماغ کا نتیجہ ہے تو اس میں ہمیں کلام نہیں؛ جیسے کسی نے اپنی مرغی کا نام نور جہاں بیگم رکھ لیا تھا تو کیا فی الحقيقة وہ نور جہاں بیگم ہو گئی؟۔ علاوه اس کے ہندوستان کے علماء میں مرزا قادیانی کا لکھنا اور ان سے اس کی مثل عبارت طلب کرنا یہ بھی ایک بڑا فریب ہے۔ اس لئے کہ ہندوستان کے علماء اہل زبان نہیں دوسرا مرزا قادیانی جانتے تھے کہ اب ہندوستان میں وہ علماء نہیں جنہیں ادب میں کمال ہو۔ تیسرے مرزا قادیانی یہ بھی سمجھتے تھے کہ جو وہ چار علماء میں اویب اور فہمیدہ ہیں تو ایسی مزخرف عبارت کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان سب سے زیادہ امر یہ ہے کہ مرزا قادیانی اگر اہل زبان اور ایسے اہل کمال کے سامنے جو فصاحت و بلاعث میں کامل ہوتے ایسا دعویٰ کرتے جس طرح کہ قرآن نے اہل کمال کے رو برو ایسا دعویٰ نیا تھا تو البتہ قابل اعتبار تھا ورنہ یہ دعویٰ تو ایسا ہو گا جس طرح کوئی اعلیٰ درجہ کا عبارت نگار اردو کی عبارت لکھے اور گانوں والوں سے اس کا مثل چاہئے۔

مؤلف القاء جو یہ لکھتے ہیں کہ ”اس کے مجھ ہوئے“ لفظ یا ہے۔ ”محض نادقہی اور فون علمیہ سے بے خبری اور صحبت علماء سے محرومی کا باعث ہے۔ ورنہ یہ بات تو ادنیٰ ساطالب علم بھی سمجھتا ہے کہ منع دعویٰ کا نہیں کیا جاتا۔ یعنی تو مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ مجھ ہے پھر اس کو کس طرح منع کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسی دعویٰ کو بلا دلیل تسلیم کرنے والوں پر افسوس کیا ہے

اور اس دعویٰ کی دلیل طلب کی ہے۔

### ۶..... چھٹی ٹھوکر

سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے کوئی بات ذوق اس کی  
کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے

قادیانی مولوی آپ کو کیا ہو گیا ہے جب آپ کو اتنی بھی خبر نہیں کہ تنش اجمانی مدعا کے  
دعوے کی دلیل پر ہوتا ہے فیصلہ میں فرمائیے تو ہمی کہ کیا دعویٰ کیا گیا ہے اور پھر آپ کو ان دلیل  
قامم کی ہے؟ یا بلا دعویٰ، دلیل ہی آپ کا یہ تنش اجمانی (کہ اگر کوئی عیسائی یہ کہے کہ حضرت  
الخ! (القاء ربانی ص ۸)) جاری ہے عوام یا آپ کی جماعت جو کہ آپ کی طرح بھولی ہے میں ہے  
آپ کے اس وقت نظری اور دینی اور قابلیت کی داد دے تو دے مگر اہل علم کے ادایہ تو یہ  
ضرور مضمکہ خیز اور قابل جیاء ہے۔ شرم... شرم!

### ۷..... ساتویں ٹھوکر

قادیانی مولوی جی! یہ ضرور ہے کہ مجذہ سے خصوصاً کلام مجذہ سے جب ایسی شے جو  
کہ مجذہ نہیں یا کلام مجذہ نہیں بڑھ جائے تو اس سے لازمی یہ نتیجہ نکلا کہ یہ دعویٰ اعجاز باطل اور  
ابله فربی ہے۔ اس لئے کہ کلام مجذہ وہی ہو سکتا ہے جس پر انسان قادر نہ ہو اور جب کسی انسان کا  
کلام اس کلام سے جس کے مجذہ ہونے کا دعویٰ کیا جائے فائق ہو خواہ وہ کلام کسی وقت کا ہو تو ایسی  
حالت میں اس کو مجذہ کہنا یا مان لینا حقاً کام ہے۔ یا جناب والا کار، اب اس تسلیم کے بعد بھی  
کہ اعجاز اسکے اور اعجاز احمدی یہ دونوں رسائل عمدہ اور بہتر یہ اعجاز اسکے اور اعجاز احمدی کو کلام  
مجذہ تسلیم کر لینا بھی مرزا قادیانی کا اعجاز ہے کہ انہوں نے عقل و حواس کو معطل کر دیا اور  
عبدالماجد قادیانی سے منوالیا۔

### ۸..... آٹھویں ٹھوکر

عبدالماجد قادیانی جو القاء میں لکھتے ہیں کہ ”اگر کوئی عیسائی یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ  
السلام کا مردوں کو زندہ کرنا چڑیوں کو پیدا کرنا“ محمد رسول اللہ کے مجذہ سے بڑھ کر ہے۔“ (ص ۸  
سطرے) میں کہتا ہوں کہ عیسائیوں ہی سے تو آپ نے یہ اعتراض سیکھا ہے لیکن افسوس ہے کہ

اعتراض تو دیکھا لیکن علماء اسلام نے جواب کا جواب دیا ہے وہ نہ دیکھا تجھ بھے کہ اسلام کا دعویٰ اور کسر صلیب کا اذ عا۔ مگر دماغ میں عیسائی اعتراض بے ہوئے ہیں کیا اہل اسلام کی وہ کتابت میں جو عیسائیوں کے مقابلہ میں لکھی گئی ہیں، نہیں دیکھیں یا وہ جوابات سمجھ میں نہیں آئے۔ خیر آپ نے نہیں دیکھیں تو ہم سے سینے۔ اگر کوئی عیسائی ایسا کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مججزہ جناب سرور عالم کے مججزہ سے بڑھ کر ہے تو پہلے ہم اس سے کہیں گے کہ یہ تمہارا دعویٰ ہے اس کو دلیل سے ثابت کرو تو دوسرا یہ بھی بتلاوہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مججزہ رسول خدا کے تمام مججزات سے بڑھ کر ہے یا بعض سے۔ اگر بعض سے ہے تو پھر اس کو بیان کرنا چاہئے کہ آنحضرت کے وہ بعض مججزات کون ہیں جن سے یہ مججزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑھ کر ہے ہم تو کہتے ہیں کہ آنحضرت کے بعض مججزات ایسے ہیں جو آج تک کسی نبی سے نہیں ہوئے اور وہ تمام انبیاء کے مججزات سے بڑھے ہوئے ہیں۔ مثلاً آنحضرت کا یہ مججزہ کہ ایک جاہل اور ناتربیت یا فتنہ قوم کو آپ نے ایک نظر میں ایسا بنادیا کہ آج کل فلاں بھی ان کی تبلید کو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔

تمیرے! حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام مججزات اسی درجہ کے ہیں یا ان میں باہم کچھ فرق ہے اگر فرق ہے تو کیا وہ مججزہ جو افضل نہیں مججزہ نہیں؟ اور اگر تمام یکسان ہیں تو اسے ثابت کرو۔ چوتھے جماعت قادریانی سے ہم پوچھتے ہیں کہ مرزا قادریانی نے اپنے تمام مججزات کو ایک درجہ پر بتایا ہے یا کچھ فرق کیا ہے اور بعض کو نہیات ہی عظیم الشان کہا ہے۔

### خن شناس نہ دلبرا خطہ انجام است

سنوار سمجھو کہ ایک ہی نبی کے مججزات میں یادو نبیوں کے مججزات میں فرق سے مجزوہ کہ انکار کوئی ذی عقل تو نہیں کر سکتا۔ ہاں جماعت قادریانی کرے تو کرے کیا۔ انبیاء، میں فرق مراتب کیا جائے اور کہا جائے کہ فلاں نبی فلاں سے افضل ہے تو کیا جماعت قادریانی مفہموں نبی کی بہت سے انکار کرے گی؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ غیر نبی، نبی سے نہیں بڑھ سکتا اور اسی طرح غیر مججزہ، مججزہ سے نہیں بڑھ سکتا البتہ ابی زکلام میں اگر کوئی کام کسی مججز کام سے بڑھ جائے تو اسی کا انجاز بالطلس ہو جائے گا یہاں اس مججزے کو دوسرے مجزوں سے تشبیہ دینا غلط ہے۔

کہو اب بھی سمجھے یا نہیں اور اب تو نیا ایسا علمی اعتراض ہوا جو کہ آپ کے دماغ میں اس وقت تک نہیں آیا تھا۔ کیا آپ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ باہم مجزوں کی تفاصیل کو اس تفاصیل پر قیاس

صحیح نہیں جو کلام غیر مجزہ کو کلام مجزہ پر ہو۔ پھر یہ کس قدر فریب اور مغالطہ ہے کہ غیر مجزہ کلام کی فضیلہ ہے کلام سے اس کو دو مجزہوں کی باہمی فضیلت پر قیاس کیا جاتا ہے۔

”واعجباً من حلومة الجهل وشیوع الغواية فمن لم يجعل الله له

نوراً فماله من نور“

۹..... نویں ٹھوکر

قول ”مجزہ یا کرامت موجودہ زمانہ میں مخالفین کو عاجز کرنے اور خدائی نصرت اپنے ساتھ دکھانے کے لئے ہوتا ہے۔“ (القاء، ص ۸۸) مجزہ کے یہ معنی کہ جو موجودہ زمانہ میں مخالفین کو عاجز کرنے کے لئے صادر ہو جماعت قادر یا یانی کے یہاں ڈھالے گئے ہیں یا کسی دوسرے اہل علم نے بھی لکھے ہیں پہلی صورت میں وہی مرغی کی نور جہاں بیگم کا قصہ ہے اور دوسری صورت میں ضروری تھا کہ ائمہ فن اور علماء کے اقوال سے اسے ثابت کیا ہوتا۔ ورنہ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ عبدالماجد قادر یا یانی کے تمام افعال و اقوال مجزہ ہیں کیونکہ مجزہ وہی ہے جو عبدالماجد قادر یا یانی سے صادر ہو اب عبدالماجد کو بھی دعوے نبوت کرنا چاہئے اور مرزا ای جماعت کو اس کی تصدیق، یہ بھی تجب نہیں کہ آئندہ ایسا کریں۔

۱۰..... دسویں ٹھوکر

اگر آپ کی خاطر سے میں مجزہ کی وہ تعریف جو آپ کے فکر کا نتیجہ ہے مان بھی لوں اور تھوڑی دیر کے لئے امر واقعی کو چھوڑ بھی دوں تو ایسی حالت میں بھی کلام مجزہ تو اس میں داخل نہ ہو گا۔ کیونکہ کلام مجزہ کی حقیقت میں یہ معتبر ہے کہ انسانی قوت سے بالا ہو تو پھر گزشتہ اور آئندہ اور موجودہ زمانہ میں کوئی انسان اس کے مثل بھی نہیں لاسکتا۔ چہ جانیکہ اس سے بہتر؟ ورنہ وہ کلام مجزہ نہ رہے گا کلام پاک کیونکہ کلام مجزہ ہے اسی لئے اس کی نسبت مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ کوئی کلام خواہ گزشتہ ہو یا موجودہ یا آئندہ اس کے مثل نہیں ہو سکتا اس طرح میں کہتا ہوں کہ مرزا قادر یا یانی کے یہ دونوں رسائل اگر کلام مجزہ ہوں تو پھر یہ ضروری ہے کہ کوئی کلام خواہ گزشتہ ہو یا آئندہ یا موجودہ اس کے مثل بھی نہ ہو۔ ورنہ کوئی کلام ان دونوں کے مثل ہو یا ان سے زیادہ ہو تو پھر مرزا قادر یا قادری سے رسائلے ایسے نہ ہوں گے جو قوت انسانی سے عالی ہوں اور جب عالی نہ ہوئے تو کلام مجزہ نہ پہونے یہاں بحث کلام مجزہ میں ہے نہ عام مجزہ میں افسوس ہے کہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ بحث کس امر

نہیں سبے اور میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بقول شخصی ”سوال از آسمان جواب از ریسمان“ ہے۔  
 ۱۱..... گر ہمیں مکتب ہمیں ملائے  
 کار طفال تمام خواہد شد  
 فما یئے یہ بھی کوئی جدید اعتراض ہوا یا نہیں۔

..... لیا رہویں ٹھوکر

قولہ کہ ”ابو احمد صاحب یا کوئی مخالف مولوی صاحب معیاد مقررہ کے اندر ایسی تفسیر لکھ کر پیش کر دیتے (القاب، صفحہ ۸) افسوس کہ مولوی صاحب کو ارد و لکھنا تک تو آتا نہیں پر اہل علم کے سامنے منہ کھولتے ہیں۔ نظر میں ملاحظہ فرمائیں کہ اس عبارت میں جو مخالف مولوی صاحب کا لفظ ہے اس کے کیا معنی ہیں۔ لفظ مخالف اگر لفظ مولوی کی طرف مضاف ہے تو معنی غلط اور اگر موصوف ہے تو عبارت غلط یوں کہنا تھا کہ مولوی صاحب مخالف۔

..... بارہویں ٹھوکر

ای میں بچ ہے دروغ درا حافظہ بنا شد۔ ابھی تو دو سطر قبل میں بتایا گیا ہے کہ (مجزہ موجودہ زمانہ میں مخالفین کو عاجز کرنے کے لئے صادر ہوتا ہے) اس میں تو نہیں کہا گیا کہ موجودہ زمانہ کے مخالفین کے عاجز کرنے کے لئے اس میں معیاد بھی مقرر کی جاتی ہے پھر یہ کس مقدمہ کا نتیجہ ہوا کہ مجزہ ان دعوے اسی وقت باطل ہوتا۔ جب معیاد مقررہ میں تفسیر پیش کی جاتی۔ کیا موجودہ زمانے کے مخالفین اگر بعد معیاد کے مجزہ کا مقابلہ کریں تو مجزہ ان دعوے باطل نہ ہوگا۔ پہلے تو آپ نے مجزہ میں معیاد کی قید نہیں کی۔ یہ قید اگنانا ہی تو اطلاق کا فریب ہے۔ اس لئے کہ معیاد ایسے مقرر کی کہ اس میں علماء کو لکھنا تو درکنار اطلاع ہونا بھی دشوار تھا اور حضرت اقدس ابو احمد صاحب کو تو برسوں اس کا علم ہی نہ ہوا۔ مگر ہاں آپ تمطلق العنان ہیں اس لئے آپ کو یہ کہنے کا حق ہے کہ اگر پہلے نہیں تو اب کرتا ہوں کیونکہ یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کرتب ہے۔

..... تیرہویں ٹھوکر

قولہ ”ناظرین حضرت مرزا صاحب نے صاف اسی اعجاز احمدی کے نائل بچ میں لکھا ہے۔ (القاب، ص ۸۔ طردا) ہاں قا، یا نی مولوی ہی کے ناظرین شاید اس اشارہ کنایہ کو سمجھتے ہوں۔ اور قادر یا نی مولوی ہی کے ناظرین اس راز و نیاز کو جانتے ہوں۔ ورنہ عبارت میں اگر کچھ مطلقاً بہرنا

تو نیز اپنا قادیانی مولوی بھی ناظرین کو خاص نہ کرتے جو عبارت عربی مرزا قادیانی کے پیچے سے نقل کی ہے اس کا حاصل صرف اسی قدر ہے کہ میرے اس رسالے سے ان لوگوں کے خیال کی غلطی ظاہر ہوتی ہے جو مجھے اور میری جماعت کو جاہل سمجھتے ہیں۔ اس عبارت کے قتل قادیانی مولوی نے چار باتیں بیان کی ہیں۔

۱..... فیصلہ کا مطلب۔

۲..... فیصلہ کے اس مقصد پر تقض اجمانی۔

۳..... مجزوں کی تعریف۔

۴..... یہ کہ معیاد مقررہ پر کوئی اُر تفہیہ پیش کرتا تو مرزا قادیانی کا مجززانہ دعویٰ باطل ہوتا۔

اب ذی ہوش و حواس سمجھیں کہ اس عربی کو ان چاروں باتوں میں سے کس سے تعلق ہے اور وہ کیا تعلق ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ پہلی دو باتوں سے تو اسے کچھ تعلق نہیں رہا تیرسا امر یعنی مجزہ کی تعریف اس سے بھی اسے کچھ تعلق نہیں ہے اور اسی طرح چوتھی بات کے اعتبار سے بھی یہ بے جوڑ ہے۔ ہاں شاید ناظرین ہی اسے کچھ سمجھتے ہوں مگر یہ امر اور دریافت طلب ہے کہ ناظرین مرزا قادیانی اسے سمجھیں گے یا ناظرین مولوی صاحب۔ ممکن ہے کہ قادیانی عبدالمajid کا مطلب اس عبارت کی نقل سے مرزا قادیانی کے کام مجزہ کا نمونہ دھلانا ہے اس لئے میں بھی اس کا اعجازی پرداز اٹھا کر منظر عام پر لاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ فی الحقیقت یہ اعجاز ہے یا مجزہ ہے۔

صاحب! اس ایک سطیری عبارت عربی میں مرزا قادیانی نے بلاغت و فصاحت کی وہ داد دی ہے کہ عرب کے بڑے بڑے نام آور فصحاً و بلغاً کی بھی روئے قبر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ سبحان اللہ کیا بلاغت ہے۔ اور اس کے گلے میں اعجاز کا بارکتا خوش نہما ہے کہ اہل فضل و کمال تو دیکھ کر عش عش کر جائیں؟ ہاں عبدالمajid قادیانی اگر مرزا قادیانی کے کام مجزہ کا یہی نمونہ ہے تو واقعی اب اس کے مجزہ ہونے میں کوئی کلام نہیں لیکن یہ خیال رہے کہ کام کے دو طرف ہیں اعلیٰ اور دوسرا ادنیٰ، یعنی وہ حد کہ اس سے کلام گرا ہوا ہو تو وہ یہی انسانی قوت سے باہر ہوا اور چرند پرند جانور وال کی داڑ ہو جس پر انسان قادر نہیں، تو مرزا قادیانی کی یہ عبارت اُرچے اعلیٰ طرف میں نقل۔ مجزہ نہیں جیسا کہ ابھی میں ظاہر کروں گا لیکن اس میں کسی ذی فہم علم کو کب کلام ہو سکتا ہے۔

لکی وہ کی لرف سے یہ عبارت نہ ورنکل بر مرتبہ اعجاز میں پہنچ گئی ہے اور اصوات حیوانات سے  
شناپ کمال حستی ہے۔

۱۲۔ ... مرزا قادیانی کے اعجازہ نمونہ

اس عبارت میں تین بیتے ہم میں ہیں۔

۱۳۔ الدین یجھلوانا

۲۔ لیس عندهم من علم

۳۔ ... بل عصبة من مفالیس (ایجاد س سائل خواہ ان ۱۸ ص ۱)

ان تینوں جملوں کا حاصل ایک ہے پھر محض مشق اور کاغذ سیاہ کرنے کے سوا ایک ہی  
بات کو تین بار کہنا بجز نہیں تو کیا ہے اگر کہا جائے کہ تاکید کے لئے ایسا کیا کیا تو ابل فہم سمجھتے ہیں کہ  
یہاں تاکید کا مقام نہیں کیونکہ جس مضمون کا رد یا جائے اس فی تاکید کے کیا معنی اور اگر نقل کلام  
ہے تو اس کھلا یعنے کہ مخالفین نے کہاں ان تین جملوں کا استعمال کیا ہے ملا وہ بریں تاکید کے لئے  
تکرار کافی تھا۔

۱۵۔ ... مرزا قادیانی کی دوسری غلطی

اس عبارت میں تمدید یجھلوانا، اخ! اور یقولون اخ! کے درمیان جملہ  
یصبعون کالا خلاف بالامت ہے کیونکہ پہلے دونوں جملے باہم مرتبہ ہیں اور درمیانی جملہ کو وہ  
ربط نہیں پھر جس شخص کو جملوں کی مناسبت کا بھی علم نہ ہوا وہ راضی کام میں اس کا لحاظ نہ رکھے تھے  
بے کرو، یہ نام موضوع کام کو مجھ سمجھے۔

۱۶۔ ... مرزا قادیانی کی تیسری غلطی

”لیس عندهم من علم شے“ سے ”لیس لهم من علم“ زیادہ صحیح اور  
بلیغ ہے کیونکہ یہ اس سے منقص ہے اور اُنہیں علم پر زیادہ دال ہے اور اسی لئے قرآن میں اسی کو  
اختیار کیا ہے۔

۱۷۔ ... مرزا قادیانی کی چوتھی غلطی

بل عصبة من مفالیس بجائے اضافت کے اظہار میں میں کوئی نفع نہیں ہاکہ یہ  
طول لا طائل ہے اسی لئے ادا با ایسے موقع میں من وظاہ نہیں ررتے اور محض اضافت ہی پر آئتا

کہرتے ہیں جو یہی نے کہا ہے۔ ”صلیت المغرب فی تفليس مع زمرة مفالیس“  
تابغہ کے شعر میں ہے ”عصابة طیر تهتدی بعصابیب“ اس و بتا کیں کہ من سے کیا  
بات ایسی پیدا ہوگی جو بل اس کے ناتمام رہتی؟۔

### ۱۸..... مرزا قادیانی کی پانچویں علٹی

لیس عندهم من علم بل عصبة من مفالیس میں بل کا استعمال صحیح نہیں  
کیونکہ بل اضراب کے لئے ہے اور بل کے بعد اُریندہ بوجیسا کہ یہاں ہے تو اس وقت بل سے  
مضمون سابق کا بطلہ ہوگا جس طرح ”ام یقولون به جنة بل جاءهم بالحق“ یہاں  
سے مضمون سابق یعنی جنون کی لفظی ہوگی۔ اس لئے اب مرزا قادیانی کے کلام کے یہ معنی ہوئے کہ  
وہ عالم ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کلام کس قدر مہمل ہے؟۔ بلکہ اس میں  
اجماع نقیضین ہے جیسے کوئی کہے کہ فاس مالدار ہے نہیں اس کے پاس مال نہیں ہے۔ یہی وہ  
اعجاز ہے جس پر مرزا قادیانی نے شور مجاہد کھاتے، اپنی حقیقتی سے باہر ہیں اور عبد الماجد قادیانی  
جیسے عقاوے نے اسے مان لیا ہے؟ مجھے ہے۔ ”ذالمرء لم یدرس من اللوم عرضه۔ هکل  
ردا، یرتدیه جميل“ مرزا قادیانی کی اس عبارت میں اور یعنی انداز میں لیکن طالعت کے خیال  
سے ابطو نمونہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں اگر عبد الماجد قادیانی کی طرف سے ہل من مزید کی صدا  
بلند ہوگی تو مجبوراً اس سے زیادہ خدمت کے لئے بھی ہم حاضر ہیں۔ اگر العاقل تکفیہ  
الاشارة سے قادیانی مولوی نے سبق لیا تو خیر وہ مرزا قادیانی پر بہت سی احسان کریں گے۔

### ۱۹..... انسیویں ٹھوکر

اس عبارت کے ترجمہ میں عبد الماجد قادیانی نے جوار و عبارت لکھی ہے اس سے ان  
کی عربی و اپنی پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ ”بریں عقل و دانش بباید گریست“ ایک سطری  
عربی عبارت کا اردو میں ترجمہ نہ ہو۔ کا اور عبارت بھی وہ جو عمومی ہے۔ جس میں کان لیکوں کے سوا  
کوئی افت نہیں، انداز نہیں، اسم موصول کا ترجمہ اسم اشارہ سے ترنا اور ان دونوں میں فرق نہ کرنا  
یا آپ کی قابلیت علمی کا کہلانا کہاں کی شان ہے۔ یہ صیغون التلبیس کا یہ ترجمہ (فریب) مگر  
سے باقتوں کو نگین کرتے ہیں) نہایت ہی صحیح ہے واقعی جب آپ کی قابلیت علمی کا بینارہ اس قدر  
مدد ہے تو مرزا قادیانی کا اعجاز اگر آپ کو نظر آئے تو اس میں کوئی تعجب خیز امر نہیں۔ لے و لا

الحقائق لخربت الدنيا!

۲۰ ..... بیسویں ٹھوکر

قولہ ”اور اس کی مانند انہیں ستر دنوں میں“ (القا، صفحہ ۸ سطر ۲۲) ہاں عبدالماجد قادریانی آپ نے اور نہ آپ کے مرزا قادریانی نے، یہ تو بتایا نہیں کہ مجرمانہ طاقت کوئی انہن کی بھاپ ہے یا گھری کی کوک ہے جو ستر دن کے بعد فتا ہو جائے گی۔ یا کھل جائے گی ایسی باتوں سے اگر چہ دل کے اندر ہے دام فریب میں پھنس جائیں۔ مگر کیا یہ شرم کی بات نہیں کہ ایسی بات کی جائے جو اپنی کمزوری اور تلبیس الہیں کا نہایت ہی عظیم الشان نشان ہو۔ کیا کوئی عاقل یہ کہہ سکتا ہے کہ مجرمانہ طاقت ستر دن کے بعد اور وہ بھی وہ ستر دن جن کو مرزا قادریانی نے تعین کیا ہو فتا ہو جاتی ہے۔ اے جماعت قادریانی ذرا شرم کرو اور خدا سے ذرا آخراً یک روز مرتا ہے اور خدا کے سامنے جانا ہے اور یاد رکھو کہ مجرمانہ طاقت کسی زمانہ اور موسم سے مقید نہیں زمانہ خواہ کتنا ہی گز رجائے اور کتنے ہی پلے کھائے۔ مگر مجرمانہ طاقت بدستور ویسی ہی رہے گی اور کوئی کسی وقت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ شرط ضرور ہے کہ وہ پچھے نبی کا ہو، نہ مرزا قادریانی کا۔

۲۱ ..... اکیسویں ٹھوکر

قولہ ”ناظرین با انصاف اگر ان دونوں کتابوں کو جو سینکڑوں برس قبل تصنیف ہوئی ہیں۔۔۔ اخ“ (القا، صفحہ ۹ سطر ۲) افسوس کہ سینکڑوں کا ملا، بھی معلوم نہیں کہ اس میں کاف کے پہلے دونوں نہیں۔ واقعی یہ مرزا قادریانی قادریانی کے کلام کا اعجاز ہے کہ اس سے عمدہ کلام ہونے پر بھی وہ نہیں شرما تا اور اپنی بے حیائی اور ڈھٹائی سے سامنے ڈٹا ہوا ہے کیا کلام مجرمہ کلام بھی کھلائے گا۔ جس کلام سے عمدہ اور بہتر انسان کا کلام ہو۔ عبدالماجد قادریانی اگر آپ خود سمجھ سکیں اور اتنی ہمت کریں تو تاریخِ المفتاح ہی کو دیکھئے ورنہ کسی اہل علم سے کلام مجرم کے معنی دریافت کیجئے کلام مجرم کے معنی اگر معلوم ہوتے تو پھر ضرور ان رسالوں کے عمدہ ہونے کے بعد اعجاز اُس کا دل آپ کو بھی نظر آ جاتا یہ محض ناواقفی سے آپ ایسا کہدی ہیں دیکھئے ہم نے پہلے ہی مطول سے کلام مجرم کے معنی لکھ دیے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے تاکہ عربی سخنے کی دقت بھی نہ رہے پھر اس پر بھی یہاں ٹھوکر کھانا اور سنجھا لئے سے بھی سیدحانہ ہونا موت کی علامت ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ قلبی حیات کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔

۲۲..... باہمیوں میں ٹھوکر

قولہ "اس اعجاز اس کے اعجاز میں جو مقابلہ ابو احمد صاحب اور دیگر علمائے مخالفین موجودہ سے لکھی گئی ..... اخ! "(القاء صفحہ ۸ صفحہ ۴) کلام میں کسی قوم یا گروہ کے اعتبار سے بھی اعجاز لیا جائے تو اس وقت ہر ایک کا کلام مجزہ ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ کوئی شخص مشق کے ذریعہ سے تحریر و تقریر کا ملکہ پیدا کرے اور پھر ایسے لوگوں کے مقابلہ میں جس میں یہ ملکہ نہیں اپنے اعجاز کا دعویٰ کرے تو کیا کوئی ذی شعور اسے اعجاز کہنے گا آج دنیا میں ہر زبان میں بہت سے کلام اور دیوان ایسے ہیں کہ بعض جماعتیں ان کے مقابلہ سے عاجز ہیں تو کیا یہ مجزہ ہو جائیں گے۔ نعمود بالله

من تلك الھفوٰت والخرافات!

۲۳..... تھیموں میں ٹھوکر

قولہ "دیکھنا ہے کہ ابو احمد صاحب اس کو کہاں تک تسلیم کرتے ہیں" (القاء صفحہ ۹ صفحہ ۱۲) انسانوں میں انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں غلطی اور خطاء بحوال چوک سے کوئی شخص بچا ہو نہیں۔ باں یہ ضرور ہے کہ کسی کی بھلائی اور صواب اس کی برائی اور خطاء پر غالب ہے اور کسی کی برائی اور خطاء اس کی صواب اور بھلائی پر حادی ہے۔ اب ایسی حالت میں کسی تمجھدار سے پہنچ ہو سکتا کہ ایک شخص کے کچھ اقوال یا افعال کو سراہتے تو پھر وہ اس کے تمام ہی اقوال و افعال و سراہے بلکہ منصف اور محقق کی یہ شان ہے کہ حق و باطل کے میزان پر انصاف سے ہر شے کو جانچے اور "فانظر الی ماقوال ولا تنظر الی من قال" پڑھ ل کرے۔ اب کسی محقق یا منصف سے یہ امید سراسر حماقت ہے کہ اس نے اگر ابن قیم اور صدور الدین کے ان دونوں رسالوں کو سراہا تو پھر وہ ان کے تمام اقوال و افعال کو بلا جانچے اور دیکھے سراہے یا ان کے تمام اساتذہ کے اور تمام خاندان کے اقوال و افعال اور کتابوں کو سراہا، یا کسی کے ایک قول کو رد کرے تو پھر اس کے تمام اقوال کو رد کرے اور اس کے تمام متعلقین کو رد کرے۔ یہ ملازمہ عقلی تو نہیں ہے ہاں قادر یا نہ ہوتا ہمیں علم نہیں غالباً عبد الماجد قادر یا نے یہ جو کچھ کہا ہے وہ جماعت قادر یا کے مسلک پر کہا ہے کیونکہ مرزا قادر یا کی پیشگوئی سے گودام میں لاکھوں من پیشین گوئیاں بیرون میں بھری ہوئی رکھی تھیں اور روزانہ بیڑاوں میں مشین میں ڈھلتی تھیں اتفاقاً بغلط بر بدف زندتیرے کے موافق اس انبارنا پیدا کنار میں ایک آدھے بھی برآمد ہو گی الکذوب قدی صدق جھونا کبھی بچ بھی بول دیتا ہے پس اس پر

جماعت قادریانیہ نے آنکھ بند کر کے تمام گودام کو بلا دیکھنے بھالے خرید لیا اور کھرا کھونا کچھ نہ دیکھا۔ پئسما اشتربوہ انفسہم! اور ایک کوکہ سر ابا تمام ہی کوسرہ لیا بلکہ مرزا قادریانی کے تمام متعلقین کی ہاتوں کوسرہ لیا اسی بناء پر عبدالماجد قادریانی اہل حق سے یہی امید رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ (اہن قیم اور صدر الدین کو غنیمت ہے کہ آج بہت سراتھے ہیں مگر کیا..... اخ! مولوی صاحب یہ آپ کا خیال خام ہے خدا اور رسول کے بعد ہر شخص کا قول قابل تقید ہے جو شریعت کے معیار پر صحیح ارجائے علی الرأس والعین ورنہ قابل رد۔ کیا حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کا مقولہ آپ کو یاد نہیں رہا۔ افسوس ہے کہ موقع ہی پر آپ بھول جاتے ہیں اور ویسے بے پرکی بہت اڑاتے ہیں دیکھوا اور خوب یاد کرو مجدد صاحب کہتے ہیں ”قائل آن سخنان شیخ کبیر یمنی باشد یا شیخ اکبر شامی کلام محمد عربی ﷺ در کارست نہ کلام محبی الدین عربی و صدر الدین قونوی“ مجدد صاحب کا یہ مقولہ شہرے حروف میں بہت جلی قلم سے ہمارے دل پر قش کا لجھر ہے اور اسی پر ہمارا عمل ہے۔ مگر فرق مراتب نکنی زندیقی حق ہے اور باطل باطل، اس میں خدا اور رسول کے بعد کوئی تخصیص نہیں بلکہ مرزا قادریانی کے جو بعض اقوال صحیح ہیں اس کو بھی حضرت اقدس ابو احمد صاحب نے سراہا ہے جیسا کہ دوسری شہادت آسمانی میں بھی مرزا قادریانی کے ایک قول لوکھا ہے کہ یہ آب زر لکھنے کے قابل ہے۔

۲۳..... چوبیسویں ٹھوکر

قولہ کہ ”ان دونوں کے استاد و پیر بھی الدین ابن عربی، ابن تیمیہ رحم اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ جیسے علماء نے کیا سلوک کیا ہے..... اخ! اولاً عبدالماجد قادریانی کو یہ بتانا چاہئے کہ حضرت مولانا ابو احمد صاحب نے ان دونوں کے پیر کی نسبت کیا بر اسلوک کیا؟ اور میں کہتا ہوں کہ ہرگز مولانا ابو احمد صاحب جیسے علماء نے ان کی نسبت کوئی بر انتوئی نہیں صادر فرمایا یہ عبدالماجد قادریانی کا افتقاء اور مخفی جھوٹ ہے۔ ثانیاً اگر ابن تیمیہ اور صدر الدین قونوی کے یہ دونوں رسالے اچھے اور عمدہ ہیں تو اس سے یہ کس طرح لازم آیا کہ ان کے پیر و استاد شیخ محبی الدین عربی اور ابن تیمیہ کے تمام مسائل صحیح اور مسلم ہیں۔ اگر کوئی اہل حق یہ کہے کہ مرزا قادریانی اور معاوی نور الدین صاحب کے رسالے اور مسائل کو آج جماعت قادریانیہ بہت سراہتی ہے تو کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ان دونوں کے استادوں اور پیروں کے تمام مسائل کو جماعت قادریانیہ تشیم کرتی ہے حالانکہ شاہ عبدالغنی صاحب

مہاجر رحمۃ اللہ علیہ جو مولوی نور الدین قادریانی کے پیر ہیں اور ان کے اکابر اساتذہ قائل ہیں کہ رسول خدیجۃ اللہ علیہ السلام کے بعد نبوت کا مدحی دجال و کذاب ہے اب عبدالماجد قادریانی کو چاہئے کہ مرزا قادریانی کی نبوت سے ہاتھ دھوئیں اور بتائیں کہ آج شاہ صاحب مرحوم وغیرہ کے لئے محققانہ مسائل کے جماعت قادریانیہ پیروی ہیں؟ اور آپ جیسے قادریانیوں نے ان کے ہم عقائد مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے کیا فتویٰ صادر فرمایا ہے کیا آپ لوگوں نے صادر فرمایا ہے آپ کو یاد نہیں؟۔

۲۵..... چھبیسویں ٹھوکر

قولہ ”آپ جیسے علماء نے کیا سلوک کیا ہے..... اخ!“ علمائے اسلام پر یہ اتهام ہے یا عناد یا جہل کا فساد کہ آپ یہ فرماتے ہیں حضرت شیخ محبی الدین عربی اور ابن تیمیہ کے محققانہ مسائل کے لئے علماء منکر ہیں حالانکہ محققین علماء نے ان کی تنقید و تحقیق کے سامنے سرتسلیم ختم کیا ہے اور ان کے مدح اور داد تحقیق میں ان کا قلم و جد میں آ جاتا ہے اگر آپ کو ان علماء کرام کے نام معلوم نہ ہوں اور ان کی کتابوں سے واقفیت نہ ہو تو کسی واقف سے دریافت فرمائیے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آج ان دونوں کی ذات پر محققین علمائے اسلام کو فخر ہے۔ البته مرزا قادریانی اور جماعت احمدیہ کی یہ حالت ضرور ہے کہ نہ خدا کی شیش نہ رسول کی، جو حدیث مرزا قادریانی کے الہام کے خلاف ہو تو وہ بھی بردی کی ٹوکرے میں پھینک دی جائے۔ صحابہ بن کاع علماء اسلام کے یہاں بنی صالحؑ کے بعد دوسرا مرتبہ ہے وہ بھی غبی اور معمولی انسان ہیں۔ سید الشہداء جناب سیدنا و مولانا حضرت امام حسینؑ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جناب اقدس میں تو مرزا قادریانی نے جس جرأت کو کام فرمایا ہے اس سے کوئی انسان ناواقف نہیں پھر نہایت شرم اور افسوس کی بات ہے کہ آپ تمام مسلمانوں کو اپنے پر قیاس کرتے ہیں۔

کار پاکان راقیاس از خود مگیر

گرچہ باشند در نوشتن شیرو شیر

۲۶..... چھبیسویں ٹھوکر

قولہ ”ہم نے دونوں اسی کتاب میں نقل کی ہیں“ افسوس ہے کہ آپ کو اہل حق اور علمائے اسلام کا مسلک معلوم نہیں اسی لئے یہ عامیانہ باتیں بتاریں ہے ہیں تجوہ اور خوب یاد رکھو کہ آپ دوقول نہیں دو بزار بلکہ دو لاکھ قول نقل کرتے تو ہمیں ان کے شایعہ میں کوئی تامل نہ ہوتا خواہ آپ دیکھیں یا اندھے ہو جائیں۔ مگر بشرطیکہ وہ حضرت مجدد صاحب کے معیار پر پورے اتریں

ہاں جماعت قادریانی کی طرح ہم سے کبھی یہ امید نہ کرنی چاہئے کہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر اور کانوں میں ذات دے کر تمام گودام کو خرید لیں۔

### ۲۷..... ستائیسویں ٹھوکر

قولہ ”جس میں سورہ فاتحہ کے ذریعہ اسلام کے اکثر مسائل برطبق مسلک محمد مذین بیان کئے ہیں۔ (القاء، صفحہ ۹ سطر ۱۶) آپ نے مدارج السالکین و یکھی نہیں ورنہ کوئی واقف کاری نہیں کہہ سکتا کہ اس میں اسلام کے اکثر مسائل ہیں۔ ہاں میں بھولا آپ کو اسلام کے مسائل ہی معلوم نہیں عبدالماجد قادریانی ذرا سمجھ کر فرمائیے اسلام کے اکثر مسائل تو کیا اس کے عشر عشیرے کے لئے یہی مدارج السالکین جیسی کئی جلدیں درکار ہیں کیا مسائل اسلام بھی پیشگوئی کا تھیلہ ہے جو چورقدہ میں پیشنا اور پھینک دیا۔ واقعی آپ کی اس تحقیق نے (کہ سورہ فاتحہ کے ذریعہ اسلام کے اکثر مسائل برطبق مسلک محمد مذین بیان کئے ہیں) اس امر کا یقین دلا دیا کہ مدارج السالکین کو ضرور بغور پڑھا ہے مگر یہ تو فرمائیے کہ جس مدارج السالکین کو آپ نے پڑھا ہے وہ علمائے اسلام کے کتب خانہ کی تھی یا قادریان کی کی؟

### ۲۸..... اٹھائیسویں ٹھوکر

قولہ ”غیر محقق مسائل کی تردید کی ہے“ (القاء، ص ۹ سطر ۱) تردید مصدر ہے تفعیل کا، اسے میزان خوان طفل کتاب بھی جانتا ہے جس کے معنی دائر کرنے کے ہیں اب عبدالماجد قادریانی فرمائیں کہ اس عبارت کے کیا معنی ہونے (غیر متحقق مسائل کی تردید کی بے) یعنی غیر متحقق مسائل کو دائر کیا ہے۔ عبدالماجد قادریانی صاحب، جب آپ کو تردید یہ اور وہ میں بھی اتنا یہ نہیں تو تجب بے کہ آپ نے کس جرأت پر فیصلہ آسمانی کے جواب کا قصد کیا۔ اور ابھی تک عامیانہ الفاظ آپ کے زبان پر چڑھے ہوئے ہیں۔

### ۲۹..... اٹھیسویں ٹھوکر

قولہ ”اعجاز استح میں جس طرح مقصہ اور مجمع عبارات ہے..... اخ!“ (القاء، صفحہ ۹ سطر ۲۰) اگر کوئی قادریانی کہے کہ جس طرح اعجاز استح میں مقصہ اور مجمع عبارات ہے قرآن میں نہیں تو کیا عبدالماجد قادریانی یہ فتویٰ دیں گے کہ اعجاز استح قرآن سے اعجاز میں زیادہ ہے۔ سینئے حضرت یہاں میں آپ کو اس متفقی اور مجمع پر حضرت سرور انبیاء کافتویٰ ناتا ہوں ایک حمل کے ضائع کرنے پر جناب سرور کائنات نے اس کے عوض میں بردہ دلایا۔ اس پر اس نے جس سے دلایا تھا کہا۔ ”کیف اغرم من لاشرب ولا اکل ولا نطق ولا استهل فمثال ذلك بطله“ اس پر

سرور کائنات نے فرمایا۔ انما هذا من الکھان اور ایک روایت میں ہے ”السجع کسجع الاعراب“ یعنی یہ مفہی اور سمجھ کا ہنوں کا شیوه ہے یا گاؤں کے گنواروں کا۔ بس اسی حدیث سے مرزا قادیانی کے مفہی اور سمجھ کا بھی فیصلہ کر لیجئے۔

اب میں سرودست عبدالماجد قادیانی کی ایک ہی غلطی کے نمونہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور اسی پر ناظرین اور لوگوں کو بھی قیاس کر سکتے ہیں۔

قياس کن زگستان ممن بہار مرا  
ہاں اگر عبدالماجد قادیانی نے اس کا جواب دیا تو آئندہ میں بھی ان کی ایک ایک غلطی پر چھوٹا گا۔

چونکہ جماعت قادیانیہ خصوصاً مولوی عبدالماجد قادیانی نے عوام کے روبرو بہت کچھ دعوے کیے اور اب حق پر اتهام لگایا اس لئے یہ نے پہلے فیصلہ کے لئے اعلان حفافی شائع کیا تھا۔ اور یہ خیال تھا کہ عبدالماجد قادیانی سامنے آ کر فیصلہ کریں گے لیکن آج تک کوئی صد افیصلہ کے لئے مرزاً جماعت سے برآمد نہیں ہوئی۔ مناظرہ کو صحیحہ تبلیغیہ میں عبدالماجد قادیانی نے لکھا تھا۔ یہاں سے فوراً صحیفہ رحمانیہ نمبر ۳ میں اس کا جواب دے کر یہ صاف لکھ دیا کہ آپ خود مناظرہ کریں یا اپنے کسی شاگرد کو مناظرہ کے لئے آمادہ فرمائیں۔ ہم مستعد ہیں مگر آپ کا صحیحہ تبلیغہ تو مرزاً قادیانی کے پاس پہنچ کر پھر واپس ہی نہ آیا اور صحیفہ رحمانیہ بفضلہ تعالیٰ نمبر ۱۲ تک پہنچ گیا اور مرزاً جماعت اب گویا مناظرہ کا نام ہی بھول گئی اتنا لمحہ پھر میں اس اعلان کو شائع کرتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ اب بھی اگر کسی مرزاً کی کوہمت ہے اور اپنے دعوے کو ثابت کر سکتا ہے تو سامنے آ کر فیصلہ کرے ورنہ اتهام اور بہتان لگانے سے باز آئے۔ فقط عبداللطیف رحمانی۔

### مسلمانوں پر ایمان کی حفاظت کرو

اس وقت میں ایک بڑا فتنہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے مگر خدا کا شکر ہے کہ ذیل کے رسائل نے ان کی حالت کو آفتاب کی طرح روشن کر کے دکھادیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ اسے ضرور دیکھیں اس میں شک نہیں کہ واقعی یہ رسالے گمراہوں کے لئے سرچشمہ ہدایت اور بیکار دلوں کے لئے آب حیات ہیں اور ایسے پر زور دلائل سے لکھے گئے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے قادیانی مل کر چاہیں کہ ان کا جواب دیں یہ ثیامت تک نہیں ہو سکتا۔

**فیصلہ آسمانی:** یہ رسالہ تین حصوں میں ہے اور ہر ایک حصہ ایک علیحدہ مستقل رسالہ

بے جو مرزا قادیانی کی حالت معلوم کرنے کے لئے نہایت کافی ہے اس وقت پہلا شائع ہو گیا ہے  
اب وہ بارہ زیر طبع ہے۔

دوسری شہادت آسمانی: اس میں مرزا قادیانی کے اس نشانیوں کو مٹایا ہے جس کو  
انہوں نے اپنے لئے آسمانی نشان قرار دیا تھا اور ایک موضوع روایت کو حدیث قرار دیکر اس سے  
سند پکڑی تھی اور اس کے غلط معنی بیان کر کے اپنی اوپر چسپاں کیا تھا ان کی غلط فہمی دکھائی ہے۔

### اطلاع عام

تمام مسلمانوں اور خصوصاً جماعت قادیانیہ سے خیر خواہانہ کہتا ہوں کہ مرزاً اُن جماعت  
کے عبد الماجد قادیانی بڑے عالم کہلاتے ہیں اور وہ تو اپنے تینیں بہت ہی کچھ سمجھتے ہیں مگر ان کی  
قابلیت اور علمیت کی حالت دیکھئے کہ ان کے القاء نفسانی کے وصفوں میں تینیں غلطیاں بطور  
نمودنہ میں نے آپ کو دکھائیں۔ اب اسی پر ان کی ساری کتاب کو قیاس سمجھئے اور ان کی قابلیت کی  
حالت کو معلوم کر لیجئے میں متعدد بار انہیں چیلنج دے چکا ہوں کہ سامنے آئیے اور فیصلہ آسمانی کے  
متعلق فیصلہ کر لیجئے۔ مگر کچھ جواب نہ دیا پہلے اعلان حقانی میں میں نے چیلنج دیا اس کے بعد صحیفہ  
تبیغہ میں انہوں نے ایک شرط لگائی میں نے اسے منظور کر کے پھر اعلان دیا صحیفہ رحمانیہ نمبر ۳۶ دیکھئے  
اس کے بعد کاذک اس رسالہ کے شروع میں کیا گیا مگر سامنے نہ آئے۔ اب تھوڑے روز ہوئے ہیں  
کہ خلیفۃ الرسالہ صاحب کو ایک چیلنج چھپا کر میں نے بھیجا اور ایک مولوی حکیم یعقوب صاحب نے  
بھیجا اور یہ دونوں چیلنج ان کے پاس بھی بھیجے گئے مگر انکو یہ بھی غیرت نہ ہوئی کہ ہمارے خلیفہ کو چیلنج  
دیئے جاتے ہیں ہمیں ان کی آبرور کھنا چاہئے میں نے اپنے چیلنج میں مرزاً قادیانی کی نبوت کا فیصلہ  
کرنا چاہا ہے اور کلام خدا سے اور کلام رسول سے دکھا دیا ہے کہ جناب رسول ﷺ پیغمبر آخر  
ازمان ہیں ان کے بعد جو نبوت کا دعوے کرے وہ جھوٹا ہے وہی نبوت منقطع ہو گئی حکیم صاحب  
نے یہ لکھا ہے کہ مرزاً قادیانی نے جو چاند گرہن اور سورج گرہن کے اجتماع کو اپنے مہدی ہونے کی  
شہادت ٹھہرایا ہے اور برا غل مچایا ہے یہ محض غلط ہے کسی ضعیف حدیث سے بھی اس کا ثبوت نہیں  
ہو سکتا ہے۔ مگر مرزاً محمود تو آتے آتے رہ گئے۔ حیرت تو یہ ہے کہ عبد الماجد قادیانی یہاں موجود  
ہیں۔ انہیں بھی اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ سامنے آ کر جواب دیں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو ذریعہ تحریر یہی  
جواب دیا ہوتا۔ یہ کیسی بدیہی دلیل ہے کہ مرزاً اُن جماعت اپنے مذہب کی حقانیت ثابت نہیں کر سکتی  
بالکل عاجز ہے مگر عاراً اور بت پرستوں کی طرح باطل مذہب کو چھوڑنا نہیں چاہئے۔

اب ساتویں مرتبہ چیلنج دیتا ہوں

کہ اگر آپ کو اپنے مذہب کی خانیت اور مرتضیٰ قادریانی کے چھ ہونے کا دعویٰ ہے تو فیصلہ آسمانی حصہ اول اور حصہ دوم اور حصہ سوم میں جو مرتضیٰ قادریانی کے نہایت پختہ اقرار سے انہیں کاذب ثابت کیا ہے اس کا جواب دیجئے۔ شہادت آسمانی میں جو مرتضیٰ قادریانی کا کاذب ہونا متعدد طور سے ثابت کیا ہے۔ اور ان کی بے علمی اور فریب وہی علامی طور سے دکھائی ہے اس کا جواب کیوں نہیں دیتے اور اظہار حق کیوں نہیں کرتے۔ اس خاکسار کو آپ اپنے برابر نہیں سمجھتے تو قرآن و حدیث سے کہیں بھی دکھادیجئے کہ اظہار حق برابر والے کے سامنے ضروری ہے کم رتبہ والے کے سامنے ضروری نہیں ہے اس کے علاوہ مذکورہ رسالے تو انہیں بزرگ کے ہیں جن کی برابری کا دعویٰ کر کے آپ فخر کرنا چاہتے ہیں پھر کیوں نہیں جواب دیتے یہ نہایت روشن دلیل ہے کہ آپ اور آپ کی ساری جماعت جواب سے عاجز ہے۔

قادیانی جماعت اپنے مولوی کو آمادہ کرے ہم ہر طرح سے آمادہ ہیں جس طرح سے وہ جس طریقہ سے اظہار حق ہو سکے اور اہل فہم انصاف پسند حضرات تسلیم کر لیں میں اس کی چند صورتیں بیان کرتا ہوں۔

..... خاص جلسہ ہو جس میں طرفین کے اہل علم تعلیم یافت حضرات ہوں بعض ان میں غیر مذہب والے بھی ہوں۔ میں یا کوئی دوسرا ذی علم انہیں دلائل میں سے ایک دلیل کو پیش کرے جواب تک لکھے جا چکے ہیں اور کسی قادیانی نے جواب نہیں دیا اور مولوی عبدالمadjad قادریانی یا وہ اپنی طرف سے جس ذی علم کو مقرر کر دیں وہ جواب دے پھر اس جواب میں جعلی ہو گی اسے ہم ظاہر کریں گے۔ یہ تینوں بیان لکھ کر پیش کئے جائیں باز بانی بیان ہو اور کوئی لکھتا جائے اور آخر میں طرفین کے دخیل ہو جائیں اور حاضرین نے ان بیانوں کو سن کر جو فیصلہ کیا وہ ان سے لکھوا لیا جائے اور مشتہر کر دیا جائے۔ مدعی کو جواب الجواب کا حق ہونا نہایت ظاہر اور عقلی بات ہے۔ حاکم وقت کے بیان بھی ایسا ہی برداشت ہے۔ بیان مدعی کے بعد صرف مدعا علیہ کے بیان پر حاکم فیصلہ نہیں دیتا بلکہ مدعی کا جواب سن کر فیصلہ لکھتا ہے۔

..... دوسرا طریقہ نہایت عمدہ یہ ہے کہ جو بات شروع کی جائے اس کی حق و باطل ہونے کی تحقیق میں نہایت تہذیب سے بیان تک گفتگو کی جائے کہ ایک فریق بند ہو جائے یعنی حاضرین کے نزدیک اسے کچھ کہنے کا موقع نہ رہے۔ ان دونوں صورتوں میں ضرور ہے کہ طرفین میں کوئی شخص فضول باتیں نہ کرے اور اس کے لئے سب میں زیادہ قابل کو حکم کیا جائے کہ

وہ جب طرفین میں سے کوئی فضول بات کہنا شروع کرے وہ روک دے۔

اگر کسی وجہ سے آپ سامنے نہیں آ سکتے تو ہمارے رسالوں کا جواب لکھ کر شائع کیجئے مگر اپنے برادر خلیل احمد قادر یانی کی طرح علانیہ دروغ گوئی نہ کر دیجئے گا کہ ہماری طرف سے سب کا جواب دیا گیا ہے۔ ایک رسالہ ہم پیش کریں بلکہ اس کا اصل اعتراض لکھ کر ہم آپ کے پاس بھیجنیں اور آپ اس کا جواب دیں جس طرح شہادت آسمانی کا اصل اعتراض مولوی حکیم یعوب صاحب نے لکھ کر آپ کو اور آپ کے خلیفہ کو بھیجا ہے۔ آپ اس کا جواب دیں۔ اور ہمارے پاس بھیج دیں ہم اس کی غلطی کا اظہار کریں گے۔ مگر نہایت ظاہر ہے کہ جب ان کی قابلیت اور علمیت کا یہ حال ہے جیسا کہ اس رسالہ میں اور دوسرے رسالوں میں ذکر کیا گیا تو ان کو سامنے آنے کی جرأت کیونکر ہو سکتی ہے؟۔ البتہ اپنے گروہ کے بے وقوفون کے تھامنے کے لئے اسوقت یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے کسی ذی علم کے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ادنیٰ ادنیٰ گفتگو کر سکتے ہیں مگر افسوس یہ ہے کہ اب تک کوئی ادنیٰ اعلیٰ سامنے تو نہ آیا۔ ہمیں تو کسی سے عار نہیں ہے۔ ہر ایک کے سامنے اظہار حق کرنے کو حاضر ہیں ہم قادر یانی جماعت سے کہتے ہیں کہ یہ جیلہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ہمارے سامنے نہیں آ سکتے اور خوب جانتے ہیں کہ جو رسالے ہماری طرف سے لکھے گئے ہیں۔ ان میں ایسے دلائل قاطعہ سے مرزا قادر یانی کو کاذب ثابت کر دیا ہے کہ ان کا جواب نہیں ہو سکتا قادر یانی جماعت اس کو خوب سمجھ لے کہ ہر ایک رسالہ مفصل اور نہایت زور کا چیخنے ہے جو کوئی برس سے ہماری طرف سے دیا جاتا ہے اور اس طرف صد اے برخی خواست کا مضمون ہے اور الحق یعلوو لا یعلی کا ثبوت اور جاء الحق و زہق الباطل کا ظہور ہو رہا ہے اور اب جو بھاگلوں میں چیخنے دیا ہے وہ کس قدر فریب آمیز وران کے عجز کی دلیل ہے حضرت عالیٰ نے تو بتعدد رسالے لکھ کر دنیا میں مشتہر کر دیئے اور خاص و عام کے لئے مثل آفتاب کے روشن کر کے دکھادیا کہ مرزا قادر یانی کا ذب ہیں اور ان کا کاذب ہونا ایک دلیل سے نہیں متعدد ولیوں سے نہایت ظاہر ہر کسی دکھادیا پھر اب ان سے کیا بیان کرانا چاہتے ہو۔ ان کا لکھا ہوا تو دنیا دیکھ رہی ہے اگر بیت حق سے آپ نہیں دیکھ سکتے تو مجمع خاص میں یا عام میں جس طرح مناسب ہو ہم حضرت ہی کی تحریر کو پڑھ کر سنائیں مگر اس کے بعد آپ ایک گھنٹہ کھڑے ہو کر جھوٹی باتیں اتنا پشاپ کہہ کر چلے جائیں یہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد ہم بھی آپ کے بیان کی غلطیاں اور کذب بیانیاں ضرور دکھائیں گے۔ بغیر اس کے اظہار حق ہرگز نہیں ہو سکتا۔

خیر خواہ مسلمین!

عبداللطیف رحمانی

## کھا: وَا آسَانِي فِي صَلَةٍ

مرزا قادیانی کے دعوے قرآن، حدیث، اجماع، عقل، نقل کے چونکہ مخالف ہیں اس لئے وہ نہ اپنے جھوٹے ہونے پر ایسی کھلی نشانی اور سچا گواہ رکھتے ہیں کہ پھر ان کے مفتری ہونے پر کس دلیل کی ضرورت نہیں ہے اور مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ بھی اس یقین کے لئے کافی ہے کہ مرزا قادیانی نبی تو کیا وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن قرآن و حدیث سے عام مسلمان اول تو پورے واقف ہی نہیں دوسرے مرزا قادیانی نے قرآن و حدیث کے معانی میں بہت کچھ سیاہ کاری کو کام فرمایا ہے۔ اس لئے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ قرآن و حدیث کے صحیح معانی سے لوگوں کو واقف کرے اور مرزا قادیانی کی ملجم سازی کی پوری قلمی کھولے اسی لئے اس وقت تک بہت سے ملک دیندار خدا پرستوں نے اس کام کو انجام دیا۔ خصوصاً اس صوبہ بہار میں موئیہ سے بہت سے رسائل اشتہار کتائیں اس بارے میں شائع ہوئیں خصوصاً فیصلہ آسمانی ہر سہ حصہ، شہادت آسمانی، و نیم، جن میں روزہ شن کی طرح مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا ثابت کیا ہے۔ اور ان کی وجہ سے بہت سے وہ مسلمان جو تذبذب میں تھے وہ مرزا قادیانی اور ان کے مذهب سے تنفر ہو گئے اور بہت سے مرزا نیوں نے اپنے عقاقد باطلہ سے توبہ کی ان رسولوں کے مقابلہ میں یہاں سے قادیانی تک کسی ایک قادیانی نے بھی کچھ جواب نہیں لکھا اور جو دو ایک تحریریں اب تک اس جماعت کی طرف سے شائع ہوئی ہیں اسے ناظرین دیکھ کر خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان میں ہماری باتوں کا جواب دیا یا وہ مرزا قادیانی کی اعلیٰ تعلیم کا نمونہ ہے حال میں بھی اس جماعت نے اعلان بنا لی شائع کیا ہے اسے ناظرین دیکھیں اور اس جماعت کی تہذیب اور مرزا قادیانی کی تعلیم اور قادیانی مذهب کی اصلاح و تقویٰ کی داد دیں۔ جس میں انہوں نے مرزا قادیانی کی اور کافروں کی پیروی کی ہے کہ جب وہ عاجز ہوتے تھے تو انہیا، علیہم السلام اور اولیاء اللہ کو گالیاں دینے لگتے تھے اسی طرح مرزا نیوں نے بھی اس اشتہار میں اپنے مذهب کی تعلیم کا عملی ثبوت دیا ہے اور ایسے مقاموں پر انہیا، علیہم السلام اور اولیاء اللہ نے آیت "إِنَّمَا أَشْكُوا وَبَشِّي وَحَزْنِي إِلَى اللَّهِ (یوسف: ۸۶)" اور "أَنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعَبَادِ (مومن: ۴۴)" کو پڑھا۔ ربہ کیا ہم نے بھی اسے پڑھا اور اس کا فیصلہ اس قادر مطلق پر چھوڑ دیا جو بڑا تو انہا اور برہنے پر قادر ہے۔

لَا نَنْهَاكُنَا بِعَوْنَىٰ

# تذكرة

سیدنا یوسف علیہ السلام

حضرت مولانا مفتی عبداللطیف رحمانی

## تذکرہ حضرت یونس علیہ السلام

مرزا قادیانی نے اپنی صداقت کا نشان اپنی پیشین گوئیوں کو قرار دیا تھا مگر جب ان کی عظیم الشان پیشین گوئیاں غلط ہوئیں تو انہوں نے انبیاء علیہم السلام پر اتهام لگا کر اپنی برأت کرنا چاہی ان اتهاموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے رسولوں میں بہت جگہ حضرت یونس علیہ السلام کی نسبت یوں لکھا ہے کہ انہوں نے عذاب آنے کی پیشین گوئی کی تھی۔ مگر پوری نہیں ہوئی اس رسالہ میں نہایت صفائی سے ثابت کیا ہے کہ یہ الزام محض غلط ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی ایسی پیشگوئی نہیں کی جو پوری نہ ہوئی ہو۔

عبداللطیف رحمانی!

بسم الله الرحمن الرحيم

”لا نعبد الا ایاہ و نر غب عن من سواه ولا حول ولا قوۃ الا بالله“

تحسلی علی رسولہ خاتم الانبیاء و نعوذ بک ممن تنباء بعدہ یا مولاہ“  
اسلام سچائی اور اصلیٰ یسکی کی عمارت سے اور ایسی مستحکم اور بلند ہے جو چودہ سو برس سے اب تک اپنی آب دتا ب سے قائم ہے۔ کیا اسلام کسی شعبدہ باز کا شعبدہ ہے یا کسی دجل و فریب کا پروپریٹی مکار ہے؟ جس کا جھونٹا ڈھکو سلا کر جس کی بنیادوں کو کوئی شعبدہ یا دجل و فریب یا مکروہ دفعہ متقرر نہ رہے؟

نہیں نہیں جھوٹ اور چالاکی کی عمارت کو اس قدر استحکام کہاں جو اتنی طویل زمانہ تک نہ پھرے۔ دجل و فریب کے ملعم کاری کو اس قدر بقاء کہاں ہے۔ جواب تک باقی رہے کیا مسلمان واقعی جھوٹے کر شموں اور شعبدوں کے پوچھاری ہیں کہ جب کسی نے کوئی شعبدہ دکھایا یا کر شمہ بنایا اس کے ساتھ ہوئے اس پر ایمان لے آئے اس کو خدا کا رسول سمجھنے لگے۔ ہرگز نہیں بلکہ ہم مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے اور باقی اسلام جناب محمد رسول اللہ (روحی ندہ) ﷺ نے ہمیں اس کی خبر دی ہے کہ میرے بعد دجال، کذاب، دوغاباز، مکار، فربی، شیاطین الانس آئیں گے اور شعبدے اور کر شے دکھائیں گے۔ دیکھو خبر دار تم ان کے فریب کے جال کا شکار نہ ہو جانا اور ان کو اپنا نہ نہ فہرنا۔ اب اگر کوئی آسمان پر اڑنے لگے اور آسمان سے مینہ برسائے۔ زمین سے سبزہ اگائے

مردہ کو زندہ ہتائے اور ایک پیشین گوئی نہیں بلکہ سرتاپا پیشین گوئی کا مجسمہ پیکر بن کر آئے تب بھی مسلمان اس کی جانب نظر اٹھا کر نہ دیکھیں گے۔ بشرطیہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کے پیاساتھ نور ایمان اور عقیل کامل عنایت کی ہو۔ کیا اس پیشین گوئی کے مطابق آپؐ کے بعد جھوٹے نبی نہیں ہوئے اور انہوں نے شعبدے اور کرشمے نہیں دیکھائے کیا رسول خدا نے نہیں فرمایا کہ میرے بعد دجال آئے گا جو مردہ کو زندہ اور زمین کو سر بزرا اور آسمان سے با راش بر سارے گا تو کیاچے مسلمانوں کو دجال کا یہ شعبدہ راہ مستقیم سے بال بھر جائے کے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔

مسلمانو! اگر کوئی شخص تمام عمر پیشین گوئی کرے اور اس کی تمام پیشین گوئیاں صحیح ہو جائیں اور اس کو وہ اپنی نبوت کا نشان قرار دے تو کیا تم واقعی اس کو نبی مان لو گے اور یہ اس کی سچائی کا نشان ہو گا؟ اگر ایسا ہے تو پھر کیوں دجال کی خدائی سے اخراج کرو گے؟ کیا نبوت کی عمارت انہی پیشین گوئیوں پر قائم ہے؟۔ آج دنیا میں سینکڑوں علوم ہیں جن کے ذریعے سے آئندہ کی خبریں معلوم کر لی جاتی ہیں تو کیا کوئی شخص اگر ان میں سے کسی علم میں پوری مہارت رکھتا ہو اور ایسی مشق ہو کہ کبھی اس کے حساب میں غلطی نہ ہو اور پھر وہ ہر روز آئندہ کی صحیح، صحیح خبریں دیا کرے اس وجہ سے نبوت کا دعویٰ کرے تو محض ان پیشین گوئی کی وجہ سے وہ نبی ہو سکتا ہے اور کوئی عاقل اس کی نبوت پر ایمان لے آئے گا؟۔

صفحات تاریخ پر جہاں تک ہماری نظر ہے اس کی بناء پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نبی نے پیشین گوئی کو اپنا معیار نبوت نہیں ٹھہرایا اور نہ اپنی پیشین گوئیاں قوم کے رو برو شمار کرائیں اور ہم دعویٰ ہے کہتے ہیں کہ پیشین گوئی ہرگز معیار نبوت نہیں ہے۔ پیشین گوئی جھوٹی اور پچی دنوں کرتے ہیں اور جو بہہ باقی دنوں سے ہوتی ہیں۔ یہ امور کبھی نبی اور غیر نبی میں فرق اور جداگانی کرنے والے نہیں ہیں اور نہ یہ نشان نبوت قرار پا سکتے ہیں بلکہ قرآن پاک نے خود اس کا فیصلہ کر دیا ہے اور جناب سرور کائنات ﷺ کے نبوت کا یہ نشان قرار دیا ہے کہ اس نے انہوں کو بینا گمراہوں کو راہ پر لگایا اور دنیا کو نور اور حکمت سے بھر دیا یعنی اصول تمدن اخلاق کو بتالیا اور نیکی کو پھیلایا۔ اس مختصر تہذید کے بعد تمام مسلمانوں سے عموماً اور جماعت قادر یا نیہ سے خصوصاً گزارش ہے کہ اگر مرزا قادر یا نبی کو مان لیا جائے کہ خوارق عادات کے دیوتا اور پیشین گوئی کے پیکر مجسم تھے۔ اور قصیدہ ابیاز یہ اور تفسیر فاتحہ ان کی بے نظیر ہے اور کوئی اس کے مثل نہیں لاسکتا تو کیا ان کے محض یہی کارنا میں ان کی نبوت کی نشانی قرار پا سکتے ہیں اور کیا مرزا قادر یا نبی کے سوا کوئی اور ایسا نہیں ہوا جس نے پیشین گوئیاں کی ہوں اور اپنے کلام کے بے

نظیر ہونے کا مدعی ہو تو کیا مرزا قادیانی ان کو نبی مان لیں گے اور اگر وہ نبی نہیں تھے تو پھر مرزا قادیانی اور ان میں کیا فرق ہے؟ اور نبی کا جواہلی کام ہے یعنی گمراہ کو راہ دکھانا اور نور حکمت پھیلانا اس میں مرزا قادیانی نے کس قدر حصہ لیا اور کتنے بے راہوں کو راستہ پر لگایا اور وہ کیا نور و حکمت ہے جسے مرزا قادیانی نے پھیلا�ا؟ مسلمانو! اگرچاہی اور انصاف سے غور کرو گے اور اس معیار نبوت پر مرزا قادیانی کو جانچ گئے تو پھر تم بھی وہی فیصلہ کرو گے جس کی خبر خود سرور کائنات ﷺ نے دی ہے۔ مسلمانو! یہ خوب سمجھو کہ نبی کی بڑی نشانی اور اس کے صداقت کی دلیل اس کے اقوال اس کے احوال اس کے افعال ہیں جس کا قول، فعل، حال اور اس کے نبوت کی تصدیق پر مجبور کرے وہ واقعی نبی ہے اور تمہیں انصاف کرو کہ جو اپنے اقوال میں جھوٹا، معاملات میں خود غرض اور دنباز ہو تو کیا ایسا شخص نبی، مہبدی، مسیح کے گرامی عہدہ کا اہل ہے؟ میرے نزدیک ہر ایک سچا خدا پرست راستی کا طالب اس کا جواب غنی میں دے گا۔

اگرچہ جس طرح نبی کے اقوال و افعال وغیرہ اس کے سچائی کے لئے دلیل ہیں۔ دیکھو نبی عربی روحي فدا ﷺ نے مسجد کے جھرے میں سکونت اختیار فرمائی۔ مسجد خامبکھجور سے پٹی ہوئی تھی دو وقت متواتر پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اکثر جو کا استعمال فرماتے اور وہ بھی بلا چھانے ہوئے۔ اہل حق مرزا قادیانی کے حالات کو اس معیار نبوت پر پیش کریں جس طرح رسول ﷺ کے حالات نبوت اور صداقت کی روشن علامت ہیں۔ اسی طرح مرزا قادیانی کے اقوال اور افعال اور احوال ان کی گمراہی اور باطل پرستی کی کھلی علامت ہیں اور اب اس مقابلہ کے بعد کسی تحریر کے زریعہ سے اس کے انہمار کی حاجت نہیں رہتی لیکن اس پر بھی ان بھولے بھالے مسلمانوں کے نفع اور خیر خواہی کے لئے جو مرزا قادیانی کے فنوں کیدے واقف نہیں ہمارے علماء نے تحریر دیں اور رسالوں اور اشتہاروں کے ذریعہ سے وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو مطلع کیا خصوصاً مولوی انوار اللہ صاحب استاد حضور نظام کے افادۃ الافہام اس بارے میں قابل دید کتاب ہے اور حال ہی میں حضرت رئیس الفقہاء والحمد شیخ ناصح الاسلام والمسلمین سید العلما والجحد دین مولانا ابو الحسن رحمانی متعال اللہ المسالمین بطل بقاہم نے جو سائل مرزا قادیانی کے متعلق تحریر فرمائے ہیں ان کے دیکھنے کے بعد ہر شخص کو خواہ وہ عالم ہو یا جا بل پورا اطمینان ہو جاتا ہے اور خیر خواہانہ تحریرات یا کسی بری صحبت سے جو تاریخی اس کے دل میں آگئی ہے وہ ان پرچی اور خیر خواہانہ تحریرات کے نور سے بالکلی محو ہو جاتی ہے اور دیکھنے والا بے ساختہ پکارنا ہوتا ہے۔ ” جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا“ حضرت مولانا مدد حنفی نے نصحاً للمسلمین اذل فیصلہ آسمانی لکھا

جس کے اس وقت شد تین حصہ ہیں پہلے حصہ میں نہایت روش طریقہ سے دکھایا ہے اور مرزا قادیانی اپنے دوئی مجددیت اور مسیحیت وغیرہ میں بیچنے رکھتے اور اس دعوے کے ثبوت میں مرزا قادیانی نے جو نہایت عظیم الشان نشان پیش کیا تھا یعنی مرزا احمد بیگ کی بڑی لڑکی سے اپنے نکاح کی پیشیں گوئی کی تھیں اور اسی پیشگوئی کے باپنے جھوٹ و بھیج کا معیار قرار دیا تھا۔

اس پیشگوئی کے ہر پہلو کو صاف اور روشن کر کے دکھایا ہے کہ یہ کسی طرح سے تھی اور پوری نہیں ہوئی اور یہ پیشگوئی جھوٹ کا گندہ ذہبی ہے جس میں سچائی کا راجح تک بھی نہیں۔ اور اس میں مرزا قادیانی کی تمازیں کاریوں کی قلعی جھوٹی ہے اور ہمارے حصہ تین یہ اثبات یا بتے کہ مرزا قادیانی کے اقوال اور اقرارات کو ان کے کذب ہ آئندہ تجہیز یہ ہے۔

جس میں مرزا قادیانی کی اصلی صورت روز روشن کی طرف صاف نظر آتی ہے۔ ان کے بعد تیرا حصہ اور تنزیہ بانی میں خدا کے پاک کا کذب اور وعدہ خلافی کی آلوگی سے پاک ہے، نہ قرآن اور احادیث اور اجماع امت اور ادله عقلیہ سے ثابت کیا ہے، اور ہر معیار صداقت میں بُحد اس کو ثابت کیا ہے۔ ان رسائل کے بعد اس مادہ پرستی میں راستی کے طالبوں کے لئے اضافہ کی ضرورت نہیں اور خود غرض ہوا پرستوں باطل کے طالبوں کے لئے آفتاب کی روشنی بھی ناکافی ہے لیکن حسب ارشاد جناب مددوح میں نے ان اور اراق میں حضرت یونس عليه السلام کی پیش گوئی پر روشنی؛ ایسی ہے کیونکہ مرزا قادیانی کی بعض وہ اہمی پیش گوئیاں جن کا تمام جماعت قادیانیہ میں شور و غسل تھا اور نہایت پر زور لفظوں میں اور بڑے وثوق اور یقین کے ساتھ ان کا اشتہار دیا گیا تھا جب ناطق ہوئیں اور واقعات کے باقیوں نے اس تلیکی اور بناوائی پر دے کی دھیجان اڑائیں اور جماعت قادیانیہ بیکی ہوئی تو مرزا قادیانی نے اس پر فریب اور دجل کی سوئی سے روکیا۔

مرزا قادیانی نے مرزا احمد بیگ کے داماد کے مرلنے کی پیش گوئی کی اور اس موت کے لئے وقت مقرر کیا لیکن یہ پیش گوئی جھوٹی ہوئی اور وقت مقررہ پر پوری نہ ہوئی اور اس کا جھوٹہ ہوا چونکہ صاف روز روشن تھا جس کو تکمیل کی سیاہی کا پردوہ بھی نہ چھپا سکتا تھا جبکہ مرزا قادیانی و یہ اقرار کرنا پڑا کہ ”اس وعید کی معیاد میں تخلف ہو گیا۔“ (انجام آتمع ۲۶۹ حاشیہ خزانہ انصاف ایضاً) لیکن اس اقرار کے ساتھ ہی مرزا قادیانی نے ایک دستاویز پیش کی ہے جس سے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ خدا بھی جھوٹی پیشگوئی کر دیتا ہے اور نبی کے ذریعہ سے اپنے بندوں کو مقرر وقت پر عذاب کے نازل ہونے کی قطعی طور سے خبر دے دیتا ہے اور پھر اس وقت پر عذاب نہیں آتا چنانچہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں ”جیسا کہ یونس نبی کو قطعی طور سے چالیس دن تک عذاب نازل ہونے

کامہ دیا تھا اور وہ قطعی وعدہ تھا جس کے ماتحت کوئی بھی شرط نہیں تھی جیسا کہ تفسیر کبیر صفحہ ۱۶۷ اور  
بامہ بیانیٰ نے تفسیر درمنثور میں احادیث صحیح کی رو سے اس نے تصدیق موجود ہے۔  
(انعام آتہم ص ۳۰ حاشیہ خزانہ انصاف)

اور اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ”قرآن اور توریت کی رو سے بھی یہ امر بتا تو ارتبا ت  
ہوتا ہے کہ عید کی معیادتوہ اور خوف سے مل سکتی ہے۔“ (انعام آتہم ص ۲۹ حاشیہ خزانہ انصاف ۲۹)

مرزا قادیانی نے یہاں اول یہ دعویٰ کیا ہے کہ قوم یونس کے لئے خدا نے چالیس دن  
تک عذاب آنے کا قطعی بلا کسی شرط کے وعدہ کیا تھا اور اس دعویٰ میں تفسیر کبیر اور درمنثور سے  
احادیث کو پیش کیا ہے۔ دوسرا دعویٰ یہ کیا ہے کہ عید کی معیادتوہ اور خوف سے مل سکتی ہے اور اس  
دعویٰ کو متوڑات سے کہا ہے اور نیز یہ کہ یہ امر قرآن اور توریت سے ثابت ہے۔

مرزا قادیانی نے پہلے دعویٰ کے اثبات میں یہ سخت دھوکا کھایا کہ اس کے ثبوت میں جو  
احادیث تفسیر کبیر اور درمنثور سے نقل کی ہیں۔ ان کی صحت کا دعویٰ کیا گیونکہ اب تو ان کو بجز ناکامی  
اور رسوائی اور افتاء کے کچھ حاصل نہ ہو گا اس سے یہ بہتر تھا کہ مرزا قادیانی اس کے ثبوت میں اپنا  
البہام اور وجہی پیش کرتے اور یہ دلیل جماعت قادیانیہ کے لئے غالباً قبل اطمینان اور مخالفین کے  
لئے مسکت ہوتے اور مرزا قادیانی اور ان کے اذناب کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ مرزا کی سفید الہام  
کے سامنے کسی حدیث اور آیت سے استدلال صحیح نہیں۔

مرزا قادیانی نے تو اپنے اس پییدا اور حمکت ہوئے الہامات کی چادر کو اکثر جگہ جھوٹ کی  
گندہ ناپاک ذہیر پر ڈال کر چمکایا ہے معلوم نہیں وہ یوں اپنے اور اپنے ملجم اللہ کی سنت مسترہ  
قدیم کو جس میں جھوٹ جیسی ناپاک شے اور خلاف وعدہ اور جال و فریب سب ہی ثواب ہے جھوڑ  
کر دل دل میں آپھنسے اور بلک ہوئے۔ اے جماعت قادیانیہ یاد رکھو اور خوب سمجھو کہ تم  
مرزا قادیانی کے اس دعویٰ کے ثبوت میں ایک صحیح حدیث بھی تو نہیں لاسکتے۔“ ولسوکان  
بعضهم لبعض ظہیراً (بنی اسرائیل: ۸۸) ”فَإِنْ لَمْ تَفْعُلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا  
النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحَجَارَةُ (البقرة: ۲۴) ”مسلمانو! جو شخص ایک محسوس اور  
ظاہر اور تاریخ کی نقل میں اس قدر دلیری اور بے باکی سے جھوٹ بولے تو اس کے الہامات اور وجہی  
پر کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟۔ جو شخص اپنی رسوائی سے نہ ڈارے جو شخص جھوٹ کو حج کرنے سے نہ شرمائے  
رسول کریم ﷺ کی خواب کو جھوٹا خبری رے خدا پر خلاف وعدگی کا عیب روا رکھ دھوکے فریب اور  
ہر ممکن کوشش سے لوگوں کا عزیز مال ان کے جیسے نکلاوائے۔ دنیا کی حیران قم پر جنت کا ٹھیک نامہ

لکھ دے تو ایسے شخص کی نبوت جس درجہ پر ہو سکتی ہے؟ اس کا فیصلہ مسلمانوں کم خود کرو۔ اے جماعت قادریانیہ کیا میں تم سے یہ امید رکھ سکتا ہوں کہ تم انصاف کرو گے اور خدا سے ذرہ گے اور اپنی ضد اور بہت دھرمی سے بازاً و گے اور اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ حضرت یونس نبی سے چالیس دن کا وعدہ ہرگز نہیں کیا گیا اور کسی حدیث صحیح سے یہ ثابت نہیں تو کیا تم اپنے آنکھوں سے غشاوہ اٹھا کر دیکھو گے اور کانوں کے ذات نکال کر سنو گے اور دلوں کی مہر توڑ کر سمجھو گے؟ یا یہ خدائی پر دہ اور مہر بدستور تم پر قائم رہے گی میں کہتا ہوں ضرور رہے گی اور یہ جماعت ہرگز ایمان نہ لائے گی۔ کیونکہ خدا سچا ہے اور اس کا کلام سچا ہے۔ وہ خوف فرماتا ہے۔ ”ان الذين كفروا! سوا عليهم انذرهم ام لم تذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة (البقرہ: ۷۰، ۶)“

اب اگر ہم مرزا قادریانی کا جھوٹا ہونا ان کا فریب اور جل مہر نیروز سے بھی روشن کریں تو دل کے اندر ہے اور کان کے بہرے راستے پر نہیں آ سکتے اور جماعت قادریانی سے مجھے یہ امید نہیں کہ وہ میری اس تحریر پر کان دھرے اور مخندے دل سے دیکھے لیکن بعض ان مسلمانوں کو جو یونس علیہ السلام کے اصل واقع سے ناواقف ہیں ان کو یونس علیہ السلام کے قصہ سے مطلع کرنا چونکہ نفع سے خالی نہیں۔ اس لئے نصحاً للMuslimین میں اس رسالہ میں محض حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ لکھتا ہوں اور قرآن اور حدیث صحیح سے جو ثابت ہے اس کو بیان کرتا ہوں۔

لیکن مرزا قادریانی اور مرزا تائی جماعت کو اپنی قرآن والی پر چونکہ بہت دعویٰ ہے اور قرآن میں اسی جدت کو کام میں لاتے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں کی اس لئے بقول شخصی آہن باہم تو ان کو دزم ہم نے بھی یونس علیہ السلام کے واقعہ کے متعلق جو آیات قرآن میں ہیں اور اس کے معنی بیان کرتے ہیں تاکہ مرزا یہوں کو معلوم ہو اور ان کی آنکھیں کھلیں کہ جدید معنی دوسروں کو بھی کرنے آتے ہیں لیکن سلف کے معنی چونکہ اسلام ہیں اس لئے علماء نے انہیں اختیار کیا مگر بجورا ہم نے مرزا قادریانی کی روشن اختیار کی مگر ناظرین انصاف ہے ہمارے ان معانی کو مرزا قادریانی سے مقابلہ فرمائیں اور دیکھیں کہ جو ہم نے آیات قرآنی کے معنی کے ہیں وہ الفاظ قرآن پر زیادہ چیساں ہیں یا جو مرزا قادریانی بیان کرتے ہیں؟ میں جماعت مرزا تائی سے کہتا ہوں کہ ہم بھی قرآن کے جدید معنی بیان کرتے ہیں اس کو غلط ثابت کریں اور کہیں کہ اس میں کیا نقصان ہے اور اس کا کیا جواب ہے۔ قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ان چار سو تولیں میں ہے۔

سورہ یونس سورہ انبیاء سورہ صافات سورہ نون اب میں ان

چاروں مقامات کی آیات لفظ کر کے جوان سے ثابت ہوتا ہے اسے لکھتا ہوں۔  
پہلی آیت

..... ”فَلَوْلَا كَانَتْ قُرْيَةً آمِنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونَسٌ  
لَمَّا مَأْمَنُوكُشْفَنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخَزْرِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَعْنَا هُمْ إِلَى حِينِ  
(یونس: ۹۸) ”یعنی کسی آبادی کے تمام آدمی ایسے نہیں ہوئے جو اپنے نبی پر وہ سب کے سب  
ایمان لانے سے مستفید ہوئے ہوں باں یونس نبی کی تمام قوم اس پر ایمان الٰی اور ہم نے انہیں  
عذاب یعنی دنیا کے چند روزہ زندگی میں رسائی اور ذلت سے نجات دی۔ جس میں وہ قبل ایمان  
لانے کے بتلا تھے۔ اور عزت و راحت کی زندگی عطا کی گئی۔

اس آیت سے دو باتیں ثابت ہوئیں اول: یہ کہ یونس نبی کی قوم دیگر نبیوں کی قوم سے  
اس امر میں ممتاز ہے کہ یہ تمام قوم یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئی بخلاف دوسری قوموں کے کہ  
وہ تمام یا بالکل یا اپنے نبی پر ایمان نہیں لائیں۔ چنانچہ قرآن میں الاقوم یونس کا لفظ اس امر پر  
کافی شہادت ہے کیونکہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ قوم یونس ایمان لائی۔ اور جب قوم یونس میں  
کوئی تخصیص نہیں تو تمام ہی مراد ہوگی ورنہ تخصیص کے لئے کوئی دلیل ہوئی چاہئے اسکے علاوہ سورہ  
صفات میں ہے ”وَارْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مَائِيَةِ الْفَوَّارِيْزِيْدُوْنَ فَأَمْنَوْا  
(صفات: ۱۴۷، ۱۴۸) ”یعنی یونس جس قوم کی طرف بھیجا گیا وہ تمام ایمان لے آئے اس سے  
بھی معلوم ہوا کہ یونس کی تمام قوم (یعنی جس کی طرف وہ نبی بنا کر بھیجا گیا تھا) ایمان لائے  
چنانچہ علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ”وَالْفَرَضُ أَنَّهُ لَمْ يَوْجِدْ قُرْيَةً آمِنَتْ  
بِكُمَالِهَا تَبَيَّنَهُمْ مِّنْ سَلْفٍ مِّنَ الْقَرَى الْأَقْوَمِ یونس (ج: ۴ ص: ۲۵۸) ”یعنی کوئی بستی  
یونس کے قوم کے سوا ایسی نہیں ہے جو تمام اپنے نبی پر ایمان لائے ہوں۔

الفرض قوم یونس کا استثناء جو اس آیت میں ہے وہ صرف اس اختصاص اور امتیاز کی  
وجہ سے ہے کہ وہ تمام بلا استثناء ایمان لائے اس کے سوا کوئی اور دوسری وجہ استثناء کی نہیں جیسا  
کہ خیال ہے کہ عذاب کے وقت ایمان کا معتبر ہونا قوم یونس کا خاصہ ہے اور یہ خیال اس لئے  
صحیح نہیں کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا بھی دیگر قوموں کا ایمان ایسی حالت میں معتبر ہوا ہے  
جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

دوسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ قوم یونس ایمان کے پہلے ایسے  
عذاب میں بتلاء تھے جس نے انہیں خوار و ذلیل بنارکھا تھا یعنی وہ نہایت ذلیل اور خوار اور

مصابب میں گرفتار تھے اور جب وہ ایمان لے آئے تو اب ان کو دوسری زندگی عطا ہوتی اور ایمان کی وجہ سے انہوں نے ہر قسم کی ترقی کی اور چین و آرام کی زندگی بس کرنے لگے چنانچہ اس آیت کے یہ الفاظ لِمَا امْنَوْا كَشْفَنَا عَنْهُمُ الْعَذَابُ اس پر صاف طور سے دلیل میں کیونکہ لغت عربی (المجدس، ۸۸۰ عربی) میں لفظ کشف کے معنی کسی موجودہ شے کے بٹانے اور زائل کرنے کے ہیں۔

اقرب الموارد میں ہے ”کشف الشی ای رفع عنہ مایواریہ یعطیہ“

اس کے علاوہ خود مرزا قادیانی نے تفسیر کبیر کی جس حدیث صحیح سے چالیس روز کی قطعی مدت اور وعدہ بیان کیا ہے اس میں قوم یونس پر عذاب ہونا مذکور ہے تو ایسی حالت میں کسی قادیانی کا یہ کہنا کہ قوم یونس پر عذاب نہیں تھا خود مرزا قادیانی کی تکذیب ہے اور وہ من بعض و تکفیر بعض کے قبیلہ سے ہیں۔

مسلمانو! جماعت قادیانیہ کو دیکھو کہ ان کی خواہش اور بوس کے جو خلاف ہو خواہ وہ حدیث سے ثابت ہو یا قرآن سے تو اسے ردی بنا کر پس پشت ڈال دیتے ہیں اور جو اونی وساوس کے موافق ہو خواہ کسی ہی ضعیف اور کمزور آزاد کیوں نہ ہو، اسے مہر تحریک بنا دیتے ہیں اور ایک ہی حدیث کے دو حصوں پر مختلف رائے دیتے ہیں۔ خیال کرو کہ قوم یونس پر عذاب کا یہان صرف اسی جگہ ہے؟ پھر کیا اس آیت میں کوئی ایسا لفظ ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ عذاب کی وعید کے بعد تھا اور خدا نے یا یونس علیہ السلام نے پہلے سے انہیں وعدہ دے دیا تھا اور انہیں منتظر بنا رکھا تھا جبز نہیں بلکہ یہاں تک صاف ظاہر ہے کہ قوم یونس پہلے سے دنیا کی ذات و رسولی کے عذاب میں بنتا تھی اور ایمان لانے سے وہ عذاب دور ہو گیا اس کے سایہاں نہ کسی وعید کا پتہ ہے نہ وعدے کا۔ اے جماعت قادیانیہ! اگر تم اپنے اس دعویٰ میں پچھے ہو کر یونس نبی علیہ السلام نے ہماری عدوی کے پیش گوئی عذاب کی وی تھی تو بتاؤ کہ اس میں کون سا وہ لفظ ہے جس سے یہ پیشگوئی معلوم ہوا، اور اگر قرآن سے یہ پیش گوئی وعید کی کیا ثابت نہیں تو پھر کیا مجھش احادیث سے قطعی وعید ثابت ہوگی یہ تو کہو کہ امر قطعی کس دلیل سے ثابت ہوتا ہے؟

دوسرا آیت ..... ”دُولَنُونَ اذْهَبْ مَفَاضِبَ افْظُنَ انْ لَنْ يَقْدَرْ عليه فنادی فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجيبنا له ونجينا ه من الغم وكذلك ننج المؤمنين (انبیاء: ۸۷، ۸۸)“ یعنی یونس علیہ السلام نے بھرت کی اور اس خیال سے کہ تم اس پر ٹنگی نہ کریں گے۔ اس نے مصیبت میں مجھ سے فریاد کی اور کہا کہ اے قدوس یکتا پاک اور بے عیب تو ہی ہے اور میں تو قصور و اربوں

تب ہم نے اس کی فریاد سنی اور اس کے رنج و غم کو دور کیا اور ایمان والوں سے ہم ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔

اس آیت میں مفاضبہ کے معنی مراغمہ یعنی مہاجرہ کے ہیں چنانچہ (تاج العروج ج ۲۴ ص ۲۸۹) میں ہے۔ ”غاضبة راغمة وبه فسر قوله وذالنون اذ ذهب مفاضبأاًى مراغماً لقومه“ (اسان العرب ج ۱۰ اس ۷۸) میں ہے ”غاضبة راغمة“ (تاج العروج ج ۱۶ ص ۲۹۵) میں ہے۔

وارغمهم نابذهم وخرج عنهم و مجرهم وعاداهم“ (اسان العرب ج ۱۶ ص ۲۶۰) میں ہے۔ ”وراغمهم هجرهم“ بعض نے اس کے یہ معنی بھی کئے ہیں کہ یونس علیہ السلام خدا پر غصہ ہو کر بھاگے لیکن جب ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ خدا پر غصہ تو عام مسلمان کی شان سے بعد ہی نہیں بلکہ کفر ہے اور یونس علیہ السلام تو نبی تھے ان کی طرف ایسے خیال سے بھی جسم پر ارزہ آتا ہے اور دل کا نپتا ہے اور دیکھو مرزا قادیانی ہی (انجام آنحضرت کے سو ۲۲۶ خواجہ اس ۱) میں بھی لکھتے ہیں۔ ”ولا يليق لاحدان بغضب على رب العالمين“ ”ھچکس رانمی سردکہ برخدائی تعالیٰ خشمناک شود“ یعنی کسی کو خدا پر غصہ کرنے اور سوت نہیں۔

اے جماعت قادیانی! بتاؤ توجہ تمہارے پیغمبر کے نزدیک نامی شخص کو بھی خدا پر غصہ ہزا رہیں تو پھر اپنے پیغمبر کو کیا کہو گے جو وہ یہ بتاتے کہ: ”لا جل ذلك ذهب یونس مفاضبأ من حضرة الکبریا“ (انجام آنحضرت کے سو ۲۲۵ خواجہ اس ۱) یعنی اسی لئے یونس نے خدا پر غصہ کیا۔

کیا مرزا قادیانی کے نزدیک یونس علیہ السلام نبی نعمود بالله عالمی سے بھی اُرے ہوئے تھے۔ جو خدا پر غصہ کیا یہاں حافظہ بنا شد کی مشاہدہ نہیں چسپاں ہوتی ہے اصل یہ ہے کہ ایسے لکھنے سے خود مرزا قادیانی کا خمیرہ ان پر ملامت کرتا ہو کا اور حقیقت یہ ہے جو پکھو مرزا قادیانی نے حضرت یونس علیہ السلام کے شان میں لکھا ہے وہ اتفاقات نہیں بلکہ یہ ان کی ولی کیفیت کا آئینہ ہے لیکن یاد رہے کہ کوئی شخص اپنے تدبیسات کی سیاہی سے سچائی کی روشنی کو نہیں چھپا سکتا۔ میں لہتا ہوں کہ قرآن کے کسی حرف سے اس کا راجح ہی نہیں ملتا کہ خدا نے یونس علیہ السلام نبی سے عذاب کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن مرزا قادیانی اپنے جھوٹ پر وغیرہ قازیل کرائے یوں چکاتے ہیں کہ جب خدا نے یونس علیہ السلام سے وعدہ کیا اور پھر وعدہ خلافی کی تو یونس خدا پر غصہ ہوا اور اپنی آنحضرت سے بہت اور راست کو چھوڑ دیا۔

”ولما ترک یونس بسوء فهم الا ستقامة والاستقلال قواتهم“ (ص)

۲۲۵ فڑاں ج (اص ایضا) میں پڑھو۔

مرزا قادیانی نے اپنی بات بنانے کے لئے یونس علیہ السلام کو کج فہم گمراہ خدا سے غصہ کرنے والا تھبیرایا۔ (معاذ اللہ)

ناظرین! ذرا انصاف اور ایمان اور خوف خدا کی روشنی میں مرزا قادیانی کے ان الہامات کو ملاحظہ فرمائیں کہ ایک بی بزرگ زیدہ راستی کا ستون ہدایت کا چشمہ انہیں اوصاف سے یاد کیا جا سکتا ہے اور کیا انہیاء جو لوگوں کیلئے آفتاب ہدایت بن کر چمکتے ہیں انہیں کثافت اور آلوگیوں میں بتلا ہو سکتے ہیں؟۔ ”والله ما يقولون الا کذباً“

تیسری آیت

”وَان يُونس لِمَنِ الْمُرْسَلِينَ، إِذَا أَبْقَى إِلَى الْفَلَكِ  
الْمَشْحُونَ، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمَدْحُضِينَ، فَالْتَّقْمَهُ الْحَوْتُ وَهُوَ مَلِيمٌ فَلَوْلَا  
أَنْهُ كَانَ مِنَ الْمُسْبَحِينَ، لَلْبَثُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يَبْعَثُونَ، فَنَبَذَنَهُ بِالْعَرَاءِ  
وَهُوَ سَقِيمٌ، ابْتَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطَنِينَ وَارْسَلْنَاهُ إِلَى مَائَةِ الْفِ  
أَوْيَزِيدُونَ، فَأَمْنُوا فَمَتَعْنَهُمُ الْحَيْنُ (صافات: ۱۴۸ تا ۱۳۹)“

یعنی یونس علیہ السلام بلاشبہ اپنے عہد رسالت میں ایک بھری ہوئی کشی پر بھاگ کر آیا اور باہم قرعداً نہ اڑی ہوئی پھر یونس علیہ السلام پھسلا اور مچھلی اسے نگل گئی جس پر یونس علیہ السلام کے ضمیر نے اسے ملامت کی۔ یونس علیہ السلام اگر عبادت گزار بندوں میں سے نہ ہوتا تو وہ قیامت تک یہاں تھبیرا رہتا۔ لیکن ہم نے اسے اس سے نجات دی اور خشکی کے ایک میدان میں درخت کے سایہ شلنے پہنچایا اور وہ نہایت ہی ضعیف یہاں کی طرح ہو گیا تھا۔ ہم نے یونس علیہ السلام کو ایک لاکھ سے زائد کی طرف پہنچا اور وہ تمام اس پر ایمان لائے اور ایک زمانہ تک ہم نے انہیں نفع پہنچایا۔

ادھاض متعددی ہے جس کے معنی ازلائق کے ہیں اور انسان کے افعال میں چونکہ خدا تعالیٰ کو بھی دخل ہے اس لئے یہاں یونس علیہ السلام کے پھسلنے اور لغرش کو خود یونس علیہ السلام کی طرف نسبت نہیں کیا گیا بلکہ یہ فعل خدا نے اپنی طرف نسبت کیا اور یونس نبی کو مدھمنی سے تھبیرایا یعنی مفعول قرار دیا اور یونس علیہ السلام کی طرف نسبت کی تاکہ معلوم ہو کہ یہ امر خدا کے حکم اور

ارادے سے ہوا لیکن ہم نے ترجمہ میں حال بیان کیا ہے۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ یونس علیہ السلام دریا میں گرائے گئے اور قصد انہیں گرفتہ ورنہ ان پر اقدام قتل اور خودکشی کا جرم عائد ہو گا اور یہ عام مسلمان سے بھی بعید ہے اور وہ تو نبی تھے بلکہ لفظ مدحیں سے تو صاف معلوم ہوا کہ یہ فعل یونس علیہ السلام کا تھا ہی نہیں اور ان سے قصد اور بالاختیار ایسا نہیں ہوا تھا اور جب کہ خودکشی حرام ہے اور سخت گناہ ہے اور قانوناً بھی اتنا بر جرم ہے کہ اس کے لئے سخت سزا ہے تو پھر کسی نیک دل خدا پرست کے خیال میں اس قسم کا وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ یونس علیہ السلام نے خودکشی کی ہو گی اور ایک اولو المعزم برگزیدہ خصوصانی۔ کیا اتنے بھاری ارتکاب جرم اور گناہ کا ارتکاب کرے گا اور کیا جو شخص دنیا سے جرائم اور برائی کے مٹانے اور محوك کے لئے آئے اور خلق کا سرچشمہ ہدیت اور صلاح اور تقویٰ اور نیکی کا علمبردار ہو تو وہ خود بھی جرائم کی نجاست سے آلو دہ ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں برگزیدہ میر اور تمام اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انہیاءً معصوم ہیں اور ان کی عقل ان کے عمل پر حاکم ہے اس لئے ان سے کسی گناہ کا ہونانا ممکن ہے۔ اب مرزا قادیانی کی رام کہانی اور وسو سہ شیطانی سنئے آپ (انجہم آئینہ کے ص ۲۲، خزانہ حج) میں فرماتے ہیں۔ ”ومارائی طریقاً یختارہ فالقی نفسہ فی البحر الذخار وہیچ راھے ندید کہ آنرا اختیار کندنا چار خویشن را بدریاد راند اخٰت“ یعنی مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ یونس نے اس میں اُوگ مجھے جھوٹا کہیں گے اور طعن اور تشنج کریں گے خودکشی کی اور دریا میں گر پڑے جماعت قادیانیہ سے یہاں میں چند باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔

اگر واقعی یونس علیہ السلام سے خدا نے عذاب کا وعدہ کیا تھا اور انہوں نے خدا کے اس وعدہ کے موافق لوگوں کو عذاب کی خبر دی تھی جیسا کہ مرزا قادیانی کہتے ہیں تو یونس علیہ السلام اس خبر میں صادق اور نہایت صاف تھے اور واقع میں وہ جھوٹ کی آلو دگی سے پاک تھے اور یہ امر ظاہر ہے کہ جس کو خود یونس علیہ السلام بھی جانتے ہوں گے اور انہیاء کیا بلکہ ہر خدا پرست کی یہ کوشش ہوتی ہے بلکہ یہی اس کا اعلیٰ مقصد ہے کہ اس کا معاملہ خدا سے صحیح اور درست رہے۔ خواہ دنیا کے لوگ کچھ کہیں وہ ان کی کہنے سننے کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ ”لَا يخافون لومة لائِم (مائده: ۵۵)“ ان کی اولیٰ صفت ہے صلحاء اور انہیاء اور خدا پرستوں کے واقعات اس پر شاہد عدل ہیں کہ اوپر نیچے اتهام لگائے گئے جادوگر، کذاب، مفتری وغیرہ وغیرہ خطابات سے یاد کئے گئے۔

کیا دنیا میں کوئی ایسا نبی ہوا ہے جس پر اس کی قوم نے اتہام نہیں لگایا اور طعن نہیں کیا جھوٹا نہیں بنایا یہ تو عوام جہاں، کفار، فساق کی سنت قدیمہ ہے پھر یہ تجھ بے کہ یونس علیہ السلام نے محض اس خیال سے کہ کفار نہیں طعن کریں گے جھوٹا نہیں گے خود کشی کی۔ کیا بخیال مرزا قادیانی اس واقعے کے قبل یہ لوگ یونس علیہ السلام پر طعن نہیں کرتے تھے اور ان کی تکذیب نہیں کی پھر اس وقت یونس علیہ السلام کیونکر ان الفاظ کے متحمل ہوئے؟۔ مرزا قادیانی خدا سے ڈر کے اور ایمان سے تو کہیے کہ ایسا شخص جو بزرے الفاظ کا بھی متحمل نہ ہو سکے۔ وہ نبوت کے بارگراں کا اہل ہے؟۔ یہ تو یونس علیہ السلام پر الزام نہیں بلکہ خدا پر ہے۔ بتول شخص چندیں سال خدائی کر دی وگا و خر راشاختی۔

..... ۲ ..... وعید کی پیشین گولی کا تو ہے اور استغفار سے مل جانا اگر سنت اللہ ہے اور عادت قدیمہ حضرت باری جمل اسمہ کی ہے اور تجویف اور انداز کی معیادیں تقدیر مبرم کی طرح نہیں ہوتیں اور چونکہ یہ سنت اللہ مستقرہ اور قدیمہ ہے اس لئے انداز اور تجویف کے الہامات میں کچھ ضرور نہیں ہوتا کہ شرط کے طور پر اس سنت اللہ کا الہام میں بھی ذکر کیا جائے کیونکہ کوئی الہام اس سنت اللہ کے مخالف ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسا مرزا قادیانی کے اشتہار مورخ ۲ ستمبر ۱۸۹۲ء (مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۴۰) میں ہے تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کو اس سنت اللہ اور عادت مستقرہ بلکہ متواترہ اور بدیہیں کا علم تھا یا نہیں۔ اگر علم تھا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یونس علیہ السلام نے اس وعید کو ایسا قطعی سمجھ لیا جس میں تخلف ممکن نہیں جیسا مرزا قادیانی (اجمام آئمہ) عن ۲۲۷ خزانہ احتجاج ایضاً میں لکھتے ہیں۔ ”استیقین ان العذاب قطعی لا يرد وانه سيقع في المعیاد“ اور کیوں یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو وعید کی خبر دیتے وقت اس سنت اللہ کو بیان نہ کیا تاکہ دوسرے وقت پر جھوٹ کے الزام سے نپھنے اور کس لئے یونس علیہ السلام نے خدا پر غصہ کیا کیونکہ خدا نے سنت قدیمہ مستقرہ کے موافق جس کا علم یونس علیہ السلام کو تھا اس وعید کو نال دیا پھر اس میں یونس علیہ السلام کے غصہ کی کوئی وجہ نہیں اور اگر اس سنت قدیمہ مستقرہ متواترہ کا علم یونس کو نہ تھا تو اول تو یہ امر نہایت ہی حیرت خیز ہے کہ جس کا علم مرزا قادیانی کو ہوا اور سنت اللہ ہوا اور خدا کی عادت قدیمہ ہو مگر یونس علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی کو اس کا علم نہ ہو یا للعجب! مگر اس پر بھی دریافت طلب یہ امر ہے کہ جب یونس علیہ السلام کو اس کا علم نہ تھا تو خدا نے کیوں وعید کے وقت اس سنت کا ذکر نہ کر دیا تاکہ یونس علیہ السلام اس رسولی اور رذالت سے نپھتے اور خود کشی نہ کرتے، وائے بحال جماعت قادیانیہ کو جو سنت مستقرہ ہو، عادت قدیمہ ہو۔ جس کا ذکر تمام کتابوں میں ہوا اور تمام الہام

اس سنت کے موافق ہوں۔ پھر یونس نبی کو نہ خود اس کا علم ہوا اور نہ خدا ہی اس کو بتائے جس کا نتیجہ یہ ہو کہ یونس علیہ السلام لوگوں میں جھوٹے تھبیریں اور خود کشی کریں۔ ”نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ الْهَفْوَاتِ وَالخَرَافَاتِ“

۳..... مرزا قادیانی نے یونس علیہ السلام کی نقل تو کی لیکن میں کہتا ہوں کہ نہ تمام رہی اس لئے کہ یونس علیہ السلام تو عید کی پیشین گوئی میں جانے پر محض اس خیال سے کہ ان کی قوم طعن و تشنیع کرے گی اور جھوٹا تھبیرائے گی دریا میں ڈوب گئے اور مرزا قادیانی نے تو ایسا نہ کیا باوجود یہ کہ قوم نے ان کو جھوٹا دعا باز، مکار، نفس پرست، بندہ شہوت دریا شرم و خیا میں بھی نہ ڈوبے سب کچھ کہہ دیا۔

۴..... ”وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحَوْثِ . اذْنَادِي وَهُوَ مَكْظُومٌ . لَوْلَا أَنْ تَدَارِكَهُ نِعْمَةُ مِنْ رَبِّهِ لَنْبَذَ بِالْعِرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (القلم: ۵۰ تا ۴۸)“ اور تم یونس کی طرح نہ ہو جب کہ اس نے مصیبت میں فریاد کی اگر خدا اس پر حرم نہ فرماتا تو وہ میدان میں کس مپرسی کی حالت میں پڑا رہتا لیکن اس کے رب نے اسے نواز اور صالحین سے بنادیا۔

قرآن میں ان چار مقام میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے ان آیات سے جو امر معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یونس بھی مثل دیگر رسولوں کے خدا کے رسول تھے جن کو خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مخصوص کیا اور صالحین سے تھبیرایا۔ یونس علیہ السلام نے اپنی جگہ سے بھرت کی اور راستے میں ایک ایسی کشتی پر پہنچے جو بھری ہوئی تھی اور چونکہ اس میں جگہ کم بنی اور آدمی زیادہ لہذا رفع نزاع کے لئے اس پر سوار ہونے کے لئے باہم قرمعہ ڈالا گیا۔ اور یہ تھبیرا کہ جس کا نام قرمعہ میں آئے وہ سوار ہو۔ اس میں یونس پھسل کے دریا میں جا گرے اور مچھلی ان کو کھا گئی۔ اس وقت یونس علیہ السلام نے خدا کے ساتھ حسن ظن کیا اور یہ سمجھا کہ خدا مجھ پر سختی نہ کرے گا اور وہ ضرور مجھے اس مصیبت سے رہائی بخشے گا یہ سمجھ کر خدا سے فریاد کی اور حمد و ثناء کے بعد اپنے بیگز اور اس کی قادریت کا اظہار کیا اس پر خدا نے اپنی رحمت سے انہیں خشکی میں درخت کے سایہ میں پہنچا دیا اگر خدا اس وقت اپنارحم نہ کرتا تو بظاہر کوئی صورت یونس علیہ السلام کے بچتے کی نہ تھی کیونکہ وہ توہلاک ہوئی بچکے تھے۔ پھر خدا نے ایک لاکھ سے زائد کی طرف ان کو بھیجا تا۔ ان کو خدا کے احکام پہنچا میں اور یہ قوم قسم قسم کے مصالح اور تکالیف، نیا وی اور ذلت و رسائی میں گرفتار تھی۔ لیکن جب ایمان لے

آئے تو خدا تعالیٰ نے ان تمام مصائب و رسائلیٰ وغیرہ کو ان سے دور کیا اور پھر نہایت جیں اور راحت کی زندگی عطا فرمائی۔ مفسرین کو اس بارے میں اختلاف ہے کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مچھلی کے واقعے کے بعد میں گئے تھے یا پہلے۔ ابن عباسؓ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مچھلی کا واقعہ قبل کا ہے لیکن زیادہ علماء کی رائے یہی ہے کہ مچھلی کا واقعہ بعد میں پیش آیا اور یونس علیہ السلام اس کے قبل اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے لیکن قرآن سے اس کا تعین مشکل ہے اور جو روایات اس کے متعلق ہیں اگر ان کی سندوں پر نظر نہ بھی کی جائے تو بھی ان میں جو اختلاف ہے وہ بجائے خود اس شہادت کے ناکافی ہونے کے لئے پوری ضمانت ہے۔

یونس علیہ السلام کا دریا میں گرنا اس میں بھی مفسرین کو اختلاف ہے بعض کہتے ہیں دوسرے لوگوں نے ان کو دربار میں چھوڑ دیا۔ اور بعض کا بیان ہے کہ یونس علیہ السلام خود گر پڑے اور حضرت یونس علیہ السلام کا یہ گرنا بدرجہ مجبوری تھا جبکہ کشتی کو تلاطم کی وجہ سے غرق ہونے کا قوی اندیشه ہوا۔ نہ اختیاری، جیسا مرتضیٰ قادری نے بیان کیا ہے لیکن قرآن کے لفظ سے اس معنی کی کامل تائید ملتی ہے کہ وہ لغزش سے گرے جیسا پہلے ہم لکھ آئے ہیں قرآن نے اپنے بیان میں اس امر پر بھی روشنی نہیں ڈالی کہ مچھلی سے یونس علیہ السلام کس طرح برآمد ہوئے اور حشی پر پہنچا اس میں مفسرین کی حدیثوں کو باور کرنے کے لئے ضرور ہے کہ ان کی سندوں پر غور کیا جائے کہ سند کہاں سے حاصل کی گئی اور لائق اعتبار ہے یا نہیں۔ محدثین کے عام اصول کے موافق ان سندوں کا اختلاف ان کے ضعیف ہونے کی کافی شہادت ہے۔

یہاں پر یہ امر زیادہ توجہ کے لائق ہے کہ قوم یونس کے ایمان سے عذاب دور ہونے کی کیا صورت ہوئی۔ اس میں جب ہم قرآن کے الفاظ کو دیکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے ارسال رسول کے قانون کو پڑھتے ہیں تو وہ جس نتیجہ اور جس فیصلہ پر پہنچتا ہے وہ نہایت ہی صاف اور روشن ہے اس نتیجہ سے پہلے مجھے ارسال رسول کے قانون کو بھی دھرا دینا مناسب ہے۔

یہ امر تو ظاہر ہے کہ انبیاء دنیا سے فساد مٹانے اور تمدن اور اخلاق کی اصلاح کیلئے مبعوث کئے گئے۔ جس قوم میں فساد کے شرارے تیز ہوں اور یہ تباہ کن آگ مشتعل ہو اور اخلاق اور تمدن دونوں کا ان میں نشان نہ ہو۔ اس قوم سے بڑھ کر بد نصیب اور مصیبت زدہ اور بتلانے عذاب کوں ہو سکتا ہے اور انسان کے لئے اس سے زیادہ اور کیا تکلیف اور عذاب ہو گا کہ انسان کی زندگی چوپاؤں سے بھی گری ہوئی ہو۔ اور نہایت ہی ذلت اور رسولی کی زندگی ہو

لیکن ایمان کی بارش ہوتے ہی ان میں انقلاب عظیم ہو جاتا ہے اور تمام دیران اور اجزا ہوا تمدن اور اخلاق کا قطعہ سر بزر اور شاداب ہو جاتا ہے اور فساد کی آگ ایک بارگی بجھ جاتی ہے اور نکبت اور ذلت اور عذالت کے عینیں غار سے نکل کر فلاج اور کامیابی اور عزت اور کمال کے زریں تخت پر سلطنت کرنے لگتی ہے۔

اس کی تصدیق کے لئے دور نہ جاؤ عرب ہی کے تاریخی صفات پر نظر ڈالو اور دیکھو کہ قبل نبوت عرب کی قوم کی کیا حالت تھی اور ایمان کے بعد وہی قوم کیا سے کیا ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان سے پہلے یونس علیہ السلام کی قوم کی حالت بھی ہر طرح تباہ تھی یعنی اخلاق، تمدن و دلوں کا ان میں نشان نہ تھا جس کی وجہ سے وہ ذلیل اور نہایت ہی نخوست اور ادبار اور فلاک وغیرہ میں بتلاء تھے اور اسی وجہ سے ان میں حضرت یونس علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے جیسا سنت اللہ ہے اور عادت قدیمه خدا تعالیٰ کی ہے کہ جب کسی قوم کے معاملات اور اخلاق وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے دنیا کی ذلت اور رسوائی کے عذاب میں بتلا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس عذاب سے نجات دینے کے لئے اس میں رسول کو بھیجتا ہے اور جب یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائی اور اس روشنی سے ان کے دل روشن ہو گئے تو اب ایمان کی بارش نے ان کے دینی اور دنیاوی مقاصد کی زراعت کو سر بزر اور شاداب کر دیا اور کامرانی کے ساتھ وہ عزت کی زندگی کے ہمکنار ہوئے چنانچہ قرآن نے اس معنی کو نہایت صاف لفظوں میں ادا کیا ہے اس موقع پر ہم پھر آپ کو قرآن کے الفاظ کی طرف توجہ دلاتے ہیں ان کو پڑھو اور خوب غور سے پڑھو۔ "لَمَا أَمْنَوْ كَشْفَنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخَزِيْنِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَعَنَّاهُمْ إِلَى حِينِ (یونس: ۹۸)، یعنی قوم یونس جو دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب میں بتلا تھی وہ ذلت و رسوائی ایمان کی وجہ سے زائل ہو گئی اور اب وہ کامیابی اور عزت کی زندگی بر کرنے لگے۔

ایمان کی وجہ سے یہ تغیر و تبدل کچھ قوم یونس ہی سے مخصوص نہیں بلکہ یہ ایمان کا خاصہ لازم ہے اور یہ اس کا ممتاز اور روشن اثر ہے اور جن قوموں میں انبیاء آئے ہیں ان تمام میں یہی جزو مدد ہوا ہے لیکن جس امر کی وجہ سے قوم یونس قابل ستائش اور ذکر ہوئی وہ صرف یہی ہے کہ یہ تمام قوم بلا انکار اول ہی بار ایمان لے آئے چنانچہ اس آیت سے "وَ ارْسَلْنَاهُ إِلَى مَائِيَةِ الْفَ اویزیدون فَأَمْنَوْا (صفات: ۱۴۷، ۱۴۸)" یہ امر نہایت روشن ہے کہ قوم یونس تمام، بلا انکار کے ایمان لے آئی کیونکہ عرب میں فاتر اخی بلا مہلت کے لئے ہے اور جبکہ کوئی امرا یا انہیں جس کی

مجہ سے ہم اس کے خلاف معنی لیں تو آیت اپنے ظاہر معنی پر مل جائے گی۔ قرآن میں کسی جگہ سے بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یونس کی قوم نے یونس علیہ السلام کی مخالفت کی اور تکذیب کی اور باہم مخالفت کی آگ بھڑکی اور وحدہ عدیتک نوبت پہنچی۔

باں تفسیروں میں ایسی روایتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یونس کی قوم نے پہلی بار تکذیب کی اور ان پر عذاب آیا اور انہیں روایات میں سے کسی روایت میں یہ بھی نہ ہے کہ یونس نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا چونکہ ان روایات میں سخت اختلاف ہے اور یہ اختلاف اس درجہ تک پہنچ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اصل واقعہ نہایت ہی تاریکی میں آ جاتا ہے اور واقعات سے گزر کر خطابیات میں داخل ہو جاتا ہے اور ان گواہوں کے اس قدر اختلاف کے بعد حاکم ان تمام گواہوں کی شبادت کو جعلی تھبرا نے پر اور فیصلہ کئے لئے دوسرے دلائل کی طرف توجہ کرنے پر بے اختیار ہو جاتا ہے اس لئے وہ قابل اعتبار نہیں خصوصاً اس وقت میں جبکہ وہ قرآن کے بھی خلاف ہوں اور خدا تعالیٰ کی سنت قدیرہ اور عادات مستقرہ کے بھی اب میں یہاں ان گواہوں کے بیانات کو لکھتا ہوں تاکہ ناظرین انصاف سے دیکھ کر خود فیصلہ کریں کہ مرزا قادیانی کی یہ روایات قابل اعتبار ہیں یا نہیں اور ایسی گواہی قابلِ ثبوت ہو سکتی ہے یا نہیں۔

## شاملہ اول

حدیث ابن عباس کی پہلی روایت

تفسیر کبیر نے ابن عباس سے اُنقل کیا ہے کہ یونس علیہ السلام پر خدا نے وحی کی کہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ اگر وہ ایمان میں داخل نہ ہوگی تو عذاب میں بٹلا کی جائیں گی جب قوم نے نہ مانا تو یونس وبا سے نکل گئے اور قوم نے یونس کو جب نہ یکھا تو نادم ہوا تی اور ایمان لائی۔

”عن ابن عباس فاوحى الله تعالى اليه قل لهم ان لم تؤمنوا جاءكم العذاب فابلغهم فابدوا فخر من عندهم فلما فقد ود ندموا على فعلهم . وآمنوا به (تفسیر کبیر ج ۱۱ ص ۲۱۳)“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یونس علیہ السلام نے قطعی عذاب کا وعدہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ عذاب نہ ایمان لانے سے مشروف تھا۔ دوسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ عذاب کے لئے کوئی وقت بھی متعین نہیں کیا تھا۔

اب مرزا قادیانی کی جرأت کو ملاحظہ فرمائیے کہ وہ تکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے جو

وعددہ عذاب کا کیا تھا اس میں شرط نہیں تھی اور اگر کسی حدیث وغیرہ میں شرط ہے تو دیکھا و چنانچہ (انجام آنکھ مص ۲۲۶ بخراں ج اص ایضا) میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ ”یونس کا قصہ پہلی کتب اور قرآن و حدیث میں ہے لیکن کسی شرط کا ذکر نہیں اور اگر نہ مانو تو شرط دکھاؤ کہ کہاں ہے۔“ اور جان بوجھ کرنا دان نہ ہو واقعی یونس علیہ السلام کے وعددہ عذاب میں شرط نہ تھی۔

”وان قصہ یونس موجودہ فی القرآن والکتب السابقة ولا حدیث النبویة ولیس هنالک ذکر شرط مع ذکر العقوبة وان لم تقبل فعلیک ان ترینا شرطاً فی تلك القصہ فلا تکن کالا عمنی مع وجود البصارة واعلم ان الشرط لم یکن اصلافی القصہ المذکورة“

اور اسی کتاب کے حاشیہ (انجام آنکھ مص ۲۳۶ بخراں ج اص ایضا) میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ ”خد تعالیٰ نے یونس نبی نقطی طور پر چالیس دن تک عذاب نازل ہونے کا وعدہ دیا تھا اور وہ نقطی وعدہ تھا جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہیں تھی جیسا کہ (تفیر کیرج ۱۱ ص ۱۶۳) میں اور امام سیوطی کی درمنشور میں احادیث صحیحہ کے رو سے اس کی تصدیق موجود ہے۔“

مسلمانوں ادیکھوم رزا قادیانی نے کس طرح پر زور الفاظ میں دعویٰ کیا ہے کہ یونس علیہ السلام سے بلا شرط نقطی عذاب کا وعدہ تھا اور کسی حدیث میں شرط کا ذکر نہیں؟ اب آپ ابن عباسؓ کی اس حدیث کو جو تفسیر کبیر سے ہم نے نقل کی ہے پڑھو کہ اس میں شرط ہے یا نہیں نہایت تجبہ ہے کہ مرزا قادیانی ایسے دعوے زور سے کر دیتے ہیں اور یہ خیال نہیں فرماتے کہ جانچ میں جب ان کی ملعم سازی اور نقطی نکل جائے گی تو وہ دیکھنے والے جن کے سامنے یہ کھوٹی متاع پیش کرتا ہوں میری نسبت کیا رائے قائم کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اب جماعت قادیانیہ دیکھے کہ اس حدیث میں شرط ہے یا نہیں؟ اور مرزا کا فرمانا کہ کسی حدیث میں شرط نہیں ہے اور بلا نقطی وعدہ تھا یہ جھوٹ اور فریب اور دھوکا ہے یا نہیں کیا مرزا قادیانی نے تفسیر کبیر نہیں دیکھی پھر کیوں جان بوجھ کر حق کو چھپایا اور حق پر تلیس کی سیاہ چادر ڈالی۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ چالی کے نور کے سامنے یہ سیاہی ٹھہر نہیں سکتی ناظرین اس حدیث میں ان تین باتوں کو خصوصیت سے یاد رکھیں۔

۱..... اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یونس علیہ السلام نے نقطی عذاب کا وعدہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ عذاب مشروط تھا ایمان میں داخل نہ ہونے پر۔

۲..... یونس علیہ السلام نے عذاب کے لئے کوئی تاریخ اور وقت مقرر نہیں کیا تھا۔

۳..... خدا نے اس عذاب اور شرط کی وجہ کی تھی۔

## ابن عباسؓ کی دوسری روایت

ابن عباسؓ ستر روایت ہے کہ جب یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے بدعما کی تو خدا نے ان پر یہ وحی کی کہ صحیح کا نام پر عذاب نازل ہوگا۔ یونس علیہ السلام کی قوم کو یقین ہو گیا اور باہم یہ مشورہ تھیہ کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہر جانور کے بچے باہر لے کر نکلیں اور خدا سے دعا کریں کیا بعید ہے کہ خدا ان کی وجہ سے حرم فرمائے پھر انہوں نے ایسا ہی کیا اور بچوں کو آگے رکھ لیا جب عذاب آیا اور انہوں نے دیکھا تو خدا کی طرف متوجہ ہو کر دعا کی اور عورتیں اور بچے روانے لگے اور جانور بھی معاپنے بچوں کے چلائے تب تو خدا نے حرم فرمایا اور عذاب بٹا کرآمدی کے پیاراؤں کے باشندوں پر بھیجا جو قیامت تک ان پر رہتے گا۔

”واخرج ابوالشيخ عن ابن عباس رضى الله عنهمما قال لما دعا  
يونس على قومه اوحي الله اليه ان العذاب مصبههم فقالوا ما كذب يونس  
وليصبحنا العذاب فتعالوا حتى تخرج سخال كل شيء ف يجعلها مع اولادنا  
فلعل الله ان يرحمهم فاخرجوا النساء معهن الولدان واخرجوا الابل معها  
فصلا نها واخرجوا البقر معها عجا جيلها واخرجوا الغنم معها سخالها فجعلوه  
اماهمهم و اقبل العذاب فلما ان رؤاه جاروا الى الله ودعوا وبكي النساء  
والوالدان ورعت الابل وفصلا نها . وخارت البقر وعجا جيلها وتفت الغنم و  
سخالها فرحمهم الله فصرف عنهم العذاب الى جبال آمد، فهم يعذبون حتى  
الساعة (درمنثور جز ۳ ص ۲۱۸)“

پہلی اور یہ دوسری حدیث یعنی دونوں حدیثیں ابن عباسؓ کی ہیں اور ایک ہی صحابی سے روایت ہے لیکن ان دونوں روایتوں میں سخت اختلاف ہے۔ جس میں سے بعض کی طرف ہم بھی توجہ لائے چیز۔

۱۔ اس حدیث میں ہے کہ یونس علیہ السلام کی بدعما پر خدا نے عذاب دینے کی وحی کی، پہلی میں بدعما کا ذکر نہیں۔

۲۔ اس حدیث میں عذاب کے لئے شرط نہیں کی گئی اور پہلی حدیث میں یہ عذاب مشروط ہے۔

۳۔ اس حدیث میں عذاب کے لئے وقت مقرر کیا گیا پہلی حدیث میں یہ تغییر نہیں۔

۴..... اس حدیث میں قوم یونس کے ایمان لانے کا ذکر نہیں بلکہ تصریح و بکا کا ذکر ہے پہلی حدیث میں ان کا ایمان لانا ثابت ہے۔  
 ۵..... اس حدیث میں مذکور ہے کہ عذاب آیا اور اس وقت تک قوم آمدی پر عذاب ہوا ہے اور پہلی حدیث میں عذاب کے آنے نہ آنے کا کچھ ذکر نہیں۔

### ابن عباسؓ کی تیسری روایت

درمنثور میں ابن عباسؓ سے ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو ایمان لانے کی دعوت دی تب خدا نے وحی کی کہ عذاب فتح کو نازل ہوگا یونس علیہ السلام نے ان سے جب یہ کہا تو انہوں نے اس کا یقین کیا اور وہی مشورہ یہاں جود و سرگی حدیث میں ہے۔ تب خدا نے عذاب الحمر یا جس پر یونس علیہ السلام غمہ ہو کر بولے کہ میں تو جھوٹا ہو گیا اور اس پر غصہ ہو کر چل دیئے۔

”واخرج ابن ابی حاتم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما دعا یونس قومه اوحی اللہ اليه ان العذاب يصبحهم فقال لهم فقالوا اما كذب یونس ولیصحنا العذاب فتعالوا يخرج الى آخر مارواه ابو الشیخ حتی قال فصرف ذلك العذاب و غصب یونس فقال كذبت فهو قوله مغاضبا فمضى الى البحر (درمنثور جز ۴ ص ۳۲۲)“

اس حدیث کے بیان میں بھی قبلی حدیث سے اختلاف ہے۔

..... یہاں ایمان کی دعوت کے بعد عذاب کی وحی کا ہوتا ثابت ہوتا ہے اور قبل میں یونس کی بد دعاء سے۔

۲..... اس میں مذکور ہے کہ یونس غمہ بن کر ہوئے اور پہلی میں یہیں۔

۳..... اس میں گھض عذاب کا انہما لینا ثابت ہوتا ہے اور پہلی سے ظاہر ہے کہ آمدی قوم پر پہنچا دیا گیا۔

### ابن عباسؓ کی چوتھی روایت

ابن عباسؓ سے روایت ہے۔ یونس ایک بھتی میں نبی یا نبی کو بصیرتی گئے۔ جب وہاں کے لوگوں نے انکار کیا اور نہ مانا تب خدا نے وہی کہ ان پر فلام دن عذاب آئے گا۔ تو ان سے علیحدہ ہو جا۔ یونس نے یہ ان سے کہہ دیا قوم نے آجائے۔ یونس علیہ السلام اُنرا باہر گیا تو ضرور عذاب آئے گا۔ اسے دیکھتے رہو جو روز عذاب کا تھا اس کی شب میں یونس علیہ السلام نے ان سے غفران کیا تھا تو قوم و خوف ہوا اور باہر جنگل میں مع جانوروں اور پھوس کے نکلے اور تو پہا اور استغفار کی اور خند۔

اس کی وجہ سے ان پر رحم کیا اور یونس علیہ السلام راستہ پر منتظر انتظار میں ٹھہرے رہے اور رہا گیرے دریافت کیا کہ قوم کا کیا حال جو اس نے کہا جب ان کا نبی نہیں چھوڑ کے چلا گیا تو نہیں عذاب کا یقین ہو گیا تب وہ جنگل میں مع اپنے بال بچوں اور جانوروں کے توبہ واستغفار میں مشغول ہوئے۔ اس لئے ان سے عذاب بٹالیا گیا اسی پر یونس علیہ السلام چلے گئے اور کہا کہ اب میں ان کے پاس نہ جاؤں گا کیوں کہ میں ان کے نزدیک جھوٹا ہو گیا۔

”واخرج ابن جریر و ابن حاتم عن ابن عباس قال لما بعث يونس عليه السلام الى اهل قرية فردواعليه ماجاءهم فامتنعوا منه فلما فعلوا ذلك اوحى الله اليه انسى مرسل عليهم العذاب فى يوم كذا وكذا فاخرج من بين ظهرهم فاعلم قومه الذى وعد الله من عذابه ايامهم فقالوا ارمقوه فان هو خرج من بين اظهركم فهو والله كائناً ما وعدكم فلما كانت الليالي التى وعد العذاب فى صبيحتها اولج . فراح القوم فخذلوا فخرجو من القرية الى براز من ارضهم وفرقوا بابين كل دابة وولدها ثم عجو الى الله وانا بوا والستقالوا فاقال لهم الله وانتظر يونس عليه الخبر عن القرية واهلها حتى مرمار فقال ما فعل القرية قال فعلوا ان نبيهم لما خرج من بين اظهرهم عرفوا انه قد صدقهم ما وعدهم من العذاب فخرجو من قريتهم الى براز من الارض ثم فرقوا بين كل ذات ولدوا ولدها ثم عجو الى الله وتباوا اليه فقبل منهم واخر عنهم العذاب فقال يونس عليه السلام عند ذلك لارجع اليهم كذاباً ابداً ومعنى على وجهه (درمنثور جز ۵ ص ۲۸۷)“

اس حدیث کے بیان میں بھی پہلی حدیثوں سے اختلاف ہے۔

۱..... اس میں عذاب کی تاریخ اور دن مقرر کیا گیا اور پہلی حدیث میں اس کا

تعین نہیں۔

۲..... اس حدیث سے ثابت ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو عذاب کی خردی تو ان کو اس کا یقین نہیں ہوا بلکہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس تاریخ پر یونس علیہ السلام چلا جائے تو سمجھو صحیح ہے ورنہ نہیں۔ پہلی حدیثوں سے ثابت ہے کہ انہیں یونس علیہ السلام کی اس خبر کا یقین ہو گیا تھا۔

۳..... اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یونس علیہ السلام کی وجہ میں یہ بھی تھا کہ تو ان

سے علیحدہ ہو جا چنانچہ یونس علیہ السلام ان سے علیحدہ ہو گئے پہلی حدیثوں میں صرف عذاب کی وحی ہے اور یونس علیہ السلام کے نکلنے کا ذکر نہیں۔

مسلمانو! ابن عباس کی یہ حدیث جو نہایت ہی مختلف البيان ہے صحیح میں نہیں ہے اور اس کی سند قابل تقدیم اور بحث ہے جب معیار حدیث کے ترازو میں جانچنے کے بعد یہ پوری صحیح ہو۔ اس وقت البتہ قابل استدلال ہے مرتaza قادیانی یا جماعت قادیانیہ اس حدیث سے اگر استدلال کریں تو ان کو اس کی سند پیش کرنی چاہئے تاکہ اس پر رائے قائم کر سکیں۔ اس کے سوا بھی سند کو چھوڑ دیئے اس کا اختلاف ہرگز اس لائق نہیں جو اس کے صحت پر پورا اور قوی اثر کر کے اسے ایسا کمزور اور ناتوان نہ بنادے کہ پھر دعوے کے بارگراں کے برداشت کی متحمل نہ ہو۔ کیا جس شہادت میں اس قدر اختلاف ہوا اور جو گواہ اپنے بیان میں اس قدر تناقض کو دخل دے اور مضطرب ہوا۔ وہ اس کے بعد بھی قابل سماعت اور لائق و ثوق ہے اور فیصلہ کے لئے کافی شہادت کا کام دے سکتا ہے؟ زمانہ حال میں بھی دیکھو کہ باوجود اس کے کہ جھوٹ کا بازار اگر گرم ہے اور گواہ اکثر جھوٹی شہادتیں دیتے ہیں لیکن کسی گواہ کا اختلاف اس کے جعلی اور جھوٹے ہونے پر خود مجبوب طریقہ گواہ ہے۔ کیا مرتaza قادیانی کے عدالت میں مجبوتوں و مجنونوں اور مضطربوں کی شہادتیں بھی عقل کے خلاف ہیں۔

## شانہ دوم

### حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ

ابن مسعود سے روایت ہے کہ جب یونس علیہ السلام کی قوم، یونس علیہ السلام پر ایمان نہ لائی تب یونس علیہ السلام نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ فلاں روز عذاب آئے گا۔ پھر یونس ان سے رخصت ہوا اور یہی انبیاء کا دستور رہا ہے کہ جب قوم کو عذاب کا وعدہ دیتے ہیں تو ان سے رخصت ہو جاتے ہیں یونس علیہ السلام کی قوم کو جب عذاب نے آ لیا تب وہ باہر معد عورتوں اور جانوروں کے نکلے اور بچوں کو ان کی ماں سے علیحدہ کر کے فریاد کرنے لگے اور جب ان کی سچائی ظاہر ہوئی تو خدا نے ان سے عذاب ہٹالیا۔ یونس علیہ السلام راستہ میں ان کی خبر کے لئے ٹھہرے رہے اور راہ گیر سے دریافت کیا تو یہ تمام واقعہ معلوم ہوا تب تو یونس علیہ السلام غصہ میں یہ کہہ کر چل دیئے کہ اب میں اس قوم میں جھوٹا ہو کر نہ رہوں گا۔

”عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال ان يونس دعا قومه فلما ابوا ان يجيبوه وعدهم العذاب فقال انه ياتيكم يوم كذا وكذا ثم خرج عنهم وكانت الانبياء عليهم السلام اذا وعدت قومها العذاب خرجت فلما اظلهم العذاب خرجوا ففرقوا بين المرأة وولدها بين السخنة واولادها وخرجوا الي حرون الى الله علم الله عنهم الصدق فتاب عليهم وصرف عنهم العذاب وقعد يونس في الطريق يسأل عن الخبر فمر به رجل فقال ما فعل قوم يونس فحدثه بما صنعوا فقال لا ارجع الى قوم قد كذبتم وانطلق مفاضيًّا يعني مراجعاً (درمنثورج ۳ ص ۳۱۸)“

ابن مسعود کی اس حدیث میں یہ نہیں کہ خدا نے عذاب کی وجہ کی، بخلاف ابن عباس کی حدیث کے درسرے اس حدیث سے ثابت ہے کہ عذاب کے وعدہ کے بعد تمام انبیاء کا دستور رہا ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں ابن عباس کی حدیث میں یہ نہیں ہے۔ ابن مسعود سے ایک حدیث (درمنثور جلد ۵ ص ۲۸۸) میں نقل کی ہے جس میں عذاب کا وقت تین روز تک کا بیان کیا ہے اور تین روز کی تھیں ابی نجم کے قول سے بھی ثابت ہوتی ہے جس کو (تفیر ابن جریر طبری جلد ۱۱ ص ۱۱۰) میں نقل کیا ہے۔

### شامہ سوم

#### حدیث حمید بن هلال

حمدید سے روایت ہے کہ یونس عليه السلام نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی مگر انہوں نے نہ مانتخلیہ میں ان کے لئے دعا بھی کی یونس کی قوم نے یونس عليه السلام کی نگرانی کے لئے ایک شخص مقرر کیا تھا جب یونس عليه السلام سمجھاتے سمجھاتے تحکم گئے تو ان کے حق میں بد دعا کی اور اس کے جاؤں نے اس قوم سے کہا کہ یونس عليه السلام نے چونکہ تمہارے لئے بد دعا کی ہے اس لئے بلا شک تم پر عذاب آئے گا۔ اب جو کچھ تمہیں کرنا ہو کرو اور یونس عليه السلام یہ سمجھ کر کہ ضرور ان پر عذاب نازل ہو گا ان سے عیحدہ ہو گئے اور وہ قوم مع بہائم کے باہر نکلی اور توبہ کی اور خدا نے رحم کیا پھر یونس عليه السلام اس لئے واپس آئے کہ دیکھیں کس طرح کا عذاب ان پر آیا ہے جب آئے تو دیکھا کہ بدستور آباد ہیں کسی قسم کا عذاب نہیں آیا۔

”عن حمید بن هلال قال كان يonus عليه السلام يدعوا قومه“

فیابون علیه فاذاخلا دعا الله لهم بالخير و قد بعثوا عليه عینا فلما اعيوه  
دعا الله عليهم فاتاهم عینهم فقال ما كنت صانعين فاصنعوا فقد اتاك  
العذاب فقد دعا عليكم فانطلق ولا يشك انه سبأتهم العذاب فخر جوا فقدوا  
لهوا البهائم عن الاولاد فخر جواتا بئين فرحمهم الله وجاء يونس عليه  
السلام ينظر باى شئ اهلکها فاذ اذا الادمن مسودة منهم بدون العذاب  
(در منثور ج ۵ ص ۲۹۰)

اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ:

- ۱..... یونس علیہ السلام نے عذاب کی بدوعا کی تھی جس پر یونس کو قبولیت دعا کی  
بناء پر عذاب کا یقین ہو گیا اور انہیں چھوڑ کے چل دیئے۔
- ۲..... اس عذاب کی خرابی قوم کو یونس علیہ السلام نے نہیں دی بلکہ اس قوم کے  
جاسوس نے بدوعا کی خبر دی اور اس سے عذاب کا انہیں بھی یقین ہو گیا۔
- ۳..... یونس علیہ السلام لوٹ کے پھر اپنی قوم کی حالت معلوم کرنے کیلئے آئے یہ  
حدیث بھی پہلی حدیثوں کے مخالف ہے۔

مفسرین نے بہت حدیثیں اس بارے میں نقل کی ہیں جس میں سے تین مخصوصوں کی  
حدیثیں یعنی ابن عباسؓ ابن مسعودؓ حمید بن ہلالؓ کی میں نے یہاں نقل کی۔ ان حدیثوں کا بیان بھی  
بہت مختلف ہے جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے اور حمید کی حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یونس علیہ  
السلام نے اپنی قوم سے ہرگز عذاب کا وعدہ نہیں کیا اور نہ خدا نے یہ وعدہ کیا تھا بلکہ یونس علیہ السلام  
نے بدوعا کی جس سے ان کو عذاب کا یقین ہو گیا۔ اب مسلمانوں سے عموماً اور جماعت قادر یانی  
سے خصوصاً مخلصانہ ہمدردی سے یہ کہنا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے وعدہ کا قرآن میں کسی  
جگہ ذکر نہیں اور جواحدیت اس بارے میں ہیں وہ صحاح کی حدیثیں نہیں بلکہ مفسرین کی حدیثیں  
ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ مفسرین نے چونکہ محض صحیح حدیثوں کا التزام نہیں کیا اس لئے ان کی روایت  
کردہ حدیثوں میں تشقیق کی ضرورت ہے اگر ان روایات میں اختلاف بھی نہ ہوتا تو اس وقت میں  
بھی ان سے استدلال کی بھی صورت تھی کہ حدیثیں مع سند کے نقل کی جائیں۔ اور ان کی سند کے رو  
سے ان کی صحت پر روشنی ڈالی جائے اور جب کہ ان حدیثوں کی سند بھی بیان نہیں کی گئی اور نہ ان کی  
صحت پر روشنی ڈالی تو ان کے صحیح ہونے کا دعویٰ زبانی جمع خرچ ہے جو کسی طرح قابل سماught نہیں  
اور صحت سند کے بعد بھی ان حدیثوں میں اس قدر اختلاف ہے کہ جس کا اٹھانا اور اتفاق بلا

مکذب بعض کے نامکن ہے تو ایسی حالت میں ان احادیث سے استدلال اور کسی مدد عاکا اثبات حق پرست اور سچائی کے طالب کے لئے قابلِ اطمینان اور شرح صدر کا موجب نہیں ہو سکتا اور دل خلش و اضطراب کا یہ علاج نہیں ہے۔ کیونکہ یہ حدیثیں تناقض اور متفاہد ہیں اور ضرور ایسی صورت میں جس امر کو لیا جائے گا تو اس کے مخالف روایت کو غلط کہنا ہو گا اور اس صحیح اور تقلیط میں ایسی شہادتوں کی احتیاج ہو گی جس سے کسی حدیث کی ترجیح ہو سکے اب دریافت طلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے پاس اس حدیث سے استدلال کے لئے کوئی مضبوط دلیل ہے۔ جس میں عذاب کے وعدہ کا ذکر اور چالیس روز اس کی معیاد ہے۔ حالانکہ ایسی حدیثیں بھی ہیں جن سے نہایت واضح طور پر ثابت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے وعدہ نہیں کیا اور نہ خدا نے اس کی وجہ کی۔ بلکہ حضرت یونس علیہ السلام نے بد دعا کی تھی۔ پھر مرزا قادیانی کا عذاب کو قطعی بلا شرط تھہراانا اور اس حدیث کی طرف توجہ نہ کرنا جن میں عذاب قطعی نہیں بیان کیا گیا بلکہ نہ ایمان لانے سے مشروط تھا۔ کیا یہ تکمیل نہیں ہے اور اس کے لئے کیا وجہ ہیں؟ جن کی بناء پر وعدہ قطعی ہو جاتا ہے اور وہ حدیث ابن عباسؓ کی جس میں عذاب شرطی ہے قابلِ احتجاج نہیں رہتی؟

تعجب ہے کہ جس حدیث کی بناء پر مرزا قادیانی نے عذاب کو قطعی تھہرا�ا ہے اور چالیس روز کی مدت بیان کی ہے وہ حدیث تفسیر کبیر کے حوالہ سے نقل کی ہے اور وہ حدیث بھی جس میں عذاب قطعی نہیں بلکہ شرطی ہے تفسیر کبیر میں موجود ہے تو کیا مرزا قادیانی کی نظر میں حدیث پر نہ پڑی ہو گی۔ ہم کہتے ہیں کہ ضرور پڑی ہو گی لیکن دپدہ دانستہ انہوں نے اس سے تجہیں کیا اور اپنی ذلت اور رسولی سے نہ شرمنائے۔ علاوہ اس کے میں کہتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام پر یہ اعتراض کوئی نیا اعتراض نہیں ہے جس کو مرزا قادیانی سے بھی مخصوص کیا جائے بلکہ مرزا قادیانی کے قبل بھی بیدینوں اور ملحدوں نے یہ اعتراض کیا ہے اور انہیں کی پیروی مرزا قادیانی نے کی ہے چنانچہ شفاء (ج ۲ ص ۱۰۶) میں قاضی عیاض لکھتے ہیں اس جگہ میں شفاء کی عبارت بعضی میں ملاعلیٰ قاری کی شرح کو لکھتا ہوں۔ ”وَقَدْ تَوَجَّهَتْ هَهُنَا لِبَعْضِ الطَّاعُنِينَ إِلَى فِي الدِّينِ سُوَالَاتِ أَيْ مِنَ الْمُلْحِدِينَ (شرح شفاء ج ۲ ص ۲۲۵، طبع بیروت)“ یعنی یہاں بعض ملحدوں دین پر طعن کرنے والوں نے چند اعتراض کئے ہیں اس کے بعد قاضی صاحب نے چند اعتراض ملحدوں کے نقل کئے ہیں جن میں قصہ حدیبیہ اور نوح علیہ السلام وغیرہ کے واقعہ پر اعتراض بھی نقل کیا ہے جو مرزا قادیانی نے ان پر کیا ہے مجملہ انہیں اعتراضوں کے یونس علیہ السلام پر یہ اعتراض نقل کیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے چنانچہ قاضی صاحب کے بعض الفاظ یہاں نقل کرتا

ہوں معالفا ظاہر تملکی کے ”(ومن ذلك) ای من سوالات بعض الطاعنین فی مراتب النبیین ملروی من قصه یونس علیہ السلام انه وعدقومه العذاب عن ربہ فلما تابوا کشف عنهم العذاب فقال لا ارجع اليهم کذا با ابداً (شرح شفاء ج ۲ ص ۲۲۹) ”جو لوگ انبیاء علیہ السلام پر طعن کرتے ہیں اور ان کی عظمت اور کمال کی تفہیق کرتے ہیں ان کے اعتراض میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا پھر قوم کی توبہ سے وہ عذاب ان سے ہٹالیا گیا اس پر یونس علیہ السلام نے قسم کھائی کہ اب میں اپنی قوم میں والیں نہ جاؤں گا کیونکہ میں ان کے نزدیک جھوٹا ہو گیا ملدوں کے اس اعتراض کو نقل کرنے کے بعد قاضی صاحب اس کے جواب میں لکھتے ہیں۔ ”انہ لیس فی خبر من الاخبار الواردة فی هذا الباب لافی السنۃ ولا فی الكتاب ان یونس علیہ السلام قال لهم انه ای اللہ سبحانہ مهلكہم ..... وانما فیه انه دعا علیہم بالهلاک والد عالیس بخیر یطلب صدقہ من کذبه لکنه قال لهم ان العذاب مصبعكم وقت کذا وکذا فكان ذلك (شرح شفاء ج ۲ ص ۲۲۹) ”یعنی کوئی ایسی حدیث نہیں جس سے یہ ثابت ہو یا اس پر دلالت کرے کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ تم کو عذاب سے ہلاک کرے گا اور تم تمام اس عذاب سے ہلاک ہو جاؤ گے اور نہ کوئی قرآن میں ایسی آیت ہے جس سے یہ ثابت ہو بلکہ یونس علیہ السلام نے ان کے لئے بد دعا کی اور فرمایا کہ صیغہ کو تم پر خدا کا عذاب آنے والا ہے۔ چنانچہ عذاب ان پر آیا اور جو یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ ہوا پھر یونس علیہم السلام کسی طرح اپنی بات میں کاذب نہیں ہو سکتے۔

ناظرین! غور کرو کہ مرزاقادیانی نے درحقیقت یہ اعتراض یا نیز حدیثیہ والا اعتراض پہلے ملدوں دہریوں سے لیا ہے اور ان کی طرح وہ نبوت پر حملہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ نہایت بد دیانتی ہے کہ ان کا اعتراض تنقل کیا گری ان اعتراض کا جو جواب علماء نے دیا ہے وہ نقل نہیں کیا یہ کیوں محض عوام کے فریب دینے کو اور گراہ کرنے کو، اب اگر ان حدیثوں کو بھی صحیح مان لیا جائے جس سے مرزاقادیانی نے استدلال کیا ہے اور قرآن اور دوسری حدیثوں کو چھوڑ دیا جائے جیسا کہ مرزاقادیانی نے یہاں قرآن کو بھی چھوڑ دیا اور دوسری حدیثوں سے بھی آنکھ بند کر کے پی باندھ لی تب بھی میں کہوں گا کہ مرزاقادیانی تمہاری خاطر سے تمہاری بات مانے لیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ یہی صحیح ہے کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے چالیس دن تک قطعی طور سے عذاب نازل

ہونے کا وعدہ کیا تھا اور وہ قطعی وعدہ تھا جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہیں تو اس پر بھی تو وہ وعدہ نہیں ملا اور خلاف نہیں ہوا کیونکہ وعدہ عذاب کے نازل ہونے کا تھا نہ بلاک اور تباہ ہونے کا پس حسب وعدہ وہ عذاب آیا لیکن جب قوم نے توبہ کی تو وہ اخالیا گیا جیسا کہ آیت "لَمَا أَمْنَوْا كَشْفَنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخَزْرَى" سے ثابت ہوتا ہے تو اب فرمائے کہ وہ وعدہ خلافی کیا ہوئی اور یوں علیہ السلام کی پیشیں گئی جھوٹی ہوئی یا صحیح؟ حرف بحرف پوری ہوئی۔

**مرزا قادیانی کا دوسرا دعویٰ**

مرزا قادیانی نے دوسرا دعویٰ یہ کیا ہے کہ عبید کی معیاد توبہ اور خوف سے مل جاتی ہے اور یہ امر متواترات سے ہے جو قرآن اور توریت سے ثابت ہے۔ جو قرآن کرنی عربی (روحی فداہ) ﷺ پر نازل ہوا ہے اس میں تو کسی مقام میں یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ وعدہ خلافی کرتا ہے بلکہ قرآن کی اکثر آیات صاف اور قریٰ علی روں الا شہاد منادی کر رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے نہ بھی وعدہ خلافی کی اور نہ آئندہ وہ کسی صورت اور وقت میں کرے گا۔ متعدد مقامات میں بتا کیا اس کا یقین دلایا گیا ہے کہ خدائے قدوس ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا۔ کیا مرزا تی جماعت نے سمجھ لیا ہے کہ بس دنیا کی زندگی کے سوا دسری زندگی نہیں اور وہ دن آنے والا نہیں جس میں خدائے قدوس کے رو روضہ پیشی ہوگی۔ اگر انہیں قیامت اور جزا کا یقین ہے تو پھر کیوں وہ خدا سے نہیں ذرتے اور خدا پر ایسی افتراء پردازی سے کیوں خوف نہیں کرتے ہم مسلمانوں کا بلکہ تمام اہل کتاب کا یہ عقیدہ ہے کہ خدائے برتر تمام صفات ذمہ سے پاک ہے اور اس کے دامن قدوست پر کسی قسم کی برائی اور تباہت کا دھبہ نہیں اور یہ بھی ہر شخص تحوزی سی عقل والا سمجھتا ہے کہ وعدہ خلافی بدترین صفات سے ہے پاک انسان بھی ہمیشہ اس سے اپنے سچائی کو محفوظ رکھتے ہیں اور بھی وعدہ خلافی کرنے والا انسان کامل نہیں ہو سکتا۔ شاید یہاں کسی کو یہ خیال ہو کہ خطا کار گنہگار مجرم کی معافی کمال و کرم ہے نہ نقصان اور یہ بھی معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام جرام کی سزا کیں بیان کر دی ہیں اور ہر جرم کے مقابلہ میں ایک سزا اور عذاب مقرر کر دیا ہے اب اس جرم سے درگز ریا گئنا ہوں کاغفو، خلف و عید نہیں تو کیا ہے جب یہ مسئلہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں تو خلف و عید بھی انہیں نصوص قطعیہ سے یقیناً ثابت ہے اور توبہ اور خوف سے جب خدا تعالیٰ نے ہزاروں گناہ معاف کئے اور کرے گا تو اس میں کیا شک ہے کہ عبید توبہ اور خوف سے مل جاتی ہے اور خدا کی یہ سنت مسترد ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ظاہر میں یہ خیال صحیح اور قوی نظر آتا ہے اور خلف و عید کے لئے یہ نہایت مسکم اور غیر مترائل حصار ہے جس کے سامنے تمام ہتھیار آلات ناکارہ و کند معلوم

ہوتے ہیں۔ مگر اہل فہم اور دقيق نظریں سمجھتی ہیں کہ بس کوئی حصار سمجھے ہوئے ہیں وہ راکھ کا تودہ ہے اور جو لہراتا ہوا بحر مواد خیال کیا گیا ہے وہ ریگستان ہے۔ عفو اور شفاعت کو خلف و عید کی دلیل سمجھنا سخت غلطی ہے جس کی بنیاد آیات عذاب ثواب کے معنی سے بے خبری ہے کیونکہ ان آیات کو وعدہ و عید سمجھنا ہی غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ جن آیات میں کسی جرم یا مجرم کی سزا کا بیان ہے اس سے غرض جرم کی نوعیت اور قدر کا اظہار ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس قسم کے جرم سے مجرم ایسی سزا کا مستحق ہو جاتا ہے یعنی یہ جرم اس مرتبہ کا ہے کہ اس کے لئے یہ زمانہ مناسب ہے اور جس کے وہ لائق ہے اس کی قابلیت اور استحقاق کو بیان کیا ہے نہ یہ کہ سزا اور عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے وعید اور استحقاق مجرم وجوداً جداً امر ہیں۔ وعید و وعدہ کتنہ کافل ہے اور استحقاق مجرم کی حالت اور کیفیت ہے۔ اب دونوں کو ایک سمجھنا کیسی عظیم غلطی ہے کیا گورنمنٹ نے اپنے قانون میں جرائم کی سزا میں بیان کی ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے وعدہ کہی جاسکتی ہیں اور کوئی شخص بھی یہ خیال کر سکتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کا وعدہ ہے اب اگر گورنمنٹ کسی جرم کو چھوڑ دے اور سزا نہ دے تو یہ اس کی وعدہ خلافی ہو گی؟ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ قانون اور وعید و علیحدہ علیحدہ امر ہیں مجرموں کی سزا میں قانون ہیں نہ وعید۔ اور مفتی محمد صادق صاحب مرزاںی نے تو اپنی تاریکی کا یہ اعلیٰ ثبوت دیا ہے کہ حکم اور وعید میں فرق نہیں کیا اور برق آسمانی کے مصنف کو تو کیا کہا جائے جس نے اس جواب کو فخر یہ پیش کیا ہے کیونکہ وہ تو اس قسم کے امور کے سمجھنے سے غریب معدود ہے وہ کیا جانے کے وعید کیا مرض ہے اور حکم کس کو کہتے ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ مرزا یوں کامفتی بھی مفت ہی کا ہے جس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ مجرم کو دس پانچ سال کی سزا کرنا حکم ہے اور کسی وجہ سے قبل از معیاد چھوڑ دینا اس حکم کا شرخ ہے احکام میں نہ صحیح ہے اور وعید بخوبی ہے جس میں کہنے صحیح نہیں۔ بخلاف جس قوم کے مفتی ایسے گمراہ ہوں جو خبر اور انشاء میں فرق نہ کریں تو اس قوم میں ہدایت اور راستی کا اندازہ اسی سے کر سکتے ہیں۔ قادیانی خدا کے وعدہ خلافی اور جھوٹ کے ثبوت میں بھی آیت بھی پیش کرتے ہیں۔

”يَصْبَكُمْ بِعِضُ الَّذِي يَعْدُكُمْ (المومن: ۲۸)“، ”ہم نہیں سمجھتے کہ اس سے خدا کی خلاف وعدگی اور جھوٹ کیونکر ثابت ہوتا ہے؟۔ اس میں تو کوئی بات ایسی نہیں جیسا کہ آگے معلوم ہو گا۔ اب جب کہ ان دونوں باتوں پر عقل اور نقل دونوں گواہ ہیں یعنی وعدہ خلافی عیب ہے۔ اور ہر عیب سے خدا پاک ہے تو ایسی حالت میں کیا کوئی خدا پرست اس کہنے کی جرأت کرے گا کہ خدا وعدہ خلافی کرتا ہے اگر مرزا قادیانی یا کوئی مرزاںی اپنے اس دعوے کے ثبوت میں کہ وعید کی معیاد میں جاتی ہے کوئی قرآن کی آیت بتا سکتے ہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ خدا کی وعید خوف سے مل جاتی

ہے یا کوئی واقعہ ایسا ہو جس میں خدا کی وعدید ہو پھر وہ اپنے وقت پر پوری نہ ہوئی ہے۔ یہاں کوئی تمام مرزا یوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ پر غل مچایا ہے لیکن اس کی حقیقت ابھی بیان ہوئی۔ چونکہ یہاں مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا کا وعدہ خلافی کرنا قرآن سے ثابت ہے اس لئے میں تمام قادیانیوں سے با آواز بلند کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ محض غلط ہے اور مرزا قادیانی اس میں نہایت کاذب اور مفتری اور خدائے قدوس پر احتمام کرنے والے ہیں ورنہ کوئی مرزا تی قرآن سے اس کا ثبوت دے۔ یہ بھی خیال رہے کہ یہاں کلام محض قرآن میں ہے اس لئے اسی سے اس کا ثبوت کیا جائے۔ قرآن پر ثبوت کا انحصار محض مرزا قادیانی کے دعوے کی وجہ سے کرتا ہوں۔ ورنہ میر امطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کے سوابے یہ امر ثابت ہو سکتا ہے۔ ہاں جب مرزا تی یہ اقرار کریں کہ قرآن سے یہ امر ثابت نہیں اس میں بے شک مرزا قادیانی کا ذلب ہیں تو اس کے بعد دوسری دلیل اگر کوئی مرزا تی بیان کرے تو اس کے متعلق عرض کیا جائے گا۔ قرآن میں جو آیات اس قسم کی ہیں کہ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شے خدا کی قدرت اور اختیار میں ہے یادہ ہر قسم کی تبدل و تغیر پر قادر ہے یادو اثبات کی اسے قدرت ہے۔ یہ تمام آیات اگرچہ بظاہر عام ہیں لیکن جو چیزیں عقلانیا کسی آیت قطعی سے ان میں داخل نہیں ہو سکتی وہ ان سے ضرور خارج ہوں گی۔ ان آیات میں وہی امور داخل ہیں جو کہ کسی طرح محال نہیں نہ ان میں استحال بالذات ہے نہ بالعرض مثلاً قرآن میں ہے۔ ان اللہ علی کل شيء قدیر (البقرہ: ۲۰) اب اس کے عموم سے یہ استدلال صحیح نہیں کہ خدا اپنی ذات کے قاء پر بھی قادر ہے۔ یا اپنے شریک و سہیم کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح ”یَسْمُوَاللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَثِبُتْ (رعد: ۳۹)“ سے پر کوئی عاقل نہیں سمجھ سکتا کہ خدا اپنی ذات کے محیا اپنے شریک کے اثبات پر قادر ہے آیت ”ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً (الزمر: ۵۳)“ میں باوجود یہ کاف و لام استغراقی ہے۔ اور جمیعاً سے اس کی تائید ہے لیکن اس پر بھی شریک اس میں داخل نہیں کیونکہ شریک کے لئے قرآن ناطق ہے کہ وہ معاف نہ ہو گا یہی مثال بعینہ وعدید کی ہے کہ نصوص صریحی اور قطعی سے ثابت ہے کہ خدا ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس لئے یادو اثبات وغیرہ میں خلف وعدید داخل نہیں۔ یہ مرزا یوں کا کیسا فریب اور دجل ہے کہ اس قسم کی آیات سے خلف وعدید کو ثابت کرتے ہیں اور ان نصوص سے اندھے ہو جاتے ہیں۔ جن میں قطعی طور سے صاف صاف کہا گیا ہے کہ خدا اپنے وعدید کے خلاف نہیں کرتا۔ افسوس ہے کہ مرزا قادیانی نے ایسی روشن امر کی مخالفت کی اور اپنی تاریخی کا ثبوت دیا اور ہمارے نزدیک تو جب مرزا قادیانی کے ثبوت اور الہام دونوں جھوٹے ہیں اور خدا کی طرف سے نہیں بلکہ وہ وسواس

شیطانی ہیں اور ان کا معبود والہ ان کی خواہش نفاسی ہے تو اس میں بھک نہیں کہ اس خدا کی سنت مستقرہ ضرور خلف و عید کے ہے اور یہ امر قرآن سے یقیناً ثابت ہے کہ شیطان سے خلف ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ سے خلف ممکن نہیں گو مرزا ای قرآن کی اس پر قطعی شہادت ہو لیکن وہ قرآن جو مسلمانوں کا قرآن اور رسول عربی پر آیا ہے اس میں حاشا کہ ایسے امر کی طرف اشارہ ہی نہیں۔ اس جگہ کسی کو اگر یہ خیال ہو کہ خدا تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور آئندہ بھی قیامت میں اس کے عنفوکی صفت کا ظہور ہو گا اور مجرموں کی شفاعت بھی ہو گی۔ محروم سے درگزر اور معافی بڑی عمدہ صفت ہے اور یہ اہل کرم کے مناسب ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عید خوف سے مل جاتی ہے اور یہ خدا کی عادت مستقرہ ہے مجھے قادیانیوں کے ایک بیرونی مفہوم سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ بعد سلام کے میری ان کے یہ گفتگو ہوئی۔

میں، آیت: ”يَصْبِكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعْدُكُمْ (المؤمن: ۲۸)“ سے خلف و عید کس طرح ثابت ہوتا ہے۔

قادیانی: سکوت کے بعد کہا کہ اس سے صاف معلوم ہوا کہ بعض و عید پورے ہوں گے۔

میں: بلا تک اس سے معلوم ہوا کہ بعض و عید پورے ہوں گے لیکن بعض و عیدوں کا پورا ہونا ہی تو معلوم ہوا یہ کہے معلوم ہوا کہ بعض و عید پورے نہ ہوں گے۔

قادیانی: حضرت آپ نے خیال نہیں کیا ذرا راتوجہ سے کام لجھتے جب بعض و عیدوں کا پورا ہونے کا حکم کیا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض اس حکم سے خارج ہیں۔

میں: افسوس آپ کو اس قدر تو علم کا دعویٰ ہے لیکن آپ کو یہی معلوم نہیں کہ بعض پر حکم سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے بعض میں یہ حکم نہیں ورنہ ایجاد جزئی منافی ہو گا ایجاد کلی کے حالانکہ ایجاد جزئی عام ہے ایجاد کلی سے، یہ تو ایسی کھلی ہوئی بات ہے جس کو متبدی طالب علم بھی جانتا ہے کہ موجودہ جزیہ عام ہے موجودہ کلیہ سے، دوسرے آپ کے نزدیک جب و عید خوف اور توبہ سے مل جاتی ہے تو اسی صورت میں ایک و عید بھی پوری نہ ہو گی اس لئے کہ جو شخص یا قوم خوف سے توبہ کرے گی اس سے تمام و عیدیں مل جائیں گی اور جس میں خوف کی حالت پیدا نہ ہو گی وہاں پر تمام و عیدیں پوری ہوں گی کسی قوم یا شخص پر بعض و عیدوں کا پورا ہونا اور بعض کا نہ ہونا کس طرح ہو سکتا ہے اور اس تفریق کا کیا باعث ہے اور یہ قول کہ تم کو بعض و عید میں پہنچیں گی اور بعض نہیں کیوں کر صحیح ہو گا؟۔ اس لئے کہ خدا کی اس سنت مستقرہ کے موافق کرو عید توبہ اور خوف سے مل جاتی ہے اور تمام و عیدیں شرطی ہیں۔ اس قوم سے تمام و عیدات مل جانی

مزدور ہیں اگر وہ خوف سے توبہ کرے اور خوف سے توبہ نہ کرنے کی صورت میں تمام وعیدات پوری ہوں گی۔ الغرض یا توں تمام وعیدات پورے ہوں گی یا کوئی بھی نہ ہوں گی۔ البتہ بعض تو پوری ہوں اور بعض نہ ہوں یہ عجیب بات ہے۔ شاید آپ کا یہ مطلب ہو کہ نصف توبہ اور خوف میں نصف وعیدات ہوں گے اور نصف نہیں۔

اس کے بعد ان پیر مغان نے فرمایا کہ یہ تو آپ نے منطقی اور عقلی باتیں شروع کر دیں ہم ان جھٹکوں کو نہیں جانتے کہ ایجاد بجزئی عام ہے اور کلی خاص اگر آپ کو ایسی گفتگو منظور ہے تو میں خلیفۃ الرسالے کے پاس آپ کو لے چلوں گا۔ اس وعدہ کی معیاد بھی مل گئی لیکن اس وقت اس پیر مغان نے خبر نہیں۔ اگر خلیفۃ الرسالے سے جواب سے مطلع کریں تو عنایت ہوگی۔

### رد قادریانی کی چند کتابیں

میں نہایت دردمندی سے کہتا ہوں کہ یہ وقت نہایت نازک ہے ہمارے مقدس مدحہب اسلام کے مٹانے والے، ہمارے ایمان کے تباہ کرنے والے، بہت ہو گئے خصوصاً مرزا غلام احمد قادریانی اور ان کی جماعت۔ پس ایسے وقت میں آپ کو چاہئے کہ علماء کاملین کی صحبت کا شرف حاصل کریں اور ان کتابوں کو دیکھیں جو ان جدید یہودی حضرات کے جواب میں لکھی گئی ہیں میں یہ بھی کہوں گا کہ صرف اپنے دیکھنے پڑھنے تک قناعت نہ فرمائیں بلکہ اپنے احباب کو اس طرف متوجہ کریں تاکہ ان دونوں گروہوں کے فتنہ سے بچیں ان کتابوں میں سے بعض یہ ہیں۔

### فیصلہ آسمانی حصہ ۲

اس میں مرزا قادریانی کے پختہ اقراروں سے انہیں کاذب ثابت کیا ہے اور ان کی عظیم الشان دلیل کا بطلان نہایت مخفانہ طور سے کیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ تیسری بار زیر طبع ہے تیسرا حصہ ختم ہو گیا۔

### دوسری شہادت آسمانی

اس میں مرزا قادریانی کی آسمانی شہادت کو نہایت تحقیق و تفصیل سے غلط ثابت کیا ہے اور ان کی ناگفتہ بہ با تین دکھائی ہیں پہلی شہادت آسمانی مختصر تھی یہ ۱۹۸ صفحہ پر ہے۔

### ہدیہ عثمانیہ حصہ ۳

اس میں نہایت خوبی سے مرزا کا اور اس کے خاص مرید خوجہ کمال کا صریح جھوٹا ہونا ثابت کیا ہے۔

## ۲..... بدیہی عثمانیہ حصہ ۲

اس میں اور باقتوں کے علاوہ بعض صلحاء اور سابقہ قادیانی کے عبرتاک خواب ہیں جن سے مرزا کی حالت معلوم ہوتی ہے اور ان طائفین حق کا ذکر ہے جو مذہب قادیانی سے تائب ہوئے ہیں۔

## ۵..... اغلاط ماجدیہ

اس میں مولوی عبدالمadjد بھاگپوری قادیانی کے القاء شیطانی کے ایک ورق میں ۳۲ غلطیاں دکھائی گئی ہیں۔ اس وقت تک چھر سالے القاء کی غلطی کے اظہار میں طبع ہو چکے ہیں اور کئی رسالے زیر طبع ہیں۔

## ۶..... جواب حقانی

اس بینظیر رسالہ میں اسرار نہایتی والے خواب کا نہایت عمدہ جواب ہے جسے مولوی عبدالماجد قادیانی بار بار پیش کرتے ہیں اور مرزا کا جھوٹا ہونا ان کے اقتراوں سے نہایت کامل طور سے ثابت کیا ہے نہایت لائق دید رسالہ ہے۔

## ۷..... تغلیط منہاج نبوت قادیانی

مرزا کی پیشین گویاں جب غلط ہوئیں تو اس نے عوام کے فریب دینے کو یہ جواب تراشا کہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث و ای پیشین گوئی بھی پوری نہیں ہوئی تھی اس کا یہ جواب ہے اور نہایت عمدہ جواب ہے مگر اب تک طبع نہیں ہوا۔

## ۸..... حیات مسح

یہ بینظیر رسالہ حضرت مسح کی حیات کے ثبوت میں ہے اور قرآن و حدیث سے اور نیز مرزا کے مسلمات سے اس دعوے کو ثابت کیا ہے مگر ابھی چھپا نہیں ہے۔

## ۹..... صداقت کا نشان

یہ رسالہ مولوی عبدالمجید قادیانی کے رسالہ نبی کی پیچان کا مدلل جواب ہے۔

ملنے کا پتہ: محمد اسحاق عفی عنہ خلقہ رحمانیہ محلہ مخصوص پور موگیر!

الحمد للہ ان تمام کتب مذکورہ کو اخساب قادیانیت کی جلد ۵، ۷ میں دوبارہ شائع کرنے کی سعادت آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ذمۃ نبوت کے دفتر مرکزیہ ملتان نے حاصل کی ہے۔

فقیر اللہ و سایا ارشاد ۱۳۲۷ھ

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

# چشمہ ہدایت

(مسح قادیان پر اقراری ڈگریاں)

حضرت مولانا مفتی عبداللطیف رحمانی

بسم الله الرحمن الرحيم!

## ضرور ملاحظہ فرمائیے

دنیا میں مذہب حق اسلام کے مٹانے والے متعدد گروہ مستعد ہو گئے ہیں۔ بعض علانية مخالف ہیں۔ جیسے آریہ جو اپنی گمراہی پھیلانے میں نہایت کوشش ہیں اور بعض در پردہ مخالف ہیں۔ جیسے گروہ بابی اور قادریانی، احمدی اس آخری گروہ کا فتنہ تمام ہندوستان اور ملک افریقہ میں بہت خطرناک ہے ہمدردان اسلام کو اس طرف کامل توجہ کرنی چاہئے۔ مرتضیٰ اعلام احمد قادریانی نے اپنے کو مسلمان کہہ کر اسلام کی بخش کرنی کی ہے۔ مگر الحمد للہ خانقاہ رحمانیہ موئیں سے حمایت اسلام میں ایسے لا جواب رسالے لٹکے ہیں۔ جن کے جواب سے تمام دنیا کے مرزاںی عاجز ہیں۔ کیونکہ ان رسولوں میں نہایت خوبی اور صاف بیانی سے مرزا قادریانی کا بھوٹا ہونا قرآن مجید کی آیات صریح، توریت مقدس کے نہایت صاف بیان سے، ارشاد نبوی یعنی احادیث صحیح سے، یہاں تک کہ خود ان کے متعدد اقراروں سے نہایت روشن کر کے دکھادیا ہے۔ اس کی صداقت کے لئے فیصلہ آسمانی ہر سہ حصہ اور دوسری شہادت آسمانی اور اس رسالہ ہشمہ ہدایت کا دیکھنا کافی ہے۔

## مسح قادری پراقراری ڈگریاں

مولانا عبداللطیف رحمانی

بسم الله الرحمن الرحيم . نحمدہ الله العظیم و نصلی علی رسولہ الکریم !  
در دمندان اسلام ! اس وقت اسلام کے مٹانے کے لئے خالقین اسلام کے علاوہ بہت مدعاویان اسلام کھڑے ہو گئے ہیں اور اسلام کی اصل صورت جو خدا اور رسول ﷺ نے بیان فرمائی ہے اسے مناکر اپنی فرضی اور خیالی صورت کو اسلام کہہ کر دوسرے مسلمانوں کو اپنے خیال کی طرف بلا تے ہیں اور اس میں سرگرمی سے کوشش کر رہے ہیں۔ مگر ان میں سخت گمراہ اور اسلام کو اور مسلمانوں کو نہایت مضرت رسائیں گروہ قادریانی ہے۔ یہ گروہ بظاہر اسلام کو مان کر مرتضیٰ اعلام احمد قادریانی کے مٹانے پر نجات کا مدار بتاتا ہے اور مرزا قادریانی کو صاحب دھی والہام کہتا ہے۔ مرزا قادریانی کی حالت ان کی تصانیف سے قابل اہل علم معلوم کر سکتے ہیں اور خصوصاً ان کی

آخری تصانیف سے کہ انہیں خدا اور رسول سے کچھ داستن تھا۔ انہوں نے اپنی جھوٹی باتوں پر پردہ ڈالنے کے لئے خدا پر اور اس کے رسولوں پر بہت کچھ الزام لگائے ہیں اور کم علموں اور ناتحبوں کے لئے دام تزویر پھیلا کر خدا کی قدرت و قدیمت کو اور اس کے برگزیدہ رسولوں کی عصمت کو خاک میں ملایا ہے اور ان کی عظمت و شان کو مٹایا ہے اور مخالفین کو اعتراضات کا موقع دیا ہے۔ اس کی تشریع میں بہت رسائل نکلے ہیں۔ خصوصاً خانقاہ رحمانیہ منگیر سے، مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے مذہبی ضروری امور سے بھی تعلق بہت ہی کم ہے۔ اس عظیم الشان فتنہ کو مثل معبدی جھگڑوں کے سمجھ کر کچھ توجہ نہیں کرتے۔ یہ خیال نہیں کرتے کہ ہمارا سچا اور مقدس مذہب اسلام ہمارے ہاتھ سے جاتا ہے۔ یہ خیال نہیں کرتے کہ ہمارا مذہب اسلام جو ہمیں دائیٰ عذاب سے نجات دینے والا ہے۔ ہمارے بھائیوں کے ہاتھ سے چھیننا جا رہا ہے۔ قادریانی ہمارے ایمان کے سخت دشمن ہیں۔ جانی و مانی ہر طرح کی کوشش برادران اسلام کے ایمان لینے میں ساری دنیا میں کر رہے ہیں۔ اور چونکہ جھوٹ بولنے اور فریب دینے کی انہیں خوب تعلیم دی گئی ہے۔ اس لئے جس مقام پر جیسا موقع دیکھتے ہیں اسی طرح کی جھوٹی باتیں بنانا کر انی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ناداققوں کو فریب دیتے ہیں۔ مرزا قادریانی کی حالت میں اور ان کے جھوٹے دعووں کی تشریع میں بہت رسائل اہل حق نے لکھے ہیں۔

غرض جدت تمام کروی گئی ہے۔ مگر بعض احمدی حضرات نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر مرزا قادریانی کے اقرار سے انہیں جھوٹا ثابت کر دیا جائے تو ہم ان سے علیحدہ ہو جائیں گے اور انہیں جھوٹا جان لیں گے۔ اس لئے رقم الحروف بنظر خیر خواہی اس رسالہ میں مرزا قادریانی کے وہ اقوال جمع کر کے دیکھاتا ہے۔ جن سے وہ اپنے نہایت صاف اور پختہ اقراروں سے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں اور یہ وہ طریقہ فہماں کا ہے کہ عام و خاص ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ کوئی بڑی قابلیت اور علم کی ضرورت نہیں ہے۔

اس مختصر تحریر میں دو طرح کے اقوال پیش کئے جائیں گے۔ ایک یہ کہ مرزا قادریانی نے مسح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور جو کام مسح موعود کا خود انہوں نے متعدد جگہ اپنے رسولوں میں بیان کیا ہے۔ اس کا شتمہ بھی ان کے زمانے میں اور ان کے ذریعہ سے اس وقت تک ظہور میں نہیں آیا۔ بلکہ ابھی کے خلاف ظاہر ہو رہا ہے۔ اس لئے وہ اپنے بیان سے مسح موعود نہیں ہو سکتے۔ بلکہ وہ اپنے اقوال سے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔

دوسرا وہ اقوال ہیں جن میں خود انہوں نے اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کیا ہے۔ وہ اقرارات حسب ذیل ہیں۔

پہلا اقرار، ایام صلح میں لکھتے ہیں۔ ”اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ مسیح کے نزول کے وقت اسلام دنیا پر بکثرت سمجھیل جائے گا اور مل پاطلہ ہلاک ہو جائیں گی اور راستبازی ترقی کرے گی۔“ (ایام <sup>الصلح</sup> ص ۱۳۶، خزانہ اص ۲۸۱) اس قول کو مرکر ای دیکھئے اس میں مرزا قادیانی نزول مسیح کی تین علامتیں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان پر اتفاق ہو گیا ہے۔

۱۔ اس کے بعد دوسرا اور تیسرا قول بھی ملاحظہ کجئے۔ ہنسے رسالہ الہحدیث مطبوعہ کیم مارچ ۱۹۱۸ء میں فاتح قادیانی صاحب نے نقل کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے کام کا پروگرام بصورت عہدہ مسیح موعود یوں بتایا تھا۔ جوان ہی کے لفظ میں ہم سناتے ہیں۔

دوسرہ اقرار..... ”هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله“ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمع آفاق اور اقطار میں سمجھیل جائے گا۔ (برائین احمدی ص ۴۹۸، خزانہ اص ص ۵۹۳)

یہ پروگرام مسیح موعود کا تھا۔ لیکن مرزا قادیانی خود ہی اس عہدے پر فائز ہو کر انچارج ہوئے تو اس پروگرام میں کوئی تبدیلی کی ویسی کی نہیں فرمائی۔ بلکہ اس کی مزید تفریخ کرنے کو صاف الفاظ میں اعلان فرمایا جو خود مرزا قادیانی الفاظ میں درج ذیل ہے۔ فرماتے ہیں۔

تیسرا اقرار..... ”چونکہ آنحضرت ﷺ کی نبوت کا زمانہ قیامت تک محدود ہے اور آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ اس لئے خدا نے یہ نہ چاہا کہ وحدت اقوای آنحضرت ﷺ کی زندگی میں ہی کمال تک پہنچ جائے۔ کیونکہ یہ صورت آپ کے زمانہ کے خاتمہ پر دلالت کرتی تھی۔ یعنی شبہ گذرتا تھا کہ آپ کا زمانہ وہیں تک ختم ہو گیا۔ کیونکہ جو آخری کام آپ کا تھا وہ اسی زمانہ میں انجام تک پہنچ گیا۔ اس لئے خدا نے یہ سمجھیل اس فعل کی جو تمام قومیں ایک قوم کی طرح بن جائیں اور ایک ہی مذہب پر ہو جائیں۔ زمانہ محمدی کے آخری حصہ میں ڈالدی، جو قرب قیامت کا زمانہ ہے اور اس سمجھیل کے لئے اسی امت میں سے ایک نائب مقرر کیا۔ جو مسیح موعود کے نام سے موسم ہے اور اسی کا نام خاتم الخلفاء ہے۔ پس زمانہ محمدی ﷺ کے سر پر آنحضرت ﷺ ہیں اور اس کے آخر میں مسیح موعود اور ضرور تھا کہ یہ سلسلہ دنیا کا منقطع نہ ہو۔ جب تک وہ پیدا نہ ہو لے۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

پہلی علامت یہ ہے کہ اس وقت اسلام دنیا میں پھیل جائے گا۔ یہ تو نزول مسح کی علامت ہے۔ اب ان کے نزول کا وقت معلوم کرنا چاہئے۔ اس کا جواب بھی مرزا قادیانی دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ۱۸۹۱ء میں باعلام الہی یہ اعلان دیا گیا کہ آنے والا مسح تو ہی ہے۔

(تحقیق سالانہ یعنی رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۹، مرتبہ یعقوب علی تراب قادیانی)

اس قول سے معلوم ہوا کہ مسح کا نزول تو نہیں ہوا بلکہ خروج ہوا۔ کیونکہ زمین سے نکلنے والے کو نزول نہیں کہتے ہیں خروج کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے دجال کی نسبت حدیث میں خروج کا الفاظ آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس خروج کے بعد سترہ برس تک مرزا قادیانی نے کوشش کی۔ مگر یہ فرمائیے کہ کیا نتیجہ ہوا بجز اس کے کہ دنیا میں جس قدر اسلام پھیلا تھا اس کے ماننے والوں کی تعداد تمیں چالیس کروڑ شمار کی جاتی تھی۔ وہ نیست و نابود ہو گیا اور اس تمیں چالیس کروڑ میں سے تین چار لاکھ بقول آپ کے رہ گئے اور اسلام گویا مسٹر گیا اور وحدت قومی کا ظہور مطلق نہیں ہوا۔ سیاست ملکی کے عالمگیر غلبہ کا توانشان بھی نہیں پایا گیا۔ اب اگر کوئی مرزا کی محدودی یا کمالی اس علائیہ بات سے انکار کرنے تو بتائیے کہ مرزا قادیانی کے خروج سے اسلام کہاں پھیلا۔ کون سی نئی دنیا ہے جہاں مرزا قادیانی نے اسلام پھیلایا۔ اسے بتائیے اور کون سے باطل دین کو مرزا قادیانی نے ہلاک کیا؟ اور اگر نہیں بتاسکتے اور یقیناً نہیں بتاسکتے تو کیا یہ ہے کہ ان کے اس متفق علیہ قول کو مان کر ان کے مسح موعود ہونے سے انکار نہیں کرتے۔ مسح موعود جو کام اور جو علامت وہ خود بیان کر رہے ہیں وہ تو ان میں نہیں پائی گئی۔ یا یہ بتائیے کہ عیسائی دنیا میں کس جگہ اسلام پھیلا، ہندوستان کے ہنود و آریہ کس قدر داخل اسلام ہوئے۔ اے عزیز و ابا! اس کا کچھ جواب دے سکتے ہو؟ ذرا سر جھکا کر سوچو اور شرمندہ ہو۔

(باقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ) کیونکہ وحدت اقوامی کی خدمت اسی نائب النبوت کے عہد سے وارستہ کی گئی ہے اور اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے اور وہ یہ ہے۔ ”**هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ بِالْهُدَىٰ وَدِينَ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ**“ یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ایک کامل إدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تا کہ اس کو ہر ایک قسم کے دین پر غالب کر دے۔ یعنی ایک عالمگیر غلبہ اس کو عطا کرے اور چونکہ وہ عالمگیر غلبہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں ظہور میں نہیں آیا اور ممکن نہیں کہ خدا کی پیش گوئی میں کچھ تخلف ہوا۔ اس لئے اس آیت کی نسبت ان سب متفقین کااتفاق ہے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ عالمگیر غلبہ مسح موعود کے وقت میں ظہور میں آئے گا۔” (چشمہ معرفت ص ۸۲، خزانہ حج ۲۳ ص ۹۱) (باقیہ حاشیہ لائل صفحہ پر)

دوسری علامت یہ ہے کہ ادیان باطلہ مثلاً دین یہود و نصاریٰ و ہندو نیست و نابود ہو جائیں گے۔

کہو بھائیو! مرزا قادیانی کی بیس پچیس برس کی کوشش سے کون باطل دین ہلاک ہوا اور ہلاک ہونا تو بڑی بات تھی۔ کسی باطل دین میں کچھ کمی دیکھائی جائے۔ مگر کوئی دیکھا نہیں سکتا۔ اب جو حضرات انہیں مسح موعود یا نبی مانتے ہیں وہ اس کا جواب دیں؟ مگر نہیں دے سکتے۔ اس کا حال بھی وہی ہے جو پہلی علامت کا ہے۔ یعنی جس طرح پہلی علامت مرزا قادیانی کے وجود سے نہیں پائی گئی۔ اسی طرح یہ دوسری علامت بھی نہیں پائی گئی۔ یعنی ایک باطل مذہب بھی ان کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوا۔ بلکہ ترقی ہے۔ البتہ نہایت افسوس و صدمہ کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جس مقدس دین کے غلبہ اور اشاعت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسے گویا نیست و نابود کر دیا اور چالیس کروڑ مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ دے دیا۔ خواہ جس طرح دیا ہو۔

(بیانیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ) الہمجد یہ! اس اقتباس سے جہاں مسح موعود کا پروگرام معلوم ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسح موعود خود بدولت، اعلیٰ حضرت (مرزا قادیانی) ہی ہیں۔ پس اب ہم اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ کیا مرزا قادیانی اپنے کام میں کامیاب گئے؟ پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ مسح موعود کے زمانہ میں دنیا کے تمام اطراف میں اسلام پھیل کر تمام قومی افتراقات اللہ جائیں گے اور سب مختلف قومیں ایک قوم (مسلمان) بن جائے گی۔ اب سوال بالکل آسان ہے کیا ایسا ہو گیا؟ کیا یورپ سارا مسلمان ہو گیا؟ کیا ہندوستان کی مختلف قومیں مسلمان ہو گیں؟ آپ! کیا چھوٹی سی بستی قادیانی ہی میں ایسا ہوا کہ تمام قومیں (ہندو، سکھ، آریہ وغیرہ ایک مسلمان قوم بن گئے؟) آہ! کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ جواب نہیں ملتا ہے۔ (یعنی نہایت چھوٹی بستی کے مختلف مذہب کے لوگ بھی متفق ہو کر مسلمان نہیں ہوئے) ہاں عکس القصیہ تو ضرور ہوا کہ مسح موعود (مرزا) کے آنے سے سابقہ مسلمان یعنی کل دنیا کے مسلمان کافر ہو گئے۔ کیونکہ مسح موعود (مرزا) کا فتویٰ ہے کہ ”جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے۔“ (حقیقت الوجی ص ۹۷، خزانہ حج ۲۲ ص ۱۸۵)

یہاں تک مسح موعود کے بیان میں مرزا قادیانی کے تین قول ہوئے۔ ایک اصل رسالہ میں اور دو حاشیہ میں۔ پہلے قول میں لکھا کہ مسح موعود کے وقت میں ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ دوسرے قول کا حاصل یہ ہے کہ مسح موعود کے ذریعہ سے دین اسلام کا کامل غلبہ ہو گا۔ اس کا ثبوت مرزا قادیانی آیت قرآنی سے ہتاتے ہیں۔ تیسرا قول میں لکھتے ہیں کہ مسح موعود کے وقت تمام قومیں ایک ہی مذہب پر ہو جائیں گی۔ (بیانیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

تیری علامت یہ بیان کی کہ ”رستبازی ترقی کرے گی۔“ کہنے جتاب آپ ایمان سے کہہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی وجہ سے ان کے وقت میں راستبازی میں ترقی ہوئی؟ آپ نے پسے تجربہ سے یادوں کے تجربہ اور مشاہدہ سے یہ معلوم کیا کہ ساری دنیا کے علاوہ خود مرزا قادیانی اور اس کے خاص صحابی اور اس کے عام پیرو راستباز، صادق القول ہیں۔ ان میں راستبازی کی کچھ بھی بوپائی جاتی ہے؟۔ اس کے جواب میں ہر ایک چاہا غیر مقصوب یہی کہہ گا کہ ہرگز نہیں! ہرگز نہیں!! مرزا قادیانی کے جھوٹے اقوال علانية دکھادیئے گئے ہیں۔ (محمد محمد نمبر ۱۳۸)

(ملاحظہ ہو) دوسری شہادت آسمانی ص ۲۶۷، فیصلہ آسمانی ص ۳۲۹، ۳۴۰ دیکھئے خود ان کے مریدین علانية ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ کسی پر پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ ان کے مولوی کچھری میں جا کر بر سرا جلاس جھوٹ بولتے ہیں پھر راستبازی کو ترقی کیا ہو گئے۔ یہ وقت تو وہ ہے کہ جھوٹ اس قدر شائع ہو گیا ہے لاسے حیب من نہیں سمجھتے۔ بلکہ اپنے مطلب کے لئے بہت جھوٹی باتیں بنانے والے کو بہت ہوشیار اور لاکن سمجھا جاتا ہے۔

بھائیو! اب تو آپ معلوم کر چکے کہ مسح موعود کی جو علامتیں خود مرزا قادیانی نے اپنے قلم سے لکھی تھیں وہی ان میں نہیں پائی گئیں۔ خیال کیجئے کہ باوجود اس شور و غل اور نشانات اور مجزرات کے دعوؤں کے سودوس باطل مذہب والوں کو بھی انہوں نے داخل مذہب اسلام نہیں کیا۔ حالانکہ تم قول ان کے نقل کئے گئے۔ جن کا حاصل یہ ہے کہ مسح موعود کے ذریعہ سے ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا اور مذاہب باطلہ ہلاک ہو جائیں گے۔ مگر آنکھ اٹھا کر دیکھئے کہ دنیا کی کیا حالت ہے۔ معزز تعلیم یافتہ حضرات فرمائیں کہ دنیا کے گروہ باطلہ میں سے کوئی گروہ ہلاک ہوا؟ آپ کام عائد آپ کی دیانت ہرگز اس کا اقرار نہ کرے گی بلکہ بے تامل یہی کہے گی کہ بلاشبہ کوئی

(باقی حاشیہ گذشتہ صفحہ) پھر اسی قول میں لکھتے ہیں کہ وحدت اقوامی کی خدمت اسی نائب النبوة یعنی مسح موعود کے عہد سے کی گئی ہے۔ اس کے بعد آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسح موعود کے ذریعہ سے اسلام کو ہر قسم کے دین پر غالب کر دے گا اور ایک عالمگیر غلبہ اس کو عطا کرے گا۔ اس کے بعد آیت مذکورہ کی تفسیر میں اس بات کو متفق علیہ کہتے ہیں کہ مسح موعود کا کام یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے اور ایک عالمگیر غلبہ اسے حاصل ہو اور دنیا میں ساری قومیں مٹ کر ایک قوم مسلمان کی رہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ غلبہ جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر ہو گا۔ اب مرزا قادیانی کے مسح موعود مانے والے بتائیں کہ ان کے ذریعہ سے اسلام کہاں پھیلا؟

گروہ باطل ہلاک نہیں ہوا۔ بلکہ کروڑوں کی ترقی ہو گئی۔ کیونکہ اس سعی مسح موعود نے تو دنیا کے چالیس کروڑ مسلمانوں کو بجز چند لاکھ کے سب کو فقر اور دے کر گروہ باطلہ میں شامل کر دیا اور اسلام کو دنیا سے گویا خالی کر دیا۔ گروہ باطلہ میں سے سب تو کیا ہلاک ہوتے ایک آدھا گروہ بھی ہلاک نہیں ہوا؟ قوموں کا اختلاف روز بروز زیادہ ہو رہا ہے۔ خود مرزا ای گروہ میں اختلاف ایسا ہوا کہ بہت تھوڑے زمانے میں ایک کے چار ہو گئے۔ فرقہ بابی اور گروہ بہائی اور وہ جماعت (یہ تینوں گروہ اس وقت رنگوں میں موجود ہیں) جو سارے جہاں کے مذاہب کی کھجڑی بنا کر ایک نیا مذہب بنارہی ہے۔ مرزا قادیانی کے وجود کے وقت موجود تھے اور اب ان کی ترقی ہو رہی ہے۔ پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جن کی چشم ظاہر اور دیدہ دل کچھ بھی روشن ہیں۔ وہ بے اختیار اس کا اقرار نہ کریں کہ بلاشک و شہر مرزا قادیانی اپنے کامل معیار سے جھوٹے ثابت ہوئے اور سعی مسح موعود کی جو عالمیں متفق علیہ مرزا قادیانی نے بیان کی تھیں وہ ان میں نہیں پائی گئیں۔ اس لئے وہ اپنے پختہ اقرار اور مقرر کردہ معیار سے جھوٹے ثابت ہوئے۔ مگر افسوس ہے کہ جماعت مرزا ای اس نہایت روشن دلیل پر نظر نہیں کرتی اور میاں محمود وغیرہ ایسے علanchیہ کذب کے ماننے کے لئے ساری مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اب اسی مضمون کی تائید اور تشریح میں اور اتوال ملاحظہ کیجئے۔

چوتھا اقرار..... جس میں مضمون مذکورہ کی کچھ تشریح کر کے مخالفوں کا منہ بند کرنا چاہتے ہیں اور اپنا اثر پھیلانے کے لئے حقانی گروہ کو خاموش کرتے ہیں اور ضمیمہ انجام آنکھم میں لکھتے ہیں۔ ”اگر ان سات سال میں میری طرف سے خدا تعالیٰ کی تائید سے اسلام کی خدمت میں نمایاں اثر ظاہرنہ ہوں اور جیسا کہ سعی مسح موعود کے ہاتھ سے ادیان باطلہ کا مرجانا ضروری ہے۔ یہ موت جھوٹے دینوں پر میرے ذریعہ سے ظہور میں نہ آوے۔ یعنی خدا تعالیٰ میرے ہاتھ سے وہ نشان ظاہرنہ کرے۔ جس سے اسلام کا بول بالا ہو اور جس سے ہر ایک کی طرف سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائے اور عیسائیت کا باطل معبود فقا ہو جائے اور دنیا اور رنگ نہ پکڑ جائے تو میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے تینیں کاذب خیال کرلوں گا۔“

(ضمیمہ انجام آنکھم ص ۳۵۲-۳۲۰، خزانہ حج ۱۱ ص ۳۱۲-۳۱۹)

ناظرین! مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے قول میں لکھا ہے کہ سعی کے وقت میں تمام ادیان باطلہ ہلاک ہو جائیں گے۔ حاشیہ کے پہلے قول کا حاصل یہ ہے کہ سعی مسح موعود کے ذریعہ سے دین اسلام کا کامل غلبہ ہو گا۔ (کامل غلبہ پر خوب نظر رہے) اور دوسرے قول میں لکھا ہے کہ سعی مسح موعود کے وقت میں دنیا کی تمام قومیں ایک ہی مذہب پر ہو جائیں گی۔ یعنی سب مسلمان ہو۔

جیں۔ پھر یہ لمحتے ہیں کہ جھوٹے دینوں پر یہ موت میرے ذریعہ سے آئے تھی۔ غرضیکہ یہاں تک چار قول مرزا قادیانی کے بیان ہوئے۔ جن کا حاصل یہ ہے کہ صحیح موعود کے وقت میں ان کے ذریعہ سے تمام ادیان باطلہ بلاک ہو جائیں گے اور دین اسلام کو ایسا غلبہ ہو گا کہ دنیا کی تمام قومیں ایک ہو جائیں گی۔ یعنی سب مسلمان ہو کر ایک قوم کہلائے گی۔ اس پر خوب نظر ہے کہ ان اقوال میں صرف ایک دین عیسائی یا موسوی کے نیست و نابود کرنے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ بلکہ تمام باطل دینوں کے نیست و نابود کرنے کا دعویٰ ہے اور اس کی ابتدائی حالت یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک طرف سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا۔ یعنی اسلام سے کوئی خارج نہ ہو گا۔ بلکہ ہر طرف سے اس میں داخل ہوں گے۔ یہ مقولہ غالباً ۱۸۹۷ء کا ہے۔ اس کے بعد دو برس سے زیادہ مرزا قادیانی زندہ رہے۔ ماہ مئی ۱۹۰۸ء میں ان کا انتقال ہے۔ اب انہیں صحیح موعود سے زیادہ ولے فرمائیں کہ مرزا قادیانی نے صحیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ مگر جو کام ان کا بیان کیا تھا یا اس کی ابتدائی حالت لکھی تھی کہ ہر طرف سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کا وجود پایا گیا؟ ذرا منہ سامنے کر کے جواب دیجئے۔ اس بیان کے بعد خاص دین عیسوی کی نسبت کہتے ہیں کہ ”عیسائیت کا باطل معبود فنا ہو جائے اور دنیارنگ نہ پکڑ جائے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے کو کاذب خیال کرلوں گا۔“ اس جملہ سے یہ بھی بخوبی ثابت ہے کہ مذکورہ امور ان کے وقت میں ظاہر ہوں گے۔ پہلے تمام ادیان باطلہ کے فنا ہونے کا لکھا تھا۔ اس میں عیسائی مذهب کا فنا ہونا بھی آگیا تھا۔ مگر اس کے بعد خاص طور پر اس کا ذکر کرنا اس غرض سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اکثر دنیا پر اس کا غلبہ ہے۔ اس لئے یہ دیکھایا ہے کہ صحیح موعود کی وہ شان ہے کہ دنیا کے تمام باوشاہ ان کے آگے سرنگوں ہو جائیں گے۔ یعنی اسلام لا کر صحیح موعود کے مطیع ہوں گے۔ آخر جملہ بھی اسی مطلب کا موتید ہے۔ دنیا کا اور رنگ پکڑ جانا بھی ہو گا کہ اس سے پہلے دنیا کفر سے بھری تھی۔ اس وقت مرزا قادیانی کی وجہ سے اسلام سے بھر جائے گی۔ اس علانیہ اور روشن دعوے کے بعد قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر صحیح موعود کے مذکورہ علامات کا ظہور میرے ذریعہ سے نہ ہو تو میں اپنے آپ کو کوچھ دینوں کا خوب دیکھا کر جو علامتیں صحیح موعود کی انہوں نے خود بیان کی تھیں وہ ان میں نہیں پائیں گیں۔ اس لئے انہیں اپنے دعوے سے دست بردار ہو جانا تھا۔

مگر افسوس کہ ایسا نہیں کیا۔ اپنے جھوٹے دعوے پر قائم رہے۔ اس لئے بالضرور بوجب اپنے اقرار کے جھوٹے اور مفتری ہوئے اور اب اس مرزا قیامی قسم کو ایکس برس ہو گئے اور

تمام مرزاںی دیکھ رہے ہیں کہ صحیح موعود کی جو علامتیں مرزا نے بیان کی تھیں۔ ان کا ظہور کسی طرح نہ ہوا۔ مگر پھر بھی کذب پرستی کر رہے ہیں۔

مہربانو! کچھ تو خیال کرو کہ جن باتوں کے ظہور کا مرزا قادیانی نے اپنے ذریعہ سے بیان کیا تھا۔ ان کا ظہور کس طرح ہوا؟ کوئی دین باطل فنا ہوا؟ سب دیکھنے والے یہی نہیں گے کہ ہرگز نہیں ہوا۔ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہودا پنے دین پر بدستور ہیں۔ مذہب نصاریٰ کو ترقی ہے۔ آریہ اور ہندو کا وہی زور ہے۔ بالفعل آرہ کا واقعہ اور ہندو کی جا بجا شورش مرزا قادیانی کو کیسا جھوٹا ثابت کر رہی ہے۔ وحدت قوی کا ظہور کہاں ہوا۔ مرزا قادیانی کی وجہ سے ادیان باطلہ کے لوگ کس وقت اور کس مقام پر داخل اسلام ہوئے؟ یہ تو کچھ نہیں ہوا۔ اس لئے مرزا قادیانی کو اپنی قسم کو سچا کرنا اور اپنے آپ کو جھوٹا سمجھنا ضرور تھا اور ان کے پیروؤں کو ان سے علیحدہ ہونا لازم تھا۔ مگر ان کی شوخ چشمی اور کذب پر دلیری اس درجہ کو پہنچ گئی تھی کہ باوجود اس اقراری ڈگری کے اپنی زبان سے اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار نہیں کیا اور اس مدت کے بعد چار برس سے زیادہ زندہ رہے۔ اب اس میعاد کو بھی چودہ برس گزر گئے اور ادیان باطلہ ہلاک تو کیا ہوتے، نہیں ترقی ہو رہی ہے۔ مگر ان کے مریدین ان کی قسم کو پورا نہ کرتے اور اب بھی انہیں جھوٹا نہیں سمجھتے۔ مگر اس میں شبہ نہیں کہ ان کی قسم انہیں جھوٹا بتا رہی ہے اور زمانے کی حالت انہیں جھوٹا کہہ رہی ہے۔ خواجہ کمال کی جھوٹی اشاعت اسلام اور مفتی محمد صادق کا سبز عمامہ لندن میں بیٹھ کر کچھ کام نہیں آسکتا اور مرزا قادیانی کو سچا نہیں کر سکتا۔ دعویٰ کا زمانہ گزر گیا اور مرزا قادیانی اپنے اقرار سے جھوٹے ہو گئے۔ لندن میں بیٹھ کر مسلمانوں کو فریب دینے سے مرزا قادیانی سچے نہیں ہو سکتے اور انہیں صحیح اور مہدی ماننے والے اور انہیں رسول اور نبی اعتقاد کرنے والے دونوں گروہ جھوٹے اور جھوٹے کے پیرو ہیں۔ اگر صداقت کا دعویٰ ہے تو کھائیں کہ مرزا قادیانی کے وجود سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا۔ مسلمانوں کو بجز مضرت جانی و مالی اور نقصان دینی اور دنیاوی کے کوئی فائدہ ہوا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ دنیا میں جس قدر کفار تھے وہ بدستور قائم رہے۔ چالیس کروڑ جو مسلمانوں کا شمار تھا انکار کرتے ہیں۔ ہندوستان کے تعلیم یافتہ حضرات کو خوب بے وقوف بنایا ہے۔ خواجہ کمال نے تو اپنے رسالہ صحیفہ آصفیہ میں صاف صاف مرزا قادیانی کو نبی اور خدا کا رسول اپنے خیال میں قرآن مجید کی آیات سے ثابت کیا ہے اور ان کے ملنکر کو جہنمی پھرایا ہے۔ (ص ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸)

مگر ان دونوں لاہوری امیر المؤمنین کا خط ایک احمدی نے دکھایا۔ اس میں مرزا قادیانی کا نتویٰ لکھتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو کافرنیں بنایا۔ مگر مسلمانوں نے ہمیں کافر کہا اس لئے وہ خود کافر ہو گئے۔ حاصل یہ کہ چالیس کروڑ مسلمان کافر ہو گئے۔ اب ان کا کافر ہونا کسی وجہ سے ہو۔ مگر اس میں شبہ نہیں کہ مرزا قادیانی کی وجہ سے کافر ہوئے اور انہی کی وجہ سے دنیا اسلام سے گویا خالی ہو گئی۔ نہ وہ ایسے جھوٹے دعوے کر کے مسلمانوں کو فریب دیتے نہ علمائے اسلام ان کے کفر کا اظہار کرتے۔

اب وہ بتائیں کہ آپ کے سچے موعود نے تو اپنا کام یہ بتایا ہے کہ ہماری وجہ سے ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو گا اور ایسا غلبہ بتایا ہے کہ ساری دنیا کی قومیں ایک قوم یعنی مسلمان ہو جائیں گی اور اس دعوے کو قرآن مجید کی آیت سے ثابت کیا ہے۔ حاشیہ کا پہلا اور دوسرا قول دیکھا جائے۔ پھر یہ کیسا اندھیر ہے کہ مرزا قادیانی مسلمانوں کو کافر بنا کر اسلام کو مثار ہے ہیں اور کفر کا غلبہ دیکھا کر اپنے کو خود جھوٹا بتا رہے ہیں۔ مگر افسوس ماننے والوں پر ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور آفتاب روشن کو چھپانا چاہتے ہیں اور دن کو رات کہتے ہیں۔ یہ ضمی بات تھی اصل مدعا یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے سچے موعود کا کام یہ بیان کیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے اسلام کا غلبہ ہو گا۔ دنیا کی ساری قومیں مسلمان ہو جائیں گی۔ جتنے ادیان باطلہ ہیں وہ فتا ہو جائیں گے۔ اس کے ثبوت میں چار قول نقل کئے گئے۔ ایک ایام اصلاح سے، دوسرا براہین احمد یہ سے، تیسرا چشمہ معرفت سے، چوتھا انجام آنکھم سے، ان اتوال کو پیش نظر رکھ کر پانچواں قول ملاحظہ کیجئے۔

پانچواں اقرار..... ”میرا کام جس کے لئے میں کھڑا ہوا ہوں یہی ہے کہ میں عینی پرستی کے ستون کو توڑ دوں اور بجائے تثیث کے توحید کو پھیلاؤں اور آنحضرت ﷺ کی جلالت اور شان دنیا پر ظاہر کروں۔ پس اگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور یہ علت غالی ظہور میں نہ آوے تو میں جھوٹا ہوں۔ پس دنیا مجھ سے کیوں دشمنی کرتی ہے اور وہ انجام کو نہیں دیکھتی۔ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دیکھایا جو سچے موعود و مہدی موعود کو کرنا چاہئے تو پھر میں سچا ہوں اور اگر کچھ نہ ہو اور مر گیا تو پھر سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔“

(اخبار البدر قادیانی ج ۲۹، نمبر ۱۹۰۶ء، مکتبات احمد یہج ۲۶ ص ۱۲۳)

مرزا قادیانی کا یہ پانچواں قول ہے۔ جس میں وہ سچے موعود کا کام اور ان کی علامت

بیان کرتے ہیں۔ مگر پہلے چاروں اقوال میں تمام دینوں کا ہلاک ہونا اور اسلام کا غلبہ ساری دنیا میں ہو جانا تصحیح موعود کا کام بتایا تھا۔ اس قول میر اخاصل دین عیسوی کے ہلاک ہونے کی نسبت لکھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ میں عیسیٰ پرستی کے ستون کو توڑنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں اور اس لئے کہ بجائے تثیث کے توحید کو پھیلاؤں۔ پہلے اقوال کو پیش نظر رکھ کر جب اس قول کو دیکھا جائے تو نہایت صاف طور سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ میری کوشش اور میرے ذریعہ سے تثیث کے ماننے والے موحد یعنی مسلمان ہو جائیں گے۔ کیونکہ تثیث پرست تمام دنیا پر غالب ہو گئے ہیں۔ ساری دنیا میں عیساً یہوں کو غلبہ ہے۔ ان کی سلطنت اور بادشاہت ہے۔ اس لئے اس قول میں خاص دین عیسوی کے مٹانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کے بغیر مٹانے اسلام کو غلبہ نہیں ہو سکتا۔ جس کا ذکر پہلے اقوال میں بار بار کیا ہے۔ اب اسلام کے غلبہ کی یہی صورت ہے کہ تثیث پرست مسلمان ہو جائیں اور تثیث کی جگہ توحید پھیل جائے۔ اسی کو مرزا قادیانی حمایت اسلام اور تصحیح موعود کا کام بتاتے ہیں اور اسی کام کے پورا ہو جانے کو اپنی صداقت کا معیار قرار دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ کام میں نے اپنی زندگی میں نہ کیا اور مرگیا تو سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔ اس سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کو اپنے قول کی صداقت پر کمال درجہ کا دلوٰق ہے۔ یہ بھی مدنظر ہے کہ اس قول کے پورا کرنے کے لئے کوئی شرط بھی مرزا قادیانی نے نہیں بیان کی۔ اس کلام سے یہ بھی ظاہر ہے کہ جس وقت یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس وقت تک یہ کام انہوں نے نہیں کیا تھا۔ کیونکہ پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تثیث پرستی کے ستون کو توڑنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ اس کو خاص و عام سب سمجھتے ہیں کہ کام کے لئے کھڑا ہونے کے یہی معنی ہیں کہ اب تک کام کیا نہیں ہے۔ بلکہ کرنے کے لئے مستعد اور آمادہ ہونے ہیں اور آخر میں شرط کے ساتھ کہتے ہیں۔ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دیکھایا جو صحیح موعود کو کرنا چاہئے تھا تو میں سچا ہوں اور اگر کچھ نہ کیا اور مرگیا تو سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔ اس جملہ سے اظہر من اشتمس ہے کہ جس وقت مرزا قادیانی یہ قول لکھ رہے تھے اس وقت تک انہوں نے وہ کام نہیں کیا تھا۔ آئندہ اس کے کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا چاہئے کہ یہ وعدہ مرزا قادیانی نے کب کیا ہے۔ اس کا تفصیل حوالے سے بخوبی ہوتا ہے۔ یعنی یہ قول ۱۹ جولائی ۱۹۰۶ء کے اخبار البدر میں چھپا ہے۔ جس میں مرزا قادیانی کے اقوال برابر چھپتے تھے۔ اس قول کی

تائید مرزا قادیانی نے اپنے الہامی اعلان سے ہے۔ اس وابہوں نے اپنی کتاب حقیقت الوجی مطبوعہ ۱۵ امریکی ۱۹۰۷ء کے آخر میں مشترکی کیا ہے اس کی عمارت یہ ہے۔

”میں کامل یقین سے کہتا ہوں کہ جب تک وہ خدمت جو اس عاجز کے حصہ میں مقرر ہے پوری نہ ہو۔ اس دنیا سے اٹھایا نہ جاؤں گا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کے وعدے میں نہیں جاتے اور اس کا ارادہ رک نہیں سکتا۔“ (حقیقت الوجی میں مندرجہ آشنا اعلان حق نمبر ۱۶، احادیث خزانہ، ج ۲۲ ص ۳۸۸)

اس عبارت نے کامل طور سے فیصلہ کر دیا کہ کسی موعود کا جو کام ہے یعنی ان کے ذریعہ سے تمام دنیا میں اسلام کا پھیل جانا وہ مرزا قادیانی کی زندگی میں پورا ہو جائے گا۔ مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ پورا نہ ہوا اور ثابت ہو گیا کہ کسی معمود کی جو علامت انہوں نے بیان کی وہ ان میں نہیں پائی گئی اور

اسے قول سے جھوٹے ٹھاٹھے تھے

مرزا قادیانی کو کسی موعود ہونے کا دعویٰ تھا۔ اس لئے ان کے حصہ میں حمایت اسلام کی خدمت مقرر تھی اور حمایت اس طریقہ سے کہ تینیٹ پرستوں کو مسلمان بنائیں۔ مگر یہ خدمت ۱۹۰۷ء تک پوری نہیں ہوئی تھی اور یہ بھی اس قول سے نہایت ظاہر ہو رہا ہے کہ اس خدمت کا پورا ہونا اپنی زندگی میں بتا رہے ہیں اور الہام الہی سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا کام اپنی زندگی میں پورا کروں گا۔ جب تک میرا کام پورا نہ ہو گا میں ہرگز نہ مروں گا۔ کیونکہ یہ وعدہ الہی ہے اور وعدہ الہی میں نہیں سکتا (یہ جملہ نہایت یاد رکھنے کے قابل ہے) یہ معلوم کر کے آپ یہ بھی معلوم کیجئے کہ اس قول کے کتنے دنوں بعد مرزا قادیانی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور یہ وعدہ الہی پورا ہوا یا نہیں۔ مرزا قادیانی کا انتقال ایسا امر نہیں ہے۔ جس کی تاریخ و سن مشترکہ ہوا ہو۔ ۱۹۰۸ء میں جناب والا عالم برزخ میں بھیجے گئے۔ یعنی مذکورہ اعلان میں جو وعدہ الہی ہوا ہے۔ اس کے پورے ایک سال کے بعد مرزا قادیانی دنیا سے اٹھا لئے گئے۔ اب اس ایک سال میں مرزا قادیانی کا کوئی کارنامہ ایسا دیکھا جا سکتا ہے۔ جس سے اسلام کو غلبہ ساری دنیا میں ہو گیا ہو۔ اے مرزا یا! کیا اس کا جواب کچھ دے سکتے ہو؟ مگر تمہارا کاشش اور معافانہ کے ساتھ دلی حالت بے اختیار کہے گی کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا اور مرزا قادیانی اپنے اقرار سے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ اس لئے خیر خواہانہ میں دریافت کرتا ہوں کہ آپ اپنے مرشد کے ارشاد کے بھو جب ان کے جھوٹے ہونے یہ گواہی

کیوں نہیں دیتے۔ اس تین آپ کو کیا خدر ہے۔ جس طرح آپ نے ان کے کہنے سے انہیں سچ معلوم دانا تھا۔ اسی طرح ان کے کہنے سے انہیں جھوٹا دانا آپ کو ضرور ہے۔ آٹھ نو برس سے آپ کانوں میں تیل ڈال کر مہربلب کیوں بیٹھے ہیں، کیا مرنا نہیں؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ علمائے حقانی کی کسی دلیل کو ملاحظہ کریں میں تو آپ کے مرشد ہی کے قول کو پیش کر رہا ہوں اور کہتا ہوں کہ اسے مانتے اور اپنی آئندہ کی حالت کو یاد کر کے خدا سے ذریعے اور جھونٹے سے علیحدہ ہو جائیے۔ طاغوت سے علیحدہ ہونا ایمان باللہ سے مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ”وَمَن يَكْفُرْ بِالظَّاغُوتِ وَيَؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ أَسْتَمْسَكَ بِالْعَرْوَةِ الْوُثْقَىٰ“ (بقرہ: ۲۵۶) یعنی جو طاغوت سے علیحدہ ہوا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لا یا اس نے مضبوط رہی تھا۔ اس آیت میں ایمان باللہ سے پہلے طاغوت سے علیحدہ ہونے کا ارشاد ہے۔ اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ اس اعتراض کے جواب میں جو آپ کو دھوکا دیا گیا ہے۔ اس کا ازالہ بھی صاف طور سے کر دوں۔ تیلیٹ پرستی کے ستون توڑنے کی حقیقت آپ سے یہ بیان کی جاتی ہے کہ مرزا قادیانی نے قرآن مجید سے سچ کی موت خوب ثابت کر دی ہے۔ اس لئے صلیب پرستی کا ستون توٹ گیا۔ افسوس میں ایسے عقل و فہم پر کوئی غلط جواب سے آپ کی تسلیم ہو جاتی ہے اور ذرا بھی تامل نہیں کرتے۔ افسوس!

اول تو نہیں دیکھتے کہ سچ علیہ السلام کی موت تو مرزا قادیانی از الہ الا وہام میں ثابت کی ہے۔ یہ رسالہ مرزا قادیانی کے اوائل تصنیف میں ہے۔ اور ۱۸۹۱ء میں مشہور ہوا ہے اور مرزا قادیانی کا یہ قول کہ میں عیسیٰ پرستی کے ستون کو توڑنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ ۱۹۰۶ء کے آخر کا ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ اس سن تک وہ ستون توٹا نہیں تھا۔ بلکہ توڑنے کے لئے مستعد ہونا چہ معنی وارو؟ بیان سابق پر پھر غور کیجئے۔ اس قول کے بعد ان کے الہامی اعلان سے یہ بھی ثابت کر دیا گیا کہ اپنے مرنے سے ایک سال قبل تک انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، آئندہ کریں گے۔ اس لئے یہ جواب مرزا قادیانی کے الہام سے غلط ثابت ہوا۔

دوسرے یہ کہ موت ثابت کرنے سے عیسائیوں کی تیلیٹ باطل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے اگر موت ثابت کی تو قرآن شریف سے کی۔ پھر اس سے عیسائیوں پر کیا الزام

ہوا؟۔ عیسائی قرآن کو کب مانتے ہیں۔ جو اس کے مضمون سے انہیں الزام ہو سکے اور اس الزام سے ان کی صلیب کیونکر ٹوٹ گئی۔ کیا قلم کے گھس گھس کرنے سے صلیب ٹوٹ سکتی ہے۔ ذرا شرم کرنا چاہئے۔ صلیب ٹوٹنے کا مطلب تو اس سے پہلے خود مرزا قادریانی نے اپنے متعدد اقوال میں بیان کر دیا ہے۔ انہیں مکر دیکھو۔

تیرے یہ کہ موت کے ثبوت سے ان کی تثیث باطل نہیں ہو سکتی۔ آپ ان کی تثیث کو نہیں سمجھتے۔ عیسائی جس طرح خدا تعالیٰ کی ذات کو ازالی اور ابدی اعتقاد کرتے ہیں اسی طرح تثیث کو بھی سمجھتے ہیں۔ حضرت مسیح کا جسمانی وجود تو انہیں سو برس سے ہوا، اور تثیث کا وجود ان کے خیال میں ہمیشہ سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس وقت سے ان کے جسم کا وجود ہوا اس وقت سے تثیث قائم ہوئی۔ اب اگر انہیں جسمانی موت آجائے تو ان کی تثیث اسی طرح قائم رہے گی۔ جس طرح ۱۹۱۸ء سے پہلے قائم تھی۔ کیونکہ اگر موت آئی تو جسم کو آئی، روح کو نہیں آئی، عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کی روح کو خدا یا خدا کا جز کہتے ہیں۔ جسم کو نہیں کہتے۔ وہ روح جس طرح حضرت مسیح کے پیدا ہونے اور دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے موجود تھی اور ان کے زد یک خدا کا جز تھی۔ ویسے ہی ان کے جسم کے فنا ہونے کے بعد بھی ان کے خیال میں باقی رہے گی اور تثیث جیسے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی روح کی وجہ سے تھی۔ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے خیال میں قائم رہے گی۔ ان کی پیدائش سے پہلے اور مرنے کے بعد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر ان کی موت ثابت کرنے سے صلیب پرستی کا ستون کیسے ٹوٹ جائے گا۔ یہ نہایت ظاہر بات ہے۔ مگر مرزا یہوں کی عقل پر ایسا پردہ پڑا ہے کہ انہیں نہایت روشن بات بھی نہیں سمجھتی۔

اے عزیز و اس پر یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے محض ہدایت اور گمراہی سے بچانے کے لئے ایک کاذب کے کذب کو اس کے علاویہ اقراروں سے ظاہر کر دیا۔ اب اس پر بھی توجہ نہ کرنا بہت زیادہ موجب عتاب الہی ہو سکتا ہے۔ اس پر غور کرو۔ اس قول میں مرزا قادریانی نے دو دعوے کئے ہیں۔ ایک یہ کہ بجائے تثیث کے توحید کو پھیلاؤں گا۔ دوسرے یہ کہ آنحضرت ﷺ کی جلالت و شان دنیا پر ظاہر کروں گا۔ پہلے دعوے کا جھوٹا ہونا تو بخوبی ظاہر ہو گیا کہ انہوں نے توحید کہیں نہیں پھیلائی۔ بلکہ چالیس نروز مودودی کو کافر بنادیا۔ اب دوسرے دعوے کی حالت معلوم کیجئے۔ جس سے کامل یقین ہو جائے گا کہ مرزا قادریانی نے

حضر اتو علیہ السلام کی نہایت مدت و منقصتی ہے۔ مگر اس کے ساتھ یہ جھوٹے دھوے کر کے مسلمانوں کو فریب بھی دیا ہے۔

### مرزا آئی اقوال سے حضرت سرور انبياء علية الصلوة والثنا کی مدت

مرزا قادیانی شاعر بھی تھے اس لئے ابتدائیں حضرت محمد ﷺ کی مدح سرائی کی ہے۔ جس طرح شاعر کیا کرتے ہیں اور خیالی مشთق کی درباری بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کے دل کیسے ہی سخت ہوں اور عشق و محبت کی بو بھی ان کے دل میں نہ ہو۔ اس کی صداقت مرزا قادیانی کی باتوں سے بخوبی معلوم ہو سکتی ہے۔ حضور اتو علیہ السلام کے منقصت اور اپنے تعلیٰ مختلف طور سے کی ہے۔ یہاں چند اقوال نقل کئے جاتے ہیں۔

پہلا قول: مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ جس نے مجھے نہ مانا، وہ کافر اور جہنمی ہے۔ اس کی تشریح مرزا محمد نے اپنے رسائلِ حقیقت النبوة میں کی ہے۔ وہاں دیکھئے اس دعوے سے کمال منقصت حضور علیہ السلام کی اس طرح ثابت ہوئی کہ امت محمد ﷺ کے کروزوں افراد جو آپ ﷺ کو مان کر آپ کے طفیل سے جنت کے ستحت ہو چکے تھے۔ تیرہ سو برس کے بعد ان کا غلام یہ کہتا ہے کہ میری وجہ سے وہ سب جہنمی ہو گئے۔ جناب رسول اللہ ﷺ کا مانا ان کے کام نہ آیا۔ یہ کیسی عظیم الشان منقصت ہے کہ سرور انبياء علية الصلوة والثنا، جن کی خاص صفت اللہ تعالیٰ "رحمۃ للعاذین" قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں۔ ان کی امت ان کے جان شارجہ نہیں میں ڈالے جائیں اور ارشاد خداوندی اور عظمت نبوی پامال کر دی جائے۔ یہی اظہار عظمت و شان حضرت محبوب رب العالمین ہے۔ استغفار اللہ!

دوسراؤل: (تعریف الحقیقت الوجی ص ۲۸، خزانہ حج ۲۲ ص ۵۰۳) میں "خدا کی قسم کھا کر دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نے میری تصدیق کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے جو دس لاکھ تک پہنچتے ہیں" اور اخبار الہدی مطبوعہ جولائی ۱۹۰۶ء میں لکھتے ہیں کہ "جو میرے لئے نشان ظاہر ہوئے وہ دس لاکھ سے زیادہ ہیں" (براہین جنجم ص ۲۵، خزانہ حج ۲۱ ص ۲۷) اور کوئی مہینہ نشانوں سے خالی نہیں گزرتا۔ اس میں در پردہ یہ کہتے ہیں کہ میری عظمت و شان جناب رسول اللہ ﷺ سے سو حصہ بھی زمادہ ہے۔ کیونکہ (تحقیق گولڈ ویس ص ۳۰، خزانہ حج ۷ ص ۱۵۲) میں لکھتے ہیں کہ تین ہزار مجرزے

ہمارے نبی کریم ﷺ سے ظہور میں آئے۔ ان دونوں قولوں کے ملائے سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی اپنے معجزات کو سوچتے زیادہ بیان کرتے ہیں۔ اب سمجھنے والے سمجھ لیں کہ یہ کیسی تحقیر جناب رسول ﷺ کی مرزا قادیانی نے کی ہے کہ ایک غلام جس کے جھوٹ و فریب کا انبار دیکھا دیا گیا ہے۔ وہ اپنی عظمت کو سوچتے زیادہ رسول ﷺ کی عظمت سے بیان کرتا ہے اس سے زیادہ کرشمان اور کیا ہو گی۔

تیرا قول: (حقیقت الوجی ص ۹۹، خزانہ حج ۲۲ ص ۱۰۲) میں دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے الہام خداوندی ہوا۔ ”لو لاک لاما خلقت الا فلاک“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرزا کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمان و زمین اور جو کچھ اس میں ہے کچھ پیدا نہ کرتا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر انبیاء کرام اور اولیاء عظام آئے اور انہیں مراتب عالیہ عنایت ہوئے۔ یہ سب مرزا قادیانی کے طفیل سے ہوا۔ تمام انبیاء اور اولیاء مرزا قادیانی کے طفیل اور ذله رہا ہیں اس میں سرور عالم ﷺ بھی ہیں۔ نعوذ باللہ!

بھائیو! حضرت سرور انبیاء ﷺ کی عظمت و شان کو ملاحظہ کرو اور مرزا کی اس چک اور بے وقتی کو دیکھو کہ ایک ادنیٰ غلام ہو کر سرور دو جہاں علیہ صلوات الرحمٰن کو اپنا طفیلی کہتا ہے اور پھر دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت ﷺ کی عظمت و شان ظاہر کروں گا۔ یہ کیا علانیہ جھوٹ اور ناؤاققوں کو فریب دینا ہے۔ اس قسم کے آٹھ اقوال رسالہ دعویٰ نبوت مرزا میں لکھے گئے ہیں۔ ناظرین اس میں ملاحظہ کریں۔

بیان مذکور سے مرزا قادیانی کی مسیحیت کا تو کامل طور سے خاتمه ہو گیا اور پورے طور سے وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ اب ان کی مہدویت کا خاکہ اڑنا بھی ملاحظہ کر لجئے۔ اس دعوے کے ثبوت میں جوانہوں نے آسمانی نشان کا بہت غل مچایا تھا اسے تو دوسرا شہادت آسمانی نے خاک میں ملا دیا اور ثابت کر دیا کہ وہ اپنے بیان سے بالیقین جھوٹے اور سخت فرمی ہیں۔ یہاں میں ان کا ایک علانیہ فریب اور ایک وہ قول نقل کرتا ہوں۔ جس میں انہوں نے اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کیا ہے۔ مرزا قادیانی کے اس آسمانی نشان کی بنیاد ایک موضوع اور جھوٹی روایت ہے۔ جس کا جھوٹا ہونا پورے طور سے ثابت کر دیا گیا ہے۔ (دوسری شہادت آسمانی ص ۵۶، ۵۷ ص ۵۸)

اب اس جھوٹی روایت کی صحت میں ضمیر انعام آنکھم اور حقیقت الوجی میں بڑا ذرور لگایا ہے۔ مگر صرف علامیہ مغالطہ اور صریح فریب کے اس کی صحت ہرگز ثابت نہیں کر سکے۔ اہل علم اور فہمیدہ حضرات ملاحظہ کریں کہ اس معمولی گہن ہو جانے کے بعد مختلف طور سے یہ لکھا ہے کہ حدیث کی صحت کو معاشر نے ثابت کر دیا۔ کہیں کہتے ہیں کہ حدیث نے اپنی صحت کو آپ ظاہر کر دیا۔ کہیں لکھتے ہیں کہ حدیث کی صحت کو چشم دیدے نے ثابت کر دیا۔ اب اس میں زبردستی اور ابلد فرمی کو دیکھا جائے کہ تیرہ سو برس کے بعد معاشرہ اور چشم دیدے سے حدیث کی صحت کیونکر ثابت ہو سکتی ہے۔ اہل دانش غور فرمائیں کہ معاشرہ اگر ہوا تو معمولی گہنوں کے جماع کا ہوا۔ یہ فرمائیے کہ یہ کس نے معاشرہ کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان گہنوں کو امام مہدی کا انسان فرمایا ہے۔ اس کا معاشرہ تو ہی کر سکتا ہے۔ جس نے جناب رسول اللہ ﷺ کو معاشرہ کیا ہوا اور عالم بیداری میں آپ کی زیارت سے مشرف ہوا ہوا اور اس روایت کو بیان فرماتے سناء ہو۔ بغیر اس کے روایت کی صحت کا معاشرہ بتانا صریح فریب نہیں تو کیا ہے۔ البتہ اب ہم با آواز بلند کہہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے دجل و فریب کو ان کے رسائل کے معاشرہ نے دیکھا دیا اور چشم دیدے نے ثابت کر دیا کہ وہ علامیہ فریب دے رہے ہیں۔ جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھے اور مرزا قادیانی کے فریب کا معاشرہ کرے تو یہ ان کا فریب تھا۔ اب ان کے دوسرے فریب کے ساتھ ان کی اقراری ذگری بھی ملاحظہ کیجئے۔ جس سے ظاہر ہو جائے کہ جس طرح وہ اپنے پختہ اقرار سے مسخ موعود نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اپنے اقرار سے جھوٹے ہیں۔ اسی طرح وہ مہدی بھی نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اپنے اقرار سے اس دعوے میں بھی جھوٹے ہیں۔ وہ اقرار ملاحظہ ہو۔

چھٹا اقرار: ضمیر انعام آنکھم میں فرماتے ہیں کہ ”اگر یہ ظالم مولوی اس قسم کا خسوف و کسوف کسی اور مدعا کے وقت میں پیش کر سکتے ہیں تو پیش کریں۔ اس سے بے شک میں جھوٹا ہو جاؤں گا۔“ (ضمیر انعام آنکھم ص ۲۸، خزانہ حج ۱۱ ص ۳۳۲) اس قوم میں مرزا قادیانی اپنے جھوٹے ہوئے کا اقرار کرتے ہیں۔ مگر اس شرط کے ساتھ کہ کہ ۱۳۱۲ھ سے پہلے اس قسم کا خسوف و کسوف ہوا ہو۔ یعنی رمضان کے ۱۳ اور ۲۸ کو اور ان گہنوں کے وقت کوئی ہمی مہدویت و نبوت بھی ہوا ہو۔ اب تمام مرزا یوں کی جماعت سے دریافت کیا جاتا ہے کہ آپ کے مرشد نے ایک جھوٹی روایت کے سچا بنانے میں فریب دیا۔ پھر اس کے مطلب کے بیان کرنے میں موام کو فریب دیا۔ ان فریبوں کی

بنیاد روایت کے الفاظ سے ہو سکتی ہے۔ مل مدعی کی شرط یعنی گھنون کے وقت وہی مدعی ہی ہواں وقت یہ گھن مهدی کی علامت ہو سکتے ہیں اور اگر کوئی مدعی اس وقت نہ ہو تو یہ معمولی گھن ہیں۔ مهدی کی علامت نہیں ہیں۔ یہ کسی لفظ سے ثابت نہیں ہوتا اگر کوئی مدعی ہے تو بتائے جن حدیثوں سے مهدی کا آنا ثابت کیا جاتا ہے۔ ان میں تو ایسی علامتیں ان کی بیان ہوئی ہیں کہ انہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی۔ بلکہ وہ اپنے کو چھپانا چاہیں گے۔ مگر ان کے چہرے کے قدرتی انوار مسلمانوں کے دلوں کو ایسا ہی کھپیں گے۔ جس طرح مقناطیس لو ہے کو کھنچتا ہے۔ پھر انہیں دعویٰ کی کیا ضرورت ہوگی۔ رسالہ البرہان دیکھو یہی وجہ ہے کہ اس روایت میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے صراحةً یا اشارۃً یہ قید ثابت ہوتی ہو۔ اس لئے یہ قطعی بات ہے کہ اس روایت میں حرمہ قادریانی کا یقینی تسلیم اصراء ہے۔ اس کے بعد رام ان کی افراری ڈکری کی شرط پورا کرنے کے لئے حوالہ پیش کرتا ہے ملاحظہ ہو۔

دوسری صدی کے شروع یعنی ۷۱ھ میں ظریف مدعی مغرب میں ہوا اور ۷۱۲ھ میں اس کا بیٹا صالح مدعی ہوا، اور ان دونوں کے وقت میں اسی طرح کے گھن ہوئے۔ بلکہ صالح کے وقت میں دو مرتبہ ہوئے۔ جس طرح مرزاقادریانی کے وقت میں دو مرتبہ ہوئے اور چھوٹی صدی بعد بری میں ابو منصور عیسیٰ مدعی ہوا۔ اس کے بعد میں اسی طرح کے گھن ہوئے۔ دوسری شہادت آسمانی میں اس کی تفصیل اور تحقیق ملاحظہ کرنے کے ظلوم مرزاق کے پیر و مرزاقادریانی کے اس قول پر ایمان لا کیں اور اس میں شک نہ کریں۔ یعنی یقیناً سمجھیں کہ مرزاقادریانی جھوٹے تھے۔ کیونکہ ان سے پہلے کئی مدعی ایسے گذرے ہیں۔ جن کے وقت میں گھنون کا اجتماع اسی طرح ہوا۔ جس طرح مرزاقادریانی کے وقت میں ہوا۔ البتہ اس کے سمجھنے کے لئے کچھ علم ہیئت کے جانے کی بھی ضرورت ہے۔ کہیں غصہ میں آ کر حواس باختہ نہ ہو جائیے گا۔ دوسری شہادت آسمانی کے ساتھ رسالہ عبّر خیز بھی دیکھ لجئے گا۔ اس میں بھی ان مدعیوں کا ذکر ہے اور تاریخ پر زیاد نظر دسج کرنے سے اور نظریں بھی ملیں گی۔

یہاں تک چھ قول مرزاقادریانی کے نقل کئے گئے۔ ان قولوں نے دو طرح سے مرزاقادریانی کو جھوٹا ثابت کیا۔ ایک یہ کہ مسح موعود کا جو کام خود مرزاقادریانی نے بیان کیا تھا وہ انہوں نے ہرگز نہیں کیا اور جو علامتیں انہوں نے مسح موعود کی بیان کیں وہ ان کے وقت میں نہیں

پائی کئیں۔ مثلاً متفق علیہ یہ بات بتائی ہے کہ اس وقت تمام دنیا میں اسلام پھیل جائے گا اور ادیان باطلہ ہلاک ہو جائیں گے۔ نہایت ظاہر ہے کہ ان دونوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں پائی گئی۔ اس لئے انہیں کے قول سے ان کا دعویٰ غلط ہوا اور دوسرے یہ کہ انہوں نے خود کہا کہ اگر صلیب پرستی کے ستون کو نہ توڑ دوں اور رسول ﷺ کی عظمت کو ظاہر نہ کروں تو جھوٹا ہوں اور ثابت کر دیا گیا کہ ان دونوں کاموں میں سے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ بلکہ حضرت سرہ انبیاء ﷺ کی نہایت تحقیر کی اور مخالفین اسلام سے تحقیر کرائی۔ اس لئے وہ اپنے کامل اقرار سے جھوٹے ہوئے۔ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا اور ہرگز نہیں دے سکتا۔

اب ان کے وہ اقوال نقل کئے جاتے ہیں جن سے اقراری جھوٹے ہونے کے علاوہ قرآن مجید کے نصوص قطعیہ اور آیات صریحہ ان کے جھوٹے ہونے کے شاہد ہیں۔ منکوحہ آسمانی والی پیشین گوئی یقیناً جھوٹی ہے اور اس کے ساتھ کم سے کم دس بارہ پیشین گوئیاں جھوٹی ہوئیں۔ جس کا شہوت قطعی طور سے فیصلہ آسمانی کے پہلے حصہ میں اور تیسرا حصہ میں دیا گیا ہے۔

۱۔ اس پیشین گوئی کا اشتہار مرزا قادیانی نے ۱۸۸۸ء کے شروع سے دینا شروع کیا تھا اور متعدد اشتہاروں میں اس کا غل مچایا تھا اور (از الہ الاولہ مص ۳۹۶، خزانہ ج ۳۰۵ ص ۳۰۵) میں اس کا ذکر ان الہامی الفاظ سے کیا ہے۔ جن سے بالیقین ثابت ہوتا ہے کہ یہ وعدہ ایسا پختہ اور حقیقی ہے کہ بغیر پورا ہوئے رک نہیں سکتا۔ وہ الفاظ ملاحظہ ہوں۔ ۱..... ”احمد بیگ کی دختر کلاں انجام کار تمہارے نکاح میں آئے گی۔“ اس میں لفظ انجام کار پر نظر رہے۔ ۲..... ”لوگ کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو بلکہ آخ کار ایسا ہی ہوگا۔“ اس جملہ میں لفظ آخ کار مدنظر رہے۔ ۳..... ”خد اتعالیٰ ہر طرح سے اس کو تہاری طرف لائے گا۔“ اس جملہ میں لفظ ہر طرح پر غور کیجئے۔ ۴..... ”اور ہر ایک روک کو درمیان سے اٹھائے گا۔“ اس میں مرزا قادیانی کی شرط بھی آگئی اور وعدہ کا ملنا بھی آگیا اور معلوم ہو کہ اگر شرط وغیرہ کی روک تھی تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ ۵..... ”اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔“ اس الہامی جملے نے کامل فیصلہ کر دیا کہ منکوحہ آسمانی مرزا قادیانی کے نکاح میں ضرور آئے گی۔ کوئی شے اسے روک نہیں سکتی۔ یہاں پائچ جملے نقل کئے گئے۔ ہر ایک جملہ میں ایسا الفاظ ہے جس سے حقیقی طور سے وعدہ الہی ثابت ہوتا ہے کہ انجام کار منکوحہ آسمانی مرزا قادیانی کے نکاح میں ضرور آئے گی۔ مگر یہ وعدہ پوار نہیں اور بموجب نص قطعی لا تحسین اللہ مخالف وعدہ رسولہ کے مرزا قادیانی یقیناً جھوٹے ہوتے ہوئے۔

یہ وہ پیشین گوئی ہے جس کے جھوٹی ہونے سے مرا زاد دیانی نے دنیا پر ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا پختہ اور قطعی وعدہ جھوٹا ہو گیا اور وعدہ ہی جھوٹا نہیں ہوا۔ بلکہ اس کا فریب دینا یا عاجز ہونا ظاہر ہو گیا۔ کیونکہ متلوں ایسا قطعی وعدہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ ضرور پورا کروں گا کوئی اسے روک نہیں سکتا اور پھر پورا نہ کیا۔ یا یوں کہو کہ پورا نہ کر سکا۔ اس پیشین گوئی کے ساتھ احمد بیگ کے داماد والی پیشین گوئی بھی جھوٹی ہوئی۔ یعنی ڈھائی برس کے اندر اس کے مرنے کی پیشین گوئی کی تھی۔ مگر اس میں وہ نہ مرا اس کے بعد بہت جھوٹی باتیں بنائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام پر جھوٹی پیشین گوئی کا افشاء کیا اور اپنے مریدوں کو دام میں رکھنے اور مسلمانوں کا منہ بند کرنے کے لئے دوسری پیشین گوئی اس طرح کی۔

ساتواں اقرار: ”میں مارمار کرتا ہوں کہ نفس پیشین گوئی دلداد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے۔ اس کی انتظار کرو۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشین گوئی پوری نہ ہوگی اور میری موت آجائے گی اور گریں سچا ہوں تو خدا تعالیٰ ضرور اس کو بھی ایسا ہی پورا کر دے گا۔ جیسا کہ احمد بیگ اور آنحضرت کی پیشین گوئی پوری ہوگی۔ اصل مدعای نفس مغبوم ہے اور وقت میں تو بھی استعارات کا بھی دخل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض پیشین گوئیوں میں دونوں کے سال بتائے گئے ہیں جو بات خدا کی طرف سے تھہر چکی ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔“ (انجام آنحضرت ص ۲۳، خزانہ انصاف ص ۲۱)

یہ مرا زاد دیانی کا بعینہ قول ہے۔ اس میں چار جملوں میں سے پہلے اور چوتھے قول میں قطعی طور سے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ محمدی کے شوہر کا میرے سامنے مرتا خدا کے علم میں قرار پاچکا ہے۔ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور کوئی سبب ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کی وجہ سے ان کی موت رک جائے اور میرے سامنے وہ نہ مرا رے۔ کیونکہ پہلے اسے تقدیر مبرم کہا ہے اور تقدیر برم اسی کو کہتے ہیں جس کا ہونا علم الہی میں قطعاً قرار پاچکا ہو۔ یہ معلوم کر لینا چاہئے کہ اس کے معلوم کرنے میں انہیاء کو غلطی نہیں ہو سکتی۔ البتہ اولیاء اللہ کو ہو سکتی ہے۔ (مکتوبات امام ربانی دیکھا جائے) یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شے کے ہونے کو اولیاء اللہ تقدیر مبرم سمجھیں۔ مگر درحقیقت وہ تقدیر مبرم نہ ہو۔ مگر جو خدا کا رسول ہے وہ تقدیر مبرم کسی واقعہ کو اسی وقت کہے گا جس وقت خدا تعالیٰ نے اسے اطلاع دی ہوگی۔ اس لئے اس کے بیان میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسے بیان میں رسول غلطی کرے تو اس کی تمام باتوں سے یقین و اعتبار جاتا رہے اور اس

کو اجتہادی غلطی سمجھنا سخت جہالت ہے اور علمائے محققین تو یہ لکھتے ہیں کہ انہیاء سے اجتہادی غلطی بھی نہیں ہوتی۔ (شفاء ملاحظہ ہو) اور چوتھے جملہ میں تو مرزا قادیانی نے نہایت صاف طور سے کہا ہے کہ اس بات کا ظہور خدا کی طرف سے ٹھہر پکا ہے۔ اس کا ہونا ضرور ہے۔ اب اگر مرزا قادیانی کو سچا مانا جائے تو بالضرور خدائے پاک کو جھوٹا اور وعدہ خلاف اور فریب دہنہ کہنا ہو گا۔ یامانا ہو گا کہ وہ عالم الغیب نہ تھا عاجز تھا۔ کن فیکون کا اختیار اسے ہرگز نہ تھا، اور مرزا قادیانی کو کن فیکون کا اختیار دینا اور محمدی کا نکاح آسمان پر کہہ دینا مرزا قادیانی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے ایک فریب تھا۔ کیونکہ مختلف طریقے سے وعدہ کی چیخشی بیان کی۔ مگر وہ پورا نہ کیا۔ اب اہل اسلام ملاحظہ فرمائیں کہ مرزا قادیانی کو سچا ماننے سے خدائے پاک پر اتنے الزامات آتے ہیں۔ اب جس کا ایمان خدائے تعالیٰ سے اتنے عیوب کو قبول لرے وہ مرزا قادیانی کو مانے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ مرزا قادیانی اسی قول میں اپنے صدق و کذب کا معیار بیان کرتے ہیں اور اس معیار سے وہ جھوٹے ٹھہر تے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ مرزا قادیانی اور ان کا ملہم خدا دونوں ان کے اقوال سے جھوٹے ٹھہرے وہ معیار دوسرے جملہ میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ”(احمد بیگ کا داماد میرے سامنے نہ مرے۔) بلکہ میں س کے سامنے مرجاوں اور اپنے پچے ہونے کا یہ معیار بتاتے ہیں کہ اس کی موت کی پیشیں گوئی اسی طرح پوری ہو۔ جس طرح احمد بیگ اور آنکھم کی پوری ہوتی۔“ یعنی وہ میرے سامنے مرے۔ مدی نبوت کا اس طرح کہنا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ خدا کی طرف سے اسے یقینی علم دیا گیا ہو۔ مگر اس زور و شور کے دعوے کے بعد دنیا نے دیکھ لیا کہ احمد بیگ کا داماد مرزا قادیانی کے سامنے نہیں مرا۔ بلکہ مرزا قادیانی کو مرے ہوئے آٹھ برس ہو گئے اور وہ اب تک زندہ ہے۔ اس لئے مرزا قادیانی کی یہ پیشیں گوئی بھی جھوٹی ہوئی اور وہ اپنے قطعی اور یقینی اقرار سے جھوٹے ثابت ہوئے اور جو اپنے جھوٹے ہونے کے معیار انہوں نے بیان کی تھی۔ اسی کے بھوجب وہ کاذب قرار پائے اور جو انہوں نے اپنے پچھے ہونے کی معیار بیان کی تھی۔ وہ ان میں نہیں پائی گئی۔ اس لئے دو طرح سے وہ جھوٹے ثابت ہوئے اور معلوم ہوا کہ اس زور سے اس کی موت کی پیشیں گوئی کرتا اور اسے علم الہی بتانا محض لوگوں کو فریب دینے کی غرض سے خدا پر افتقاء کیا تھا اور خیال کر لیا تھا کہ اگر اس کا ظہور ہو گیا تو ہزاروں

مسلمان میرے اوپر ایمان لے آئیں گے اور اگر میں مر گیا تو جس طرح میں نے اپنی زندگی میں بہت سی پیشین گوئیوں کے جھوٹے ہونے میں باتیں بنائی ہیں اور میرے مانے والے میرے مانے سے ہٹنہیں۔ اسی طرح میرے بعد بھی ہو گا۔ مگر اسے خوب سمجھ لینا چاہئے کہ نبی کی توبڑی شان ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے کسی مقبول بندے کو بھی ایسا جھوٹا ہرگز نہیں کرتا۔ اس لئے مرزا قادیانی خدا کے مقبول بندے ہرگز نہ تھے۔ بلکہ جھوٹے، مفتری، فریب دینے والے اس قول سے ثابت ہوئے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے۔ دیکھا جائے کہ ان کے تمام مریدین جواب سے عاجز ہیں۔ اب جو ان میں زیادہ پابھی ہیں وہ بزرگوں کو، ناسیان رسول کو گالیاں دے کر خواب و خیال کو اپنا متمسک بنا کر اپنے جہلاء میں پھیلاتے ہیں اور انہیں جہنم کی راہ پر قائم رکھتے ہیں۔ مگر الحمد للہ ہمارے دعوے کی بنیاد کوئی خواب و خیال نہیں ہے۔ بلکہ تمہارے نبی کے اقوال ہیں۔ آنکھیں کھول کر دیکھو۔

اسی قول کی تائید اور مذکورہ پیشین گوئی کی صداقت کا اظہار مرزا قادیانی دوسرے قول سے کرتے ہیں اور قدرت خدا ان کے جھوٹے ہونے کے دلائل مختلف طریقوں سے خلق پر ظاہر کرتی ہے اور ان کے جھوٹ کو آفتاب کی طرح چکا کر یہ دیکھاتی ہے کہ دنیا میں ایسے انسان بھی ہیں کہ دیکھتے ہوئے آفتاب نیروں کو نہیں دیکھتے مرزا یوں کا یہی حال ہے۔

آٹھواں اقرار: جس سے مرزا قادیانی کے کذب کافیصلہ ہوتا ہے یہ ہے بقلم جلی لکھتے ہیں۔ ”یاد رکھو کہ اس پیشین گوئی کی دوسری جزو پوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہر دوں گا۔ اے احمدو! یہ انسان کا افتاء نہیں یہ کسی خبیث مفتری کا کاروبار نہیں۔

۱ ..... لیقیناً سمجھو کہ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے۔

۲ ..... وہی خدا جس کی باتیں نہیں ٹھیکیں۔

۳ ..... وہی رب ذوالجلال جس کے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔“

(ضمیر انعام آنحضرت ص ۵۲، خزانہ حج اس ۳۳۸)

آخر کے تین جملوں پر خوب نظر رہے جو مرزا یوں کی ساری باتوں کو غلط بتا کر مرزا قادیانی کو لقینی جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ اس قول میں مرزا قادیانی، احمد بیگ کے داماد کی پیشین گوئی کے پورا ہونے کو دوسرے طریقہ سے نہایت زوردار الفاظ میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں

کہ اگر یہ پیشین گوئی پوری نہ ہوئی تو میں ہر بدل سے بدتر ٹھہروں گا۔ اس سے پہلے قول میں تو یہ کہا تھا کہ اگر وہ میرے سامنے نہ مرے تو میں جھوٹا ہوں گا۔ یہاں اپنی بڑائی میں ترقی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر وہ پیشین گوئی پوری نہ ہوئی تو میں ہر بدل سے بدتر ٹھہروں گا۔ جھوٹے ہونے سے ہر بدل سے بدتر ہونا نہایت سخت ہے اور مرزا قادیانی کے لئے یہ جملہ زیادہ مناسب ہے اور اس علام الغیوب حکیم نے اس جملہ کا مصدق اپنیں ایسا ٹھہرا�ا کہ جاءہ دم زدن نہ رہی، کیونکہ مرزا قادیانی کو احمد بیگ کے داماد کے سامنے نہ موت دی اور ان کی پیشین گوئی کو پورانہ کیا۔ یہاں اس پیشین گوئی کے پورا ہونے کے وثوق پر اس وعدہ کی پیشین گوئی کو خدا کا سچا وعدہ کہتے ہیں۔ مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ وعدہ الہی بہ نسبت وعدہ کے زیادہ قابل اعتبار ہے اور اس کے پورا ہونے پر انہیں زیادہ اطمینان ہوگا۔ کیونکہ وعدہ کے ٹھیک جانے پر تم مرزا قادیانی کا بڑا ذرور ہے۔ مختلف طور سے انہوں نے اس کا دعویٰ کیا ہے۔ مگر وعدے میں بھی ان کے داہنے فرشتہ یہ کہہ چکے ہیں۔ ”یعدوا لا یوفی“ یعنی اللہ تعالیٰ کسی وقت وعدہ پورا نہیں کرتا۔ اس لئے مرزا قادیانی اس وعدہ کو خدا کا سچا وعدہ کہتے ہیں۔ یعنی ان وعدوں میں نہیں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پورا نہیں کرتا اور وہ جھوٹے ہو جاتے ہیں۔ بلکہ یہ سچا وعدہ ہے ضرور پورا ہوگا۔ کوئی شرط وغیرہ اسے روک نہیں سکتی۔

بہر حال اس پیشین گوئی کے پورا ہونے پر مرزا قادیانی کو نہایت وثوق ہے اور کوئی چون وچار کی جگہ باقی نہیں ہے۔ مگر ان مرزا کی مولویوں پر افسوس ہے کہ باوجود ان اقوال کے پھر بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ پیشین گوئی شرطی تھی۔ وہ اپنی عاجزی اور خوف کی وجہ سے نہ مرا۔ اس لئے پیشین گوئی پوری نہ ہوئی۔ اے دل کے اندر ہو! دیکھو کہ تمہارے مرشد کس زور سے اس کے مرنے کو خدا کا سچا وعدہ بیان کرتے ہیں اور یہ معلوم کرلو کہ اللہ تعالیٰ جس وعدہ کو یا وعدہ کو اپنے رسول کی زبان سے کہلاتا ہے وہ ضرور پوری ہوتی ہے وہ رونے اور خوف سے اور توبہ واستغفار سے ہرگز نہیں ٹلتی اور یہ خیال کہ اعمال حسنہ اور توبہ واستغفار سے بلاٹ جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے مگر اس کو وعدہ نہیں کہتے۔ اس کو وعدہ کہنا جہالت یا فریب ہے۔ وعدہ وہ ہے جو خدا کا رسول بالہام الہی کسی خاص شخص کو یا کسی قوم سے کسی عذاب کا وعدہ کرے کہ تجھ پر یہ عذاب آئے گا۔ یعنی تو فلاں وقت مرے گا۔ یا تجھ پر یہ آفت آئے گی تو اس وقت اس کا مرنا اور اس آفت کا آنا ضرور ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس رسول کی بات پر ہرگز اعتبار نہ رہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں بہت

جلگہ ارشاد ہے۔ ”ان الله لا يخلف الميعاد“ یعنی اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی ہرگز نہیں کرتا۔ اس میں وعدہ اور عید دنوں شامل ہیں۔ اس سے پہلے جو آیت منقول ہوئی اس میں خاص قرینہ عeid کا زیادہ ہے۔ جس میں صاف مذکور ہے کہ ایسا مگان و خیال بھی کوئی نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے عeid کرے اور پوری نہ ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا۔

اب یہ بھی معلوم کر لینا چاہئے کہ اصل پیشین گوئی مرزا قادیانی نے ۲۰ رفروری ۱۸۸۷ء میں کی ہے اور یہ قول جو میں نے ضمیمہ انجام آئھم سے نقل کیا ہے یہ اس کے دس برس کے بعد کا ہے۔ کیونکہ اس رسالہ کے آخر میں سلام کے بعد ۲۲ ربجُنوری ۱۸۹۷ء لکھا ہے اب حساب کر کے دیکھ لو۔

غرضیکہ اس مدت کے بعد بھی مرزا قادیانی کو اپنے اس الہام پر ویا ہی وثوق ہے۔ جیسا کہ صحیح موعود ہونے کے الہام پر تھا اور یہی وجہ ہے کہ اسے اپنا معیار صدق و کذب تھہراتے ہیں۔ مگر خدا کا ہزاروں شکر ہے کہ اس نے ہزاروں مسلمانوں کو گمراہی سے بچایا اور مرزا قادیانی کو ان کے نہایت پختہ اقرار سے انہیں جھوٹا اور بدترین خلائق ثابت کر دیا اور گمراہوں پر جنت تمام کر دی۔ مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کے ثبوت میں اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے متعدد اقراروں سے جھوٹے ثابت ہوئے۔ یہ بھی معلوم کر لیجئے کہ مرزا قادیانی سلطان القلم کہلاتے ہیں۔ یعنی ایک ہی مطلب کو مختلف پیرایہ سے سینکڑوں جگہ دھرا تے ہیں۔ اس پیشین گوئی کی نسبت بھی بہت کچھ اپنی سلطان القلمی دیکھائی ہے اور سعی خراثی کی ہے۔ خصوصاً جب سے ان کی پہلی پیشین گوئی جھوٹی ہو گئی تھی اس وقت سے اس جھوٹ کے سچا کر دیکھانے میں وہ وہ باتیں بنائی ہیں کہ خدا کی پناہ۔

زبان اردو کے دو اقرار تو آپ ملاحظہ کر چکے۔ اب اسی رسالہ انجام آئھم میں اس پیشین گوئی کا اعادہ عربی اور فارسی زبان میں کرتے ہیں اور اپنی قابلیت کا انہمار فرماتے ہیں ص ۱۱۰ سے احمد بیگ اور اس کے داماد کے متعلق پیشین گوئی کا ذکر رنگ برنگ سے کر کے ص ۲۱۶ پر پہنچ کر اس طرح تشریع کرتے ہیں۔

نوال اقرار

”خدا تعالیٰ مراد بارہ قبیلہ من مخاطب کردہ گفت کہ ایں مردم مکذب آیات من ہستہ

وبدانہ استہرامی کنند پس ایشان راشنے خواہم نمود و آن زن را کہ زن احمد بیگ را دخترست باز بسوے تو واپس خواہم آورد، یعنی چونکہ او از قبیلہ بیانیت نکاح اجنبی نیز و ن شدہ است باز تقریب نکاح تو بسوے قبیلہ رد کرده خواہد شد، و رکھات خدا و عده بائے اوچکس تبدیل نہ تو ان کرد، خدائے تو ہرچ خواہد آن امر بہر حالت شد فی است ممکن نیست کہ بعرض التوانند خدائے تعالیٰ به لفظ فیک فیکہم اللہ این امر اشارہ کرد کہ ادھر احمد بیگ را بعد از میرانیدن مانع ان بسوی من واپس خواہد کرد و اصل مقصود میرانیدن بود، و تو میدانی کہ ملاک ایں امر میرانیدن است۔“

(انجام آنحضرت ۲۱۶، ۲۱۷، خزانہ اص ایضا)

**مطلوب:** اللہ تعالیٰ نے میرے قبیلہ کی نسبت مجھے خطاب کر کے فرمایا کہ یہ لوگ میرے ننانوں کے منکر ہیں اور نہی اور نذاق میں انہیں اڑاتے ہیں۔ اس لئے میں انہیں ایک خاص نشان دیکھاؤں گا (وہ یہ کہا احمد بیگ کی لڑکی کو تیری طرف واپس لاوں گا) یعنی چونکہ وہ لڑکی ایک اجنبی غیر کفوکے نکاح میں آجائے سے اپنے قبیلہ سے باہر ہو گئی ہے۔ اس لئے پھر تیرے نکاح میں آجائے کی وجہ سے اپنے قبیلے یعنی کفویں آجائے گی۔ یہ خدا کا ارشاد اور اس کا وعدہ ہے اور خدا کی باتوں اور اس کے وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کا ہونا ہر حال میں ضرور ہے۔ (کسی کاررونا یا ڈرنا سے روک نہیں سکتا) ممکن نہیں کہ خدا کی بات اور اس کا وعدہ ملتوی ہو جائے۔ یہ الہامی تین جملے ہیں۔ جن سے نہایت ظاہر ہے کہ منکوحہ آسمانی مرزا قادیانی کے نکاح میں ضرور آئے گی۔ اس کے بعد مرزا قادیانی الہام سابق کی شرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لفظ فیک فیکہم اللہ سے اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مانعین نکاح کے مارنے کے بعد احمد بیگ کی لڑکی کو میرے نکاح میں لائے گا اور اصل مقصود خداوندی (مانعین نکاح کا) مارنا ہے۔ (پھر بغرض تاکید کہتے ہیں کہ تو جانتا ہے کہ اس امر کی بنیاد (مانعین نکاح کا) مارنا ہے۔

یہ دونوں جملے بھی نہایت تاکید سے بتا رہے ہیں کہ منکوحہ آسمانی کے شوہر وغیرہ مانعین نکاح کا مرزا قادیانی کے سامنے مرتا نہایت ضرور ہے۔ کیونکہ اگر وہ نہ مرے اور وہ منکوحہ نکاح میں نہ آئے تو خدا تعالیٰ کی باتیں بدل جائیں اور اس کا عاجز ہونا ثابت ہو جائے۔ کیونکہ وہ اپنے مقصود کو پورا نہیں کر سکا۔

اب مکر اس عبارت میں غور کیا جائے۔ اس میں بوجب ان کے الہام کے خدا تعالیٰ

کے متعدد وعدے اور ان وعدوں کی توثیق ہے۔ یعنی کسی وجہ سے وہ وعدے بدل نہیں سکتے۔ ضرور پورے ہوں گے۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے عزیزوں کو نشان یعنی مججزہ دکھائے گا۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ احمد بیگ کی لڑکی سے تیر انکاح ہو گا اور یہ ایک بڑا نشان ہو گا اور تیسرا وعدہ یہ ہے کہ اس ذریعہ سے وہ لڑکی اپنے کفوں میں لوٹ کر آئے گی۔ ان تینوں وعدوں کو بیان کر کے ان کی توثیق اس طرح کرتے ہیں کہ ”درکلمات خدا وعدہ ہے اب تکس تبدیل نتوان کرو۔“ اس مقام پر یہ جملہ اسی غرض سے لکھا گیا ہے کہ مذکور تینوں وعدے وعدہ خداوندی ہیں اور اس کے وعدے بدل نہیں سکتے۔ ضرور پورے ہوتے ہیں۔ دوسرا جملہ توثیق کا یہ ہے کہ ”خدا تو ہر چہ خواہ ممکن نیست کہ بمعرض التواء بماند،“ (پہلے الہامی عبارت سے ظاہر ہوا تھا کہ مرزا قادیانی کے اقارب کو مججزہ دکھانا مشیت الہی میں ہے اور وہ مججزہ یہ ہے کہ احمد بیگ کی لڑکی مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی) اس الہام سے قطعی طور سے ظاہر ہے کہ وعدہ الہی ضرور پورا ہوتا ہے۔ وہ کسی طرح ملتوی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے جو وعدے الہی بیہاں بیان ہوئے ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے۔ (مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ وعدے پورے نہ ہوئے نہ ان کے قبلہ نے وہ نشان دیکھا نہ وہ لڑکی ان کے نکاح میں آئی اور اس وعدے کی توثیق میں جو کچھ کہا تھا وہ مرزا قادیانی کی بناؤث تھی، الہامی بات نہ تھی) اس کے بعد مرزا قادیانی اپنے الہام کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ احمد بیگ کی لڑکی کے نکاح سے جو روک رہے ہیں۔ ان کے مرنے کے بعد وہ لڑکی میرے نکاح میں آئے گی۔ اس کے بعد مرزا قادیانی اس کے شوہر کے مرنے پر اس قدر اعتقاد و وثوق بیان کرتے ہیں کہ اس پیشین گوئی سے خدا تعالیٰ کا مقصود اصلی اس کے شوہر وغیرہ کا مارنا ہے۔ مگر جب دنیا قادر مطلق مانتی ہے۔ وہ بالکل عاجز ہے۔ اپنے وعدہ کو اور اپنے مقصود کو پورا نہیں کر سکا اور عاجز رہا۔ اس سے مرزا بیویوں کی حالت معلوم کرنا چاہئے کہ وہ خدائے پاک سے کیسا اعتقاد رکھتے ہیں اور باوجود ایسے الزامات کے مرزا قادیانی کو جھوٹا نہیں سمجھتے۔ مگر اس میں کسی طرح کاشک نہیں ہو سکتا کہ مرزا قادیانی اپنے اس قول سے بھی جھوٹے ہوئے۔ کیونکہ جو وعدے الہی انہوں نے بیان کئے تھے وہ پورے نہ ہوئے۔ حالانکہ وہ خود کہتے ہیں کہ وعدہ الہی میں نہ تبدیل ہو سکتی ہے نہ التواء ہو سکتا ہے اور بیہاں تو وعدہ الہی کا کسی طرح ظہور ہی نہ ہوا۔

اس کے بعد جب اس لڑکی کا باپ احمد بیگ مر گیا اور داماد نہ مرا۔ جس کے ڈھائی برس کے اندر مرنے کی پیشین گوئی کی تھی تو انجام آئھم کے ص ۲۲۲ تک اس پر روغن قاز ملا ہے کہ اس مدت میں وہ کیوں نہ مرا اور بار بار اس فرضی خوف کو خوب رنگ چڑھا کر پیش کیا ہے اور شرط کا لفظ بھی کئی جگہ لکھا ہے۔ یعنی معینہ پیشین گوئی کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے بیان کی ہے۔ اس کے بعد صفحہ ۲۲۳ میں یہ کہتے ہیں کہ مذکورہ پیشین گوئی اگرچہ مقررہ عدت میں پوری نہ ہوئی۔ مگر یہ نہ سمجھو کہ معاملہ اسی پر ختم ہو گیا اور احمد بیگ کا داماد مرنے سے نج گیا اور وہ وعدہ الہی پورا نہ ہوا۔ نہیں نہیں ضرور پورا ہو گا، چنانچہ لکھتے ہیں۔

### سوال اقرار

”باز شمار ایں نہ گفتہ ام کہ ایں مقدمہ برہمین قدر اتمام رسید و نتیجہ آخڑی ہمان است کہ بظہور آمد و حقیقت پیش گوئی برہمان ختم شد بلکہ اصل امر برحال خود قائم است و یعنی کس باحیلہ خود اور ارد نہ تو انکر دو ایں تقدیر از خدائے بزرگ تقدیر یہ مبرم است و عنقریب وقت آن خواہد آمد پس قسم آن خدائے کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ را برائے مامبوث فرمودہ اور بہترین مخلوقات گردانید کہ این حق است و عنقریب خواہی دید و من این رابرائے صدق خود یا کذب خود میاری گردانم و من نہ گفتہ الا بعد زانکہ از رب خود خبر داده شدم و تحقیق قبیلہِ من بار دوم سوے فساد جو ع خواہند کر دو درجہ بخت عناد ترقی خواہند نمود پس آن روز امر مقدر از خدائے تعالیٰ نازل خواہد شد و پھر کس قضائے اور ارد نہ تو ان کر دو عطاۓ اور امنع نہ تو ان نمود (اس قول سے بھی معلوم ہوا کہ اس کا مرنا وعدہ الہی ہے اور وہ ضرور پورا ہو گا) و من می یعنی کہ اوشان سوئے عادتہائے پیش میل کر دہ اندو دلہائے ایشان سخت شد و سوئے زیادتی و تکذیب عو نمودند پس عنقریب امر خدا بر ایشان نازل خواہد شد۔“

(انجام آئھم ص ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ج ۱، ص ایضا)

**مطلوب:** میں نے تم سے تم سے نہیں کہا کہ یہ مقدمہ اسی پر ختم ہو گیا اور اس پیشین گوئی کا آخڑی نتیجہ یہی تھا۔ کہ خوف کی وجہ سے عذاب الہی مل گیا اور احمد بیگ کا داماد نہ مرا یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ اصل بات یعنی اس کا مرنا اور پیشین گوئی کا پورا ہونا ضرور ہے۔ کوئی شخص اسے کسی تدبیر سے نہیں روک سکتا۔ کیونکہ میرے سامنے اس کا مرنا خدا کی طرف سے تقدیر یہ مبرم ہے وہ مل نہیں سکتی۔ اس کا وقت عنقریب آنے والا ہے۔ اس خدا کی قسم ہے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو ہمارے لئے معبوث فرمایا اور اس کو بہترین مخلوقات بنایا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ حق ہے۔ اس کا

ظہور ضرور ہوگا اور عنقریب تو اس کے مرنے کو دیکھ لے گا۔ میں اس پیشین گوئی کو اپنے صدق و کذب کا معیار قرار دیتا ہوں۔ یعنی اگر یہ پیشین گوئی پوری ہو جائے تو میں اپنے دعوے میں سچا ہوں اور اگر پوری نہ ہو تو میں جھوٹا ہوں اور جو کچھ میں نے اس باب میں کہا ہے۔ وہ اپنی طرف سے اور اپنے اجتہاد و مقیاس سے نہیں کہا بلکہ وہی کہا ہے جس کی اطلاع میرے پروردگار نے مجھے دی ہے۔ (یعنی جو کچھ کہا ہے وہ الہام الہی کہا ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہا) میں دیکھ رہا ہوں کہ احمد بیگ کے داماد وغیرہ مانعین نکاح نے اپنی پہلی عادت کی طرف میلان کیا ہے اور ان کے دل خست ہو گئے ہیں اور پھر زیادتی اور تکذیب کرنے لگے ہیں۔ اس لئے عنقریب حکم الہی ان پر نازل ہونے والا ہے۔ یعنی وہی موت کا حکم ہے جو اس قول میں اور مذکورہ قولوں میں بیان ہوا ہے وہ عنقریب ظہور میں آئے گا۔ یعنی یہ سب مانعین نکاح میرے سامنے جائیں گے۔ دیکھئے اب اس پیشین گوئی کے ظہور میں کوئی عذر باقی نہیں رہا۔

دیکھا جائے کہ اس قول میں سب اقوال سے زیادہ اس پیشین گوئی کے پورا ہونے پر زور دیا ہے اور متعدد طریقوں سے اس پر وثوق ظاہر کیا ہے۔  
اول تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے وہ تقدیر مبرم ہے۔ کوئی اسے کسی تدبیر سے نال نہیں سکتا۔

دو جگہ اس کے ظہور کو عنقریب بتاتے ہیں۔

۱..... سب سے زیادہ یہ کہ اس کی صداقت پر نہایت عظمت کی قسم کھاتے ہیں۔  
۲..... انتہاء یہ ہے کہ اپنے صدق و کذب کا اسے معیار بتاتے ہیں۔ یعنی اگر یہ پیشین گوئی پوری ہوئی تو میرا دعویٰ سچا اور اگر میں مر گیا اور یہ پیشین گوئی پوری نہ ہوئی تو میں جھوٹا۔ یعنی میں نے جو امام ہونے، مجدد ہونے، نبی ہونے، سُنّ ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ یہ مرزاقا دیانی کے ہاتھ کا لکھا ہوا اقرار ہے۔ جس کی تشریح بیان کی گئی۔ آخر میں یہ بھی ظاہر کر دیا کہ احمد بیگ کے داماد کو جو خوف دہشت ہو گئی تھی اب وہ نہیں رہا۔ بلکہ پھر سرکشی اور مخالفت پر وہ آمادہ ہو گیا۔ اب عنقریب اس کی موت کا حکم الہی نازل ہونے والا ہے۔ اب کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ الحمد للہ بیہاں بھی مرزاقا دیانی اپنے مقرر کردہ معیار سے جھوٹے ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے احمد بیگ کے داماد کے سامنے انہیں موت دی اور ان زوردار جملوں کو اور ان کی قسم کو جھوٹا ثابت کر کے ان کے دعوے کو ان کے اقرار سے جھوٹا کر کے دیکھا دیا۔

اب لاہوری مرزا تی اور قادریانی فدائی اپنے مرشد کے قول کو کیوں نہیں مانتے۔ ایسے پختہ اقراروں کے بعد ان کے جھوٹے ہونے میں آپ کو کیا عذر ہے۔ بیان کیجئے۔ مگر یہ یقینی بات ہے کہ آپ کوئی سچا عذر پیش نہیں کر سکتے۔ اب اس پر خوب غور کیجئے؟

بیان تک دس اقرار مرزا قادریانی کے لفظ کئے گئے۔ پہلے پانچ اقراروں سے ان کے دعوے مسیحیت کا خاتمه ہو گا اور یقیناً ثابت ہوا کہ جو علامتیں صحیح موعد کی خود مرزا قادریانی نے بیان کی تھیں وہ ان میں نہیں پائی گئیں۔ اس لئے وہ قطعاً جھوٹے ثابت ہوئے۔ چھٹے اقرار سے ان کے مہدی ہونے کا دعویٰ بھی غلط ثابت ہوا اور اپنے اقرار سے جھوٹے ہوئے۔ پچھلے چار اقراروں میں جس شرط کے پائے جانے پر وہ اپنے آپ کو جھوٹا قرار دیتے ہیں وہ شرط یقیناً پائی گئی۔ اب مرزا تی مولویوں سے دریافت کر لیجئے کہ نہایت مشہور جملہ اذا وجد الشرط وجد المشروط صحیح ہے یا نہیں؟ یعنی جس وقت شرط پائی جائے گی تو مشروط ضرور پایا جائے گا۔ اس لئے جب مرزا قادریانی نے اپنے جھوٹے ہونے کے لئے یہ شرط بیان کی تھی کہ یہ پیشین گوئی پوری نہ ہو۔ یعنی احمد بیگ کا داماد میرے سامنے نہ مرے۔ بلکہ میری موت آجائے۔ اس کا ظہور ہو گیا کہ مرزا قادریانی کو مرے ہونے آٹھ برس ہو گئے اور وہ اب تک زندہ ہے۔ اس لئے مرزا قادریانی اپنے اقرار سے جھوٹے ثابت ہوئے۔ اس جملہ کے سچے ہونے میں کسی صاحب فہم کو تأمل نہیں ہو سکتا۔

آخر کے چار قوتوں کو مع اس کی شرح کے دیکھنے سے اصحاب فہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ مرزا قادریانی نے منکوحہ آسمانی والی پیشین گوئی پر جس قدر زور لگایا ہے اور اپنی صداقت میں بار بار اسے پیش کیا ہے۔ اس قدر کسی پیشین گوئی کو پیش نہیں کیا۔ اس کی ابتدائی حالت تو فیصلہ آسمانی حصہ اول میں ملاحظہ کیجئے کہ ۱۸۸۸ء میں اس کی نسبت متعدد اشتہار دیئے ہیں اور شہادۃ القرآن میں اس پیشین گوئی کو خاص مسلمانوں کے لئے نہایت ہی عظیم الشان نشان قرار دیا ہے اور اس کے چھ جز بیان کئے ہیں۔ جن میں ایک جزاً حمد بیگ کے داماد کا مرنا ہے۔ اس لئے تسبیح دار مسلمانوں کو اس خاص پیشین گوئی کی طرف توجہ کرنا ضرور تھا۔ اسی وجہ سے توجہ کی گئی اور اس کا جھوٹا ہونا مختلف طور سے آفتاب کی طرح روشن کر کے دیکھایا گیا اور تمام دنیا کے مرزا تی احمد یوں کو عاجز والا جواب پایا۔ مذکورہ چار قوتوں کو ملاحظہ کیجئے کہ کس کس طرح مرزا قادریانی اس پیشین گوئی کے موقع پر آپنا یقین ظاہر کرتے ہیں اور اس یقین اور اطمینان کا اظہار صرف ایک دو مرتبہ نہیں کیا۔ بلکہ اکیس بار کیس برس تک یعنی اپنی موت تک خدا جانے کتنی مرتبہ کیا ہے۔ ان کے پانچ قول اس رسالہ

میں نقل کئے گئے ہیں۔ انہیں کو ملاحظہ کیجئے کہ کس زور سے اپنا یقین اس پیشین گوئی کی صداقت پر ظاہر کر رہے ہیں۔ اس لئے ضرور تھا کہ ہم اسی پیشین گوئی کو کامل طور سے جانچیں اور کس طرف توجہ نہ کریں۔ کیونکہ کوئی پیشین گوئی اس کے مثل نہیں ہے۔ جس پر مرزا قادیانی اس قدر زور لگایا ہوا اور ایسا عظیم الشان نشان اسے ٹھہرایا ہوا وجب ان کی ایسی مستحکم پیشین گوئی جھوٹی ہو گئی اور اس کا کذب اس طرح عیاں ہو گیا کہ خاص و عام سب سمجھنے والے سمجھے گئے اور خوبی یہ ہوئی کہ کسی امر کی تلاش اور تحقیق کی بھی حاجت نہ ہوئی۔ اس لئے ہمیں دوسری پیشین گوئی یا دوسرے نشان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ انسان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے تو ایک ادنیٰ جھوٹ بھی کافی ہوتا ہے۔ پھر دوسرے جھوٹ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اور یہاں تو نہایت عظیم الشان جھوٹ ثابت کر دیا۔ پھر اب دوسری طرف توجہ کرنا فضول ہے۔ اس سے صرف جھوٹے ہی ثابت نہیں ہوئے بلکہ بدنیت اور خدا پر الزام لگانے والے بھی ثابت ہوئے۔

اب جماعت احمدیہ سے التماں ہے کہ آپ کا منکوحہ آسمانی کے ذکر سے خفا ہونا اور اسے فضول بتانا کس قدر بے جا اور ناسمجھی ہے اور یقین آپ کے تխواہ یا بمولوں کا فریب ہے۔ تاکہ فریب خور دہ حضرات اس علانية امر حق پر متذہب ہو کر ہمارے دام تزویر سے علیحدہ نہ ہو جائیں۔ یہاں تو اللہ کے لئے آپ کی خیرخواہی کی جاتی ہے اور کمال دروسی اٹھا کر آپ کو متذہب کیا جاتا ہے۔ اس لئے اس رسالہ میں کئی طریقوں سے آپ کو سمجھایا گیا ہے اور مختلف اقوال آپ کے سامنے پیش کئے۔ این برائے خدا غور سے ملاحظہ کیجئے اور مرزا آئی دام سے علیحدہ ہو جئے۔

اب یہ بھی معلوم کر لینا چاہئے کہ مرزا قادیانی جس طرح اپنے بچتے اقراروں سے جھوٹے ثابت ہوئے۔ اسی طرح توریت مقدس اور قرآن مجید کے نصوص قطعیہ سے بھی ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہوا۔ کیونکہ قرآن مجید کی متعدد آیتوں سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور اس کی وعید دونوں ضرور پوری ہوتی ہیں۔ ہرگز نہیں ملتیں، مثلاً سورہ ابراہیم کے روئے سات میں ہے۔ ”لاتحسبن اللہ مخلف وعدہ رسوله ان اللہ عزیز ذوانتقام“ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ ایسا مگان ہرگز نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست غالب ہے انتقام لینے والا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کے مگان و خیال کو ختنی سے منع فرماتا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کوئی وعدہ یا وعید کرے اور پھر اسے پورا نہ کرے۔ بلکہ ضرور پورا کرتا ہے اور اس کی قد ویت اور ممتازت کا بھی مقتضاء ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو

اس کے کسی وعدہ و عید پر اعتبار نہ رہے۔ اس آیت کے پہلے مضمون سے اور اس کے آخری جملہ سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں وعدہ مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر اپنے رسول پر وحی کرے کہ فلاں شخص یا فلاں قوم پر میرا عذاب آئے گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ عذاب نہ آئے، بلکہ ضرور آئے گا۔ اسے ایمان لانے کی توفیق ہوئی نہیں سکتی۔ کیونکہ اس عالم الغیب کی جتنی باتیں ظہور میں آتی ہیں ان کی بنادر اندریشی اور مصلحت پر ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے علم غیب سے جس بندہ کو وعدہ کا مستحق سمجھ لیتا ہے اسی وقت وہ اپنے رسول کے ذریعے سے اس پر وعدہ کا اظہار کرتا ہے اور اس کے پورا ہونے کو اس کا نشان متجزہ قرار دیتا ہے۔ اب اگر اس بندے کی حالت بدل جائے تو اس علام الغیوب پر ناویقی کا الزام آئے اس میں شبہ نہیں کوہ کریم ہے۔ مگر اس کے ساتھ وہ حکیم اور متین اور غیور بھی ہے۔ اس لئے ایسی جگہ اس کا کرم نہیں ہو سکتا۔ جہاں کرم کا ظہور زان صفتؤں کے خلاف ہو۔ کرم کے لئے بے شمار گنہگار ہیں۔ ان پر وہ کرم کرتا ہے اور کرے گا۔ ایسی جگہ کرم نہیں ہو سکتا۔ جہاں اس کی متنانت اور غیوری کے علاوہ اس کا رسول جھوٹا ہو جائے۔ اس کی تمام وعدہ یہ غیر معابر ہو جائیں اور یہ کہنا کہ رو نے دھونے اور صدقہ دینے سے بلاش جاتی ہے اور وعدہ کو اس پر قیاس کرنا سخت جہالت یا فریب ہے۔ انسان پر ہر طرح کی تکلیفیں اور بلا میں آتی ہیں۔ مگر وہ وعدہ یہ نہیں ہیں۔ جنہیں اس کے رسول نے اپنی صداقت کے ثبوت میں پیش کیا ہو۔ ان بلاوں کا دور کرنا اس کے کرم کا مقتضاء ہو سکتا ہے اور ہوتا رہا ہے۔ وعدہ وہ ہے جو رسول خدا کے ذریعہ سے کسی تکلیف کا وعدہ کیا جائے۔ وہ ہرگز نہیں ملتی۔ اس دعوے کے ثبوت میں یہاں صرف ایک آیت بغرض اختصار نقل کی گئی ہے۔ ورنہ اس وقت قرآن شریف کے ۲۶ نصوص قطعیہ میرے رو برو موجود ہیں۔ جن میں صاف طور سے بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور وعدہ ہرگز نہیں ملتا۔ مرزاق دیانتی کا یہ کہنا کہ وعدہ ملتی جاتی ہے اور وعدے کے اندر کبھی مخفی شرط ہوتی ہے۔ محض غلط اور خدا تعالیٰ پر افتراء ہے۔ اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا خدا تعالیٰ پر سخت الزام آئے اور اس ذات مقدس کذب ثابت ہو۔ نعوذ باللہ!

البتہ اگر اس رسول پر یہ وحی ہوئی ہے کہ اگر یہ شخص ایمان نہ لائے گا تو اس پر عذاب آئے گا۔ اس صورت میں اگر وہ شخص یا وہ جماعت ایمان لے آئے گی تو اس پر عذاب نازل نہ ہو گا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم علانیہ ایمان لانے کی وجہ سے نفع گئی۔ اس کا ثبوت فیصلہ آسمانی حصہ اذل کے ص ۹۵ وغیرہ میں دیکھنا چاہئے اور کامل تفصیل اس کی تذکرہ یوسف علیہ السلام میں کی گئی ہے اور یہ کہنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عذاب کی پیشین گوئی کی تھی اور پوری

نہیں ہوئی۔ محض غلط ہے مرتaza قادیانی نے اپنی جھوٹی پیشین گوئیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے ایک خدا کے رسول پر افتراء کیا ہے اور جا بجا و عید کے ملنے کو سنت اللہ کہا ہے۔ مگر یہ دعویٰ غلط اور خدا پر افتراء ہے۔ توریت مقدس میں جھوٹے مدعا کی یہ پہچان لکھی ہے کہ اس کی پیشین گوئی پوری نہ ہو۔ حصہ دوم فیصلہ آسمانی میں اس کی عبارت نقل کی گئی ہے ناظرین اسے ملاحظہ کریں۔

الفرض مرتaza قادیانی کا جھوٹا ہونا اس کے متعدد پختہ اقراروں سے اور قرآن مجید کے نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ اس کے بعد حضرت مسیح کی حیات و ممات کی بحث کو پیش کرنا مرتaza قادیانی کے علانیہ کذب پر پردہ ڈالنا ہے۔ اب لاہوری پارٹی یا قادیانی گروہ کا حضرت مسیح کی حیات و ممات پر لیکھ رہا اور مناظرہ کے لئے اس بحث کو ضروری بنانا در پردہ اس کا ثبوت دینا ہے کہ ہم مرتaza قادیانی کی صداقت ثابت کرنے سے عاجز ہیں۔ مگر عوام کے فریب دینے کے لئے اس بحث کو پیش کرتے ہیں اور اس فریب کا نام باقاعدہ گفتگو رکھا ہے۔ یہ دوسرا فریب ہے ہم با آواز بلند کہتے ہیں کہ ہم نے مرتaza قادیانی کا مفتری اور کاذب ہونا قرآن مجید سے توریت مقدس سے اور خود مرتaza قادیانی کے اقراروں سے ثابت کر دیا اور کوئی مرتزا ای اس کا جواب نہ دے سکا اور ہم یقینی طور سے کہتے ہیں کہ یہاں سے لے کر قادیانی تک کوئی مرتزا ای جواب نہیں دے سکتا اور مرتaza قادیانی کو ایک مسلمان صالح بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ اب اگر حضرت مسیح موعود نہ ہوں اور ان کا عہدہ خالی ہو اور ان کے عہدہ پر کوئی دوسرا امتی آئے تو ضرور ہے کہ وہ کم سے کم مرد صالح اور صادق القول مسلمان ہوگا۔ مرتaza قادیانی کی طرح مفتری و کاذب ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لئے طالب حق کے لئے ضرور ہے کہ پہلے مرتaza قادیانی کو سچا صادق القول ثابت کرے اور جواز امام نہیں دیئے گئے ہیں اور انہیں جھوٹا ثابت کیا ہے ان کا جواب دے۔ اس کے بعد دوسرا گفتگو کرے۔ سرکاری عہدہ خالی ہونے پر اسی کو جگہ ملتی ہے جو سرکاری پاس حاصل کئے ہو اور بغیر پاس کئے ہوئے اسے وہ عہدہ نہیں مل سکتا۔ مرتaza قادیانی تو اسلامی سرکار میں صداقت کا بھی پاس نہیں کیا۔ جو ہرچیز مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ پھر وہ دربار اسلام میں ایسے معزز عہدہ پر کیونکر ممتاز ہو سکتے ہیں۔ بلکہ ایسا شخص تو بجم افتراء اور فریب خلافت سزا کے لائق ہے۔

اس بحث کے غیر ضروری ہوئیکی دوسری وجہ یہ ہے کہ جن حدیثوں سے مسیح موعود کا آنا ثابت کیا جاتا ہے ان میں مسیح موعود کے کام اور ان کے زمانے کی حالت بھی نہایت صاف طور سے بیان ہوئی ہے۔ آپ کے مسیح قادیان آئے اور دنیا میں پچیس تیس برس رہ کر دنیا بھر میں غل چایا اور قلم اور کاغذ کے گھوڑے دوڑائے اور بہت دفتر سیاہ کئے۔ مگر مسیح موعود کی جو علامتیں حدیثوں میں

مذکور ہیں ان کا نشان بھی نہیں پایا گیا۔ ذرا زمانے کی حالت دیکھو اور سر بگریباں ہو۔ میں ان حدیثوں کے معنی میں کچھ گفتگو نہیں کرتا۔ بلکہ جو مطلب مرزا قادیانی نے بیان کیا ہے اسی پر قاعصت کرتا ہوں۔ وہ مطلب پہلے تین قولوں میں بیان ہوا ہے۔ جو علامتیں مرزا قادیانی نے صحیح موعود کی بیان کی ہیں۔ ان میں سے تو ایک بھی نہیں پائی گئی۔ نہ اسلام کا شیوع ہوا، نہ ادیان باطلہ ہاں کہ ہوئے، نہ راست بازی میں ترقی ہوئی۔ بلکہ بالکل برلکھ معااملہ مرزا قادیانی کے وجود سے ہوا۔ خود مرزا قادیانی ہی کے مریدوں کی حالت دیکھو اور تحریر کرو انہیں تو جھوٹ بولنے پر اس لئے دلیری ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ انبیاء بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے بھی بولے۔ جس چودھویں صدی کے نبی کی یہ تعلیم ہو تو اس کے وقت میں اس کے مریدوں میں راست بازی کی ترقی کس طرح ہو سکتی ہے۔ بھائیو! کچھ تو غور کرو کہ جب مرزا قادیانی کے قولانے فیصلہ کر دیا کہ جو علامتیں صحیح موعود کی حدیثوں میں آئی ہیں اور متفق علیہ ہیں وہ ان میں نہیں پائی گئیں۔ اس لئے وہ صحیح موعود نہیں ہو سکتے۔ پھر اب صحیح علیہ السلام کی حیات و ممات پر بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بیان سے آپ کا ناطقہ کیوں بند ہے۔ صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۲ آپ نے دیکھا ہو گا یہ تو سمجھتے کہ اگر حضرت صحیح علیہ السلام کی موت کو مان لیا جائے اور یہ بھی مان لیا جائے کہ کوئی دوسرا صحیح آئے گا مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مرزا ہوں۔ کیونکہ صحیح موعود کی جو علامتیں تھیں وہ ان میں نہیں پائی گئیں۔ یہ دوسری وجہ ہے مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی فہمیدہ حضرات نے معلوم کیا ہو گا کہ جس قدر لکھا گیا۔ مرزا قادیانی کی حالت کے اظہار میں وہ طالب حق کو نہایت کافی ہے۔ مگر جس طرح نہایت مہتمم باشان امر کے لئے زیادہ شوہید پیش کئے جاتے ہیں اسی طرح میں چند قول اور بھی پیش کرتا ہوں۔ جن سے روشن ہوتا ہے کہ وہ اپنے اقراروں سے جھوٹے مفتری، اشر الناس ثابت ہوتے ہیں ملاحظہ ہو۔

**گیارہواں اقرار:** (قمیدہ اعجازیہ ص ۵۸، خزانہ حج ۱۹۷۰ ص ۷۱) میں پہلے تو صحیح موعود اور رسول خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔ ”وما انا الامرسل عند فتنة“ اور میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں۔ تخبرنى الرحمن من بین خلقه خدا نے مجھے اپنی مخلوقات سے چن لیا ہے۔ اب خیال کیا جائے کہ اس دعوے رسالت اور فضیلت اور مقبولیت کے بعد اپنے مخالفوں کے لئے پیشین گوئی کرتے ہیں۔ ”وانى لشر الناس ان لم يكن لهم . جراء اهانتهم صغار يصغر“ میں بدتر انسانوں کا ہوں گا۔ اُر اہانت کرنے والے اپنی اہانت نہیں دیکھیں گے۔ یعنی اپنی اہانت کی جزا اور ائمہ دیکھے

لیں گے۔ کیونکہ جو حضرات اپنا فرض منصبی سمجھ کر اہانت تحقیر کر رہے تھے وہ اپنے کام کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اہانت کے دیکھنے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ بجز اس کے کہ اپنی اہانت کرنے کا بدلہ اور اس کی سزا نہ دیکھ لیں۔ اب جماعت مرزاٹی احمدی بتائے کہ علاوہ عام مخالفوں کے خاص ان کے برائیں والے ان کی سخت اہانت کرنے والے مثلاً جناب فاتح قادریان جوان کی زندگانی میں ان کے ناک میں دم کرتے رہے۔ جن سے عاجز ہو کر آخربی فیصلہ انہوں نے شائع کیا تھا۔ جس کی نقل عنقریب آئے گی۔ اس کے بعد انہیں عالم برزخ میں بھیج کر ان کی جماعت کا ناک میں دم کر رہے ہیں اسی طرح ڈاکٹر عبدالحکیم خان اپنی پیشین گوئی سے انہیں ذلت کی موت مار کر ان کے کمال اہانت اور دم میں رسالے شائع کر رہے ہیں اور مولوی محمد حسین صاحب بیالوی جنہوں نے اپنے رسالہ اشاعت النہی میں مرزا قادریانی کی بری گست بنائی ہے اور علمائے حرمن شریفین سے بلکہ اکثر علمائے دنیا سے ان کے کفر پر فتوے لکھوا کر مسلمانوں پر ان کی حالت ظاہر کی ہے۔ اسی طرح مولوی عبدالحق صاحب غزنوی ہیں۔ جنہوں نے ان سے مقابلہ کیا تھا۔ جس کا اثر مرزا قادریانی کی موت نے دیکھا دیا۔

یہ چاروں حضرات نہایت خیر و خوبی سے زندہ ہیں اور مرزا قادریانی کی اہانت کا نہایت عمدہ بدلہ دنیا کو دیکھا رہے ہیں اور تمام دیکھنے والے راستی اور سچائی کی عینک سے دیکھ رہے ہیں کہ مرزا قادریانی اپنے متعدد اقتاروں سے جھوٹے اور ہر بد سے بدتر ہو چکے تھے۔ اس قول سے ان کی یہ خاص صفت معلوم ہوئی کہ وہ اشرالناس بھی ہیں۔ یعنی تمام دنیا کے شریروں اور بذات لوگوں سے زیادہ شریروں ہیں۔ یہ باتیں کوئی دوسرا شخص نہیں کہتا بلکہ خود مرزا قادریانی فرماتے ہیں۔ اب جماعت احمدیہ اپنے مرشد کو اس قول میں کیوں کاذب مانتی ہے اور جیسا اپنے آپ کو بتا رہے ہیں ویسا کیوں نہیں مانتے اور اشرالناس کا مصدق مرزا قادریانی کو کیوں نہیں جانتے۔ خدا کے لئے اس کا جواب دے یا اپنی غلطی کا اقرار کرے۔ مگر یہ تو حق طلب اور پچوں کا کام ہے۔ انہیں تو کاذب کی پیروی نے جھوٹ کو خوش آئندہ اور پسندیدہ کر دیا ہے۔ وہ جھوٹ اور جھوٹ سے کیونکر عیحدہ ہو سکتے ہیں۔ مگر وہی جس کے لئے دائی راحت قادر کریم نے مقدر کر رکھی ہے۔ الحمد للہ! بہتوں کو نصیب ہوئی اور ہونے والی ہے۔

نہایت مشہور ہے اور بہت مرتبہ چھپ کر شائع ہو چکا ہے کہ مرزا قادریانی نے مولانا فتح قادریان سے نہایت عاجز ہو کر آخربی فیصلہ شائع کیا تھا۔ اس میں چار اقتار مرزا قادریانی کے ہیں۔ جن سے وہ نہایت صفائی سے کاذب و مفتری ثابت ہوتے ہیں۔ اس اشتہار کا عنوان یہ ہے۔

## ”مولوی شاء اللہ صاحب کے ساتھ آخري فیصلہ“

اس کے نیچے مرزا قادیانی لکھتے ہیں آپ اپنے پرچم میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری اور کذاب اور دجال ہے میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا اور صبر کرتا رہا۔ (ان الفاظ سے مرزا قادیانی کا نہایت ولی صدمہ ظاہر ہے) مگر تجھے دیکھتے۔

بارہواں اقرار: ۱..... ”اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ آپ اپنے پرچم میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤ گا۔“ (دیکھا جائے کہ کس صفائی سے اپنے کذاب اور مفتری ہونے کا اقرار ہے اور جس شرط پر یہ اقرار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے پورا کر کے ان کا کذاب و مفتری ہونا دنیا کو دیکھا دیا یعنی مولوی صاحب کی زندگی میں مرزا قادیانی ہلاک ہوئے اور اپنے اقرار سے کذاب و مفتری ثابت ہوئے۔)

تیزہواں اقرار: ۲..... ”پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے۔ جیسے طاعون ہیضہ وغیرہ مہلک یا باریاں آپ پر میری زندگی میں وارد نہ ہوئیں تو میں خدا کی طرف سے نہیں۔“ (یہاں بھی مرزا قادیانی کا اقرار ہے کہ اگر مولوی صاحب ان کی زندگی میں ہیضہ وغیرہ میں نہ مرے تو میں خدا کی طرف سے نہیں اور دنیا نے دیکھ لیا کہ بفضلہ تعالیٰ مولوی صاحب تو کسی باری میں ہلاک نہیں ہوئے۔ مرزا قادیانی ہی ہیضہ میں بتلا ہو کر ان کے سامنے حسرت و ذلت کی موت سے ہلاک ہوئے اور اپنے لئے اقرار کر گئے کہ میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں۔)

چودھواں اقرار: جس میں مرزا قادیانی خدا تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر عاجزی سے اس طرح دعاء کرتے ہیں۔

۳..... ”اگر یہ دعویٰ صحیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں تو اے پیارے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی شاء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر۔ آمین!“ اس قول میں مرزا قادیانی نے نہایت عاجزی سے شرطیہ دعا کی تھی کہ اگر تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں تو مولوی شاء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کی دعاء کو قبول فرمایا کہ خلق پر مرزا قادیانی کی حالت کو ظاہر کر دیا اور وہ اپنے قول سے مفتری، مفسد، کذاب ثابت ہوئے۔ یہ خدائی فیصلہ ہے۔ جسے عقل کے ساتھ ایمان ہے وہ اس فیصلہ کو ضرور مانے گا۔

پندرہواں اقرار: اسی فیصلہ کے آخر میں مرزا قادیانی نہایت ہی عاجز ہو کر رحمت الہی کا دامن پکڑ کر اس طرح دعا کرتے ہیں۔

..... ”اے میرے آقا اور میرے بھجنے والے! اب میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملچھی ہوں کہ مجھ میں اور مولوی شاء اللہ صاحب میں سچا فیصلہ فرمائے جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھانے لے اے مالک تو ایسا ہی کر۔ آمین!“

یہ فیصلہ اخبار الحکم ج ۱۱ نمبر ۱۳ میں ۷ اپریل ۱۹۰۷ء مجموعہ اشتہار ج ۳ ص ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰ میں چھپا ہے۔ اس دعاء میں پہلی دعا سے بھی زیادہ عجز و نیاز اور رحمت کی خواستگاری ہے اور صادق اور کاذب میں خود ہی امتیاز متعین کر کے اس کی قبولیت کے ملچھی ہیں۔

یہ فیصلہ اور یہ دعا کیں مولوی صاحب یا کسی مخالف کی خواہش پر نہیں ہیں۔ بلکہ اپنے مخالف سے عاجز آ کر اور اپنی مقبولیت کے جوش میں اس فیصلہ کا اشتہار دیا ہے۔ جس طرح منکوحہ آسمانی کے نکاح میں آنے کا بڑے زور و شور سے مکررا اعلان دیا تھا۔ مگر اس عادل منصف نے مرزا قادیانی کی زبان سے سچا فیصلہ فرمائے اور نیا پر ظاہر کر دیا کہ مولوی صاحب صادق ہیں اور مرزا قادیانی مفسد و کذاب۔ یہاں دامن رحمت پکڑنے کا نتیجہ اس رحیم نے یہ دھکا دیا کہ تمام خلق پر رحمت کی کہ ایک مفسد و کذاب کے فریب میں نہ آ کیں اور یہ وہ کذاب ہے۔ جس کے کذب کا فیصلہ اسی کی زبان سے ہو گیا ہے۔ اب تعجب اور نہایت تعجب اس پر ہے کہ اس علانية خدائی فیصلہ سے یہ کہہ کر منہ پھیرا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی نے مبایلہ چاہا تھا۔ مگر مولوی شاء اللہ صاحب نے منظور نہیں کیا۔ اس لئے کچھ نہیں ہوا۔ مگر یہ سخت زبردستی اور ابلہ فرمی ہے۔ کیونکہ اول تو یہ امر محقق ہے کہ مبایلہ وہ فیصلہ ہے جو جناب رسول اللہ ﷺ سے مخصوص تھا۔ امت کے لئے عام نہیں ہے۔

دوسرے یہ کہ مبایلہ کا طریقہ وہی ہے جو قرآن مجید میں مذکور ہے۔ ”نَحْنُ أَبْنَا وَنَا وَابْنَاؤُكُمْ“ یہ طریقہ نہیں کہ گھر بیٹھے فیصلہ مشترک کیا جائے۔ ایک مرتبہ مرزا قادیانی نے مولوی عبدالحق صاحب غزنوی سے مبایلہ کیا تھا۔ جس کا ظاہری نتیجہ اس وقت تو یہ ہوا کہ ہر ایک اپنے کو کامیاب کہنے لگا۔ طرفین کے اعلان موجود ہیں۔ مگر انجام اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرزا قادیانی اور ان کے خلیفہ مولوی صاحب کے سامنے مرکردا خل عالم بزرخ ہوئے اور مولوی صاحب اب تک زندہ بخیر و خوبی موجود ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی ہوا۔ اب اسے مبایلہ کہو یا نہ کہو اور اس دعا کو الہامی کہو یا

نہ کہو۔ ہمارا مدعى صرف اس قدر ہے کہ مرزا قادیانی اپنے پختہ اقراروں سے مفسد، کذاب، مفتری ثابت ہوئے اور ان کے مقبولیت کے تمام الہامات اور قبولیت دعا کا دعویٰ محض غلط اور افتراء ثابت ہوا۔ کیا کوئی مرزا تائی دنیا میں کسی مقبول خدا اور مجدد یا نبی کی ایسی حالت دیکھا سکتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کے اقرار کئے ہوں اور وہ اپنے اقراروں سے جھوٹے ہوئے ہوں اور انہوں نے اپنے مخالف نے عاجز آ کر خدا تعالیٰ سے اس طرح دعا کی ہو۔ جس طرح مرزا قادیانی نے کی اور وہ اس کے حسب خواہ قبول نہ ہوئی ہو؟ کیا جماعت احمدی کی یہ مجال ہے کہ کسی بزرگ کے ایسے اقوال دیکھا سکے؟ ہرگز نہیں! ہرگز نہیں!! جب نہیں دیکھا سکتے تو مرزا قادیانی کے جھوٹا مانے میں اسے کیا عذر ہے۔ بیان کر کے جھوٹی اور مہمل باتیں نہ بنائے۔

صحیفہ انوار یہ کے ص ۲۳ سے ۳۱ تک اس کی تفصیل دیکھو۔ اس میں تین مقبولان خدا کے اقوال و دعا و کھلائی گئی ہیں۔ جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ خدا اپنے مقبول بندوں کو کس طرح سچا کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نہایت سادے طور سے دعا کی کہ اے پروردگار تو کسی کافر کو ز میں پر آباد نہ چھوڑ۔ دیکھنے کیسی عظیم الشان تمام دنیا کی انسانی آبادی کے نیست و نابود ہونے کی دعا کی وہ قبول ہوئی اور سارے کافرنیست و نابود ہو گئے۔ مرزا قادیانی نے صرف ایک مخالف کی موت کی دعا کی اور وہ قبول نہ ہوئی اور وہ صرف دعا ہی نہ تھی۔ بلکہ ان کے صدق و کذب کی معیار اس میں تھی۔ اس معیار سے مرزا قادیانی کا ذائب قرار پائے۔ حضرت عمرؓ نے دریا کے جاری ہونے کے لئے دعا کی تھی وہ دریا جاری ہو گیا۔ مقبولان خدا کی ایسی دعاء ہوتی ہے۔ ان باتوں کو دیکھ کر بھی مرزا یوں کو شرم نہیں آتی۔ دیکھا جائے کہ مرزا قادیانی کا مقولہ ہے اور عمومی مقولہ نہیں ہے۔ بلکہ ایک مخالف سے عاجز و تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر نہایت عاجزی سے اپنی موت کی دعا کرتے ہیں۔ (مخالف سے تنگ آنے کی انتہا ہو گئی ہے) اور عاجزی کی دعا ان کی ہے۔ جن کا دعویٰ ہے کہ میں سچا ہوں اور سچا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ جھوٹا کامیاب نہیں ہوتا۔ یہی حضرت اپنی نسبت یہ الہام الہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری نسبت فرماتا ہے کہ میں تیری کل دعا میں قبول کروں گا (تذکرہ ص ۲۶) اور یہ بھی ان کا الہام ہے کہ ”انت بمنزلة ولدی“ (حقیقت الوجی ص ۸۶، خزانہ ح ۹۸) یعنی تو بمنزلہ میرے بیٹیے کے ہے اور وہ یہ بھی الہام ہے کہ ”انت منی وانا منک“ (حقیقت الوجی ص ۷۴، خزانہ ح ۷۷) یعنی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے۔ اس الہام سے تو مرزا قادیانی خدا کے بیٹے اور

باپ دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہاں سے تو انہیں قدرت کاملہ کا بھی دعویٰ معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح کن فیکون کے الہام سے ظاہر ہے۔ (ذکرہ من ۷۴، ۵۱، ۲۲۱) باوجود وان عظیم الشان دعویٰوں کے اور اسکی عاجزی کی دعاء کے اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن ہی کو خوش کیا اور مرزا قادریانی مولوی صاحب کی زندگی میں ہلاک ہو کر اپنے اقرار سے مفسد اور کذاب ثابت ہوئے اور مولوی صاحب پچھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقبولوں سے ایسا معاملہ ہرگز نہیں کرتا۔

یہاں تک پندرہ اقرار مرزا قادریانی کے ہوئے۔ اب سلیمان اقرار کی تہبید ملاحظہ ہو۔ یہ دعائیں ۱۹۰۱ء میں تو خاص فارغ قادیانی کے مقابلہ میں کی تھیں۔ جنہوں نے مرزا قادریانی کا خاتمه ہی کر دیا۔ اس سے پہلے جولائی ۱۹۰۰ء میں میر مہر علی شاہ صاحب سے مناظرہ کا اعلان دیا تھا۔ (کیونکہ شہرت اور ترقی کا موجب تھا) اور اس میں لکھا تھا کہ "میں مکر لکھتا ہوں کہ میر ا غالب رہتا اس صورت میں متصور ہو گا کہ جب کہ میر مہر علی شاہ صاحب بجز ایک ذیل قبل شرم اور کیک عبارت اور لغو تحریر کے کچھ بھی نہ لکھ سکیں اور اسکی تحریر کریں۔ جس پر اہل علم تھوکیں اور نفرین کریں۔ کیونکہ میں نے خدا سے بھی دعاء کی ہے کہ وہ ایسا ہی کرے اور میں جانتا ہوں کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ (کیے جھوٹے دعوے پر زور ہے) اور اگر نہیں مہر علی شاہ صاحب بھی اپنے تینی مومن اور مستجاب الدعوات جانتے ہیں تو وہ بھی اسکی ہی دعا کریں۔ (اس سے ظاہر ہوا کہ مرزا قادریانی کو اپنے مستجاب الدعوات ہونے کا یقین تھا) اور یاد رہے کہ خدا تعالیٰ ان کی دعاء ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ کیونکہ خدا کے مامور اور مرسل کے دشمن ہیں۔ اس لئے آسمان پر ان کی عزت نہیں۔" (مجموعہ اشتہارات ج ۳۲ ص ۳۲۰)

یہاں بھی مرزا قادریانی اپنی دعاء کی قبولیت اور مخالف کی عدم قبولیت پر پورا اطمینان ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ مرزا قادریانی کی دعاء کے لئے الہامی ہونا ضروری نہیں ہے۔ ان کی کل دعائیں مقبول ہیں۔ مگر دو دعاؤں کی مقبولیت تو بیان ہوئی۔ جن سے ان کا خاتمہ ہی ہو گیا۔ اس تیسری دعاء کا حشریہ ہوا کہ اس کے اثر سے مرزا قادریانی تمام ہنگام میں بہت ذیل ہوئے۔ کیونکہ پیر صاحب مناظرہ کے لئے آمادہ ہو گئے اور ۲۲ راگت ۱۹۰۰ء کو مع جماعت کثیر کے لاہور آئے اور مرزا قادریانی باوجود نہایت حصتی وعدے کے گھر سے باہر نہ لکھ لے اور پیر صاحب کی نسبت جو کچھ انہوں نے اپنا الہام یا خیال ظاہر کیا تھا۔ وہ محض غلط لکھا۔ اس کے سوا مرزا قادریانی کی اس اشتہار بازی میں خدا کی طرف سے یہ سزا ہوئی کہ انہوں نے اپنی صداقت کے زخم میں مناظرہ کے اشتہار میں یہ بھی لکھا تھا۔

سوہاں اقرار: اگر میں یہ صاحب اور علماء کے مقابلہ پر لا ہونہ جا دل تو میں (یعنی مردود، جھوٹا اور ملعون ہوں۔ اس قول میں مرزا قادیانی نے اپنی تین صفتیں بیان کی ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اسی نے مرزا قادیانی کو مناظرہ میں جانے کی ہستہ نہ دی اور ان کے اقرار سے انہیں مردود، جھوٹا اور ملعون، دنیا پر ثابت کر دیا۔ (رسالہ حق نماں ۱۹۱۹ آخ)

یہ ان کا سولہواں اقرار ہے۔ جس سے وہ جھوٹے اور ملعون ثابت ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو اظہار مسرت کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کاذب کے کذب کا اظہار اس کی زبان سے، قلم سے کس کس طریقے سے کرایا ہے۔ تاکہ غالباً حق کو اس سے پرہیز کرنے میں کس طرح کاتاً مل نہ رہے۔ مگر مانند والوں پر حیرت ہے کہ مرزا قادیانی کی ایسی علامیہ با توں پر نظر نہیں کرتے اور یہ خیال نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندے کو اس کے اقرار سے اسی طرح جھوٹا اور ملعون ٹھہرا تا ہے اور دنیا میں کسی سچے اور پیارے بندے سے ایسا واقعہ ہوا ہے؟ اور کوئی مجدد یا نبی اپنے پختہ اقرار سے جھوٹا ہوا ہے؟ ہر گز نہیں، کوئی نظریہ اس کی پیش نہیں ہو سکتی۔

ستہواں اقرار: ۵ نومبر ۱۸۹۹ء میں مرزا قادیانی نے اشتہار اے دیا تھا کہ "اے میرے مولا، قادر خدا، اب مجھے راہ بتلا۔" اگر میں تیری جناب میں مستحب الدعوات ہوں تو ایسا کر کہ جنوری ۱۹۰۰ء سے آخر دسمبر ۱۹۰۲ء تک میرے لئے کوئی اور نشان دھکا اور اپنے بندے کے لئے گواہی دے۔ جس کو زبانوں سے پکلا گیا ہو۔ دیکھ میں تیری جناب میں عاجز انہا تھا ہوں کہ تو ایسا ہی کر۔ اگر میں تیرے حضور میں سچا ہوں اور جیسا کہ خیال کیا گیا ہے۔ کافر، کاذب نہیں ہوں تو ان تین سال میں جو آخر دسمبر ۱۹۰۲ء تک فتح ہو جائیں گے۔ کوئی ایسا نشان دھکا کہ جو انسانی ہاتھوں سے بالآخر ہو۔ اگر تو تین برس کے اندر جو جنوری ۱۹۰۰ء سے شروع ہو کر دسمبر ۱۹۰۲ء تک پورے ہو جائیں گے۔ میری تائید میری تصدیق میں کوئی نشان نہ دھکلا دے اور اپنے بندے کو ان لوگوں کی طرح رد کروے جو تیری نظر میں شریار اور پلید اور بے دین اور کذب اور دجال اور خائن اور مفسد ہیں۔ تو میں تجھے گواہ کرہوں کہ میں اپنے تین صادق نہیں سمجھوں گا اور ان تمام تھتوں اور الزاموں اور بہتانوں کا اپنے تین صدق اسکھوں گا۔ جو میرے پر لگائے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے لئے قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر میری دعا و قبول نہ ہو تو میں ایسا ہی مردود، جھوٹا اور ملعون اور کافر اور بے دین اور خائن ہوں۔ جیسا کہ مجھے سمجھا گیا ہے۔ (مجموعہ اشتہارات بعد ح ۳۶۷، ۱۸۸۱ء، اعمارت میں تقدیر و تاخیر ہے)۔

اس قول میں بھی مرزا قادیانی نہایت عاجزانہ دعا کرتے ہیں۔ اس کے سوا اور بھی کئی

بائیں لجتے ہیں۔ اپنے آپ کو مستحباب الدعوات کہتے ہیں اور اعجاز احمدی کے ص ۸۸ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ الہامی پیشین گوئی ہے۔ اس دعا کی قبولیت پر اپنی صداقت کو محصر نہاتے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ تین برس کے اندر ایسا نشان ظاہر ہو۔ جو انسانی طاقت سے باہر ہو۔ اگر اس معیاد میں ایسے نشان کا ظہور نہ ہو تو مرزا قادری خدا کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ان پانچ لفظوں کا مستحق سمجھ لوں گا۔ یعنی مردوں اور ملعون اور کافروں اور بے دین اور خائن ہوں۔ اس اشتہار کی بنیاد اور اس کی تفصیل الہامات مرزا امطبوعہ بار چہارم ص ۹۲ میں دیکھئے۔ میں اس قدر کہنا چاہتا ہوں کہ اس کلام سے یہ بخوبی معلوم ہوا کہ نومبر ۱۸۹۹ء سے پہلے مرزا قادری اپنے کوئی ایسا نشان نہیں ہوا تھا۔ جس سے انہیں اپنی صداقت کا یقین ہوتا اور نہ کوئی انہیں ایسا یقین الہام ہوا تھا۔ جس سے وہ اپنے آپ کو چاہا مسلمان و راست باز اعتقاد کرتے۔ کیونکہ اگر کسی قطعی الہام یا کسی نشان سے اپنی صداقت کا یقین انہیں ہو گیا تھا۔ تو پھر اس نشان کے ظاہر ہونے سے پہلا یقین کیونکر جاسکتا ہے۔ اس لئے اس قول نے پہلے نشانات والہامات کو بے کار ثابت کر دیا اور مرزا قادری اپنے اقرار سے ملعون و کافر ثابت ہوئے۔ کیونکہ مرزا قادری کا اقرار تھا کہ اگر ۱۹۰۰ء سے آخر ۱۹۰۲ء تک کوئی نشان میری صداقت کے ثبوت میں ظاہر نہ ہو تو ملعون و کافر ہوں اور دنیا نے دیکھ لیا کہ اس عرصہ میں ان کا کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس تین برس کی مدت آخر دسمبر ۱۹۰۲ء تک ہوتی ہے۔ اس میں آخر نومبر تک مرزا قادری کے اقرار سے اس نشان کا ظہور نہیں ہوا تھا۔ اس مہینے میں جب موضع مد میں مولوی شاء اللہ صاحب نے مناظرہ میں مرزا یوں کو سخت ذلت پہنچائی ہے۔ اس وقت ماہ دسمبر ۱۹۰۲ء میں مرزا قادری نے اپنے رسالہ اعجاز احمدی کا اظہار کیا اور دس ہزار روپے کا اشتہار دیا کہ جو کوئی اس کا جواب پانچ روز کے اندر دے زیادہ سے زیادہ میں روز کے اندر چھپوا کر میرے پاس بھیج دے تو میں اسے دس ہزار روپیہ دوں گا۔ اعجاز احمدی میں اس کی تفصیل دیکھنا چاہئے۔ مگر یہ اشتہار ایک فریب تھا۔ یہ رسالہ مجرمہ کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اس کا قطعی ثبوت رسالہ حقیقت رسائل اعجاز یہ میں نہایت تفصیل سے دیا گیا ہے۔ یہ رسالہ پانچ جزیں ہے۔ اس سال کے شروع میں چھپا ہے اور پندرہ دلیلوں سے مرزا قادری کا جھوٹا ہوتا ثابت کر کے آخر میں یہ دیکھایا ہے کہ درحقیقت وہ خدا اور رسول کو نہیں مانتے تھے۔ چونکہ مسلمانوں کے سوا کسی اور مذہب والے نے انہیں نہیں مانا۔ اس لئے وہ دین اسلام کا اقرار کرتے رہے اور مسلمانوں کے فریب دینے کے لئے انہوں نے نقیۃ الشعار لکھئے اور بہت سی باتیں بنائیں۔ مگر الحمد للہ! اس رسالہ

میں تو انہی کے اقوال سے قطعی طور پر انہیں کاذب ثابت کر دیا گیا۔ پہلے اقوال سے یقینی فیصلہ ہو گیا کہ صحیح موعود کی جو علامتیں انہوں نے اپنے متعدد رسالوں میں بیان کی ہیں وہ ان میں بالیقین نہیں پائی گئیں اور اپنے قول سے وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ آخری قول سے تو مردود، ملعون اور کافروں بے دین بھی ہو گئے۔ آج کل کوئی نیا قادریانی ظاہر ہوا ہے۔ اس نے یہ ظاہر کیا کہ فلاں فلاں مولوی صاحب انہیں کافرنہیں کہتے۔ بعض ان کے کفر میں تأمل کرتے ہیں۔ ان باتوں سے مرزا قادریانی کی صداقت ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اکثر علماء مرزا قادریانی کی واقعی حالت سے بالکل بے خبر ہیں۔ اس لئے ان کے کفر میں تأمل کرنا متفکناء حقیقت ہے۔ مگر جس وقت ان علماء کو مرزا کا پورا حال معلوم ہو جائے گا تو پھر انہیں ہرگز تأمل نہ ہو گا اور کتاب مضمون ہدایہ اللہ تعالیٰ الی سبیل الرشاد کو فیصلہ آسمانی اور صحیح انوار یہ دیکھنے کے بعد بھی انہیں مرزا قادریانی کے کذب کاروشن آفتاب نظر نہ آیا تو معلوم ہوا کہ وہ ازلی ختم اللہ علیٰ قلوبہم کے مصدق ہیں۔ جس مدعا کی پیشیں گویاں بالیقین غلط ہوئی ہوں۔ جس کے الہاموں سے خدا کا جھوٹا اور وعدہ خلاف ہونا ثابت ہو گیا ہو۔ جس کے جھوٹے ہونے پر توریت اور قرآن گواہی دیتا ہو۔ جس نے انبیاء کی توجیہ کر کے جھوٹی باتیں فریب دینے کی غرض سے بنائی ہوں۔ جو مدعا اپنے متعدد اقوال سے کاذب ثابت ہواں کے کذب میں تو کسی صاحب عقل کو تأمل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رہا ان کا کفر وہ بھی ان کے قول سے ثابت ہے۔ ایک قول تو ابھی نقل کیا گیا۔ دوسرا قول اور ملاحظہ کیجئے۔ مرزا قادریانی (حاملۃ البشری ص ۹۷، خزانہ حجہ ص ۲۹۷) میں لکھتے ہیں۔ ”ماکان لی ان ادعی النبوة واخرج من الاسلام والحق بقوم کافرین“ یعنی یہ جائز نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافروں سے جاملوں۔ اس قول میں مرزا قادریانی نہایت صفائی سے کہہ رہے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ کرنا اسلام سے خارج ہونے اور کافروں سے مل جانے کا باعث ہے۔ اب ان کے اقرار کے بمحض ان کے کفر کا ثبوت ملاحظہ کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ ”ہمارا دعویٰ ہے کہ بغیر نبی شریعت کے رسول اور نبی ہیں۔ نبی اسرائیل میں کتنی ایسے نبی ہوئے جن پر کتاب نازل نہیں ہوئی۔“ (اخبار بدھر ۵ مارچ ۱۹۰۸ء، ملفوظات حجہ ۱۰ ص ۱۲۷)

اور صرف دعویٰ نبوت ہی نہیں بلکہ قمر الانبیاء ہونے کا دعویٰ ہے۔ چنانچہ (اجماع آخر ص ۵۸) خدا کا (اس ایضاً) میں ان کا الہام ہے۔ ”یاتی قمر الانبیاء“ اور اسی اجماع آخر ص ۵۸ میں یہ بھی ہے۔ ”کیا ایسا بد بخت مفتری جو خود رسالت و نبوت کا دعویٰ کرتا ہے قرآن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے؟ اور

کیا ایسا وہ شخص جو قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہے اور آیت ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کو خدا کا کلام یقین رکھتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی آنحضرت ﷺ کے بعد رسول اور نبی ہوں۔“

(حاشیہ ص ۲۶۰، مجموعہ آنحضرت ﷺ اس ایضا)

اس قول کو اچھی طرح دیکھا جائے۔ اس میں وہ صاف فرمادی ہے ہیں کہ رسول ﷺ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بدجنت مفتری ہے۔ اس کا ایمان قرآن شریف پر نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جو آیت ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کو خدا کا کلام بالحقیقت جانتا ہے۔ وہ رسول ﷺ کے بعد نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس کا حاصل بھی وہی ہے جو پہلے قول کا ہے۔ یعنی آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا منکر قرآن اور کافر ہے۔

لیجئے جناب امرza قادریانی اپنے متعدد اقوال سے کافر ہیں۔ پھر کسی مولوی صاحب کے کہنے کی کیا حاجت ہے اور دنیا کے علماء نے پہلے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ مولانا محمد حسین صاحب کا رسالہ اشاعت السنہ ۱۳۱۳ نمبر چہارم المغایثہ ہفتہ و نمبر یازدهم و دوازدھم اور مولانا محمد لہول صاحب کا رسالہ القول الحسنی مکائد مسح ملاحظہ کیجئے۔

میاں ارادت قادریانی! کھواب تو مرزا قادریانی نے آپ کے رسالہ کو شخص قلط بتا دیا اور خاتم النبیین کے غلط معنی پر جو آپ نے یہودہ باتیں بنا کی ہیں۔ ان کی غلطی پر صادر کر کے آیت ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کو فتنہ نبوت پر نص قطعی قرہبڑ فرمادیا اور ص ۲۸ میں ان کا یہ جملہ ہے۔ ورنہ خاتم الانبیاء کے بعد نبی کیسا۔ یعنی نبی کا لفظ اگر کہیں کہا گیا ہے وہ بطور استخارہ اور مجاز کے ہے۔ اولیاء کو بھی کسی وقت کہہ دیا گیا ہے۔ حقیقی نبی خاتم الانبیاء رسول ﷺ کے بعد کوئی نہیں ہو گا۔ یہ ان کا اٹھارہوں اقرار ہے۔

### دشہزار کا چیلنج

اے صادقان روزگارو، آئے حامیان ملت سید ابراہیم اندھر اور الہ فرجی کو ملاحظہ کیجئے کہ ایسے بدترین روزگار کو جو اپنے الہاموں اور پختہ اقرار سے مجوتا، ہر بذے بدتر ملعون، کافر، ثابت ہو چکا ہو اور ایک ہی اقرار سے نہیں بلکہ اٹھارہ اقراروں سے وہ ان بدترین صفات کا مستحق ہو چکا ہو۔ اس کا جھوٹ اور فریب آفتاب کی طرح روشن کر کے دکھادیا ہو۔ اس کے جھوٹے دعوؤں پر حیدر آبادی مرزا آنحضرت ﷺ دیتے ہیں اور ان کی صداقت ثابت کرتے ہیں۔ اے فریب خور دہ حضرات ہم تمام مرزا نبیوں کو چیلنج دیتے ہیں کہ جس طرح ہم نے مرزا قادریانی کے اقراروں


سے ان کا جھوٹا اور ملحوظ اور کافر ہونا ثابت کر دیا۔ تم اگر اس طرح کسی نبی یا مجدد یا بزرگ کا جھوٹ ہونا ثابت کر دو (اور یہ تو غیر ممکن ہے) یہی ثابت کر دو کہ جھوٹے مدعیان نبوت و مہدویت بتئے گذرے ہیں ان میں سے فلاں جھوٹا اپنے متعدد اقراروں سے ان ملعونہ صفات کا مستحق ہوا ہے تو ہم دس ہزار روپیہ دینے کے لئے حاضر ہیں۔

### مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی قطعی دلیل

ان کی نہایت صحر کی پیشین گوئی جھوٹی ہوئی ہے اور ان کے جواب سے مرزا ایسے عاجز ہوئے کہ ان کے جھوٹے ہونے کو مان لیا۔ چنانچہ ایک رسالہ نبی کی پیچان قادیانی میں چھپا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کی دس پیشین گوئیوں میں سانحہ جھوٹی ہوئی ہے اور یہ بات توریت مقدس اور قرآن مجید کے نص قطعی سے ثابت ہے کہ جس مدعاً نبوت کی ایک پیشین گوئی بھی جھوٹی ہو وہ جھوٹا اور مفتری ہے۔ چنانچہ توریت مقدس میں یہ حکم ہے کہ ”لیکن وہ نبی جو اسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے۔ جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جاوے۔“ (یعنی جس طرح تصریفات ہند میں قاتل کی سزا پہنچی ہے۔ اسی طرح توریت مقدس کا حکم جھوٹے مدعاً نبوت کی سزا قتل ہے) اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ میں کیونکر جاؤں کہ یہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں تو جان رکھ کر جب نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے۔ (یعنی پیشگوئی کرے) اور وہ جو اس نے کہا ہے واقع نہ ہو یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند نے نہیں کہی۔ بلکہ اس نبی نے گستاخی سے کہی ہے تو اس سے مت ڈر۔“ اور یہی مضمون قرآن شریف کے نص صریح سے ثابت ہے۔ ”لاتحسین اللہ مخالف وعدہ رسوله“، ”یعنی اللہ تعالیٰ نہایت تائید سے فرماتا ہے کہ ایسا گمان و خیال ہرگز نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ بلکہ وہ اپنے تمام وعدے اور عییدیں پوری کرتا ہے۔ جس مدعاً کے بیان سے اس کا ایک وعدہ یا ایک عیید بھی پوری نہ ہو تو یقین کرنا چاہئے کہ وہ جھوٹا ہے۔ ان دونوں کلام مقدوس کے بہوجب مرزا غلام احمد قادیانی یعنی جھوٹے ہیں۔

۱۔ جن کی تفصیل فیصلہ اسلامی اور الہامات مرزا وغیرہ میں لکھی گئی ہیں۔

۲۔ چنانچہ اخبار اہل حدیث مورخ ۱۹ ابریوم ۱۴۳۷ھ نمبر ۵۹، ج ۱۰ میں اخبار الفضل مورخ ۸ راکتوبر سے نقش کیا گیا ہے۔



# برق آسمانی خرسن قادریانی

حضرت مولانا ظہور احمد بگوی

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والعلقة للمتقين والصلة والسلام على  
رسوله محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

اسابعد! تخبر صادق آقا نامدار فخر موجودات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیؒ کے فرمان کے مطابق آج کل مسلمان فتن و حادث میں جلتا ہے۔ سرفراز عالمؒ کی پیش کوئی کے مطابق ہر صدی میں کاذب دعیان نبوت ظاہر ہوتے رہے اور ان میں سے بعض مثلاً سلیمان قرمطی، عبد اللہ مہدی افریقی، حسن بن صباح، عبد المؤمن، ابن تومرت، حاکم بامر اللہ، مہدی جونپوری، بہاء اللہ ایرانی وغیرہ اپنے ناپاک مقاصد میں پوری طرح کامیاب ہو کر اپنی طبعی موت مرے اور اپنے لئے جائشیں بھی چھوڑ گئے۔ مگر چودھویں صدی میں قادریانی قرنہ جس دجالیت کا مظہر ثابت ہو رہا ہے۔ اس کی نظر سبق دجالوں میں بھی پائی نہیں چاہی۔ انسانی طبائع میں آزادی مذہب کا مسلمان دیکھ کر مرزا نے قادریانی نے ہوا کے رخ پر چلانا شروع کیا۔ اسلامی تعلیم کو سخ کرنے والے فلاسفہ اور سائنس جدید کو خواہ تجوہ و ترقی مسائل میں گھینٹے سے اگریزی خوانوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیا اور چند ایسے مولوی جو پہلے بھی سنبھل ہمومین اور سواد الا عظم کو ترک کر کے غیر مقلد، چکڑ لوی یا نجھڑی بن چکے تھے۔ اس کے ہم نواہو گئے اور ایک پوری تجارتی کمپنی قائم ہو گئی۔ جس نے سلطنت برطانیہ کا سہارا لے کر مشرق و مغرب میں اپنا دام تزویر پھیلا دیا۔ ایسیوں صدی میں سلطان عبد الحمید ہانی مرحوم اور سید مجال الدین افغانی کی مسافی جبلیہ سے اتحاد عالم اسلام (پہن اسلام ازم) کی مبارک تحریک کا آغاز عمل میں آیا۔ مسلمانوں میں جہاد کی روح پیدا کرنے اور اسلام کا سیاسی اقتدار از سر تو بحال کرنے کے لئے سے جدوجہد شروع کی گئی۔ اقوام یورپ اس تحریک سے لرزہ براندا میں۔ مدبرین برطانیہ اس تحریک سے مضر بہ اور پریشان ہو رہے تھے۔ مرزا نے قادریان اور اس کے ایکتوں نے اسی موقع سے فائدہ حاصل کیا لہو عالم گیر اتحاد اسلامی کو پارہ پارہ کرنے اور جہاد کو حرام قرار دینے میں ایڈی سے لے کر چوپی تک زور لگایا اسی موضوع پر تصانیف لکھ کر جادا اسلامیہ میں ہزاروں کی تعداد میں شائع کیں۔ اس طرح حکومت کی ہمدردی حاصل کر کے یہ فرقہ دن بدن بڑھتا گیا اور یہ تجزیہ آج کل ایک تصور درخت کی صورت اختیار کر

چکا ہے۔ حکومت برطانیہ کے مقاصد کی اشاعت کے لئے ممالک غیر مسلمین بھیجے جاتے ہیں اور دوسری طرف تبلیغ اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کی جیبوں پر ڈالا جاتا ہے۔ سادہ لوح مسلمان انہیں مال وزر سے ادا دیتے ہیں اور آہی روپیہ سے یہ قادیانی کمپنی اور ان کا خلیفہ عیش وعششت کی زندگی بر کرتے ہیں۔ مشی فی النعم، متوڑات اور کنار بیاس کے مشاغل انہیں چندوں کا نتیجہ ہیں۔ غرض اخیار کی سازش سے سادہ لوح مسلمان دام فریب میں آگئے اور انہا مال و متاع بلکہ ایمان نک مرزاۓ قادری کی نذر کر بیٹھے۔ یہ حالات عبرت انگیز ہیں۔

### سادگی مسلم کی دیکھ اور وہ کمی عیاری بھی دیکھے

مولوی نظر علی خان صاحب نے مرزا یوں کے اخندوں سے واقف ہو کر خوب لکھا ہے۔

یہ فتنہ پر داڑ قادری نئے نئے گل کھلا رہے ہیں  
ادھر رقبوں سے مل رہے ہیں۔ ادھر ہمارے گمراہ رہے ہیں  
منافقوں کی یہ ہے نشانی زبان پر دیں ہوتے کفر دل میں  
اسی نشانی سے قادری تعارف اپنا کراز ہے۔ ہیں  
یہ بھی ”سیرۃ النبی“ کے یہ زمرے عشق مصلحت کے  
جنہیں سمجھتے ہیں دل سے کافر انہیں کو گمراہ نہ رہے ہیں  
رسول مقبول کی شریعت کے نام پر دیں ہمیں نہ دھوکا  
اسی شریعت کی آڑ لے کر وہ سب کو لا ہا رہے ہیں  
پڑا ہے چندے کا جب سے پہندا گئے میں ان قادریوں کے  
ہمارے ہی گمراہ سے بھیک لے کر ہمیں کو آنکھیں دکھارے ہیں۔

حال ہی میں قادری تبلیغ و فرمزا کی نبوت منوانے کے لئے ٹلخ شاہپور (سرگودھا) میں وارد ہوا۔ ارکان حزب الانصار (بھیرہ) کی خلصانہ مسائی سے اس فتنہ کا ہر جگہ موڑ مقابلہ کیا گیا اور ڈین ھدو کی جدوجہد کے بعد سچے معنوں میں ضلع بڈا میں مرزا یت کی موت واقع ہو گئی۔ مناظروں اور تعاقب کی ملکیت روئید اوس لقین کے اصرار سے مرتب کی گئی ہے۔ گمراہ تمام واقعات و حالات کی سچی کیفیت کا ضد تحریر میں لانا نہایت مشکل امر ہے۔ قابو پورے طور پر ضم انہیں ہو سکیں۔ اس لئے تمام کارروائی کا خلاصہ درج کرنے پر ہی اتفاق کیا جاتا ہے۔ بھیرہ، سلفاؤالی، پرچک نمبر ۲۳ جنوبی ٹمن جگہ مناظرے ہوئے۔ چونکہ عام طور پر طرفین کے پوش کردہ دلائل ہر کچھ

وہی تھے۔ اس لئے سکر اور اعادہ سے بچنے کے سے نام درکا۔ ایک ہی جگہ بطور صمیمہ درج کئے گئے ہیں اور تعاقب کی مفصل روایت اور کے ساتھ ہی مرزا نے قادیانی اور اس کے خلفاء کے سوانح و اعمال نامے ان کے اپنے الفاظ میں نقل کئے جاتے ہیں۔ تاکہ قارئین! مرزا کے الفاظ سے ہی قادیانی گروہ کے تباک عزم اور اندازہ کر سکیں۔ اعمالنامہ مرزا میں سوائے ضروری تشرییعات کے اپنی طرف سے کوئی لفظ لکھا نہیں گیا۔ بعض جگہ مرزا قادیانی کے کلام کا مفہوم درج کیا گیا ہے۔ روایت اور مرتب کرنے میں کافی عرصہ خرچ ہوا۔ قارئین کے لئے انتشار کی گئیاں اضطراب افسوس۔ مگر دیر آید درست آید کے مطابق اس تاثیر میں بھی کوئی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ مرزا نہیں کے اخبار الہ جل وغیرہ میں عرصہ ذیہ مہ کے بعد مناظرہ کا ایک گمراہ کن بیان شائع ہوا۔ جس نے مرزا نہیں کی اخلاقی موت کا بھی ثبوت پیش کر دیا۔ انشاء اللہ آئندہ اس فرقہ کو باقاعدہ پروگرام ہنا کر دورہ کرنے کی جرأت نہ ہوگی۔

حزب الانصار کی مالی امداد کا اہم مسئلہ اس وقت ہر مسلمان کے پیش نظر ہونا چاہئے۔ اغیار کا دام فریب دور تک پھیلا ہوا ہے۔ علاوه ازیں حزب الانصار کے لئے مسلمانوں کی اقتصادی، علمی، اخلاقی، عملی اصلاح کا عظیم الشان لامحہ عمل موجود ہے۔ مگر مالی کمزوریاں ہر قسم کے اقدام کے لئے سنگ گراں ٹابت ہو رہی ہیں۔

### شکریہ

عالیجناپ حضرت مولانا ابوالقاسم محمد حسین صاحب، مولانا مولوی ابوسعید محمد شفیع صاحب سرگودھی، مولوی محمد اسماعیل صاحب دامانی، و دیگر علمائے کرام کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ جنہوں نے حزب الانصار کی درخواست کو شرف قبولیت بخش کر دینی خدمت کو اپنے آرام و آسانش پر ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ ایسے خادمان اسلام کو تادریز نہ رکھے۔

### اعتذار

”اعمالنامہ مرزا قادیانی“ خلاف توقع لمبا ہو گیا اور پھر بھی مرزا قادیانی کی زندگی کے اکثر پہلوؤں پر کمل روشنی ڈالی نہیں جاسکی۔ چونکہ مناظرہ کے دلائل میں مرزا قادیانی کے جھوٹ پیش گوئیاں اور الہامات وغیرہ نقل کئے گئے ہیں۔ اس لئے اکاذ کر اعمالنامہ میں تفصیل کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ اگر شاکرین نے قدر ذاتی سے کام لیا تو انشاء اللہ ایمیل شن ہانی میں تمام حلائی کر دی جائے گی۔ و ما توفیقی الا باللہ!

## حصہ اول

سوانح مرزا، از زبان مرزا، المعروف اعمال النامہ مرزا

..... ”اقرائے کتابک۔ کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا (بنی

اسراشیل: ۱۴) ”~~اپنا اعمال النامہ پڑھ لے۔ آج خود اپنا آپ ہی حاصل کافی ہے۔~~

### نسب و خاندانی حالات

”میرے سوانح اس طرح پر ہیں کہ میر انام غلام احمد میرے والد کا نام غلام مرتفعی اور دادا کا نام عطا محمد اور میرے پرودا صاحب کا نام گل محمد تھا اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے یہ ہماری قوم مغل ہے بلas ہے۔“ (تکالیف البر یہیں ۱۳۲، خزانہ اسناد ج ۱۳ ص ۱۶۲)

”میرے وجود میں ایک حصہ اسرائیلی ہے اور ایک حصہ فاطمی اور میں ان دونوں مبارک پیوندوں سے مرکب ہوں۔“ (تحفہ گلزو یہیں ۱۹، خزانہ اسناد ج ۱۳ ص ۱۱۸)

”الہام میرے نسبت یہ ہے کہ ”لوکان الايمان معلقاً بالثرييالناله“ رجل من فارس، یعنی اگر ایمان شریا سے متعلق ہوتا کہ یہ مرد جو فارسی الاصل ہے وہ ہیں جا کر اس کو لے لیتا۔“ (تکالیف البر یہیں ۱۳۵، خزانہ اسناد ج ۱۳ ص ۱۶۳ حاشیہ در حاشیہ)

”الہام سے ایک لطیف استدلال میرے نبی فاطمہؓ ہونے پر ہوتا ہے۔“

(تحفہ گلزو یہیں ۱۹، خزانہ اسناد ج ۱۳ ص ۱۷)

”بخاریؓ یا سرقندی الاصل ہوتا ..... یہ دونوں علمائیں صریح اور بین طور پر اس عاجز میں ثابت ہیں۔“ (از الادب امام ۱۱۹، خزانہ اسناد ج ۱۵ ص ۱۵۹ حاشیہ)

۱۔ مرزا قادریانی قوم کے مغل اور تاتاری الاصل ہیں۔ جن کو ابو داؤد کی حدیث میں نبی ﷺ نے امت کا ہلاک کندہ فرمایا ہے۔ چلیز خان اور ہلاکو خان اسی نسل سے تھے۔ مغل منگولیا سے آئے تھے۔

۲۔ تربیق القلوب میں مرزا قادریانی اپنا تعلق جہن سے ظاہر کرتے ہیں۔ نیز ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں نیز امدادیم ہوں، نسلیں ہیں میری سپے شمار۔ (درشین ص ۲۷)، بر این احمدیہ حصہ چشم ص ۱۰۳، خزانہ اسناد ج ۱۳۲ ص ۱۳۲) معلوم نہیں چینی الاصل، سرقندی الاصل، بخاری الاصل اور فارسی الاصل میں سے کون سی بات صحیح ہے اور ایک آدمی کی بے شمار نسلیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ کبھی اسرائیلی بنجے ہیں اور کبھی فاطمی، اور کبھی مغل بلas کہلاتے ہیں۔ (مؤلف)

”شہابن دبلی کی طرف سے اس تمام علاقہ کی حکومت ہمارے بزرگوں کو دی جائی تھی۔“

(ازالص ۱۲۳، خزانہ ج ۳ ص ۱۶۱)

”سکھوں کے ابتدائی زمانہ میں میرے پرداوا صاحب مرزا گل محمد ایک نامور اور مشہور رئیس اس نواح کے تھے۔ جن کے پاس اس وقت ۸۵ گاؤں تھے اور بہت سے گاؤں سکھوں کے متواتر حملوں کی وجہ سے ان کے قبضہ سے نکل گئے۔ میرے دادا صاحب یعنی مرزا عطا محمد پر سکھ غالب آئے اور روز بروز سکھ لوگ ہماری ریاست کے دیہات پر قبضہ کرتے گئے۔ رام گزیمی سکھوں نے قبضہ کر کے قادیان کو بتاہ کر دیا۔ سکھوں نے ہمارے بزرگوں کو نکل جانے کا حکم دیا۔ پھر رنجیت سنگھ کے زمانہ میں میرے والد صاحب مرزا غلام مرتفعی قادیان میں واپس آئے اور انہیں کچھ گاؤں واپس ملے۔ غرض ہماری پرانی ریاست اے خاک میں مل کر آخر پانچ گاؤں باقحوں میں رہ گئے۔“ (کتاب البریص ۱۵۸، خزانہ ج ۳ ص ۱۶۵، ۲۶۲، ۱۶۳ ص ۱۷۷)

”قادیان کو خدا تعالیٰ نے دمشق سے مشابہت دی اور یہ بھی اپنے الہام میں فرمایا کہ اخرج منه الیزیدیون“ (ازالہ اوہام ص ۱۳۲، خزانہ ج ۳ ص ۱۶۷)

”جس میں ایسے لوگ ہی رہتے ہیں جو یزید اطیع اور یزید پلید کی عادات اور خیالات کے پیرو ہیں۔ جن کے دلوں میں اللہ اور رسول کی کچھ محبت نہیں۔“

(ازالہ اوہام ص ۱۶، خزانہ ج ۳ ص ۱۳۵)

”انگریزی سلطنت کے زمانہ میں) میرے والد صاحب مرزا غلام مرتفعی اس نواح میں مشہور رئیس تھے۔ گورنر ہرzel کے دربار میں بزرگہ کری نشین رئیسوں کے ہمیشہ بلائے جاتے تھے۔ اور سرکار انگریزی کے حکام وقت سے بجلد دے سے خدمات عمرہ عمده چھپیا جاتے خوشنودی مزاج انکوٹی تھیں۔“ (کتاب البریص ۱۵۹، خزانہ ج ۳ ص ۱۷۷)

۱۔ بخاری شریف کتاب الجہاد میں ہے کہ ابوسفیانؓ سے ہر قل شہنشاہ روم نے حضور اقدس ﷺ کے متعلق جو سوالات کے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا۔ ”اس کے باپ دادا سے کوئی بادشاہ ہوا ہے؟۔“ ابوسفیانؓ نے کہا ”نہیں۔“ ہر قل نے اس جواب پر کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھ لیتا کہ نبوت نئے بہانے سے باپ دادا کی سلطنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ فافهم امّولف۔ ۲۔ ایسے لوگ کون تھے؟۔ اس سوال کا جواب مرزا لٹریچر سے ملے گا۔ اہل بیت اور حضرت امام حسینؑ کی مرزا نےخت توہین کی ہے۔ اس لئے ہم بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ واقعی قادیان میں یزیدی اطیع لوگ پیدا ہوئے تھے۔ (مؤلف)

”گورنمنٹ انگریزی کے احسانات میرے والد کے وقت سے آج تک اس خاندان کے شامل حال ہیں۔ اس لئے نہ کسی عکف سے بلکہ میرے رُگ و ریشہ میں شکر گزاری اس معزز گورنمنٹ کی سماںی ہوئی ہے۔ میرے والد مرhom کے سوانح میں سے وہ خدمات کی طرح اُنگ ہو نہیں سکتیں۔ جو وہ خلوص دل سے اس گورنمنٹ کی خیرخواہی میں بجالائے۔ انہوں نے اپنی حیثیت اور مقدمات کے موافق ہمیشہ گورنمنٹ کی خدمت گزاری اور اس کی مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے وقت وہ صدق اور وقارداری دکھلائی کہ جب تک انسان پچھے دل اور تہ دل سے کسی کا خیرخواہ نہ ہو۔ دکھلانہیں سکتا۔ ۱۸۵۷ء کے مقدمہ میں جبکہ بے تمیز لوگوں نے اپنی محض گورنمنٹ کا مقابلہ کر کے ملک میں شور ڈال دیا۔ تب میرے والد بزرگوار نے پچاس سو گھوڑے اپنی گرد سے خرید کر کے اور پچاس سوار بھم پہنچا کر گورنمنٹ کی خدمت میں پیش کئے اور پھر ایک دفعہ چودہ سوار سے خدمت گزاری کی اور انہیں مخلصانہ خدمات کی وجہ سے وہ اس گورنمنٹ میں ہر لمحہ ہو گئے۔ انہوں نے میرے بھائی کو صرف گورنمنٹ کی خدمت گزاری کے لئے بعض لا ایجوس پر بھیجا اور ہر ایک باب میں گورنمنٹ کی خوشنودی حاصل کی۔ اور بعد اس کے اس عاجز کا بڑا بھائی مرزا غلام قادر جب تک زندہ رہا اس بنے بھی اپنے والد مرhom کے قدم پر قدم مارا اور گورنمنٹ کی مخلصانہ خدمت میں بدل و جان مصروف رہا۔“ (شہادت القرآن ص ۸۲، خزانہ حج ص ۳۲۸)

پیدائش

”میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی اور میں ۱۸۵۷ء میں سولہ برس یا ستر برس میں تھا اور ابھی ریش و بردت کا آغاز نہیں تھا۔“

(کتاب البریص ۱۵۶، خزانہ حج ص ۷۷ حاشیہ)

”میری پیدائش اس وقت ہوئی جب چھ ہزار میں گیارہ برس رہتے تھے۔“

(تحفہ گلزار دیوبی ص ۱۶۶، خزانہ حج ص ۲۵۲ حاشیہ)

” واضح ہو کہ الف ششم ۱۲۰۰ھ کو ختم ہوا تھا۔“ (احکام موروثہ رہنمودی ۱۹۰۸ء)

”میں تو ام پیدا ہوتا تھا۔ ایک لڑکی جو میرے ساتھ تھی چند دن کے بعد دعوت ہو گئی۔“

(کتاب البریص ۱۵۹، خزانہ حج ص ۷۷ حاشیہ)

”میں نے ان کے مصائب کے زمانہ سے کچھ بھی حصہ نہیں لیا اور شاید دوسرے

۱۔ اس حساب سے مرزا کی پیدائش ۱۸۳۳ء مطابق ۱۲۵۲ھ ثابت ہوتی ہے۔

بزرگوں کی ریاست اور ملک داری سے کچھ حصہ پایا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ تمام صفت ہمارے  
اجداد کی ریاست اور ملک داری <sup>لیٹھی</sup> گئی اور وہ سلسلہ ہمارے وقت میں آ کر بالکل ختم ہو گیا۔  
(کتاب البر یہ میں ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴)

٢٤٦

”بچپن کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھ سال کا تھا تو ایک فارسی لے خواں معلم میرے لئے نو کر رکھا گیا۔ جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں پڑھائیں اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا اور جب میری عمر قریبًا دس برس کے ہوئی تو ایک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کئے گئے۔ جن کا نام فضل احمد تھا..... میں نے صرف کی کچھ کتابیں اور قواعد نحو ان سے پڑھے اور بعد اس کے جب میں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا نام گل علیشہ تھا۔ ان کو بھی میرے والد صاحب نے نو کر رکھ کر قردايٰں میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا تھا اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے میں نے نحو، منطق اور حکمت وغیرہ علوم مردجمہ کو جہاں تک خدا نے چاہا حاصل کیا اور بعض طبابت کی کتابیں میں نے اپنے والد سے پڑھیں۔“

”میرے استاد ایک بزرگ شیعہ تھے“ (دافتہ البلاء میں ۲۳ بخرا، ان ج ۱۸۷ ص ۲۲۳)

۱۔ انبیاء کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا اور دنیا میں اسی کہلاتے ہیں۔ خداوند کریم ان پر علوم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مرزا قادیانی نے بھی تسلیم کیا ہے کہ امام مہدی دینی علوم میں کسی کا شاگرد نہ ہو گا۔ مہدویت اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے مرزا قادیانی نے استادوں کو بھول گئے اور نہایت نے حملہ سے اعلان کرنے لگے۔

## دگر استاد رانامے ندانم

که خوانندم در دستان محمد

(در شیخ ص ۹۶، آئینه کمالات اسلام ص ۲۳۹، خزانه ج ۵ ص ایضاً)

جے مرزا قادیانی نے بفرض ترقی روزگار جبکہ وہ سیالکوٹ کی عدالت خفیہ پر پندرہ روپیہ ماہوار پر مقرر تھے۔ مختاری کا امتحان دیا تھا۔ مگر اس میں فیل ہو گئے۔ (عشرہ کاملہ) گویا ترقی کے تمام ذرائع سے مالوں ہو چکے تھے۔ جب دعویٰ نبوت کیا۔

## شباب

”ان دنوں میں مجھے کتابوں کے دیکھنے کی طرف اس قدر رجھتی کہ گویا میں دنیا میں نہ تھا..... میرے والد صاحب اپنے بعض آباؤ اجادوں کے ویہات کو دوبارہ لینے کے لئے اگر بڑی عدالتوں میں مقدمات کر رہے تھے۔ انہوں نے ان ہی مقدمات میں مجھے بھی لگایا اور ایک زمانہ دراز تک میں ان کاموں میں مشغول رہا۔ مجھے افسوس ہے کہ بہت سا وقت عزیز میرا، ان بیوو جگہوں میں ضائع گیا اور ان کے ساتھ علی والد صاحب موصوف نے زمینداری امور کی گھرانی میں مجھے لگایا۔ میں اس طبیعت اور فطرت کا آدمی نہ تھا۔ اس لئے اکثر علی والد صاحب کی ناراضگی کا نشانہ بتا رہا۔ ایک دفعہ ایک صاحب کمشنز نے قادیانی آنا چاہا۔ میرے والد صاحب نے پار بار مجھ کو کہا کہ ان کی پیشوائی کے لئے دو تین کوں جانا چاہتے۔ مگر میری طبیعت نے نہایت سُر کراہت کی اور میں پیار بھی تھا۔ اس لئے نہ جاسکا۔ پس یا مرزا گی ان کی ناراضگی کا موجود ہوا۔“

(کتاب البر ص ۱۲۵، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵) (عاشیہ خزانہ حج اص ۱۸۳، ۱۸۴)

”چند سال تک میری عمر کراہت طبع کے ساتھ اگر بڑی ملازمت (محرومیت خفیہ) میں بسر ہوئی۔ اس تحریک سے مجھے معلوم ہوا کہ اکثر تو کری پیشوائی نہایت گندی زندگی بسر کرتے ہیں۔ بہتوں کو تکبر بد جلطی اور لاپرواہی دین اور طرح طرح کے اخلاق رذیلہ اور شیطان کے بھائی پایا اور چونکہ خدا تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ ہر ایک تم اور ہر ایک نوع کے انسانوں کا مجھے تحریک

لے اغلبیاً یہ کتابیں بھاء اللہ اریانی ہو دیگر کاذب مدعیان نبوت یا کاذب بانیاں مذاہب کی کتابیں ہوں گی اور انہی کتابوں سے نیا مذہب ایجاد کرنے کی تجویز سوچی ہوں گی تا کہ آبائی ریاست کے بدلے میں کسی قسم کا اقتدار حاصل ہو سکے۔ مرزا قادیانی کو خود اقرار ہے کہ:

بہر مذہبے غور کردم بے  
ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے

(درشین حج اص ۹۵) (برائین احمدی ص ۲۵)

۲۔ قبل دعویٰ نبوت کی زندگی مرزا قادیانی کی بالکل غیر معروف ہے۔ مگر اس عبارت سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کی زندگی مقدمہ بازی میں گذری اور والد کی ناراضگی کا نشانہ بھی بننے رہے۔

س۔ انگریزوں کی اطاعت و خشاید جب عین اسلام تھی۔ پس مرزا قادیانی اسلام سے کل گئے اور والد کی نافرمانی کر کے والدین سے عاقظ ٹھہرے۔

حاصل ہو۔ اس لئے ہر ایک صحبت میں مجھے ا رہنا پڑا۔“

(کتاب البر یہ م ۱۲۸۶ ۱۲۶۶ حاشیہ خزانی ج ۱۳ ص ۱۸۲ ۱۸۶۲)

”حیاتِ سُعیح کا عقیدہ شرکانہ تھے۔“ (دافتہ البلاء م ۱۵، خزانی ج ۱۸ ص ۲۲۵)

”حیاتِ سُعیح کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔“ (حقیقت الوعی ص ۳۹، خزانی ج ۲۲ ص ۲۲۰)

”(اور جب میں) حضرت والد صاحب مرحوم کی خدمت میں پھر حاضر ہوا تو بدستور ان ہی زمینداری کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ مگر اکثر حصہ وقت کا قرآن شریف کے تذیر اور تفسیروں اور حدیثوں کے دیکھنے میں صرف ہوتا تھا اور بسا اوقات حضرت والد صاحب کو وہ کتابیں سنایا بھی کرتا تھا اور میرے والد صاحب اپنی ناکامیوں کی وجہ سے اکثر مغموم اور مہموم رہتے تھے۔ انہوں نے یہ یہی مقدمات میں ستر ہزار روپیہ کے قریب خرچ کیا تھا۔ جس کا انجام آخر ناکامی تھی۔ اسی ناصرادی کی وجہ سے حضرت والد صاحب مرحوم ایک نہایت عجیق گرداب غم اور حزن و اضطراب میں زندگی بسرا کرتے تھے اور مجھے ان حالات کو دیکھ کر ایک پاک تبدیلی ہمیداً کرنے کا موقع حاصل ہوتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ میری طرح میرے والد صاحب کا بھی آخری حصہ

۔ ایسے گندے ماحول میں رہنے سے ہی مرزاقادیانی کے حالات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ مرزاقادیانی نے اپنی کتاب لجنة النور میں زبان بازاری کے حالات اس قدر بسط سے درج کئے ہیں کہ بغیر کسی واقعہ راز و ہرم اسرار کے تلمذ نہیں ہو سکتے۔ اغلبًا ان کی صحبت کا بھی تجربہ ہوا ہو گا۔ شاید مگر کے بھیدی مرزانا صرف اب مرزاقادیانی کے خرلنے انہیں صحبوں کے لفڑ اشارہ کر کے کہا ہو۔

بِدْمَاعَشِ اَبِ تَيْكِ اَزْ حَدِّ بَنِ كَعْ

بُو سِيلَه آجِ احمدِ بنِ كَعْ

۷ مرزاقادیانی اپنے قول کے مطابق اپنی عمر کے ۵۲ برس حیات تک کے عقیدہ پر قائم رہ کر شرک رہے۔

۸ خسر الدنیا والآخرہ شہید ان دلی کے خون بے گناہ کا صلاں کے سوا اور کیا بو سکتا تھا؟۔

۹ یعنی کھوئی ہوئی عقلت حاصل کرنے کے لئے دوسرا ذرائع اختیار کرنا یعنی نبوت سہدوہت کے دعاوی کے لئے دلائل تجویز کرنا۔

زندگی کا مصیبت اور غم حزن میں ہی گذر اور جہاں ہاتھہ لا آخونا کامی اتھی۔“

(کتاب البر یہ ص ۲۶۹، ۱۹۷۷ء حاشیہ، خزانہ حج ۱۴۳۷ھ ص ۱۸۷)

”والدکی وفات سے پہلے) تھوڑی سی غنودگی ہو کر مجھے الہام ہوا۔“ والسماء والطارق، یعنی قسم ہے آسمان کی جو قضاۓ وقدر کا مبداء ہے اور قسم ہے اس حادثہ کی جو آج آفتاب کے غروب کے بعد نازل ہو گا اور مجھے سمجھایا گیا کہ یہ الہام بطور عز اپری خدا تعالیٰ کے طرف سے ہے اور حادثہ یہ ہے کہ آج ہی تمہارا والدآ فتاب کے غروب کے بعد نبوت ہو گے جائے گا۔“

(کتاب البر یہ ص ۱۹۳، ۱۹۷۷ء حج ۱۴۳۷ھ ص ۱۸۷)

### نبوت و مسیحیت کے دعاویٰ سے اصل غرض

”بھراں دونوں (والد اور بھائی) کی وفات کے بعد میں ان کے نقش قدم پر چلا اور ان کی سیر توں کی پیروی کی اور ان کے زمانہ کو یاد کیا۔ لیکن میں صاحب مال اور صاحب املاک نہیں تھا۔ سو میرے پاس دنیا کا مال اور دنیا کے گھوڑے اور دنیا کے سوار تو نہیں تھے۔ بجز اس کے عمدہ گھوڑے قلموں کے مجھ کو عطا کئے گئے اور کلام کے جواہر مجھ کو دئے گئے۔ سو میں نے چاہا کہ اس مال کے ساتھ گورنمنٹ برطانیہ کی مدد کروں۔ اگر چہ میرے پاس روپیہ اور گھوڑے اور خچریں تو

۱۔ مرزا قادیانی کے حصہ میں بھی ناکامی و نامرادی لکھی تھی۔ محمدی بیگم کے عشق میں جلتے رہے اور نکاح آسمانی کی حضرت لئے ہوئے دنیا سے جل بے۔ کوئی کام بھی ان کا پورا نہ ہوا۔ لا ہور میں مرے اور خرد جمال پر لاد کر قادیان میں جا کر درجن ہوئے۔ یہ اغلبًا اپنی حالت بیان کر رہے ہوں گے۔

نوٹ: مرزا قادیانی سے پہلے حضرت مولانا نارحمت اللہ صاحب مہاجر کی مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوئی، مولوی آل حسن صاحب مرحوم، مولوی سید ابوالمنصور دہلوی، امام فن مناظرہ وڈاکنڑ وزیر علی صاحب کی اجواب کتب عیسائیوں اور آریوں کے رو میں شائع ہو چکی تھیں۔ جن سے مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں مدد لی اور ان کے دلائل کا سرقہ کیا۔ مرزا قادیانی کو خود بھی اقرار ہے کہ انہوں نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ (ضمیر تھنگ گلورڈ یہ ص ۳۳، خزانہ حج ۱۴۷۷ء ص ۳۰)

۲۔ مرزا قادیانی (تھنگ گلورڈ یہ ص ۳۸، خزانہ حج ۱۴۷۷ء ص ۱۶۷) پر لکھتے ہیں۔ ”ہم کو تحریہ ہے اکثر پلید طبع اور سخت گندے اور ناپاک اور بے شرم اور خدا سے نہ ڈرنے والے اور حرام کھانے والے فاسق بھی پچی خواہیں دیکھ لیتے ہیں۔“ یہ تحریہ غالباً اپنی ذات پر کیا ہو گا اور یہ ذکر اپنی حالت کے متعلق فرمایا ہو گا۔

نبیں اور نہ مالدار ہوں۔ سو میں اس کی مدد کے لئے اپنے قلم اور ہاتھ سے اخفا اور خدا میری مدد پر تھا اور میں نے اس زمانہ سے خدا تعالیٰ سے یہ عبد کیا کہ کوئی مبسوط کتاب بغیر اس کے تالیف نہ کروں گا۔ جو اس میں احسانات قیصر، ہند کا ذکر نہ ہو اور نیز اس کے ان تمام احسانوں کا ذکر ہو۔ جن کا شکر ہر مسلمان پر واجب ہے۔“ (نور الحق حصہ اول ص ۲۸، خزانہ حج ص ۳۸، ۳۹)

### کتابیں لکھنے سے اصل غرض

”سو میں نے کئی کتابیں تالیف کیں اور ہر ایک کتاب میں، میں نے لکھا ہے دولت برطانیہ مسلمانوں کی محسن ہے اور مسلمانوں کی اولاد کی ذریعہ معاش ہے۔ پس کسی کو ان میں سے جائز نہیں۔ جو اس پر خروج کرنے اور باغیوں کی طرح اس پر حملہ آور ہو۔ بلکہ ان پر اس گورنمنٹ کا شکر واجب ہے اور اس کی اطاعت ضروری ہے۔ جو شخص آدمیوں (انگریزوں) کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس نے خدا کا بھی شکر نہیں کیا۔ سو میں نے اس مضمون کی کتابوں کو شائع کیا ہے اور تمام ملکوں اور تمام لوگوں میں ان کو شہرت دی ہے اور ان کتابوں کو یعنی دور دور والا نیتوں میں بھیجا ہے۔ جن میں سے عرب اور عجم اور دوسرے ملک ہیں۔ تا کہ کچھ طبیعتیں ان نصیحتوں سے راہ راست پر آ جائیں اور تا کہ وہ طبیعتیں اس گورنمنٹ کا شکر کرنے اور اس کی فرمابندرداری کے لئے صلاحیت پیدا کریں۔ یہ میرا کام اور یہ میری خدمت ہے۔ پس اسی وجہ سے میں نے اس گورنمنٹ کا شکر کیا اور جہاں تک بن پڑا مدد کی اور اس کے احسانوں کو ملک ہند سے بااد عرب اور روم تک شائع کیا اور لوگوں کو اٹھایا تا کہ اس ای کی فرمابندرداری کریں اور جس کوشش ہو وہ میری کتاب برائیں احمد یہ کی طرف رجوع کرے اور اگر وہ اس کے شکر کو دور کرنے کے لئے کافی نہ ہو تو پھر میری کتاب تبلیغ کا مطالعہ کرے اور اگر اس سے بھی مطمئن نہ ہو تو پھر میری کتاب جماعتہ

۱۔ یعنی اسلامی حکومتوں سے بغاوت کر کے انگریزی حکومت کی ماتحتی قبول کر لیں۔ افسوس کے علاجے کرام آج تک حیات مسح غیرہ کی بخنوں میں مرزا نیوں سے الگھے رہے۔ مرزائی جماعت ہرگز نہ ہی فرقہ نہیں ہے۔ بلکہ مذہب کی آڑ میں ایک خطرناک پوشاکل جماعت ہے۔ جو اقصائے عالم میں مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے اور اغیار کا غلام بنانے اور جذبہ جہاد کو فنا کرنے میں مشغول ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ موقوف مگر جنگ یورپ اور جنگ افغانستان میں ترکوں اور افغانوں کے خلاف لڑنا سب سے بڑا کارثوں سے سمجھا گیا۔ میاں محمود نے کہا تھا کہ ”اگر میں غلیظ نہ ہوتا تو اس جنگ میں بھیتیت رضا کار شریک ہوتا۔“ (انوار خلافت ص ۹۶) گویا ایسی مقدس جنگ سے محروم رہنے کی حرست اس کے دل میں رہ گئی۔ فافهم! (مؤلف)

البشری کو پڑھے اور اگر پھر کچھ رہ جائے تو پھر میری کتاب شہادۃ القرآن میں غور کرے اور اس پر حرام نہیں ہے جو اس رسالہ کو بھی دیکھئے۔ تاکہ اس پر کھل جائے کہ میں نے کیونکر بلند آواز سے کہہ دیا ہے کہ اس گورنمنٹ سے جہاد حرام ہے اور جو لوگ ایسا خیال رکھتے ہیں وہ خطاء پر ہیں۔“

(نور الحق حصہ اول ص ۳۱، ۳۰، خزانہ انج ۸ ص ۲۲۲)

”اور میر اعرابی کتابوں کا تالیف کرنا تو انہیں عظیم الشان غرضوں کے لئے تھا اور میری کتابیں عرب کے لوگوں کو پرے پہنچتی رہیں۔ یہاں تک کہ میں نے ان میں تاثیر لے کے نشان پائے اور بعض عرب میرے پاس آئے اور بعضوں نے خط و کتابت کی اور بعضوں نے بد گوئی کی اور بعض صلاحیت پر آگئے اور موافق ہو گئے۔ جیسا کہ حق کے طالبوں کا کام ہے اور میں نے ان امدادوں میں ایک زمانہ طویل صرف کیا ہے۔ یہاں تک کہ گیارہ برس انہیں اشاعتیں میں گزر گئے اور میں نے پچھکوتا ہی نہیں کی۔“

(نور الحق ص ۳۲، خزانہ انج ۸ ص ۲۲۲)

”اول یہ کتابیں ہزار ہارو پیسے کے خرچ سے طبع کرائی گئیں اور پھر اسلامی ممالک میں شائع کی گئیں اور میں جانتا ہوں کہ یقیناً ہزار ہا مسلمانوں پر ان کتابوں کا اثر پڑا ہے۔“

(تحفہ قیصر یہ ص ۱۲، خزانہ انج ۱۲ ص ۲۶۲)

”میں نے شکر گذاری کے لئے بہت سی کتابیں اردو اور عربی اور فارسی میں تالیف کر کے اور ان میں جناب ملکہ معظمہ کے تمام احسانات کو جو بریش اندیما کے مسلمانوں کے شامل حال ہیں۔ اسلامی دنیا میں پھیلائی ہیں اور ہر ایک مسلمان کو پچی اطاعت اور فرمانبرداری کی ترغیب دی ہے۔ لیکن میرے لئے ضروری تھا کہ یہ تمام کارنامہ جناب ملکہ معظمہ کے حضور میں پہنچاؤں۔“

(تحفہ قیصر یہ ص ۳، خزانہ انج ۱۲ ص ۲۵۵)

۱۔ ان تصریحات کی روشنی میں جزیرۃ العرب اغیار کے زیر اثر ہونے کا سبب معلوم ہو سکتا ہے۔ اس جا سوس اعظم نے وہ وہ کام کئے جس سے مسلمانوں کے دلوں میں ناسور پڑ چکے ہیں۔ خلافت اسلامیہ کی بر بادی جزیرۃ العرب کا صلیب کے زیر اثر ہو جانا سب اسی جماعت کے کارنا میں ہیں۔ امیر حبیب اللہ مر جوم کا قاتل مصطفیٰ صیفی کا پوری انگورہ میں مصطفیٰ کمال پاشا کو قتل کرنے کی سازش میں گرفتار ہو کر قتل کیا گیا تھا۔ عدالت میں اس نے بیان کیا تھا کہ میں عقیدتا مرزاں ہوں۔ جرم میں قادیانی میشن اسی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا۔ مگر ہندوستان کے سادہ لوح عوام ابھی اس گروہ کے عزائم و مقاصد سے بے خبر ہیں۔ (مؤلف)

## مرزا قادیانی کا اصل دعویٰ

”میرا یہ دعویٰ ہے کہ تمام دنیا میں گورنمنٹ برطانیہ کی طرح کوئی دوسری الیٰ گورنمنٹ نہیں۔ جس نے زمین پر ایسا امن قائم کیا ہو۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ ہم پوری آزادی سے اس گورنمنٹ کے تحت میں اشاعت حق کر سکتے ہیں یہ خدمت ہم مکہ معلمہ یاد ہے منورہ میں بیٹھ کر بھی ہرگز بجانبیں لا سکتے۔“ (از ایں ۵۶ حاشیہ خزانہ ج ۳ ص ۱۳۰)

”پس میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں ان خدمات (برطانیہ کی) میں یکتا ہوں اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ان تائیدات میں لیگا ہوں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کے لئے ابطور ایک تعویذ کے ہوں اور ابطور ایک پناہ کے ہوں جو آنکوں سے بچائے اور خدا نے مجھے بشارت دی اور کہا کہ خدا اپنے نہیں کہ ان کو دکھ پہنچائے اور تو ان میں ہو۔ پس اگر اس گورنمنٹ کی خیر خواہی اور مدد میں کوئی دوسرا شخص میری نظری اور مشیل نہیں۔“ (تو رحمح ص ۳۲، ۳۲، ۳۲ خزانہ ج ۸ ص ۸۵)

”اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ تمام مسلمانوں میں اول درجہ کا خیر خواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں۔ کیونکہ مجھے تم باتوں نے خیر خواہی میں اول درجہ پر بنادیا ہے۔ ا..... والد مر جو کے اثر نے۔ ۲... گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے۔ ۳.... خدا تعالیٰ کے الہام نے۔“

(ضمیر تریاق اخلوب ص ۲ خزانہ ج ۵ ص ۴۹)

”یہ عریضہ اس شخص کی طرف سے ہے جو یوں مسح کے نام پر طرح طرح کی بدعتوں سے دنیا کو چھوڑانے کے لئے آیا ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ امن اور زمی سے دنیا میں سچائی قائم کرے۔ اور اپنے بادشاہ ملکہ معلمہ سے جس کی وہ رعایا ہیں۔ پچھی اطاعت کا طریق سمجھائے۔“ (تحفہ قیصر یہ ص ۱۱ خزانہ ج ۱۲ ص ۲۵۳)

”خدا تعالیٰ نے مجھے اس اصول پر قائم کیا ہے کہ محسن گورنمنٹ کی جیسا کہ یہ برطانیہ ہے۔ پچھی اطاعت کی جائے اور پچھی شکر گزاری کی جائے۔ سو میں اور میری جماعت اس اصول کی پابند ہیں۔“

”اصل حقیقت یہ ہے کہ آخری زمانہ کی نسبت پہلے نبیوں نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ وہ ایک ایسا زمانہ ہو گا کہ دو قسم کے ظلم سے بھر جائے گا۔ ایک ظلم مخلوق کے حقوق کی نسبت ہو گا اور دوسرا ظلم خالق کے حقوق کی نسبت۔ یہ ظلم ہو گا کہ جہاد کا نام لے کر نوع انسان کی خوزیری ہو گی۔ یہاں تک کہ جو شخص ایک بے گناہ کو قتل کرے گا وہ خیال کرے گا کہ کویا وہ ایسی خوزیری سے وہ ایک ثواب عظیم کو حاصل کرتا ہے اور اس کے سوا اور بھی کوئی قسم کی ایذا نہیں محض دینی غیرت کے

بہانہ پر نوع انسان کو پہنچائی جائیں گی۔ چنانچہ وہ زمانہ یہی ہے۔ کیونکہ ایمان اور انصاف کے رو سے ہر ایک خدا ترس کو اس زمانے میں اقرار کرنا پڑتا ہے۔ غرض مخلوق کے حقوق کی نسبت ہماری قوم اسلام میں سخت ظلم ہو رہا ہے۔ پس خدا نے آسمان پر اس ظلم کو دیکھا۔ اس لئے اس نے اس کی اصلاح کے لئے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی خواہ طبیعت پر ایک شخص کو بھیجا۔ اور ایسے لوگوں کی اصلاح کے لئے صلح کاری کا پیغام لے کر آیا۔ جس حالت میں اسلامی قوموں میں سے کروڑ ہاؤگ روئے زمین پر ایسے پائے جاتے ہیں۔ جو جہاد کا بہانہ رکھ کر غیر قوموں کو قتل کرنا ان کا شیوه ہے۔ مگر بعض تو اس محسن گورنمنٹ کے زیر سایہ رہ کر بھی پوری صفائی سے ان سے محبت نہیں کر سکتے۔ اس لئے حضرت مسیح کے اوتار کی سخت ضرورت تھی۔ سو میں وہی اوتار ہوں۔“

(درخواست بنام و اخیر اے رسالہ جہاد ص ۱۳، خزانہ حج ۱۴۲۳ھ)

### مرزا قادیانی کی مناجات

”اے قیصر یہ ملکہ معظمه! ہمارے دل تیرے لئے دعا کرتے ہوئے جناب الہی میں جھکتے ہیں اور ہماری روہیں تیرے اقبال اور سلامتی کے لئے حضرت احمدیت میں سجدہ کرتی ہیں۔ اے اقبال مند قیصر یہ ہند! ہم تیرے وجود کو اس ملک کے لئے خدا کا ایک برا فضل سمجھتے ہیں اور ہم ان الفاظ کے نہ ملنے سے شرمندہ ہیں۔ جن سے ہم اس شکر کو پورے لے طور پر ادا کر سکتے۔ ہر ایک دعا جو ایک چاٹشکر گزار تیرے لئے کر سکتا ہے۔ ہماری طرف سے تیرے حق میں قبول ہو۔ خدا تیری آنکھوں کو مرادوں کے ساتھ بھندی رکھے اور تیری عمر اور سخت اور سلامتی میں زیادہ سے زیادہ برکت دے اور تیرے اقبال کا سالمہ ترقیات جاری رکھے اور تیری اولاد اور ذریت کو تیری طرح اقبال کے دن دکھاوے اور فتح اور ظفر عطا کرتا رہے ہم اس رحیم و کریم خدا کا، بہت بہت شکر کرتے ہیں۔ جس نے ایسی محسنة رعیت پرور، دادگشت بیدار مغرب ملک کے زیر سایہ نہیں پناہ دی اور ہمیں اس مبارک عبد سلطنت کے نیچے یہ موقع دیا ہے۔“ (تحفہ قیصر ص ۱۳، خزانہ حج ۱۴۲۳ھ)

”اے قادر و کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری ملکہ معظمه کو خوش رکھ۔ جیسا کہ ہم اس سایہ عاطفت کے نیچے خوش ہیں اور اس سے نیکی کر۔“ (تحفہ قیصر ص ۱۵، خزانہ حج ۱۴۲۳ھ)

۱۔ ”قل لوكان البحر مداد الكلمات ربى لنفذ البحر قبل ان تنفذ

كلمات ربى ..... ۱۲“ (مؤلف)

۲۔ اس نوؤی اعظم کی کلام کا سردار و عالم ﷺ کے فرمان بنام قیصر و کسری سے مقابلہ کرو حضور ﷺ نے تحریر فرمایا تھا۔ اسلام نسلم، اسلام الاسلام رہے گا۔

”میں مجھے تمام عزیزوں کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں۔ یا الٰہی اس مبارک قیصر یہ ہند دام ملکہا کو دریگاہ تک ہمارے سروں پر سلامت رکھ اور اس کے ہر ایک قدم کے ساتھ اپنی مدد کا سایہ شامل حال فرماؤ راس کے اقبال کے دن بہت لمبے کر۔“

(ستارہ قیصر یہ ۸، خزانہ نجف ۱۵ ص ۱۱۷)

”(اے قیصر یہ) سو یہ سُجح موعود جو دنیا میں آیا۔ تیرے ہی وجود کی برکت اور ولی نیک نیقی اور پچی ہمدردی کا ایک نتیجہ ہے۔“ (ستارہ قیصر یہ ۸، خزانہ نجف ۱۵ ص ۱۱۸)

”اے ملکہ مظہمہ قیصر یہ ہند! خدا تجھے اقبال اور خوشی کے ساتھ عمر میں برکت دے۔ تیرا عبد حکومت کیا ہی مبارک ہے کہ آسمان سے خدا کا ہاتھ تیرے مقاصد کی تائید کر رہا ہے۔ تیری ہمدردی رعایا اور نیک نیقی کی راہوں کو فرشتے صاف کر رہے ہیں۔ تیرے عدل کے لطیف بخارات بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ تا کہ سب ملک کو رشک بہار بنا دیں۔ شری رہے وہ انسان جو تیرے عبد سلطنت کا قد رہیں کرتا اور بد ذات ہے وہ نفس جو تیرے احسانوں کا شکر گزار نہیں۔ چونکہ یہ مسئلہ تحقیق شدہ ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتا ہے..... اس لئے مجھے ضرورت نہیں کہ اپنی زبان کی لفاظی سے اس بات کو ظاہر کروں کہ میں آپ سے ولی محبت رکھتا ہوں اور میرے دل میں خاص طور پر آپ کی محبت اور عظمت ہے۔ ہماری دن رات کی دعائیں آپ کے لئے آب روائی کی طرح جاری ہیں۔“ (ستارہ قیصر یہ ۹، خزانہ نجف ۱۵ ص ۱۱۹)

”ہمارے ہاتھ میں بجز دعا کے اور کیا ہے۔ سو ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس گورنمنٹ کو ہر ایک شر سے محفوظ رکھے اور اس کے دشمن کو دلت کے ساتھ پسپا کرے۔“

(شہادت القرآن ضمیر ص ۸۳، خزانہ نجف ۶ ص ۳۸۰)

”گورنمنٹ کو یاد رہے کہ ہم ڈل سے اس کے شکر گزار ہیں اور ہمہ تن اس کی خبر خواہی میں مصروف ہیں۔“ (شہادت القرآن ضمیر ص ۸۴، خزانہ نجف ۶ ص ۳۸۲)

”شراکت مہذب اور بارجم گورنمنٹ نے ہم کو اپنے احسانات اور دوستاد معاہد سے ممنون کر کے اس بات کے لئے ولی جوش بخشا ہے کہ ہم ان کے دین دنیا کے لئے ولی جوش اور

۱۔ لَا تَجْدِ دُّوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْخَرِيْوَادُونَ مِنْ حَادَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (مجالدہ: ۲۲: ۲۲) ”جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ (اے رسول) آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ وہ ایسے شخصوں سے محبت رکھیں جو اللہ اور رسول کے برخلاف ہیں۔“ اس آیت سے یعنی قرآن مجید کی نص سے مرزا کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔

بہبودی وسلامتی چاہیں تا ان کے گورے اور پسید منہ جس طرح دنیا میں خوبصورت ہیں۔ آخرت میں بھی نورانی اور منور ہوں۔” (اشتہار متعلق برائین الحمدیہ مجموعہ اشتہارات حج اص ۲۵ ص ۲۵)

”اے قیصر یہ ہند خدا تجھ کو آفتوں سے نگاہ میں رکھے..... ہم مستغاثت بن کر تیرے پاس آئے ہیں۔“ (نور الحق ص ۲۳ اول، خزانہ حج اص ۲۸ ص ۲۸)

### خدا کی تقدیس و تمجید

”اس وجود اعظم کے بیشمار ہاتھ اور بے شمار پیڑ ہیں۔ عرض اور طول رکھتا ہے اور تمندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں۔“ (توضیح المرام ص ۵۷، خزانہ حج ۳ ص ۹۰)

”رہنا عاجز“ ہمارا رب عاجز ہے۔ (برائین الحمدیہ ص ۵۵۶ حاشیہ، خزانہ حج اص ۲۶۲)

”مُسْحٌ اور عَاجِزٌ“ کا مقام ایسا ہے۔ جسے استعارہ کے طور پر ایمیٹ کے الفاظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔“ (توضیح المرام ص ۲۲، خزانہ حج ۳ ص ۲۸)

”اور ان دونوں مجتبیوں کے کمال سے جو خالق اور مخلوق میں پیدا کرنا اور مادہ کا حکمر کھتنے ہے اور محبت الہی کی آگ سے ایک تیری چیز پیدا ہوتی ہے۔ جس کا نام روح القدس ہے۔ اس کا نام پاک تشییث ہے۔ اس لئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے لئے بطور ابن اللہ کے ہے۔“ (توضیح المرام ص ۲۲، خزانہ حج ۳ ص ۲۸ ملخصہ)

”تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں اور زمین اور آسمان تیرے ساتھ ہیں۔ جیسا کہ میرے ساتھ ہیں اور تو ہمارے پالی میں سے ہے اور دوسرا لوگ نشکل سے اور مجھے ایسا ہی ہے۔ جیسے میری توحید اور مجھ سے اس اتحاد میں ہے۔ جو کسی مخلوق کو معلوم نہیں خدا اپنے عرش سے تیری تعریف کرتا ہے۔ جس طرف تیرا منہ اس طرف خدا کا منہ تیرے لئے رات اور دن پیدا کیا گیا۔ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محيط ہو گئی اور میرے جسم پر مستولی ہو کر مجھے اپنے وجود میں پہنچا کر لیا۔ یہاں تک کہ میر کوئی ذرہ بھی باقی نہ رہا اور میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میرے اعضاء اس کے اعضاء اور میری آنکھوں کی آنکھ اور میرے کان اس کے کان اور میری زبان اس کی زبان بن گئی تھی۔ پھر میں ہمہ مغز ہو گیا۔ جس میں کوئی پوست نہ تھا اور ایسا تیل بن گیا کہ جس میں کوئی میل بھی نہیں تھی۔

۱ لغت میں عاج اسخوان فیل کو کہتے ہیں۔

۲ (تجھ گوڑو یہ ص ۸۵، خزانہ حج اص ۲۳۲) پر لکھتے ہیں کہ ”دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر خدا کا دعویدار بن جائے گا۔“ ثابت ہوا کہ مرزا دجال اکبر کے بروز تھے۔

الوبیت میری رگوں اور پھلوں میں سر انجیت کر گئی ..... اس حالت میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی چیزیں چاہتے ہیں۔ سو پہلے تو میں نے آسمان اور زمین کو اجتماعی صورت میں پیدا کیا۔ جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی اور میں دیکھتا تھا کہ اس کے علق پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا ”انمازینا السماء الدنيا بمصابيح“

(کتاب البر یہص ۳۸۲، خزانہ نج ۱۳ ص ۱۰۸ تا ۱۱۰)

”ایک دفعہ انگریزی میں زوردار البام ہوا۔ جس سے میرا بدن کا نپ گیا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی انگریز بول رہا ہے۔“ (برائین احمد یہص ۵۸۰، خزانہ نج ۱۳ ص ۵۷۶، ۵۷۸)

”الله تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا۔“

(آنہنہ کمالات اسلام ص ۵۶۵، خزانہ نج ۱۳ ص ۵۶۵)

”میں خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کروں تو صحیح ہے۔“

(توضیح المرام ص ۲۷، خزانہ نج ۱۳ ص ۶۲ ملخصاً)

”خدا نے البام کیا میں نماز پڑھوں گا اور روزہ رکھوں گا، جا گئنا ہوں اور سوتا ہوں۔“

(بیشتر جلد ۲ ص ۹۷، تذکرہ ص ۳۹۰)

”ایک دفعہ خدا کو میں نے کہا کہ البام میں میرا نام ظاہر کر دے۔ خدا تعالیٰ کو میرا نام لینے سے شرم و انگریز ہوئی اور شرم کے غلبے سے نام زبان پر اتنا روک دیا اور بڑے ادب سے صرف مرزا صاحب کہا۔“ (تہذیب قیمت الوجی ص ۲۵۶، خزانہ نج ۲۲ ص ۳۶۹ فہرست)

### ملائکہ

”جب رائیں خدا سے سائنسی ہوایا آنکھ کے نور سے نسبت رکھتے ہے۔“

(توضیح المرام ص ۲۷، خزانہ نج ۱۳ ص ۶۲ ملخصاً)

”وہ نفس نورانیہ کو اکب اور سیارات کے لئے جان کا ہی حکمر کھتے ہیں۔“

(توضیح المرام ص ۳۸، خزانہ نج ۱۳ ص ۷۰)

۱۔ قرآن مجید میں ہے کہ ”لا تاخذہ سنتہ ولا نوم“ ”مگر مرزا کا علم سوتا بھی ہے اور جا گئا بھی ہے۔

نوٹ: مرزا قادیانی کے پاس جو فرشتہ آیا کرتا تھا۔ اس کا نام ”پیچی پیچی“ تھا۔

(حقیقت الوجی ص ۲۳۲، خزانہ نج ۲۲ ص ۳۶۶)

## عبدات

”جس بادشاہ کے زیر سایہ ہم باہم زندگی بسر کریں اس کے حقوق کو نگاہ رکھنائی الواقعہ خدا کے حقوق کو ادا کرنا ہے اور جب ہم ایسے بادشاہ کی ولی صدق سے اطاعت کرتے ہیں تو گویا اس وقت عبادت اکر رہے ہیں۔“ (شہادت القرآن ص ۸۵، خزانہ حج ۳۸ ص ۳۸)

”مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا۔“ (حقیقت الحدیث ص ۴۵)

”اب حج کا مقام قادیان ہے۔“ (برکات خلافت ص ۹)

## تو ہیں انہیاء

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین پیشگوئیاں صاف طور پر جھوٹی نکلیں۔“ (اعجازِ احمدی ص ۱۲، خزانہ حج ۱۹ ص ۱۲۰)

”حضرت مسیح کے اجتہاد جو اکثر غلط نکلے اس کا سبب شاید یہ ہو گا کہ اوائل میں جو آپ کے ارادے تھے وہ پورے نہ ہو سکے۔“ (اعجازِ احمدی ص ۲۵، خزانہ حج ۱۹ ص ۱۳۸)

”جس قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اجتہاد میں غلطیاں ہیں۔ اس کی نظری کسی نبی میں بھی نہیں پائی جاتی۔“ (اعجازِ احمدی ص ۲۵، خزانہ حج ۱۹ ص ۱۳۵)

۱۔ خواجہ کمال الدین مرزا اپنی کتاب پیدا عظیم کے ر ۲۰ پر لکھتا ہے کہ: ”لیکن اگر کسی کو علم نہ ہو تو میں اسے اطلاع۔ بول کر ہن سтан سے باہر عربی بولنے والی دنیا آج احمدی جماعت کی حیثیت کو ایک جاسوں بحث دریافت تھی۔ جو گورنمنٹ کی خدمت کے لئے پیدا ہوئی ہے۔ خلاصہ یہ کہ جماعت کی آن وہ عنت نہیں رہی جو پہلے تھی۔“

الحمد لله کہ مسلمان مرزا یکتی کی حقیقت سے واقف ہو رہے ہیں اور مرزا یکوں کو بھی اس کا اعتراض نہیں کر رہا ہے۔ مرزا یک محمد رسول اللہ سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی عبادت و تبلیغ سے اطاعت نصاریٰ، قبلہ سے مراد انگریزی حکومت اور خدمت اسلامی سے مراد خدمت نصاریٰ ہے۔ ایں اسلام کو دھوکہ دینے والے الفاظ کے صحیح معنوں باخبر ہنچا ہے۔

۲۔ یہ دونوں کتابیں مرزا محمود جانشین مرزا کی تصانیف ہیں۔

مرزا محمود افضل ۱۶ اکتوبر ۱۹۱۴ء میں لکھتا ہے کہ: ”تمام انہیاء کا مرزا کی ذات میں جمع تھا۔ وہ یقیناً محمد رسول اللہ جمیع کمالات قدیمه کا جامع ہے۔ وہ (مرزا قادیانی) خدا کے برگزیدہ نبی جاہوجلال کا نبی، عظیم الشان نبی، ایک لاکھ چونہیں ہزار کے شان رکھنے والے نبی، انت منی و انا منك ظہور ک ظہوری! مخاطب نبی تھا۔“ (مرزا میندار ۲ نومبر ۱۹۳۲ء)

”دوسروں کے پانی جو امت میں سے تھے خشک ہو گئے۔ مگر ہمارا چشمہ آخری دنوں تک بھی خشک نہیں ہو گا۔“ (اعجازِ حمدی ص ۵۸، خزانہ حج ۱۹۶۷ ص ۲۷)

”اس (نبی کریم ﷺ) کے لئے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لئے چاند اور سورج دونوں کا اب کیا تو انکار کرے گا۔“ (اعجازِ حمدی ص ۱۷، خزانہ حج ۱۹۶۷ ص ۱۸۳)

”(یسوع) اگر وہ میرے زمانہ میں ہوتا تو اس کو انکسار کے ساتھ میری گواہی دینی پڑتی۔“ (مراجع میری ص ۸۰، خزانہ حج ۱۹۶۷ ص ۸۲)

”یسوع کے دادا صاحب داؤ دنے تو سارے برے کام کئے۔ ایک بے گناہ کو اپنی شہوت رانی کے لئے فریب سے قتل کرایا اور دالہ عورتوں کو بھیج کر اس کی جور و کومنگوایا اور اس کو شراب پلائی اور اس سے زنا کیا اور بہت سامال حرام کاری میں ضائع کیا۔“

(ست پچھن ص ۱۶، خزانہ حج ۱۹۶۷ ص ۲۹۱)

”یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں پر بیان کیے گئے کسی پوشیدہ گناہ کے یہ اب تا آیا کہ جن را ہوں سے وہ اپنے موعود نبیوں کا انتظار کرتے رہے ان را ہوں سے وہ نبی نہیں آئے۔ بلکہ پوروں کی طرح کسی اور راہ سے آ گئے۔“ (نزوں الحج ص ۳۵، خزانہ حج ۱۹۶۷ ص ۳۱۳ حاشیہ) ”(نبی ﷺ) اجتہادی غلطیوں سے محفوظ رہنے تھے۔“

(حقیقتِ الحج ص ۳۰۵، خزانہ حج ۱۹۶۷ ص ۳۰۵)

”انہیاء سے بھی اجتہاد کے وقت امکان سہو و خطاب ہے۔“

(از الاص ۳۹۹، خزانہ حج ۱۹۶۷ ص ۳۰۰ ملخصہ)

”ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے۔“

(دفع الباء ص ۲۰، خزانہ حج ۱۹۶۷ ص ۲۳۰)

”عیسیٰ کجا است تابنهد پا بنبرم“ میں بعض رسولوں سے بھی افضل ہوں۔“ (اشتہار معیار الاختیار، بحوث اشتہارات حج ۱۹۶۷ ص ۲۶۸ ملخصہ)

”مسیح کے محیات مسکریزم حی یا عمل الترب کا نتیجہ تھے۔ اگر میں اس قسم کے شعبدوں

۱ اس میں تمام انہیاء کو چور کہہ کر سب کی توہین کی ہے۔ کسی کی تخصیص نہیں کی۔

۲ مگر تخفہ قیصریہ میں ملکہ مظہر کو خطاب کرتے ہوئے ثوڑیا نہ لہجہ میں لکھتے ہیں کہ:

”در حقیقت یوسع مسیح خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندوں میں سے ہے اور ان میں سے ہے جو خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں اور ان میں سے ہے۔“

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کو مکروہ نہ جانتا ابین مریم سے کم نہ رہتا۔“ (ازالص ۳۰۹، خزانہ ج ۳ ص ۲۵۶، ۲۵۷)

”مسیح بوجہ مسکریزم کے عمل کرنے کے تنویر باطن اور تو حید اور دینی استقامت میں کم درجے پر بلکہ ناکام رہے۔“ (ازالص ۳۱۳، خزانہ ج ۳ ص ۲۵۸ حاشیہ)

”ایک مرتبہ ۲۰۰ نبی کو شیطانی ۲ الہام ہوا اور ان کی پیشگوئیاں مغلظ ہوئیں۔“

(ازالص او بامص ۲۶۸ ملخص، خزانہ ج ۳ ص ۲۳۹)

”(یسوع) آپ کا خاندان بھی نہایت پاک و مطہر ہے۔ تین دنیا ایسا اور تین نانیاں آپ کی زنا کار اور کسی عورت میں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجہ ظہور پڑ رہا۔“

(ضییر انعام آفہم ص ۷۷ حاشیہ، خزانہ ج ۱۱ ص ۲۹)

”ایسے (یعنی مسیح) ایسے ناپاک مشکر راست بازوں کے دشمن کو ایک بھلامانس آدمی بھی قرار نہیں دے سکتے۔ چہ جائیکہ اسے نبی قرار دیں۔“ (ضییر انعام آفہم ص ۹ حاشیہ، خزانہ ج ۱۱ ص ۲۹۳)

”مسیح کے حالات پر ہوتا یہ شخص اس لائق نہیں ہو سکتا کہ نبی بھی ہو۔“

(الحمد ۲۱، فروری ۱۹۰۲ء، ملحوظات ج ۳ ص ۱۳۶)

”یسوع مسیح کے چار بھائی اور دو بہنیں تھیں۔ یہ سب یسوع کے حقیقی ہی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں۔ یعنی سب یوسف اور مریم کی اولاد تھی۔“ (کشتنی نوح ص ۱۶، خزانہ ج ۱۹ ص ۱۸ حاشیہ)

(این حاشیہ گذشتہ صفحہ) جن کو خدا اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنے نور کے سایہ کے نیچے رکھتا ہے۔ میں وہ شخص ہوں جس کی روح میں بروز کے طور پر یسوع مسیح کی روح سکونت رکھتی ہے۔ یہ ایک ایسا تھنہ ہے جو حضرت ملکہ معظمہ قیصرہ انگلستان و ہند کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کے لائق ہے۔“ (تجھنہ قیصر یہ ص ۲۱، ۲۰، خزانہ ج ۱۴ ص ۲۲۲)

واقعی مرزا قادری نی صرف ملکہ معظمہ اور اس کی حکومت کے لئے عز از میل کی طرف سے تھنہ تھے۔ مگر افسوس ہے کہ یہ تھنہ خواہ مخواہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس گیا۔

۱۔ خود مجبراً دکھان سکے۔ اس لئے محجزات کا انکار کر دیا۔

۲۔ بالکل غلط اور جھوٹ کہا اور انہیاء کی تو یہ کر کے اپنے کفری تصدیق کی۔

۳۔ مگر دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ ”ممکن نہیں کہ یہوں کی پیشگوئیاں مل جائیں۔“

(کشتنی نوح ص ۵، خزانہ ج ۱۹ ص ۵)

۴۔ قرآن مجید نے زور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے کا ذکر کیا ہے۔ مرزا ای تعلیم قرآن کے بالکل خلاف ہیں۔

”حق بات یہ ہے کہ سچ سے مجبز نہیں ہوا۔“

(ضمیر انجام آئندہ میں ۹ خرداد میں ج ۱۸ ص ۲۳۳ حاشیہ)

”خدا نے اس امت میں سچ بھیجا جو اس پہلے سچ سے اپنی تماہ شان میں بہت بڑھ کر ہے۔“ (دالجع ابلا، ص ۲۳، خرداد میں ج ۱۸ ص ۲۳۳)

”ایسا ہی اپنے امت کے سمجھانے کے لئے بعض پیش گوئیوں کے سمجھنے میں خودا پنا غلطی لکھا (نبی کریم ﷺ نے) بھی ظاہر فرمایا۔“ (از الہ اوبا میں ۷۰، خرداد میں ج ۳ ص ۳۰)

”پیش گوئیاں سمجھنے میں نبویوں نے بھی غلطی لکھائی ہے۔ آنحضرت ﷺ پیش گوئی کی نسبت شک میں پڑ گئے تھے۔“ (از الہ اوبا ۳۹، خرداد میں ج ۳ ص ۳۰۸)

”اگر آنحضرت ﷺ پر ان مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بوجہ نہ موجود ہونے کی نمونہ کے موبہومکشف نہ ہوئی ... تو کچھ تجھب ای بات نہیں۔“ (از الہ اوبا ۴۹، خرداد میں ج ۳ ص ۳۰۳)

”آسمان سے کئی تخت اترے۔ پر تمہاری تخت سب سے اوپر بچھایا گیا۔“

(حقیقت الہی ص ۸۹، خرداد میں ج ۲۲ ص ۹۶)

جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا۔ اس نے مجھ نہیں پہچانا۔

(خطبہ الہامیہ ص ۲۵۹، خرداد میں ج ۱۶ ص ایضا)

”خدا نے مجھے علم اولین و آخرین عطا کیا ہے۔“ (ایضا انواع ص ۲۳، خرداد میں ج ۱۶ ص ۳۹۹)  
نوٹ: مرزا ای اپنے گورو سے توہین میں بڑا ہے گئے ہیں۔ حسب ذیل حوالہ مرزا محمود موجودہ خلیفہ اکتب سے دے جاتے ہیں۔

۱۔ مگر وہ سری جگہ لکھتے ہیں کہ: ”لہبہ سے زیادہ الہام کے معنی کوئی نہیں سمجھ سکتا۔“

(تمہاری حقیقت الہی ص ۲۲، خرداد میں ج ۲۲ ص ۲۲۸)

اس کے باوجود جب ذاتی غرض اور مطلب نکالنا چاہا تو نزول سچ کی حقیقت کے متعلق لکھ دیا۔ ”اب خدا تعالیٰ نے اس عاجز پر اس قول کی حقیقت ظاہر کر دی اور وہ سرے توہال کا بظاہن ثابت کر دیا۔“ (از الہ اوبا میں ۹۵، خرداد میں ج ۳ ص ۳۰۵)

۲۔ اولین و آخرین کا علم تو ایک طرف ذرہ مرزا ای بتائیں کہ مرزا قادریانی لکھتے ہیں کہ: ”قادیانی انہوں نے جنوب مغرب کی طرف وا قع ہے۔“

(اشتہار، چندہ، نثار و امتحن، جمیونہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۸۸)

یہ کس جغرافیہ میں لکھا ہے؟۔

اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا۔ جیسا کہ آیت ”آخرین منہم“ سے ظاہر ہے۔ پس مسح موعود (مرزا غلام احمد قادریانی) خود محمد رسول اللہ ہے۔ جو اسلام کی اشاعت کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ (کہتا نہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ص ۱۵۸)

”ظلی نبوت نے مسح موعود (مرزا قادریانی) کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ بلکہ آگے بڑھایا اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم کے پہلو پہ پہلو لا کھڑا کیا۔“ (کہتا نہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ص ۱۱۲)

”یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ مصطفیٰ ﷺ سے بھی بڑا سکتا ہے۔“ (الفصل نمبر ۵ ج ۱۰ ص ۵، ۷، ارجویانی ۱۹۲۲ء)

”مسح موعود کا یعنی ارتقاء آنحضرت ﷺ سے زیادہ تھا۔ اس زمانہ میں ترقی زیادہ ہوئی ہے اور یہ جزوی فضیلت ہے۔ جو مسح موعود (مرزا قادریانی) کو آنحضرت ﷺ پر حاصل ہے۔ نبی کریم کی ذمی استعدادوں کا ظبور بوجہ تمدن کے نقش کے نہ ہوا اور نہ قابلیت تھی۔“

(ریویو ج ۲۸ نمبر ۶، جون ۱۹۲۹ء)

”مرزا قادریانی سے پہلے محمد ﷺ کی روح دنیا میں موجود نہ تھی۔“

(الفصل نمبر ۷ ج ۱۱ ص ۹، ۱۱ امراء مارچ ۱۹۳۰ء)

”رسول کریم ﷺ کی دعا میں قبول نہیں ہوئی۔“

(الفصل نمبر ۱۲ ج ۱۲ ص ۵، ۲۵ امراء مارچ ۱۹۲۷ء)

”اب دیکھو نبی کریم ﷺ جیسا انسان بھی بعض با توں کو لوگوں کے اتنا سے ذکر کر چھپا لیتا تھا اور بعض امور کو مجھ سے لوگوں کے اتنا کے ذر سے چھوڑ دیتا تھا۔“ (تشذیب الاذان ماہ اکتوبر ۱۹۱۳ء)

”مسح موعود (مرزا قادریانی) باعتبار کمالات نبوت و رسالت کے محمد رسول اللہ ہی ہیں۔“ (الفصل نمبر ۳ ج ۱۵ ص ۱، ۵ ارجویانی ۱۹۱۵ء)

”مرزا قادریانی عین محمد تھے۔“ (ذکر الہی ص ۶۰)

”مسح موعود کی روحا نیت (آنحضرت ﷺ سے) اقویٰ، اکمل اور اشد ہے۔“ (کہتا نہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ص ۱۲ ملنما)

”کیا اس بات میں کوئی شک ہے کہ قادریان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد کو اتنا لے۔“ (کہتا نہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ص ۱۰۵)

۱۔ مرزا قادیانی کا ایک مرید یوں بتتا ہے کہ:

(بیت حاثیہ لگل صفحہ پر)

”مُسِّیح موعود (مرزا قادیانی) نے بیوی محمد یہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا تھا۔“  
(کہتا افضل ص ۱۱۳)

مرزا قادیانی اپنے متعلق لکھتا ہے کہ: ”مقام او مبیں از راہ تحریر بدور  
نش رسولان ناز کروند۔“ (تجلیات الہیہ ص ۵، بخراں ن ج ۲۰ ص ۲۹۷)

”نبی کریم سے تین ۲ ہزار مجراۃ ظاہر ہوئے۔“

(تجھنگوڑہ ص ۴۶، بخراں ن ج ۷ ص ۵۳ املکا)

”روضہ آدم کے تھا وہ ناکمل اب تک۔ میرے آنے سے ہوا کامل بجمدہ برگ  
وبارے۔“ (درشن ص ۸۲، برائیں احمد یہ ص ۱۱۳، بخراں ن ج ۲۱ ص ۱۰۳)

”میں اور پیغمبر ﷺ ایک ذات ہیں۔“ (ایک غلطی کا ازالہ ص ۸، بخراں ن ج ۱۸ ص ۱۰۳)

”معراج اس جسم تیف سے کے ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا۔  
اس قسم کے کشفوں میں خود مؤلف (مرزا قادیانی) کو تجویر ہے۔“

(ازالہ ادما ص ۲۲، بخراں ن ج ۲۳ ص ۱۲۶ حاشیہ)

منم مسیح زمان و منم کلیم خدا

منم محمد و احمد مجتبی باشد

(تریاق القلوب ص ۶، بخراں ن ج ۵ ص ۱۳۸)

(بقید حاشیہ گذشتہ صفحہ)

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں

اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں

محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل

غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

(بدرنمبر ۲۳ ج ۲۵، ۱۹۰۹ء)

۱۔ مرزا قادیانی نے اپنے لڑکے مرزا محمود کے لئے کہا تھا کہ:

۲۔ اے فخرِ رسل قرب تو معلوم شد (تمذکرہ ص ۱۹۵)

۳۔ گمراپنے مجڑے سمندر کے ریت کے ڈروں کے برابر ظاہر کرتے ہیں۔

(تجلیات الہیہ ص ۱۹، بخراں ن ج ۲۰ ص ۳۱)

۴۔ اس گستاخ نے آنحضرت ﷺ کے جسم مبارک کو تیف کیا اور معراج کی اعلیٰ درجہ کا  
کشف بتا کر خود بھی کی دفعہ صاحب معراج ہونے کا دعویٰ کر دیا۔

آدم نیز احمد مختار  
در برم جامہ همہ با برار  
آنچہ داد است هر نبی راجام  
داد آن جام رات حامرا بتمام

(ا) در شیخ ص ۹۹، خزانہ ۱۸ ص ۷۷)

”مسح شراب پیا کرتا تھا۔“ (کشی فوح ص ۶۶، خزانہ ۱۹ ص ۱۷)

”مسح ایک حاوی نہ عابد نہ زاہد نہ حق کا پرستار۔“

(مکتوبات احمد یعنی ۳۲ ص ۲۲، ۲۳ نمبر آن نمبر ۱۲ ص ۱۲، خزانہ ۱۹ ص ۷۷)

### صحابہ کرام و اہل بیت

”ابو ہریرہ جو غبی تھا اور درائیت اچھی نہیں رکھتا تھا۔“

(اعجاز احمدی ص ۱۸، خزانہ ۱۹ ص ۷۷)

”اور انہوں نے کہا کہ اس شخص نے امام حسن اور حسین سے اپنے تسلیم اچھا سمجھا۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں اور میرا خدا عنقریب ظاہر کر دے گا اور مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی تائید اور مدد دل رہی ہے۔ مگر حسین دشت کر بلا کو یاد کرو۔ اب تک تم رو تے ہو۔ سوچ لواور میں خدا کےفضل سے اس کے کنار عاطفت میں ہوں۔“

(اعجاز احمدی ص ۶۹، ۵۲، خزانہ ۱۹ ص ۱۸۱، ۱۶۲)

”حضرت عمر<sup>نبی</sup> کریم ﷺ کی پیش گوئی کو پورا ہوتے نہ کیجھ کر چند ۲ روز ابتدا میں

رہے۔“ (اعجاز احمدی ص ۶، خزانہ ۱۹ ص ۱۱۲)

”اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا نبی ہے۔ کیونکہ میں حق حق کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے جو اس حسین سے بڑھ کر ہے۔“ (دفع الباء ص ۱۳، خزانہ ۱۸ ص ۲۲۲)

”بجھا اسے (حسین میں) کچھ زیادت نہیں اور میرے پاس خدا کی گواہیاں ہیں۔“

پس تم د کیجھ لا اور میں خدا کا کاشتہ ہوں۔ مگر تمہارا حسین دشمنوں کا کاشتہ ہے۔ پس فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے۔“ (اعجاز احمدی ص ۸۰، خزانہ ۱۹ ص ۱۹۳)

اے ان اشعار سے ثابت ہے کہ مرزا قادریانی کو فضل المرسلین ہونے کا دعویٰ تھا اور ہر نبی کے کمالات ان کی ذات میں جمع تھے۔ استغفار اللہ!

۲ بالکل غلط اور افتراء ہے۔

”کوئی صحابہ میں سے یہی سمجھ بیٹھا تھا کہ ابن مریم سے ابن مریم ہی مراد ہے۔ تو تب بھی کوئی نص پیدا نہیں ہوتا۔“ (ازالیں ۳۰۰، خزانہ انجمن ص ۳۷)

”میں وہی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ ابو بکر کے درجہ پر ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر کیا وہ تو بعض انبیاء سے بھی افضل ہے۔“

(مجموعہ اشتہارات نج ۳ ص ۲۸)

”حق بات تو یہ ہے کہ ابن مسعود ایک معمولی انسان تھا..... اس نے جوش میں اگر غلطی کھائی..... حضرت معاویہ بھی تو اصحابی ہی تھے جنہوں نے خط پر جم کر ہزاروں آدمیوں کے خون کرائے۔“ (ازالیں ۵۹۶، خزانہ انجمن ص ۳۴)

”یہ کیا جہالت ہے کہ صحابہ کو بکلی غلطی اور خطاء سے پاک سمجھا جائے۔“

(ازالیں ۷۵۹، خزانہ انجمن ص ۳۴)

”صحیح مسلم میں نواس بن سمعان صحابی سے دجال و نزول صحیح علیہ السلام کے متعلق جو حدیث ہے اس کا یہ جواب دیا۔ باقی مبانی اس تمام روایت کا صرف ۲ نواس بن سمعان ہے اور کوئی نہیں ہے۔“ (ازالیں ۲۰۲، خزانہ انجمن ص ۱۹۹ حاشیہ)

”آنحضرت ﷺ کے رفع جسمی کے بارے میں یعنی اس بارہ میں کہ وہ جسم سمیت شب معراج میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے تھے۔ تقریباً تمام صحابہؓ کا یہی اعتقاد تھا۔“

(ازالیہ امام ص ۲۸۹، خزانہ انجمن ص ۳۴)

”کیا ہمارے نبی ﷺ کا آسمان پر جسم کے ساتھ چڑھنا اور پھر جسم کے ساتھ اترنا ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ جس پر صدر اوقل کا اجماع تھا؟۔“ (ازالیں ۲۸۹، خزانہ انجمن ص ۳۴)

۱۔ صحابہؓ کے وہی اقوال جو مرزا قادیانی کے دعاویٰ کے خلاف ہیں۔ اس سے مراد ہوں گے ورنہ صحابہؓ کے سوا غیر معروف اشخاص کے غلط اور موضوع اور بالکل اغوغیر شرح اقوال پیش کر کے ان سے اپنی صداقت ثابت کرنے کی سعی کی ہے۔

۲۔ گویا مرزا قادیانی کے نزدیک صحابہؓ بھی جھوٹے تھے اور حدیثیں اپنی طرف سے گھڑا کرتے تھے۔

۳۔ مگر مرزا قادیانی فلسفہ و ساینس جدید کی آڑ لے کر معراج جسمانی کے مکمل ہیں۔ جن لوگوں نے نبی ﷺ سے با واسطہ علم حاصل کیا ہوا اور جن کی تعریف قرآن مجید کر رہا ہو جو شرف صحابیت سے مشرف ہوئے ہوں۔ ان سے بڑھ کر کون؟ مگر ان کو بے سمجھ جانا۔

”حضرت فاطمہؓ (نے عین بیداری میں آ کر) اس خاکسار کا سراپی ران پر رکھ  
(تحفہ گوہ، ص ۱۹، ج ۷، ص ۱۱۸)

لیا۔“

قرآن

”قرآن خدا کی کلام اور میرے مند کی بتائیں ہیں۔“

(حقیقت الوجی ص ۸۲، ج ۷، ص ۲۲)

”(کلمہ مدینہ اور قادیان) تم شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف لے میں

درج ہے۔“ (ازالہ اوبام ص ۷۷، ج ۳، ص ۱۲۰)

”میں نے اپنے بھائی غلام قادر کو قرآن مجید میں انسانیت کا نزدیک قریباً من القادیان پڑھتے ہوئے سنایا۔“

(ازالہ اوبام ص ۷۷، ج ۳، ص ۱۲۰)

”قرآن مجید میں ان هذا من الساحران! از روئے موجودہ صرف و خونفلط ہے۔“

(حقیقت الوجی ص ۳۰۲، ج ۷، ص ۲۲)

آنچہ من بشنوم زوحی خدا  
بخدا پاک دانمش رخطا  
همچو قرآن منزہ اش دانم  
از خطاما بری همین سست ایمانم

(درشیں ص ۷۷، ج ۱۸، ص ۹۹)

”کتاب الہی کی غلط تفسیروں نے انہیں بہت خراب کیا ہے اور ان کے ولی و دماغی قوتوں پر اثر ان سے پڑا ہے۔ اس زمانہ میں بالاشیر کتاب الہی کی ضروری ہے کہ اس کی نئی نئی اور صحیح تریں ایجاد کی جائیں۔ اس کوئی اور قرآن نہیں ہے۔ اس لئے ثابت ہوا کہ مرزا گیوں کے پاس کوئی اور قرآن نہیں ہے۔“

۲ یعنی رسول اکرم ﷺ کی بیان کردہ تفسیر کے خلاف نئی تفسیر۔ مؤلف اس نئی تفسیر کا بھی نمونہ سن لیجئے۔ مرزا قادیانی (ازالہ اوبام ص ۷۷، ج ۳، ایام ص ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۸۹ حاشیہ) میں لکھتے ہیں کہ: ”آیت انا علی ذہاب به لقادرون میں ۷۷ء کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ اس آیت کے اعداد سے ثابت ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ آیت موصوفہ بالا میں فرماتا ہے کہ جب وہ زمانہ آئے گا تو قرآن مجید زمین پر سے اٹھایا جائے گا۔ یعنی انہیں ایام میں مسلمانوں نے ناجائز ناگوار طریقہ سے سرکار انگریزی سے باوجود

(باقی حاشیاں گلے صفحہ پر)

تفیر کی جائے۔ کیونکہ حال میں جن تفیروں کی تعلیم دی جاتی ہے وہ نہ اخلاقی حالت کو درست کر سکتی اور نہ ایمانی حالت پر اثر ڈالتی ہے۔ بلکہ فطری سعات اور نیک روشنی کی مزاحمت ہو رہی ہے۔“

(ازالص ۲۶، حاشیہ خراںج ص ۳۹۲)

ازالہ میں ایک مجدوب کی بڑو رج کی ہے کہ ”سچ لدھیانہ میں آکر قرآن کی غلطیاں

نکالے گا۔“ (ازالص ۰۸، خراںج ص ۳۸۲)

”قرآن شریف کفار کو سنا کر لغتیں کرتا ہے اور گندی گالیاں دیتا ہے۔“

(ازالص ۲۶، ملخصاً حاشیہ خراںج ص ۱۱۵)

”قرآن آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ میں قرآن کو دوبارہ لایا۔“

(ازالص ۲۷، حاشیہ خراںج ص ۳۹۲)

### احادیث نبوی

”ثابت ہوتا ہے کہ ابتداء سے ہی حدیثوں کو بہت عظمت نہیں دی گئی۔ اس لئے مناسب ہے کہ حدیث کے لئے قرآن کو نہ چھوڑا جائے۔ ورنہ ایمان ہاتھ سے جائے گا۔ ان الظن لا یغنى من الحق شيئاً۔ ماسوا اس کے اگر نہایت ہی نرمی کریں تو ان حدیثوں کو ظن کا مرتبہ دے سکتے ہیں اور یہی محدثین کا نام ہب ہے اور ظن وہ ہے جس کے ساتھ کذب کا اختلال لگا ہوا ہے۔ سچ موعود کے لئے بخاری میں حکم کا لفظ آیا ہے۔ حکم اس کو کہتے ہیں کہ اختلاف رفع کرنے کے لئے اس کا حکم قبول کیا جائے اور اس کا فصلہ گوہ ہزار حدیث کو بھی موضوع قرار دے ناطق سمجھا جائے۔“ (اعجاز احمدی ص ۲۹، ۲۸، خراںج ص ۱۹، ۲۷)

”ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کر سکتے ہیں۔ جو قرآن شریف کے مطابق ہیں

(بیہقی حاشیہ گذشتہ صفحہ) نہکہ خوار کے رعیت ہونے کے مقابلہ کیا۔ حالانکہ یہ ان کے لئے جائز نہ تھا۔ ان لوگوں نے چوروں قراقوں اور حرامیوں کے طرح اپنی محسن گورنمنٹ پر حملہ کر دیا اور اس کا نام جہادر کھا۔ پس اس حکیم و علیم کا قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ۱۸۵ء میں میرا کلام آسمان پر اٹھایا جائے گا۔ یہی معنی رکھتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میری صداقت کا نشان ہے۔ کیونکہ اس میں محمد کا لفظ موجود ہے۔ جس سے میرا نام احمد مشتق پیدا ہے۔ (اعجاز احمد مشتق ص ۱۳۵، خراںج ص ۱۸)

”مگر دوسری طرف جب نیچریوں سے واسطہ پر اور نیچریوں نے کہہ دیا کہ سچ موعود کی ضرورت نہیں اور سچ موعود کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے تو کہنے لگے اور اصل حقیقت یہ ہے کہ خدا کا کلام سمجھنا مشکل ہے۔“ (اعجاز احمدی ص ۲۱، خراںج ص ۱۹)

اور جب ضرورت پڑی تو موضوع ضعف اور متردک احادیث سے بھی کام نکال لیا۔

اور میری وحی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں نوہم روایتی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔“

(اعجاز احمدی ص ۳۰، خزانہ حج ۱۹۰ ص ۱۲۰)

”ہم نے اس سے لیا جو حقیقت و قیوم اور واحد لاشریک ہے اور تم لوگ مردوں سے روایت کرتے ہو۔“  
(اعجاز احمدی ص ۷۵، خزانہ حج ۱۹۰ ص ۱۶۹)

”ہم نے دیکھ لیا اور تم اپنے راویوں کا ذکر کرتے ہو اور کیا قصہ دیکھنے والے کے مقابل پر کچھ چیز ہیں۔“  
(اعجاز احمدی ص ۲۹، خزانہ حج ۱۹۰ ص ۱۸۱)

”جو شخص حکم ہو کر آیا..... اس کا اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کرے اور جس ذہیر کو چاہے خدا سے علم پا کر دکر دے۔“

(تحفہ گلزار دیوبندیہ ص ۱۴، خزانہ حج ۱۹۰ ص ۱۵۰ حاشیہ)

”کیوں جائز نہیں کہ راویوں نے عمدائی یا سہوا بعض احادیث کی تبلیغ میں خطأ کی ہو۔“  
(ازالہ ادہام ص ۵۳، خزانہ حج ۳۸۵ ص ۳۸۵)

میاں محمود احمد موجودہ خلیفہ قادریان الفضل نمبر ۱۳۳ ح ۲۹ ص ۶ را پریل ۱۹۱۵ء میں لکھتا ہے کہ: ”صحیح موعود (مرزا قادریانی) سے جو باتیں ہم نے سنی ہیں وہ حدیث کی روایت سے معتبر ہیں۔ کیونکہ حدیث ہم نے آنحضرت ﷺ کے مذہب سے نہیں سنی۔“

مرزا لکھتا ہے کہ: ”الہام کیا گیا کہ ان علماءؒ نے میرے گھر کو بدل ڈالا اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں۔“  
(ازالہ ادہام ص ۲۷، خزانہ حج ۳۲ ص ۱۳۰ حاشیہ)

”سلف خلف کے لئے بطور وکیل کے ہوتے ہیں اور ان کی شہادت آنے والی ذریت کو ماننی پڑتی ہے۔“  
(ازالہ ادہام ص ۵۷، خزانہ حج ۳۲ ص ۲۹۳)

”کسی معتبر عالم کا کتاب میں لکھ دینا قبل اعتماد ہے۔“

(ازالہ ادہام ص ۲۷، خزانہ حج ۳۲ ص ۵۷ ملخصاً)

”گواہی طور پر قرآن، اکمل و اتم کتاب ہے۔ مگر ایک حصہ کثیرہ کا اور طریقہ

---

۱۔ مذکورہ بالاحوالوں سے قارئین نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ علماء، وہن تھے جو کتر نا تو درکنار روی کی نوکری میں احادیث کو ڈال رہے تھے۔ نور الدین، عبدالکریم، احسن امر وہی وغیرہ مرزا ای ای مولویوں نے اسلام کے گھر کو بدل ڈالا۔

۲۔ یعنی جہاں اپنے مطلب کے موافق کوئی غلط اور موضوع قول کسی آدمی کا ملا اسے نقل کر دیا اور جہاں مطلب نکلتا نہ دیکھا وہاں صحیح احادیث کو بھی ٹھہر کر دیا۔

ہمارات وغیرہ کا مفصل اور مبسوط طور پر احادیث سے اے ہم نے لیا ہے۔“

(ازالہ امام ص ۵۵۶، خزانہ حج ص ۳۰۰)

”کیا یہ اندھیر کی بات نہیں کہ حدیث کی تنقید اور تو شیق اور عظمت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ گویا ان سب کا لکھا ہوا نوشہ تقدیر ہے۔“ (تحفۃ الوریض ص ۱۳۷، خزانہ حج ص ۱۵۶)

”محمد بن سعید سے بعید تھا کہ وہ ایک حدیث کو اپنے صحاح میں داخل کرتے باوجود اس بات کہ وہ جانتے تھے کہ وہ حدیث بے اصل ہے۔ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اوقاطنی اور تمام راوی اس حدیث کے اور تمام وہ لوگ جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا اور حدیثوں میں ملایا۔ اول زمانہ سے اس زمانہ تک مفسد اور فاسق ہی گزرے ہیں اور صالح آدمی نہیں تھے۔“

(نور الحق حصہ دوم ص ۷۸، خزانہ حج ص ۲۰۷)

”اور اہل حدیث خوب جانتے ہیں کہ صرف محمد بن سعید کا فتویٰ قطع طور پر کسی حدیث کے صدق یا کذب کامار نہیں ظہر سکتا۔“ (ضییر انجام آئتم ص ۱۰، خزانہ حج ص ۲۹۲)

چھوڑ کر فرقان کو آثار مخالف پر جمع سر پر مسلم اور بخاری کا دیانا حق کا بار پھر حماقت ہے کہ رکھیں سب انہیں پر اخصار جب کہ ہے امکان کذب و بھروسی اخبار میں جبکہ ہم نے نورحق دیکھا ہے اپنی آنکھ سے پھر یقین کو چھوڑ کر کیونکر گمانوں پر چلیں تفرقہ اسلام میں لفظوں کی کثرت سے ہوا جس سے ظاہر ہے کہ راہ نقل ہے بے اعتبار (درشیں ص ۸۶، برائین احمدی حصہ ثالث ص ۱۶، خزانہ حج ص ۲۱۳)

### مرزاٹی تعلیم کا خلاصہ

”یہ گورنمنٹ ہندوستان میں داخل ہوتے ہیں ایک روحانی سرگرمی اور حق کی تلاش کا اثر ساتھ لائی ہے اور بالاشہریہ اس ہمدردی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ جو ہماری ملکہ معظمہ قیصرہ ہند کے دل میں برش اٹھایا کی رعیت کی نسبت مرکوز ہے۔“ (تحفۃ قیصریہ ص ۱۲، خزانہ حج ص ۲۶۹)

”سو ہمارے لئے جناب باری تعالیٰ جل جلالہ نے دولت عالیہ برطانیہ کو نہایت ہی مبارک کیا کہ ہم اس بارکت سلطنت میں اس ناقچیز دنیا کی صد ہزار بھروسی اور اس کے فانی تعلقات سے فارغ ہو کر بینہ گئے اور خدا نے ہمیں ان امتحانوں اور آزمائیشوں سے بچالیا کہ جو دولت اور

اے دروغ گوار احافظہ نباشد ابھی حدیث کو ظن کا درجہ دے رہے تھے۔ ابھی تعریف شروع کر دیں۔

حکومت ریاست اور امارت کی حالت میں پیش آتے اور روحاںی حالتوں کا ستیاناس کرتے ہیں۔“  
(تحفہ قصیر ص ۱۹، خزانہ ج ۲ ص ۱۷۲)

”خدا تعالیٰ نے ہم پر محسن گونمند کا شکر ایسا ہی فرض کیا ہے۔ جیسا کہ اس کا شکر کرنا۔ سو اگر ہم اس محسن گونمند کا شکر ادا نہ کریں۔ یا کوئی شر اپنے ارادہ میں رکھیں تو ہم نے خدا تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ جس کے احسانات کا شکر کرنا یعنی فرض اور واجب ہے۔ اس سے جہاد کیسا۔ میں حق بچ کہتا ہوں کہ محسن کی بد خواہی کرنا ایک حراثی اور بد کار آدمی کا کام ہے۔ سو میرا نہ ہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں۔ ایک یہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو۔ جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں ہمیں پناہ دی ہو۔ سو وہ سلطنت حکومت بر طائیہ ہے۔ خدا تعالیٰ ہمیں صاف ۲ تعلیم دیتا ہے کہ جس بادشاہ کے زیر سایہ امن کے ساتھ بسرو۔ اس کے شکر گزار اور فرمانبردار بنے رہو۔ سو اگر ہم گونمند بر طائیہ سے سرکشی کریں تو گویا اسلام اور خدا اور رسول سے سرکشی کرتے ہیں۔ اس صورت میں ہم سے زیادہ بد دیانت کون ہو گا۔“

(شهادۃ القرآن ضمیر ص ۸۲، خزانہ ج ۲ ص ۳۸۰، ۳۸۱)

”گونمند انگلشیہ خدا کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے۔ یا ایک عظیم الشان رحمت ہے۔ یہ سلطنت مسلمانوں کے لئے آسمانی برکت کا حکم رکھتی ہے۔ خداوند حیم نے اس سلطنت کو مسلمانوں کے لئے ایک باران رحمت بھیجا ہے۔ الہی سلطنت سے لڑائی اور جہاد کرنا قطعی حرام ہے۔“  
(شهادۃ القرآن ص ۹۲، ۹۳، ۳۸۸، خزانہ ج ۶ ص ۳۸۹)

”بس حقیقت میں خداوند کریم در حیم نے اس سلطنت کو مسلمانوں کے لئے ایک باران

---

۱ حکومت و سلطنت کا چھن جانا اور اغیار کا غلام ہونا بھی مرزا قادیانی کے نہ ہب میں خدا کی طرف سے انعام ہے۔ مؤلف

نوٹ: مگر اپنی مسیحیت کے ثبوت میں (ازالہ ص ۱۸، خزانہ ج ۳ ص ۷۸) ہر ایک مجدد کا غیر شرح الہام نقل کیا ہے۔ جس کے راویوں میں نھا کر داس پیواری، بونا جھیور، سو بھا بھگت کے نام درج ہیں۔ مرزا یوں کی حدیث کی کتاب سیرۃ المہدی میں بڑے بڑے معزز راوی ہیں۔ مثلاً بیان کیا جس سے سردار جھنڈا سن گئے۔

۲ کیا کوئی مرزا ای قرآن کی کسی آیت سے یہ صاف حکم دیکھا سکتا ہے۔ (مؤلف)

رحمت پیشیجی ہے۔ جس سے پودہ اسلام کا پھر اس ملک پنجاب میں سر بزیر ہوتا جاتا ہے۔“

(شهادۃ القرآن ص ۹۳، خزانہ حج ۳۹۰ ص ۳۹۰ حاشیہ)

”سواس عاجز نے جس قدر انگریزی گورنمنٹ کا شکردا کیا ہے وہ صرف اپنے ذاتی خیال سے ادا نہیں کیا۔ بلکہ قرآن شریف اور احادیث نبوی کی ان بزرگ تاکیدوں نے جو اس عاجز کے پیش نظر ہیں۔ مجھ کو اس شکردا کرنے پر مجبور کیا ہے۔“

(شهادۃ القرآن ص ۹۷، خزانہ حج ۳۹۳ ص ۳۹۳ حاشیہ)

”میری نصیحت اپنی جماعت کویہی ہے کہ وہ انگریزوں کی بادشاہت کو اپنے اولیٰ الامر میں داخل کریں اور دل کی سچائی سے اس کے مطیع رہیں۔“ (ضرورۃ الامام ص ۲۳، خزانہ حج ۳۹۳ ص ۳۹۳)

”اسلامی سلاطین کا وجد اسلام کے حق میں بڑی مصیبیت ہے اور دین کے لئے ان کے دن سخت ہی منحوس ہیں..... ان عیش پسند بادشاہوں کا وجد مسلمانوں پر بھاری غضبی ہے۔ جو ناپاک کیروں کی طرح زمین پر لگ گئے۔“

(الہدی و تبصرہ لمن یری ص ۲۲، خزانہ حج ۱۸ ص ۲۸۵، ۲۸۶)

”سلطان روم کی نسبت سلطنت انگریزی سے زیادہ وفاداری اور اطاعت دکھانی چاہئے۔ اس سلطنت کے ہمارے سر پر وہ حقوق ہیں جو سلطان کے نہیں ہو سکتے۔ ہرگز نہیں ہو سکتے۔“ (کشف الغطاء ص ۱۹، خزانہ حج ۱۲ ص ۲۰۲)

”دیکھو میں حکم لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اب تکوار سے جہاد کا خاتمہ ہے۔ مگر اپنے نفوں کے پاک کرنے کا جہاد باقی ہے اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی۔ بلکہ خدا کا کامیاب ارادہ ہے۔“ (رسالہ جہاد ص ۱۵، خزانہ حج ۱۷ ص ۱۵)

اب تم میں کیوں وہ سیف کی طاقت نہیں رہی

بجید اس میں ہے یہی کہ وہ حاجت نہیں رہی

یہ حکم سن کے جو بھی لڑائی پر جائے گا

وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا

(دریں ص ۲۱، ضمیر تحدہ گلزاری ص ۲۸، خزانہ حج ۱۷ ص ۲۹)

۱ اس سے مراد غالباً قادیانی دھرم ہو گا۔ (مؤلف)

۲ چنانچہ یہ سلاطین یورپ کی استعماری حکمت عملی میں سُنگ گران ثابت ہو رہے ہے اور مرزا بیوی کے آقایان کی نظروں میں خارکی طرح کھنک رہے تھے۔ اس لئے ان کی بدگونی کی جگہ مرزا نے اپنی کتب میں کی۔ (مؤلف)

”فمن الحكم التي اودع هذا الدين ليزيد هدى المهددين هو الجهاد  
الذى امر به فى صدر زمان الاسلام ثم نهى ! عنہ فى هذه الايام“  
(اشتہار تحفہ گولاو یہ میں ۳۰، خزانی ج ۷، اص ۸۱)

(تحفہ گولاو یہ میں ۲۷، خزانی ج ۷، اص ۷۷) پر یوں گوہرشانی کرتے ہیں کہ:

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قاتل  
اب آگیا مسح جو دین کا امام ہے دین کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے  
اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے  
دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد  
”جب حضرت مسح علیہ السلام کو اس زہریلی ہوا کا پتہ لگ گیا جو میسا یوں میں چل رہی  
تھی۔ تو آپ کی روح نے آسمان سے اترنے کے لئے حرکت کی اور یادِ حکوم وہ روح ۲ میں ہی  
ہوں۔“ (آمینہ کمالات ص ۲۵۲، خزانی ج ۵ ص ۲۵۲)

”جہاد یعنی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ نے آہستہ آہستہ کم کرتا گیا۔ حضرت  
موسىٰ علیہ السلام کے وقت میں اس قدر رشدت تھی کہ ایمان لانا بھی قتل سے بچانیں سکتا تھا اور  
شیر خوار بچے بھی قتل کئے جاتے تھے۔ پھر ہمارے نبی ﷺ کے وقت میں بچوں اور بوڑھوں کا قتل  
کرنا حرام کیا گیا..... اور پھر مسح موعود کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موقوف ہے کر دیا۔“

(اربعین نمبر ۲۶ ص ۱۳، خزانی ج ۷، اص ۷۷)

۱۔ اس سے ثابت ہوا کہ مرزا کونا نخ شریعت محمد یہ ہونے کا دعویٰ تھا۔ جہاد کا حکم اس کے  
زمانہ میں منسوخ ہو گیا تھا۔ یعنی مرزا کہتا ہے کہ جہاد جس کا حکم ابتدائے زمانہ اسلام میں تھا۔ وہ اس  
زمانہ میں میرے آنے سے اس سے منع کیا گیا ہے۔

۲۔ اس سے ثابت ہے کہ مرزا قادریانی تناخ کے قائل تھے۔

۳۔ گویا مرزا قادریانی صاحب شریعت نبی اور ناخ شریعت محمد یہ تھے۔ لہذا  
مرزا یوں کا یہ کہنا کہ ان کا دعویٰ غیر تغیریج نبی ہونے کا تھا۔ بالکل غلط ہے۔ مرزا قادریانی  
(اربعین نمبر ۲۶ ص ۲۳۵) پر لکھتے ہیں کہ: ”یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔  
جس نے اپنے وہی کے ذریعہ سے چند امرا اور نبی میان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون  
مقرر کیا۔ وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کے رو سے بھی ہمارے مخالف ملزم  
ہیں۔ کیونکہ میری وہی میں امر بھی ہے اور نبی بھی۔“

”میرے وقت میں خدا نے حج کو جانا بند کر دیا۔“

(حقیقت الہجی ص ۱۹۸، خزانہ حج ص ۲۰۶، ملخص)

### عقائد کی سوداگری و تبادلہ (سمجھوتہ)

”(ہندو) ہمارے نبی ﷺ کو سچا مان لیں..... تو میں سب پہلے اس اقرار نامہ پر دستخط کرنے پر تیار ہوں کہ ہم احمد یہ سلسلہ کے لوگ بھیش وید کے مصدق ہوں گے اور وید اور اس کے رشیوں کا انظیم اور محبت سے نام لیں گے۔“ (پیغام صلح ص ۲۶، ۲۵، خزانہ حج ص ۲۳، ملخص ۳۵۵)

”(اے اہل اسلام) جبکہ آپ لوگ وید اور وید کے رشیوں کو سچے دل سے خدا کی طرف سے قبول کرلو گے تو ایسا ہی ہندو لوگ بھی اپنے بخل کو دور کر کے ہمارے نبی ﷺ کی نبوت کی تصدیق کر لیں گے..... یہ تفرق جو گائے کی وجہ سے ہے اس کو بھی درمیان سے اخحاد یا جائے۔ جس چیز کو ہم حلال جانتے ہیں ہم پر واجب نہیں کہ ضرور اس کو استعمال کریں۔“ (پیغام صلح ص ۲۹، خزانہ حج ص ۲۳، ملخص ۳۵۸)

”ہم وید کو بھی خدا کی طرف سے مانتے ہیں۔“

(پیغام صلح ص ۲۲، خزانہ حج ص ۲۳، ملخص ۳۵۳)

”ہم خدا سے ذکر وید کو خدا کا کلام جانتے ہیں۔“

(پیغام صلح ص ۲۵، خزانہ حج ص ۲۳، ملخص ۳۵۹)

### مرزا قادیانی کی خدمات اسلام

”مجھ سے سرکار انگریزی کے حق میں جو خدمت ہوئی وہ یقینی کہ میں نے پچاس ہزار کے قریب کتابیں اور رسائل اور اشتہارات چھپو اکراں ملک اور نیز دوسرے بیان اسلامیہ میں اس مضمون کے شائع کئے۔ گورنمنٹ انگریزی ہم مسلمانوں کی محسن ہے۔ لہذا ہر ایک مسلمان کا یہ فرض ہونا چاہئے کہ اس گورنمنٹ کی کچی اطاعت کرے اور دل سے اس دولت کا شکر گذار اور دعا گور ہے۔“

مندرجہ بالا احوالوں سے ثابت ہے کہ مرزا قادیانی آریہ امت اور اسلام کو ملا کر ایک نیا نام ہب بناتا چاہتے تھے۔ جس کے وید کو منباب اللہ البالی کتاب مانیں اور تمام رشیوں کو مانتے ہوئے پیغمبر اسلام کو بھی تصدیق کریں اور گائے کے گوشت سے پر بیز کریں۔ دین کو بھی مرزا قادیانی نے دنیاوی معاملہ سمجھ کر سمجھوتہ سے کام لینا چاہا؟۔ فافہم! (مؤلف)

نوٹ: اگر چاہتے ہو تو کیا وجہ ہے کہ آگے چل کر اسے سمجھوتہ کے طور پر بطور شرط

پڑھ کر ۲۰

اور یہ کتابیں میں نے مختلف زبانوں یعنی اردو، فارسی، عربی میں تالیف کر کے اسلام کے تمام ملکوں میں پھیلایا دیں۔ یہاں تک کہ اسلام کے دو مقدس شہروں مکہ اور مدینہ میں بخوبی شائع کر دیں اور روم کے پایہ تخت قسطنطینیہ اور بادشاہ اور مصر اور کابل اور افغانستان کے متفرق شہروں میں جہاں تک ممکن تھا اشاعت کر دی گئی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں انسانوں نے جہاد کے وہ مغلظ خیال چھوڑ دئے۔ جو نافہم ملاوں کی تعلیم سے ان کے دلوں میں تھے۔ یہ ایک ایسی خدمت مجھ سے نہیوں میں آئی کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ برٹش انڈیا کے تمام مسلمانوں میں سے اس کی نظریہ کوئی مسلمان دکھانبیں سکتا اور میں اس قدر خدمت کر کے جو بائیس برس تک کرتا رہا ہوں۔ اب محسن گورنمنٹ پر کچھ احسان نہیں کرتا۔“

”میں تمام امراء کی خدمت میں بطور عام اعلان کے لکھتا ہوں کہ اگر ان کو بغیر آزمائش ایسی مدد میں تامل ہو تو وہ اپنے مقاصد اور مہماں اور مشکلات کو اس غرض سے میری طرف لکھ بھیجیں۔ کہ وہ مطلب پورا ہونے کے وقت کیاں تک ہمیں اسلام کی راہ میں مالی ای مدد دیں گے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ بشرطیہ تقدیر بہرم ج نہ ہو۔ ضرور خدا تعالیٰ میری دعا سنے گا۔“

(برکات الدعا ص ۳۶، ۳۵، خزانہ نعمت ۱۹ ص ۳۶، ۳۵)

(میرے آنے سے اور میرے دعویٰ کے بعد) اور ”مسلمانوں کے باہمی تعلقات ثوث گئے اور بھائی بھائی سے اور بیٹا باب پ سے علیحدہ ہو گیا۔ سلام ترک کیا گیا۔“

(سراج منیں ص ۵۴، خزانہ نعمت ۱۲ ص ۵۶)

”دنیا میں مسلمانوں کی تعداد چورانوے کروڑ ہے۔“

(ست پچھن ص ۷۶، خزانہ نعمت ۱۰ ص ۱۵)

لے کیا کسی نبی یا ولی نے دنیا میں فروخت ہیں ہیں؟۔

ج یہ شرط خوب لگائی ہے۔ اس اشتہار کو دیکھ کر صاحب غرض اشخاص سے یتکرزوں رو پہیہ مرزا قادیانی نے وصول کر لیا۔ اسی کام بہوگئی تو رقم حاصل ہو گئی اور اگر اس کی مطلب برآ رہی نہ ہوئی تو کہہ دیا کہ تقدیر یہ مرہ مل نہیں سکتی۔ سید امیر شاہ رسالدار سے ۵۰۰ روپیے کے بیٹا پیدا ہونے کی دعا کی۔ مگر ان کا کوئی بیٹا پیدا نہ ہوا۔ اسی طرح کی بزراروں مثالیں موجود ہیں۔ قادیانی کیمپنی کا چیف ڈائریکٹر (مرزا قادیانی) لوگوں کی جیسوں پر ڈاکڑے اتنے کے فن میں پورا مشاہق تھا۔ (مؤلف)

مگر مرزا قادیانی کے زمانہ میں ”یہ تعداد چار لاکھ لے رہ گئی۔“

(پیغام صلح ص ۲۹، بخارا نج ج ۲۳ ص ۵۵۵)

”میں اپنے والد اور بھائی وفات کے بعد ایک گوشہ شین آدمی تھا۔ تاہم سترہ برس سے سرکار انگریزی کی امداد اور تائید میں اپنی قلم سے کام لیتا ہوں۔ اس سترہ برس میں جس قدر کتابیں تالیف کیں ان سب میں سرکار انگریزی کی اطاعت اور ہمدردی کے لئے لوگوں کو ترغیب دی اور جہادی ممانعت کے بارے میں نہایت منور تحریریں لکھیں اور پھر میں نے قرین مصلحت بمحض کراس امر خالفت جہاد کو عام ملکوں میں پھیلانے کے لئے عربی اور فارسی میں کتابیں تالیف کیں۔ جن کی چھپوائی اور اشاعت پر بزرگ بارہوپر خرچ ہوئے اور وہ تمام کتابیں عرب اور بادشاہ اور روم و مصر اور بغداد و افغانستان میں شائع کی گئیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ کسی نہ کسی وقت ان کا اثر ہو گا۔“ (کتاب البر ص ۲، ۷، ۸، بخارا نج ج ۱۳ ص ایضاً)

”میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت کی تائید اور حمایت میں گذر رہے۔ میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھیں ہیں اور اشتہارات شائع کئے ہیں کہ وہ رسائل اور کتابیں اکھنی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب اور مصر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے اور میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے پچھے خیر خواہ ہو جائیں اور مہدی خونی اور مسح خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دینے والے مسائل جو احمدقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں۔ ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں۔“ (تربیات القلوب ص ۱۵، بخارا نج ج ۱۵ ص ۱۵۵)

یہ حکم سن کے جو بھی لڑائی میں جانے گا  
وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا  
اک مجذہ ہے کے طور پر یہ پیش گوئی ہے  
کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے

(درشیں ص ۲۰، ضمیر تحفہ گلزاری ص ۲۸، بخارا نج ج ۷ ص ۹۷)

۱۔ باقی ۹۳ کروز چھیساں لاکھ مسلمان بوجہ انکار مرزا حسب عقادہ قادیانی کافر ہو چکے تھے۔ لہذا مرزا صاحب سے یہ بڑی خدمت اسلام ظاہر ہوئی۔  
۲۔ انہیاء کے مجذوں سے مردے زندہ ہوا کرتے تھے۔ دین حق کا بول بالا ہوا کرتا تھا۔  
ان کے مجرمے دین کی ترقی کے لئے ہوا کرتے تھے۔ (بیت حاشیہ اگلے صفحہ پر)

”آج کل یہ کوشش ہے ہورہی ہے لہ مسلمانوں نوجہاں تک ممکن ہے کم کر دیا جائے اور بدسرشت ہے مولویوں کے حکم و فتوی سے دین اسلام سے خارج کر دیئے جائیں اور اگر ہزار وجہ اسلام کی پائی جائے تو اس سے چشم پوشی کر کے ایک بیہودہ اور بے اصل ہے وجہ کفر کی نکال کر ان کو ایسا کافر خبر ایسا جائے کہ گویا وہ ہندوؤں ہے اور عیسائیوں سے بھی بدتر ہیں..... ایسے مادہ کے لوگوں کو الہام ہے بھی ہو رہے ہیں کہ فلاں مسلم کافر ہے اور فلاں مسلم جسمی ہے اور فلاں ایسا کافر میں غرق ہے کہ ہرگز بہایت پذیر نہ ہو گا اور زندگی کے جوشوں کی وجہ سے لعنتوں پر پڑا زور دیا جاتا ہے اور لعنت بازی کے لئے باہم مسلمانوں کے مبہلہ کے فتوے دیے جاتے ہیں۔“

(ازالہ ص ۹۵ خزانہ حج ۳۲۱)

”اگر کسی نے ماہواری چندہ کا عہد کا کے تین ماہ تک چندہ کے سمجھنے سے لاپرواہی کی۔ اس کا نام بھی (مریدوں سے) کاش دیا جائے گا۔“ یے (مجموعہ مشتمرات حج ۳۶۹ ص ۳۲۹)

”تھیں دوسرے فرقوں کو جو دعویٰ اسلام کرتے ہیں۔ بکھی ترک کرنا پڑے گا۔“

(تحفہ لوزادیہ میں ۷ ملخص خزانہ حج ۷۸ ص ۱۲۹)

”ریاست کابل میں ۸۵ ہزار آدمی مریں گے۔“ (احکم ۳۰ ستمبر، مخطوطات حج ۹۹ ص ۳۰۰)

(باقیہ حاشیہ کذشت صفحہ) مرزا قادیانی کے مجرے دین حق کی تذلیل کفار کی فتح و نصرت اور مسلمانوں کی ہزیست کی محل میں صادر ہوئے۔ خواجہ کمال الدین نے اپنی کتاب مجد و کامل کے صفحہ ۱۴۲ پر عالم اسلام کی تباہی کو اس پیشگوئی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ (مؤلف)

”قارئین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوشش کرنے والے کون تھے۔ ان کا سر غنہ کون تھا۔ جس نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو کافر قرار دیا اور صرف اپنی تعلیم اور بیعت کو مد ارجحات قرار دیا۔ فافہم فتدبر اے یعنی مولوی نور الدین، عبدالکریم، مرزا محمود، احسن امر وہی وغیرہ مرزا اے مولویوں کے حکم سے۔“

”یعنی انکار مرزا۔“

”یعنی..... مرزا نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہندوؤں کے لئے پیغام صلح لکھا تھا۔ مگر مسلمانوں سے جو سلوک کیا وہ اظہر من اشنس ہے۔“

””جیسے یہ الہام کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا۔ وہ مسلمان نہیں ہے۔“

(خط مرزا اہم ڈاکٹر عبدالحکیم، حقیقت الوجی ص ۱۶۳، خزانہ حج ۱۶۷ ص ۱۶۷) (باقیہ حاشیہ ۲، ۷ اگلے صفحہ پر)

انبیاء، و دیگر پیشوایان مذہب کی توہین کا نتیجہ

”اے مریز و اقدیم تجربہ اور بار بار کی آزمائش نے اس امر کو ثابت کر دیا ہے کہ مختلف قوموں کے نبیوں اور رسولوں کو توہین سے یاد گرتا اور ان کو گالیاں دینا ایک ایسی زیر لے ہے کہ نہ صرف انجام کا جسم کو ہلاک کرتی ہے۔ بلکہ روح کو بھی ہلاک کر کے دین اور دنیا دونوں کو تباہ کرتی ہے۔ وہ ملک آرام سے زندگی برسنیں کر سکتا۔ جس کے باشندے ایک دوسرے کے رہبر دین کی عیب شماری اور ازالۃ حیثیت عرفی میں مشغول ہیں اور ان قوموں میں ہرگز ہی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ جن میں سے ایک قوم یا دونوں ایک دوسرے کے نبی یا راشی اور اوتار کو بدی یا بذبانی کے ساتھ یاد کرتے رہتے ہیں۔ اپنے نبی یا پیشوای کی ہٹک سن کر کس کو جوش نہیں آتا۔“

(پیغام صلح ص ۲۲۳، خزانہ ج ۲۲۳ ص ۲۵۲)

”اور ہم لوگ دوسری قوموں کے نبیوں کی نسبت ہرگز ہم بذریانی نہیں کرتے۔“

(پیغام صلح ص ۲۲۳، خزانہ ج ۲۲۳ ص ۲۵۲)

”ومن اور اب کلمات درد رساننده در غصب آور دم والفاظ دل ۱۱“

آزار گفتہم تابا شد کہ او برائے جنگ من بر خیزد“

(اجام آنحضرت ص ۲۲۵، خزانہ ج ۱۱ ص ۲۳۵)

(ابقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ) ۱۱ مرزا قادریانی لعنت بازی میں بڑے مشاق تھے اور لعنت لکھنا اور دینا ان کا محبوب مشغله تھا۔ اپنی کتابوں میں کئی جگہ لعنت لعنت سیکنڑوں دفعہ لکھتے گئے ہیں۔ کتاب (نور الحق ص ۱۱۸، خزانہ ج ۸ ص ۱۵۸) میں بڑا روفع علیحدہ علیحدہ لعنت لکھی ہے۔ (مؤلف) یعنی غریب مسلمانوں سے چندہ لیا اور عیش کیا۔ جس نے چندہ نہ دیا وہ بیعت سے خارج یعنی کافر۔ کیا کسی نبی نے ایسی گداگری کی ہے۔ لا اسٹاکم علیہ کہنا انبیاء کی سنت ہے۔ گمراہ مرزا قادریانی نے گداگروں کی سنت پر عمل کیا۔

۱۲ یہی زہر پھیلانے کے لئے مرزا قادریانی نے انبیاء کو گالیاں دیں اور ملک کے اہن و آرام کو بر باد کیا۔ ستیار تھوڑا کاش میں چودھویں باب کا اضافہ کرایا۔ (مؤلف)

۱۳ دریں چہ شک قارئین ذرا توہین انبیاء میں مرزا قادریانی کی تہذیب اور صداقت کا ملاحظہ کر لیں۔ ایسے سفید جھوٹ کے عادی کو نبی ماننا مرزا نبیوں کا ہی کام ہے۔

۱۴ مرزا قادریانی (ازالہ ص ۳۰۰، خزانہ ج ۳ ص ۱۰۹) میں لکھتے ہیں کہ: ”جو خلاف واقعہ اور دروغ کے طور پر محض آزار رسانی کی نہ ہے سے استعمال کیا جائے اسے سب یاد شnam کہتے ہیں۔“ گویا مرزا قادریانی اپنا گالی دینا اور بد نہ تسلیم کرتے ہیں۔

”اور سخت الفاظ استعمال کرنے میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ خفتہ دل اس سے بیدار ہو جاتے ہیں۔“  
(از الہ اولہا مص ۲۶۹، خزانہ حج ص ۷۱)

”ہندوؤں کی قوم کو سخت الفاظ سے چھیڑنا نہایت ضروری ہے۔“  
(از الہ اولہا مص ۲۶۹، خزانہ حج ص ۷۱ ملخنا)

”ایسی مہذب (ہندو) قوم کی کتاب اور رشیوں کو برے الفاظ سے یاد کر کے آنحضرت ﷺ کو گالیاں دلائیں۔ ایسی گالیاں تو درحقیقت انہیں لوگوں کی طرف ہی منسوب کی جائیں گی۔“  
(پیغام ص ۷۲، خزانہ حج ص ۲۴۳)

(نوٹ ذیل میں ملاحظہ ہو) ”سخت زبانی میں یہ بات داخل ہو گی کہ ایک فریق دوسرے فریق کو ان الفاظ سے یاد کرے کہ وہ دجال ہے۔ یا ابے ایمان ہے یا فاسق ہے۔ مگر یہ کہنا کہ اس کے بیان میں غلطی ہے یا وہ خاطی یا مخطی ہے۔ سخت زبانی میں داخل نہیں ہو گا۔“  
(اصح خیر مرزا کا اشتہار حاشیہ، مجموعہ اشتہارات حج ص ۳۹۹)

### اخلاق مرزا

(اگر کوئی سخت الفاظ) ”اوہ عین محل پر چپاں اور عنده ضرورت ہو تو وہ اخلاقی حالت کے منافی نہیں ہے۔“  
(ضرورۃ الاماں ص ۷، خزانہ حج ص ۱۳)

(امام زمان) ”پر آیت انک لعلیٰ خلقِ عظیم کا پورے طور پر صادق آجانا ضروری ہے۔“  
(ضرورۃ الاماں ص ۸، خزانہ حج ص ۱۳)

بدرت ہر ایک بد سے ہے جو بذریان ہے  
جس دل میں ہے نجاست بیت الخلاء وہی ہے  
(دریں ص ۲۱، قادیانی کے آریہ اور ہم ص ۲۱، خزانہ حج ص ۲۰)

۱۔ گویا آنحضرت ﷺ کو جس قدر گالیاں آریوں نے دی ہیں وہ دراصل مرزا قادیانی اور مرزا ایوں نے دی ہیں۔

۲۔ خلق عظیم کا اندازہ اس سلوک سے ہو سکتا ہے۔ جو مرزا قادیانی نے اہل اسلام سے کیا ہے۔ جس کا ذکر اس کتاب میں دوسرا جگہ درج ہے۔ انبیاء کرام کو جس قدر گالیاں دی ہیں ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ عیسائیوں کو یہ چشم، دجال، یا جون ماجون، مردہ پرست، گوہ کھانے والے، طوانف کی طرح لعنتی وغیرہ کے لقب دیئے اور آریوں کو اپنی کتاب سرمه چشم آریہ، شمہ حق، و چشمہ معرفت میں نہایت کثرت سے گالیاں دی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک سخت فخش گالی دی کہ ”ہندوؤں کا پرمیشور ناف سے دس انگلی یینچے ہے۔“ (چشمہ معرفت ص ۱۰۶، خزانہ حج ص ۲۳)

”مولوی سعد اللہ لدھیانوی فاسق، شیطان، خبیث، منحوس، نطفہ سفہاً، رنڈی کا بیٹا اور ولد الحرام ہے۔“ (تتمہ تحقیقت الوجی ص ۱۴، خراشی ج ص ۲۲۵)

”امیر اہل حدیث محمد نذر حسین دہلوی، ابوالہب نلاق تھے۔“

(مواہب الرحمن ص ۲۷، خراشی ج ۱۹ ص ۲۸۸ ملخنا)

اسی طرح مرزا کی تمام کتابیں بد اخلاقی کام مظاہر ہیں۔

نوٹ: مرزا قادیانی کی طرح مرزا کی بھی جیسا موقع دیکھتے ہیں عمل کرتے ہیں۔ خواجہ کمال الدین مرزا کی لکھتا ہے کہ: ”شیخ یعقوب علی تراب قادیانی نے ولادت جاتے ہوئے مجھے چہاز میں کہا کہ ہمیں یعنی جماعت قادیان کو آج کبھی آگئی کغیر احمد یوں سے ہمارا اجتناب غلط ہے اور ہم اس کا امام لے کریں گے۔ میاں محمود احمد صاحب اب دوسروں کو کافر کہنے میں متامل ہیں۔ اب ضرورت ا وقت نے یا شاید کسی کے اشارہ نے انہیں مجبور کیا کہ اس مسئلہ کو چھوڑ دیا۔“

(محمد کامل ص ۶۳)

## اہل اسلام سے سلوک

”ہمارے مخالف حرامزادے ہیں۔“ (انوار اسلام ص ۳۳، خراشی ج وص ۳ ملخنا)

”مسلمان جنگلوں کے سور اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔“

(ثجم الہدی ص ۱۰، خراشی ج ۱۳ ص ۵۳)

علمائے اسلام کی شان میں یوں گوہر افشاںی فرمائی۔ اے بذات فرقہ مولویان، اندھیرے کے کیڑو، اندھے، نیم دہریہ، ابوالہب، جنگل کے وحشی، ناپکار، پلید، دجال، بد بخت، مفتر یو، اغمی، اشرار، اوباش، پلید طبع، بذات، بد چلن، باطنی جذام، ثعلب چوہڑے پھمار، حقاء، یہودیت کا خمیر رکھنے والے، خنزیر سے زیادہ پلید، خالی گدھے، دل کے مجدوم، ذوموں کی طرح مسخرہ ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوس چہروں اور بندروں کی طرح کر دیں گے۔ زنداق، سگ پیگان، رئیس الدجالین، رو سیاہ، رو باد بazar، رأس المعتدین، رأس الغاویں، سفلی ملا بے بصر، سانپی، سفہاء، شریر، مکار، طالع منحوس، عقارب، غول الانغوی، فہمت یا عبد الشیطان، کتے، کنیہ ور، کہما مادر زاد اندھے، گندی روحو، منافق مخدوں، مجبور، مجنون، درندہ، مگس، طیشیت، مولویوں کی بک بک، نجاست سے بھرے ہوئے۔ وحشی طبع، بامان، بالکین، ہندوززادہ، علیہم تعالیٰ لعن اللہ

۱ مسلمانوں کو ایسے منافق اور چال باز پارٹی سے ہوشیار رہنا چاہئے۔

## الف۔ الف مرہ۔ (نقل از عصائی موسیٰ)

نوٹ: مرزا قادیانی نے اپنے تمام مخالفین کو ذریتی الجایا قفر اردیا اور بغایا کا ترجمہ کتاب (بجتہ النور ص ۲۵، خزانہ ج ۱۶ ص ۳۷۲) پر زنان بائے زانیہ اور (ص ۹۲، خزانہ ج ۱۶ ص ۲۲۸) پر زنان بازی اور (ص ۹۵، خزانہ ج ۱۶ ص ۳۳۱) پر زنان فاحشہ کیا ہے۔ مرزا قادیانی نے ہزار ہما مقدس انسانوں کی ماڈل کو ایسی گندہ گالی دی ہے اور ایک ایسا الزام لگایا ہے۔ جس کی بناء پر وہ شریف انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہو سکتے۔

مرزا محمد قادیانی فرماتے ہیں کہ: ”تمام اہل اسلام کا فرخار ج از دائرہ اسلام ہیں۔“  
(آنیہ صداقت ص ۳۵)

”کسی مسلمان کے چیھپے نماز جائز نہیں۔“  
(انوار غلافت ص ۹۰)

”مسلمانوں سے رشتہ و ناطق جائز نہیں۔“  
(برکات خلافت ص ۳۴۵ ۲۷ ملخنا)

”کسی مسلمان کے بچے کا بھی جنازہ نہ پڑھو۔“  
(انوار غلافت ص ۹۳ ۲۷ ملخنا)

”اب مُسْعَ (مرزا قادیانی) اس لئے آیا کہ اپنے مخالفین کی کموت کے گھاث اتارے۔“  
(عرفان الہی ص ۹۲)

”اللہ تعالیٰ نے آپ (مرزا قادیانی) کا نام عیسیٰ رکھا ہے۔ تاکہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہودیوں نے سولی پر لٹکایا تھا۔ مگر آپ اس زمانہ کے یہودی صفت لوگوں کو سولی پر لٹکائیں۔“  
(قدریۃ الہی ص ۲۹)

۱۔ مسلمان درود ہزاری پڑھتے ہیں اور مرزا قادیانی کی زبان و قلم سے بجائے درود ہزارہ کے ہزار ہزار لغتیں نکلتی ہیں۔

۲۔ ۱۹۲۳ء میں بمقام بھیرہ مرزا یوں نے ایک مسلمان کو بے گناہ قتل کر دیا تھا۔ حال ہی میں بمقام ذیرہ باباناں کم مسلمانوں کے سروں کی اینٹوں اور لاٹھیوں سے مرزا یوں نے تو اپن کی جلسہ اسلامیہ کے موقعہ پر بمقام قادیان نہتے بے گناہ مسافروں کو زد کوب کیا گیا اور جہاد بالسیف کو حرام کرنے والوں نے جہاد بالاٹھی پر عمل کر کے گیس لیپ پر اپنی وقت صرف کر دی۔ کار کنان مبارکہ پر جس قد علم عظیم ہوا اس کی حقیقت دنیا پر آشکارا ہے۔ ان کے مکان جلا دیئے گئے اور ان کے ایک فردمستری محمد دین کو مرزا محمد کے خاص مرید نے قتل کر دیا۔ غرض اس جماعت کی سفارکیاں دن بدن ناقابل برداشت صورت اختیار کر رہی ہیں۔ قادیانی میں کسی مسلمان کا مال وجہان و آبر و محفوظ نہیں۔ (۰۰۷)

”ساری دنیا ہماری ٹھنڈی ہے۔ ہب تک ایک شخص خواہ وہ ہم سے کتنی ہی ہمدردی کرنے والا ہو۔ پورے طور پر احمد کی نیکیں ہو جاتا۔ وہ ہمارا اٹھنے ہے۔ ہماری بھائی کی صرف ایک صورت ہے۔ وہ یہ کہ تمام دنیا کو اپنا دشمن سمجھیں۔ تاک ان پر غالب آئے کی کوشش کریں۔ شکاری وکھنی غافل نہ ہونا چاہئے اور اس امر کا برادر خیال رکھنا چاہئے کہ شکار بھاگ نہ جائے یا ہم پر ہی حملہ نہ کرو۔“ (تقریر مرحومہ ارشاد اللہ ۲۵ اپریل ۱۹۳۰ء)

”خطبہ الہامیہ میں صحیح میعود (مرزا قادیانی) نے آنحضرت کی بعثت اول اور ثانی کی باہمی نسبت و بدل اور بدلتے تجسس فرمایا ہے۔ جس سے ازم آتا ہے کہ بعثت ثانی کے کافر (یعنی مرزا کے نہ مانتے اے مسلمان) بعثت اول کے کافروں (کفار عرب) سے بڑھ کریں۔“ (الفضل نج ۳ ص ۱۰، سورہ نہ ۱۵، رج ۱۹۱۵ء)

### مرزا نیت کی ترقی کے اسباب

”اگر انگریزی سلطنت کی توارکا خوف نہ ہوتا تو ہمیں بکڑے بکڑے کر دیتے۔ لیکن یہ دولت برطانیہ غالب اور ہا ساست جو ہمارے لئے مبارک ہے۔ خدا اس کو ہماری طرف سے جزاے خیر دے۔“ (نور الحنف ص ۲، حصہ اول، خزانہ نج ۸ ص ۶)

”سوائر نے مجھے بھیجا اور میں اس کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک ایسی گورنمنٹ کے سایہ رحمت میں جلدی۔ جس کے زیر سایہ میں بڑی آزادی سے اپنا کام فتحیت اور وعظیل کا ادا کر رہا ہوں۔ اگرچہ اس محسن گورنمنٹ کا ہر ایک پر رعایا میں سے شکر واجب ہے۔ مگر میں خیال کرتا ہوں کہ مجھ پر سب سے زیادہ واجب ہے۔ کیونکہ یہ میرے اعلیٰ مقاصد جو جناب قیصر ہند کی حکومت کے سایہ کے نیچے انجام پذیر ہو رہے ہیں۔ ہرگز ممکن نہ تھا کہ وہ کسی اور گورنمنٹ کے زیر سایہ انجام پذیر ہو سکتے۔ اگرچہ وہ کوئی اسلامی گورنمنٹ ہی ہوتی۔“ (تجدد قیصرہ ص ۲۷، خزانہ نج ۱۲ ص ۲۸۲، ۲۸۳)

”اکثر دور کے مسافروں کو اپنے پاس سے زادراہ دیتے ہیں۔ چنانچہ بعض کوئیں میں یا چالیس لے چالیس روپیہ دینے کا اتفاق ہوا ہے اور دو دو چار چار تو معمول ہے۔“

(اشتہار انٹوائے جلسہ ماحقہ شہادۃ القرآن، خزانہ نج ۶ ص ۳۹۹)

”انگریزوں نے ہمارے دین کو ایک قسم کی وہ مدد دی ہے کہ جو ہندوستان کے اسلامی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں آ سکی۔“ (ضرورۃ الامام ص ۲۳، خزانہ نج ۱۳ ص ۳۹۳)

”اگر برائیں احمد یہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد نافی کا کچھ بھی ذکر نہ ہوتا اور صرف میرے مسح موعود ہونے کا ذکر ہوتا تو وہ شور جو سالہاں سال بعد پڑا اور تکفیر کے فتوے تیار ہوئے یہ شور اسی لی وقت پڑ جاتا۔“ (اعجاز احمدی ص ۹ خزانہ ج ۱۹ ص ۱۱۵)

”پھر میں بارہ برس تک جو ایک زمانہ دراز ہے۔ بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ خدا نے مجھے بڑی شدود میں مسح موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد نافی کے رسمی عقیدہ پر جمارتا۔ جب بارہ برس گذر گئے تب وہ وقت آگیا جس کے میرے پر اصل حقیقت کھول دی جائے۔ تب تو اتر سے اس بارہ میں الہامات شروع ہوئے کہ تو ہی مسح موعود ہے۔“ (اعجاز احمدی ص ۷ خزانہ ج ۱۹ ص ۱۱۳)

”مجھے اس گورنمنٹ کی پر امن (برطانیہ) سلطنت اور ظل حمایت میں جو دل خوش ہے۔ نہ مکہ میں ہے، نہ مدینہ میں، نہ روم میں، نہ شام میں، نہ کابل میں، نہ ایران میں۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۲۰ ص ۳۷۰ حاشیہ)

### گورنمنٹ کو مسلمانوں سے بدظن کیا

”حسین کا می سفیر روم قادیان میں میری ملاقات کے لئے آیا اور اس نے مجھے اپنی گورنمنٹ کے اغراض سے مخالف پا کر ایک سخت مخالفت ظاہر کی۔ وہ تمام حال بھی میں نے اپنے اشتہار رموز ۲۲ مئی ۱۸۹۷ء میں شائع کر دیا ہے۔ وہی اشتہار تھا جس کی وجہ سے بعض مسلمان

لے مرزا نے حکمت عملیوں سے اسلام کے لباس میں آہستہ آہستہ اپنا اثر قائم کیا۔ درجہ با درجہ دعاوی کا اظہار کیا۔ پہلے مصلح قوم بنے۔ پھر مجدد، پھر مہدی اور پھر مسح اور آخر کار اعلانیہ دعویی نبوت کر دیا۔ سادہ لوح عوام بتدریج مرزا کی عقاں کو قبول کرتے گئے۔ (مؤلف)

۲۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ ”میں اپنے وحی یا الہام میں ذرا بھر بھی شک کروں تو کافر ہو جاؤ۔“ (تجیبات الہمہ ص ۲۰، خزانہ ج ۲۰ ص ۳۱۲) مگر اس جگہ اقرار کرتے ہیں کہ بارہ برس کافر رہے۔ اب مرزا کی کسی منہ سے لبشت فیکم عمرًا والا استدلال پیش کرتے ہیں؟ کیا مرزا کی کافر ان زندگی صداقت کی دلیل ہے؟

۳۔ یعنی زمین تیار ہو چکی۔ عقل کے انہوں کی جماعت قائم ہو چکی۔ مرید یہ معتقد ہیں کہ جماعت ہو گیا اور حالات موافق ہو گئے۔ نیز اس عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ وفات مسح کا عقیدہ صرف الہام کی بناء پر ہے۔ ورنہ قرآن و حدیث میں کسی جگہ وفات مسح کا ذکر نہیں۔ ورنہ مرزا قادیانی پہلے ہی متنبہ ہو جاتے۔ (مؤلف)

ایڈیٹر وو نے بڑی مخالفت ظاہری اور بڑے جوش میں آ کر مجھ کو گالیاں دیں کہ یہ شخص سلطنت انگریزی کو سلطان روم پر ترجیح دیتا ہے اور وہی سلطنت کو قصور و ارتکبراتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس شخص پر خود قوم اس کی ایسے ایسے خیالات رکھتی ہے اور نہ صرف اختلاف اعتماد کی وجہ سے بلکہ سرکار انگریزی کی خیر خواہی کے سبب سے بھی مامتوں کا نشانہ بن رہا ہے کیا اس کی نسبت یہ ظن ہو سکتا ہے کہ وہ سرکار انگریزی کا بد خواہ ہے؟۔ یہ بات ایک ایسی واضح تھی کہ ایک بڑے نے بڑے دشمن کو بھی جو محمد حسین بیلوی ہے۔ اپنی شبادت کے وقت میری نسبت بیان کرنا پڑا۔۔۔ کہ یہ سرکار انگریزی کا خیر خواہ اور سلطنت روم کا مخالف ہے۔” (کتاب البر یص ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۴ ص ۹، ۱۰، ۱۱)

”میں نے اپنی تالیف کردہ کتابوں میں اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ جو کچھ نادان مولوی تلوار کے ذریعہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ امر پچ مذہب کے لئے دوسرے رنگ میں گورنمنٹ برطانیہ میں حاصل ہے۔ مسلمان لوگ ایک خونی مسج کے منتظر تھے اور نیز ایک خونی مہدی کی بھی انتظار کرتے تھے اور یہ عقیدے اس قدر رختر ناک ہیں کہ ایک مفتری کا ذب مہدی موعود کا دعوی کر کے ایک دنیا کو خون میں غرق کر سکتا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں میں اب تک یہ خاصیت ہے کہ جیسا وہ ایک جہاد کی رغبت دلانے والے فقیر کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ شاید وہ ایسی تابعداری با دشائی کی بھی نہیں کر سکتے۔ پس خدا نے چاہا کہ یہ مغلط خیالات دور ہوں۔ اس لئے مجھے مسج موعود اور مہدی موعود کا خطاب دے کر میرے پر ظاہر فرمایا کہ کسی خونی مہدی یا خونی مسج کا انتظار کرنا سرا سر غلط ہے۔۔۔ افسوس کہ جس وقت سے میں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ خبر سنائی ہے کہ کوئی خونی مہدی یا خونی مسج دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔۔۔ اس وقت سے یہ نادان مولوی مجھ سے بعض رکھتے ہیں اور مجھ کو کافر اور دین سے خارج لکھ رہاتے ہیں۔ عجب بات یہ ہے کہ یہ لوگ بنی نوع کی خون ریزی سے خوش ہوتے ہیں۔“

(تحمیق یص ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ ص ۲۶۲، ۲۶۳)

”بعض نادان مسلمانوں کا چال چلن اچھا نہیں اور نادانی کی عادات ان میں موجود ہیں۔ جیسا کہ بعض دشمن مسلمان ظالمانہ خون ریزیوں کا نام جبار رکھتے ہیں۔“

(تحمیق یص ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴ ص ۲۸۰)

”مسلمانوں میں دو مسئلے نہایت خطرناک اور سرا سر غلط ہیں۔ کوہ دین کے لئے تلوار کے جہاد کو اپنے مذہب کا ایک رکن سمجھتے ہیں اور اس جنون سے ایک بے گناہ کو قتل کر کے ایسا خیال کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے بڑے ثواب کا کام کیا ہے اور گواں ملک برلش اندیا میں یہ عقیدہ اکثر

مسلمانوں کا اصلاح پذیر ہو گیا ہے اور ہزار ہا مسلمانوں کے دل میری بائیس تھیں سال کی کوششوں سے صاف ہو گئے ہیں۔ لیکن اس میں کچھ ٹنک نہیں کہ بعض غیر ممالک میں یہ خیالات اب تک سرگرمی سے پائے جاتے ہیں۔ گویا ان لوگوں نے اسلام کا مفہوم اور عطر لڑائی اور جر جو ہی سمجھ لیا ہے..... افسوس کہ یہ عیوب غلط کار مسلمانوں میں اب تک موجود ہے۔ جس کی اصلاح کے لئے میں نے پچاس ہزار سے کچھ زیادہ اپنے رسائلے اور مبسوط کتابیں اور اشتہارات اس ملک اور غیر ملکوں میں شائع کئے ہیں اور امید رکھتا ہوں کہ جلد تر ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اس عیوب سے مسلمانوں کا دامن پاک ہو جائے گا۔ دوسرا عیوب ہماری قوم مسلمانوں میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک ایسے خونی مسح اور خونی مہدی کے منتظر ہیں جو ان کے زعم میں دنیا کو خون سے بھردے گا۔

(ستارہ قصیریہ ص ۹، ۱۰، ۱۱، خزانہ حج ۱۵ ص ۱۲۱، ۱۲۰)

”اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا مذہبی تعصب ان کے عدل و انصاف پر غالب آ گیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی جہالت سے ایک ایسے خون خوار مہدی کی انتظار میں ہیں کہ گویا وہ زمین کو مخالفوں کے خون سے سرفراز کر دے گا اور نہ صرف بھی بلکہ یہ بھی ان کا خیال ہے کہ حضرت مسح علیہ السلام بھی آسمان سے اس غرض سے اتریں گے کہ جو مہدی کے ہاتھ سے یہود و نصاری زندہ رہ گئے ہیں ان کے خون سے بھی زمین پر ایک دریا بہادیں گے۔“ (شہادۃ القرآن ص ۸۵، خزانہ حج ۶ ص ۳۸۱)

”بعض صاحبوں نے مسلمانوں میں اس مضمون کی بابت..... اعتراض کیا اور بعض نے خطوط سچیے اور بعض نے سخت اور درشت لفظ بھی لکھے کہ انگریزی عمدہ اری کو دوسری عمدہ اریوں پر کیوں ترجیح دی۔“ (شہادۃ القرآن ص ۹۶، خزانہ حج ۶ ص ۳۹۲ حاشیہ)

”ان لوگوں (مسلمانوں) کے مخفی اعتقداد اگر دیکھنے ہوں تو صدقیق حسن کی کتابیں دیکھنی چاہیں۔ جن میں وہ نہ عوذ باللہ۔ ملکہ معظمہ کو بھی مہدی کے سامنے پیش کرتا ہے اور نہایت برے اور گستاخی کے الفاظ سے یاد کرتا ہے۔ جن کو ہم کسی طرح اس جگہ نقل ع نہیں کر سکتے۔ جو

---

۱۔ نوعہ باللہ کا لفظ قابل غور ہے گویا ایسا خیال کرنا بھی یا ایسے خیال کو بھی نقل کرنا اللہ کا غصب لا تا ہے۔ مرزا یوں کے نزدیک یہ کلمہ کفر کا ہو گا۔ (مؤلف)

۲۔ ہاں ربِ اندن کی توبین کے ذکر سے کلیچ شق ہوتا ہو گا۔ مگر کتاب البریہ میں عیسائیوں اور آرایوں کے وہ تمام کو اس اور گالیاں جوانہبیوں نے اپنی اتصانیف میں اسلام اور داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں۔ بغیر نوعہ باللہ کہنے نہایت بے حیائی سے نقل کر دی ہیں۔ مؤلف

چاہے ان کی کتابوں کو دیکھ لے یہ ہی صدیق سن ہے۔ جس کو محمد حسین نے مجدد بنایا ہوا تھا۔ بھلا کیونکر اور کس طرح سے اپنے مجدد سے ان کی رائے الگ ہو سکتی ہے۔۔۔ اب ان کی متفاہض کتابیں جو گورنمنٹ کے سامنے کچھ بیان ہیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اندر ورن ججرے کچھ بیان یہ ان کے متفاقانہ طریق کو ثابت کر رہی ہیں اور متفاق خدا کے نزدیک بھی ذلیل ہوتا ہے اور خلق کے نزدیک بھی یہی لوگ درحقیقت مشکلات میں ہیں۔ ان کے تو کئی عقیدے گورنمنٹ کے مصالح کے برخلاف ہیں۔ اب اگر متفاقانہ طریق اختیار نہ کریں تو کیا کریں۔“

(اعجاز احمدی ص ۳۲، خزانہ نج ۱۹ ص ۱۳۵، ۱۳۳)

”بار بار اصرار ان (علماء) کا اسی بات پر ہوتا ہے کہ یہ ملک دار الحرب ہے اور اپنے دلوں میں جہاد کرنا فرض سمجھتے ہیں۔۔۔ جو شخص اس عقیدہ جہاد کو نہ مانتا ہو اور اس کے برخلاف ہو۔ اس کا نام دجال رکھتے ہیں اور واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ میں بھی مدت سے اس فتویٰ کے نیچے ہوں اور مجھے جو اس ملک کے بعض مولویوں نے دجال اور کافر قرار دیا اور گورنمنٹ برطانیہ کے قانون سے بھی بے خوف ہو کر میری نسبت ایک چھپا ہوا فتویٰ شائع کیا کہ یہ شخص واجب القتل ہے اور اس کا مال لوٹا بلکہ عروتوں کو نکال کر لے جانا بڑے ثواب ہے۔ کامو جب ہے۔ اس کا سبب کیا؟۔۔۔ یہی تو تھا کہ میرا مسیح موعود ہونا اور ان کے جہادی مسائل کے مخالف وعظ کرنا اور ان کے خونی مسیح اور خونی مہدی کے آنے کو جس پر ان کو لوث مار کی بڑی بڑی امیدیں تھیں۔۔۔ سراسر باطل نہ ہر ان ای ان کے غضب اور عداوت کا موجب ہو گیا۔“ (رسالہ جہاد ص ۷، خزانہ نج ۱۹ ص ایضاً)

”اپنی محنت گورنمنٹ کی خدمت میں کچھ گذارش کرنا چاہتا ہوں۔۔۔ وہ مولوی جن کے عقائد میں یہ بات داخل ہے کہ غیر مذہب کے لوگوں اور خاص کر عیسائیوں کو قتل کرنا موجب ثواب عظیم ہے اور اس سے بہشت کی وہ عظیم الشان نعمتیں ملیں گی کہ وہ نہ نماز سے مل سکتیں ہیں۔۔۔ نہ جس سے نہ زکوٰۃ سے اور نہ کسی اور نیکی کے کام سے۔۔۔ مجھے خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ در پردہ عوام الناس کے کان میں ایسے وعظ پہنچاتے رہتے ہیں۔۔۔ آخر دن رات ایسے وعظوں کوں کران لوگوں کے دلوں پر جھویوانات میں اور ان میں کچھ تھوڑا ہی فرق ہے۔۔۔ بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور وہ درندے ہو جاتے ہیں اور ان میں ایک ذرہ رحم باقی نہیں رہتا اور ایسی بے رحمی سے خوزیریاں کرتے ہیں۔۔۔ جن سے بدن کا نپٹا ہے اور اگرچہ سرحدی اور افغانی ملکوں میں اس قسم کے مولوی بکثرت بھرے پڑے ہیں۔۔۔ جو ایسے وعظ کیا کرتے ہیں۔۔۔ مگر میری رائے تو یہ ہے کہ پنجاب اور ہندوستان بھی ایسے

۔۔۔ جھوٹ اور افتراء کیا کوئی مرزا کی ان الفاظ میں چھپا ہوا فتویٰ دے سکتا ہے۔ مولف

مولویوں سے خالی نہیں۔ اگر گورنمنٹ عالیہ نے یہ یقین کر لیا ہے کہ اس ملک کے تمام مولوی اس قسم کے خیالات سے پاک اور مبرائیں تو یہ یقین بے شک ہے نظر ثانی کے لائق ہے۔ میرے نزدیک اکثر مسجد نشیں نادان مغلوب الغصب ملائیے ہیں کہ ان گندہ خیالات سے بری نہیں ہیں..... میں تجھ تجھ کہتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کے احسانات کو فراموش کر کے اس عادل گورنمنٹ کے چھپے ہوئے دشمن ہیں۔“ (رسالہ جہاد ص ۱۹، ۲۰، خزانہ انج ۷ اص ایضا)

”بعض مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ بجائے اس کے وہ اپنے دشمنوں سے پیار کریں۔  
ناحق ایک قابل شرم مذہبی بہانہ سے دیے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔“

(رسالہ جہاد کا ضمیر بنام و ائمہ رائے ص ۲۵، خزانہ انج ۷ اص ایضا)

”گورنمنٹ کے یہ سلوک اور احسان میں مسلمانوں کی طرف سے اس کا عوض یہ دیا جاتا ہے کہ ناحق بے گناہ بے قصور ان حکام کو قتل کر دیتے ہیں۔ جو دن رات انصاف کی پابندی سے ملک کی خدمت میں مشغول ہیں۔“ (ضمیر رسالہ جہاد بنام و ائمہ رائے ص ۲۲، خزانہ انج ۷ اص ایضا)

### متضاد دعاوی

#### شد پریشان خواب من از کثیرت تعبیرها

- |                                                       |                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (اشتہار برائیں احمدیہ، مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۲۲)      | .... ۱ ..... مجدد۔                           |
| (از الہ او بام ص ۲۴۵، ۲۴۶، خزانہ انج ۳۲ ص ۴۷۸)        | .... ۲ ..... محدث۔                           |
| (از الہ او بام ص ۲۵۵، خزانہ انج ۳۳ ص ۴۷۱)             | .... ۳ ..... مهدی آخرازمان۔                  |
| (از الہ او بام ص ۲۶۱، ۲۶۲، خزانہ انج ۳۳ ص ۴۷۰)        | .... ۴ ..... مسیح موعود۔                     |
| (ضرورۃ الاماں ص ۲۶۲، خزانہ انج ۳۳ ص ۴۷۲)              | .... ۵ ..... امام الزمان۔                    |
| (اشتہار ایک غلطی کا ازالہ ص ۲۶۲، خزانہ انج ۱۸۱ ص ۴۷۶) | .... ۶ ..... نبی۔                            |
| (حقیقت الوجی ص ۸۶، خزانہ انج ۲۲ ص ۴۷۷)                | .... ۷ ..... خدا کے لئے بمنزلہ بیٹا ہونے کے۔ |

۱۔ کیا چشم فلک نے اس سے بڑھ کر اپنی قوم سے خداری کی مثال پیش کی ہے۔ اس بظاہر ٹوڈی اعظم اور جاؤں اعظم بلکہ در پرده برطانیہ کے سب سے بڑے دشمن کا بس چلتا تو ایک مسلمان بھی زندہ نظر نہ آتا۔ تمام علماء کو بچاؤ دی جاتی۔ تب اسے صبر و فرار حاصل ہوتا۔ غدر کے بعد سے اب تک حکومت برطانیہ کی بندوں نواز پالیسی اور مسلمانوں کو ہر میدان میں ٹھکرایا ہے کی ذمہ داری اسی (مرزا قادیانی) پر عائد ہوتی ہے۔ اب تک انگریزوں کے دل مسلمانوں سے صاف نہیں ہوئے۔ مسلمانوں کی ہر طرح کی بر بادی کا ذمہ دار ہی صحن بن صلاح ثانی ہوا ہے۔ (مؤلف)

۸	اللہ تعالیٰ کے پانی (نطفہ) سے۔ (اربعین نمبر ص ۷۷، خزانہ ح ۷۴ ص ۳۸۵)
۹	میں نے خواب میں دیکھا کہ ہو بہو اللہ ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ (آئینہ کمالات ص ۵۶۲، خزانہ ح ۵۵ ص ایضاً)
۱۰	خدا کہتا ہے اے مرزا تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ (تذکرہ ص ۳۲۲)
۱۱	میں فتح صور ہوں۔ (شہادۃ القرآن ص ۶۲، خزانہ ح ۶۲ ص ۳۶۰)
۱۲	امین الملک جے سنگھ بہادر۔ (البشری ص ۱۱۸، تذکرہ ص ۲۷۲)
۱۳	رو در گوپاں کرشم۔ (لیچھریا لکوٹ ص ۳۲، خزانہ ح ۲۰ ص ۲۲۹)
۱۴	آریوں کا بادشاہ۔ (تذکرہ ص ۳۸۱)
۱۵	حجر اسود متم۔ (تذکرہ ص ۳۶)
۱۶	منم محمد۔ (تریاق القلوب ص ۳، خزانہ ح ۱۵ ص ۱۳۶)
۱۷	احمر۔ (تریاق القلوب ص ۳، خزانہ ح ۱۵ ص ۱۳۶)
۱۸	منم کلیم خدا۔ (تریاق القلوب ص ۳، خزانہ ح ۱۵ ص ۱۳۶)
۱۹	میں بھی موی۔ (حقیقت الوجی ص ۷۳، حاشیہ، خزانہ ح ۲۲ ص ۷۶)
۲۰	کبھی یعقوب ہوں۔ (آدم نیز احمد مختار۔ دربرم جامہ ہمسا ابرار۔ حارث احراث۔ مرسل
۲۱	حارث احراث۔ (نزول الحسم ص ۹۹، خزانہ ح ۱۸ ص ۷۲)
۲۲	حارث احراث۔ (ازالہ او بام ص ۷۷، حاشیہ، خزانہ ح ۳۳ ص ۱۳۱)
۲۳	حارث احراث۔ (شہادۃ القرآن ص ۲۲، خزانہ ح ۲۲ ص ۳۲۰)
۲۴	حارث احراث۔ (تذکرہ ص ۳۸۲)
۲۵	سلیمان۔ (اربعین نمبر ص ۲۵، حاشیہ، خزانہ ح ۷۴ ص ۳۱۳)
۲۶	میکائیل۔ (تذکرہ ص ۱۰۵)
۲۷	فیک مادہ فاروقیہ۔ (کن فیکوںی اختیارات کا مالک۔ ابراہیم۔ خاسار، پیغمبر منہ۔ میثیل مسیح۔ میں نور ہوں، مجدد ماموروں۔
۲۸	(اربعین نمبر ص ۲۵، حاشیہ، خزانہ ح ۷۴ ص ۳۱۳)
۲۹	(تذکرہ ص ۲۰۳)
۳۰	(تذکرہ ص ۵۲۷)
۳۱	(ازالہ او بام ص ۱۹۰، خزانہ ح ۳۳ ص ۱۹۲)
۳۲	(تذکرہ ص ۳۱)
۳۳	(تذکرہ ص ۳۱)

- منصور ہوں، مہدی معمود اور مسیح موعود ہوں۔ مجھے کسی کے ساتھ قیاس مت کرو۔ ..... ۳۴  
 میں معزز ہوں۔ جس کے ساتھ چھلکا نہیں۔ ..... ۳۵  
 اور وحی جس کے ساتھ نہیں۔ ..... ۳۶  
 اور سورج ہوں جو کادھواں نہیں چھپا سکتا۔ ..... ۳۷  
 میرا قدم ایک ایسے منارہ پر ہے۔ جس پر ہر ایک بلندی ختم کر دی گئی ہے۔ ..... ۳۸

(خطبہ الہامیہ ص ۵۳۶۵، خزانہ حج ۱۲ ص ایضاً)

- برہمن اوتار۔ ..... ۳۹  
 (البشری ح ۲۰ ص ۱۱، تذکرہ ص ۲۵۲)  
 شیر خدا۔ ..... ۴۰  
 (البشری ص ۱۱۸، تذکرہ ص ۲۷۲)  
 مصلح۔ ..... ۴۱  
 (مقدمہ برائین ص ۱۲۷، خزانہ حج ۱۲ ص ۱۲۱)  
 مستقل تشریعی نبی۔ ..... ۴۲  
 (اربعین نمبر ۳ ص ۶، خزانہ حج ۷ ص ۳۳۵)  
 تمام انبیاء سابقین سے افضل۔ ..... ۴۳  
 (حقیقت الوجی ص ۱۳۶، خزانہ حج ۲۲ ص ۵۷۸)  
 میں شیخ ہوں۔ ..... ۴۴  
 میں نوح ہوں۔ ..... ۴۵  
 میں اسحاق ہوں۔ ..... ۴۶  
 میں اسماعیل ہوں۔ ..... ۴۷  
 میں داؤد ہوں۔ ..... ۴۸  
 (حقیقت الوجی ص ۲۷، خزانہ حج ۲۲ ص ۲۷۶، حاشیہ بزرگ مصیح ص ۲۸۲، خزانہ حج ۱۸ ص ۳۸۲ ملخصاً)  
 میں یوسف ہوں۔ ..... ۴۹  
 (خزانہ حج ۲۲ ص ۲۷ ملخصاً)  
 پہلے خدا نے میرانام مریم رکھا۔ ..... ۵۰  
 (حقیقت الوجی ص ۲۷، خزانہ حج ۲۲ ص ۵۷ حاشیہ)  
 خدا نے اپنے الہامات میں میرانام بیت اللہ بھی رکھا ہے۔ ..... ۵۱  
 (اربعین نمبر ۳ ص ۱۵، خزانہ حج ۷ ص ۳۳۵ حاشیہ)

نوٹ: مولوی محمد بشیر کوٹلوی نے خوب لکھا ہے کہ: بھی احمد، بھی آدم، بھی عیسیٰ، بھی مریم۔ یہ استقلال نہ ہونا ہی جھوٹوں کی نشانی ہے۔ مرزا یوں کے تمام فرقوں کو چیلنج ہے کہ وہ مرزا قادیانی کا دعویٰ متعین کر دیں کہ وہ کون تھے کیا تھے اور ان کا خاص دعویٰ کیا تھا۔ آج تک کسی نبی کے پیروؤں میں اپنے ہادی کا دعویٰ متعین کرنے میں اختلاف رونما نہیں ہوا۔ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد آج تک لاہوری، واروپی، قادیانی، گنا چوری، تیکاپوری، چن بسویشوری وغیرہ۔ وہ صرف مرزا قادیانی کے اصل دعویٰ پر ہی بھگڑ رہے ہیں۔ دراصل مرزا قادیانی کے دعاویٰ اس کثرت سے ہیں کہ امت مرزا یہ میں ان کی بناء پر اختلاف کا ہونا لازمی امر تھا۔ دنیا کا کوئی عہدہ یا عزت ایسی نہیں۔ جسے حاصل کرنے کے لئے مرزا قادیانی نے سمجھی نہ کی ہو۔

## متضاد اقوال

ابطور نمونہ چند اقوال ذیل ہیں کہ:

..... ۱ ..... مسح کی قبرگلیل میں ہے۔

(ازالص ۲۷، خزانہ ج ۳ ص ۳۵۳)

..... ۲ ..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بادشاہ میں ہے۔

(ست پن حاشیہ ص ۱۶۲، خزانہ ج ۱۰ ص ۳۰۹)

..... ۳ ..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے۔

(راز حقیقت ص ۱۹، خزانہ ج ۱۳ ص ۱۸۲، ۱۷۱)

..... ۴ ..... دجال دہری لوگ ہیں۔ (تحفہ گلودیم ۲۷، احادیثہ خزانہ ج ۷ ص ۲۲۳)

..... ۵ ..... باقبال قویں دجال ہیں اور ریل ان کا گدھا ہے۔ (ازالص ۱۳۶، خزانہ ج ۳ ص ۱۷۲)

(ازالص ۲۲، خزانہ ج ۳ ص ۳۸۸)

..... ۶ ..... پادری دجال ہیں۔ (ازالص ۲۲، خزانہ ج ۳ ص ۳۱۱)

..... ۷ ..... ابن صیاد ہی لے دجال ہے۔ (خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ہرگز بدل نہیں سکتا۔“)

(کرامات الصادقین ص ۸، خزانہ ج ۷ ص ۵۰)

..... ۸ ..... ”خدا اپنے خاص بندوں کے لئے اپنا قانون بھی بدل لیتا ہے۔“

(چشمہ معرفت ص ۹۶، خزانہ ج ۲۳ ص ۱۰۳)

..... ۹ ..... ”مسح موعود اپنے وقت پر اپنے نشانوں کے ساتھ آ گیا۔“

(ازالص اوہام ص ۲۱۳، خزانہ ج ۳ ص ۱۵۳ ملختا)

..... ۱۰ ..... ”اس عاجز نے جو مثیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ مسح موعود خیال کر

..... ۱۱ ..... بیٹھے ہیں ..... میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ مسح بن مریم ہوں جو شخص یہ الزام میرے پر لگادے۔ وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے۔“

(ازالص ۱۹۰، خزانہ ج ۳ ص ۱۹۲)

..... ۱۲ ..... ”ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور دس ہزار بھی مثیل مسح آ جائیں۔“

(ازالص ۱۹۹، خزانہ ج ۳ ص ۱۹۷)

..... ۱۳ ..... ”آئے والے مسح کے لئے ہمارے سید و مولانا نے نبوت کی شرطیں نہیں نہیں۔“

(وضع المرامہ ص ۷، خزانہ ج ۳ ص ۵۹)

..... ۱۴ ..... کیا یہی وہ حقیقت ہے جو آنحضرت ﷺ پر بقول مرزا منکشف نہ بھی تھی اور مرزا پر

..... ۱۵ ..... موجود منکشف ہوئی۔ صرف دجال کی حقیقت کے متعلق چار مختلف اقوال مرزا کے موجود ہیں۔

- ”وہ اپن مریم جو آنے والا ہے کوئی نبی نہیں ہو گا۔“ (ازالیں ۲۹، خزانہ ان ح ۳ ص ۲۸۹)
- ”جس آنے والے مسح موعود کا حدیثوں سے پڑھتا ہے اس کا انہی حدیثوں سے یہ نشان دیا گیا ہے کہ وہ نبی بھی ہو گا۔“ (حقیقت الوجی ص ۲۹، خزانہ ان ح ۲۲ ص ۳۱)
- ..... ۶ ..... ”مسح صلیب پر گھنٹہ ذریعہ گھنٹہ۔ بلکہ اس سے بھی کم۔“  
 (ایام اصلح ص ۱۱، خزانہ ان ح ۲ ص ۳۵)
- ”صرف دو گھنٹے گذرے تھے۔“ (مسح بندوستان میں ص ۲۲، خزانہ ان ح ۱۵ ص ۲۲)
- ”صرف چند منٹ گذرے تھے۔“ (ازالیں ۳۸، خزانہ ان ح ۳ ص ۲۹۶)
- ..... ۷ ..... ”حضرت مسح کی چیزیاں باوجود یہ کہ مجذہ کے طور پر ان کا پرواز قرآن کریم سے ثابت ہے۔“  
 (آئینہ کلام اص ص ۶۸، خزانہ ان ح ۵ ص ۴۸)
- ..... ۸ ..... ان پرندوں کا پرواز کرنا قرآن شریف سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔  
 (ازالہ اواباص ۷۴، خزانہ ان ح ۳ ص ۲۵۶ حاشیہ)
- ”جس صرف یہ ہے کہ یہو عسح نے بھی بعض مجذات دکھلائے۔“  
 (ربیوبن اکتوبر ۱۹۰۲ء، ص ۳۳۲)
- ..... ۹ ..... ”مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی مجذہ نہیں ہوا۔“  
 (ضیغم انجام آنھم ص ۶، خزانہ ان ح ۱۱ ص ۲۹۰ حاشیہ)
- ”مسح اپن مریم اس امت کے شمار میں آگئے ہیں۔“  
 (ازالیں ۴۲۳، خزانہ ان ح ۳ ص ۲۳۶)
- ..... ۱۰ ..... ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امتی قرار دینا کفر ہے۔“  
 (ضیغم برائیں حصہ ۵ ص ۱۹۲، خزانہ ان ح ۲۲ ص ۲۶۲)
- ”حضرت موسیٰ کی ایتاء سے ان کی امت میں ہزاروں نبی ہوئے۔“  
 (اکتمبر ۱۹۰۲ء، ص ۲۲)
- ”نبی اسرائیل میں اگرچہ بہت نبی آئے۔ مگر ان کی نبوت موسیٰ کی پیروی کا نتیجہ نہ تھا۔“  
 (حقیقت الوجی ص ۷۴، خزانہ ان ح ۲۲ ص ۱۰۰ حاشیہ)
- تلک عشرۃ کاملہ
- مرزا قادیانی کی کتب متفاہ اور تنقض اقوال سے بھر پوریں۔ قارئین اس کتاب میں کی جگہ اس اختلاف کا لاحظہ کر چکے ہوں گے۔ اب ایسے اقوال کے قائل کے حق میں بھی مرزا قادیانی کا فیصلہ منع۔

”ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو تناقض باقی نکل نہیں سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریق سے انسان یا پاگل کھلاتا ہے یا منافق۔“  
(ست بچن ص ۳۴، خزانہ ج ۱۰ ص ۱۲۳)

”اس شخص کی حالت ایک محبوب الحواس انسان کی ہے کہ کھلا کھلاتا تناقض اپنی کلام میں رکھتا ہے۔“  
(حقیقت الوجہ ص ۱۸۲، خزانہ ج ۲۲ ص ۱۹۱)

”کوئی دانش مندا اور قائم الحواس آدمی دو ایسے متضاد اعتماد ہرگز نہیں رکھ سکتا۔“  
(از ایں ص ۲۳۹، خزانہ ج ۳ ص ۲۲۱)

”جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔“

(ضمیر براہین حصہ ۵ ص ۱۱۱، خزانہ ج ۲۱ ص ۲۷۵)

### نشانات صداقت

”میسح موعود کے متعلق جواہاریت میں آیا ہے کہ ان پر ہر دو خادریں ہوں گی۔ ان سے مراد حسب تاویل تعبیر خواب دو بیماریاں ہیں۔ جو بندہ میں موجود ہیں۔ دوران سر اور کثرت پیشاب مؤخر الذکر اس شدت سے ہے کہ رات کو سوسودفعہ پیشاب کرتا ہوں۔ اس کی وجہ سے خفغان اور ضعف قلب اس قدر ہے کہ ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر قدم رکھتا ہوں۔ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ میں اب مر آ کر مرا۔ اب جس شخص کو ہر وقت خوف جان لاحق ہو اور موت سامنے نظر آ رہی ہو۔ اس کو کب جرأت ہو سکتی ہے کہ خدائے لمیزیل کی نسبت افتراض اپردازی سے کام لے۔ ذاکرتوں نے تسلیم کیا ہے کہ کثرت پیشاب کا مریض مسلول و مدقوق کی طرح موت کے زخم میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور ھل کھل کر اس کا تمام بدن لا غیر ہو جاتا ہے۔“

(اربعین نمبر ۳، ۲، ۵، ۲، ۱ ص ۱۲۷)

حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق لکھتے ہیں کہ ”اس کی پیشگوئیاں کیا تھیں۔ صرف یہی کہ زلزلے آئیں گے۔ قحط پڑیں گے۔ لڑائیاں ہوں گی۔ پس ان دلوں پر خدا کی لعنت جنہوں نے ایسی ایسی پیشگوئیاں اس کی خدائی پر دلیل ہھرائیں۔ کیا ہمیشہ زلزلے نہیں آتے۔ کیا ہمیشہ قحط نہیں پڑتے۔ کیا کہیں نہ کہیں لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا۔ پس اس نادان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا پیشگوئی کیوں نام رکھا۔“  
(ضمیر انجام آقہم ص ۲، خزانہ ج ۱۱ ص ۲۸۸ حاشیہ)

”طاعون میری صداقت کا نشان ہے۔ طاعون میری نصرت کے لئے بھیجی ہے تاکہ نشان پورے ہوں۔“  
(براہین احمدیہ پنجم ص ۷۶، خزانہ ج ۲۱ ص ۱۲۷)

”سورہ فاتحہ میری صداقت کی گواہ ہے۔ کیونکہ اس میں لفظ الحمد ہے۔ جس سے میرا نام احمد مشتق ہوا ہے۔“ (اعجاز سعی ص ۱۳۵، خزانہ حج ۱۸ ص ۱۳۹)

”ایک دفعہ آپ نے گرم لقہ چبایا تھا۔ تو بے ساختہ ران پر ہاتھ مار کر کہا تھا کہ بتاتا تو اس وقت یہ پیش گوئی پوری ہوئی تھی کہ امام مہدی لکنت کی وجہ سے ران پر ہاتھ مار کر کلام کیا کریں گے۔ مسح علیہ السلام کے وقت میں شیر اور بکری کا ایک جگہ مل کر پانی پینا۔ انگریزی حکومت کے کارڈوں پر مندرجہ تصویر سے ظاہر ہے۔“ (کاوین ح ص ۲۵۶)

”میری طاقت مردی کا عدم تھی اور پیرانہ سالی رنگ میں میری زندگی تھی۔ اس لئے میری شادی پر میرے بعض دوستوں نے افسوس کیا۔ میں نے کشفی طور دیکھا کہ ایک فرشتہ وہ دوائیں میرے منہ میں ڈال رہا ہے۔ چنانچہ وہ دوائیں نے تیار کی۔ اور پھر اپنے تیسیں خدا داد طاقت میں پچاس پچاس مرد کے قائم مقام دیکھا۔“ (تریاق القلوب ص ۷۵، ۷۶، ۷۷، خزانہ ح ۱۵ ص ۲۰۳، ۲۰۴)

### شجاعت مرزا

”جب تک خدا کسی کے ساتھ نہ ہو یہ استقامت اور یہ شجاعت اور یہ بذل مال ہرگز وقوع میں آہی نہیں سکتی۔ کبھی کسی نے اس زمانہ کے کسی مولوی کو دیکھایا تاکہ اس نے دعوت اسلام کے لئے کسی استشنا کمثر انگریز کی طرف ہی کوئی خط بھیجا۔ لیکن اس جگہ صرف اس قدر بلکہ پار یمنٹ انڈن اور شہزادہ ولی عہد ملکہ معظمه اور شہزادہ بسمارک کی خدمت میں بھی دعوت اسلام کے اشتہار اور خطوط بھیجے گئے۔“ (شہادۃ القرآن ص ۲۷، ۲۸، خزانہ ح ۶ ص ۳۷۰)

جب گورنمنٹ کی طرف سے تنبیہ ہوئی تو سابقہ رویہ چھوڑ کر نصیحت کرنے لگے کہ: ”میں اس وقت بطور نصیحت اپنی جماعت کو خصوصاً اور تمام مسلمانوں کو عموماً کہتا ہوں کہ وہ اس طریق سخت گوئی سے اپنے تینیں بچاویں اور غیر قوموں کی باتوں پر پورے حوصلہ کے ساتھ صبر کر کے اپنے نیک اخلاق اور درگذر اور صبر کو گورنمنٹ پر ظاہر کریں۔ سو یہی نصیحت ہے کہ اپنے طور پر کوئی اشتعال اور کوئی خنثی مت کرو اور کسی آزار اٹھانے کو وقت حکام سے استغاثہ کرو۔“

(کتاب البریہ ص ۲۷۲، خزانہ ح ۱۳ ص ۳۱۶)

گورنمنٹ کی تنبیہ سے مرعوب ہو کر لکھا کہ: ”آئندہ میں پسند نہیں کرتا کہ ایسی درخواستوں پر کوئی انذاری پیش گوئی کی جائے۔ بلکہ آئندہ کے لئے ہماری طرف سے یہ اصول رہے گا کہ ہر کوئی ایسی انذاری پیش گوئیوں کے لئے درخواست کرے تو اس کی طرف ہرگز توجہ نہیں

کی جائے گی۔ جب تک وہ ایک تحریری حکم اجازت صاحب محسنیت ضلع کی طرف سے پیش نہ کرے۔” (کتاب البریہ، اشتہار و اجتباء، اخبار اس، ج ۱۳، ص ۱۱)

”میں اپنی جماعت کو چند لفظ بطور نصیحت کہتا ہوں کہ وہ طریق تقویٰ پر پنجہ مار کر یادو گولی نہ کریں اور گالیوں کے مقابلہ میں گالیاں نہ دیں۔“ (راز حقیقت ص اخبار اس، ج ۱۳، ص ۱۵۲)

”ہم نے صاحب ڈپی کمشنر کے سامنے یہ عہد کر لیا ہے کہ ہم آئندہ خفت الفاظ سے کام نہ لیں گے۔“ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گلزاری مدظلہ العالی کو خود ہی لاہور میں مقابلہ کی دعوت دی۔ جب پیر صاحب لاہور میں پہنچ گئے تو مرزا قادیانی مقابلہ میں نہ آئے اور اشتہار دیا کر میں ”بہر حال لاہور پہنچ جاتا۔۔۔ مگر میں نے نہ آئے کہ اکثر پشاور کے جاہل سرحدی پیر صاحب کے ساتھ ہیں اور ایسا ہی لاہور میں کمینہ اور مسئلہ طبع لوگ گلی کوچوں میں گالیاں دیتے پھرتے ہیں۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۳، ص ۳۵۰)

مگر دوسری طرف کہتے ہیں کہ مجھے الہام ہوا کہ ”وَاللَّهِ يَعْصُمُكُمْ مِنَ النَّاسِ“ خدا مجھے لوگوں سے بچائے گا۔ (تمذکرہ ص ۲۸۰)

اس سے مرزا قادیانی کے توکل علی اللہ اور الہام کی صداقت پر عدم ایمان کا ثبوت ملتا ہے اور اپنے آپ کو جری اللہ فی حل الانبیاء لکھتے ہیں۔

### نقل حکم عدالت ڈسٹرکٹ محسنیت

”بھی ایم ڈبلیوڈیگلس صاحب بہادر ڈسٹرکٹ محسنیت گوردا سپور کی عدالت سے مورخہ ۲۳ رائٹ ۱۸۹۷ء بمقدمہ سرکار بذریعہ ڈاکٹر کارک بنام مرزا غلام احمد ساکن قادیانی حسب ریمارک فیصلہ میں ہوئے۔ جو تحریرات عدالت میں پیش کی گئی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ قضاۓ انگریز ہے۔ انہوں نے بلاشبہ طبائع کو اشتغال کی طرف مائل کر رکھا ہے۔ پس مرزا غلام احمد قادیانی کو متنه کیا جاتا ہے کہ وہ ملائم اور مناسب الفاظ میں اپنی تحریرات استعمال کریں۔ ورنہ بحیثیت صاحب محسنیت ضائع ہم کو ملزم کروائی کرنی پڑے گی۔“

(کتاب البریہ ص ۲۶۱، ج ۱۳، ص ۳۰۱، ۳۰۲)

اس کے بعد عادت کی بناء پر مجبور ہو کر مرزا قادیانی سے نہ رہا گیا۔ اس لئے مسٹر ڈولی ڈسٹرکٹ محسنیت بہادر گوردا سپور کی عدالت میں مورخہ ۲۳ رفروری ۱۸۹۹ء مرزا غلام احمد قادیانی کو حسب ڈیلی طلبی اقرار نامہ داخل کرنے پر مجبور کیا گیا۔

میں مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو بخمور خداوند تعالیٰ حاضر جان کر باقرار صالح

اقرار کرتا ہوں کہ آئندہ:-

۱..... میں ایسی پیش گوئی جس سے کسی شخص کی تحقیر (ذلت) کی جائے یا مناسب طور سے تھمارت (ذلت) کبھی جائے۔ یا خداوند تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد ہو شائع کرنے سے اجتناب کروں گا۔

۲..... میں اس سے بھی اجتناب کروں گا۔ شائع کرنے سے کہ خدا کی درگاہ میں دعا کی جائے کہ کسی شخص کو تحقیر (ذلیل) کرنے کے واسطے جس سے ایسا نشان ظاہر ہو کہ وہ شخص مورد عتاب الہی ہے۔ یہ ظاہر کرے کہ مباحثہ مذہبی میں کون صادق اور کون کاذب ہے۔

۳..... میں ایسے الہام کی اشاعت سے بھی پر نیز کروں گا۔ کہ جس شخص کا تحقیر (ذلیل) ہونا یا مور و عتاب الہی ہونا ظاہر ہو یا ایسے اظہار کے وجہ پائے جائیں۔

۴..... میں اجتناب کروں گا۔ ایسے مباحثہ میں مولوی ابوسعید محمد حسین یا اس کے کسی دوست یا پیرو کے خلاف گالی گلوچ کا مضمون یا تصویر لکھوں یا شائع کروں۔ جس سے اس کو درد پہنچے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اس کے یا اس کے کسی دوست یا پیرو کے برخلاف۔۔۔ اس قسم کے الفاظ استعمال کروں۔ جیسا کہ جمال، کافر، کاذب، بطالوی میں کبھی اس کی آزادانہ زندگی یا خاندانی رشتہ داروں کے برخلاف پچھ شائع نہ کروں گا جس سے اس کو آزار پہنچے۔

۵..... میں اجتناب کروں گا۔ مولوی ابوسعید محمد حسین یا اس کے دوست یا پیرو کو مبالغہ کے لئے باؤں۔ اس امر کے ظاہر کرنے کے لئے کہ مباحثہ میں کون صادق اور کون کاذب ہے۔ نہ میں اس محمد حسین یا اس کے دوست یا پیرو کو اس بات کے لئے باؤں گا کہ وہ کسی کے متعلق کوئی پیش گوئی کریں۔ (دستخط مرزا غلام احمد قادریانی بقلم خود)

(بمقدمہ فوجداری اجلاس مسٹر بے ایم ڈولی صاحب بہادر ڈپنی کمشنر ڈسٹرکٹ جسٹیس یٹ ضلع گوردا سپور فیصلہ ۲۵ فروری ۱۸۹۹ء نمبر بستہ قادیان نمبر مقدمہ ۱/۳ سرکار دامتدار بنام مرزا غلام احمد ساکن قادیان)

### مرزا کی فتوحات

”عین پکھری میں اسے کرسی مانگنے پر اسے (مولوی حسین بیالوی کو) وہ ذلت اس کے نصیب ہوئی جس سے ایک شریف آدمی مارے ندامت کے مر سکتا ہے۔ یا ایک صادق کی ذلت

نوٹ: اقرار نامہ ایک ایک لفظ غور سے پڑھ کر مرزا قادریانی کے اعتقاد علی اللہ! توکل اور شجاعت وغیرہ کی خفت اور صداقت کے ثباتات کا مطالعہ کریں۔

چاہئے کا نتیجہ ہے۔ کرسی کی درخواست پر صاحب ڈپی کمشنر بہادر نے جھٹکیاں دیں اور کہا کہ کرسی نہ بھی تجھ کو ملی اور نہ تیرے بآپ کو اور جھٹک کر پچھے ہٹایا اور کہا کہ سیدھا کھڑا ہو جا اور اس پر موت پر موت یہ ہوئی کہ ان جھٹکیوں کے وقت یہ عاجز صاحب ڈپی کمشنر کے قریب ہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ جس کی ذلت دیکھنے کے لئے وہ آیا تھا اور مجھے کچھ ضرورت نہیں کہ اس واقعہ کو لے بار بار لکھوں کچھری کے افسر موجود ہیں اور ان کا عملہ موجود ہے۔ ان سے پوچھنے والے پوچھ لیں۔“

(ضرورۃ الامام ص ۲۷، خزانہ حج ۱۳۱۳ ص ۵۱۲)

”مخالفوں کی بدظنی اور شتاب کاری سے ایک دوسری شکست بھی ان کو نصیب ہوئی اور وہ یہ کہ رقم سے ایک صد ستائی روپے آٹھ پیسے انکم ٹکس شخص ہو کر اس کا مطالبہ ہوا.....سواس نے ان تیرہ خیالات لوگوں کی یہ مراوہ بھی پوری نہ ہونے دی اور بعد تحقیقات کامل ... انکم ٹکس ۳۵ معاون کیا گیا۔“

نوٹ: مرزا قادیانی نے انجام آنکھم و دیگر کتب میں اپنی ایک اور فتح کا بھی شدومد سے ذکر کیا ہے کہ صوفی عبدالحق غزنوی، مرزا قادیانی سے مقابلہ کرنے کے بعد خدائی غضب کا اس مورد بنا کہ اس نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی اور اسے کسی کنواری لڑکی سے نکاح کرنے کا موقع نہ ملا۔ مرزا قادیانی نے اپنے اشتہار مورخ ۲۱ نومبر ۱۸۹۸ء میں خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ ”اے خدا تیرہ مہینوں کے اندر شیخ محمد حسین بیالوی اور جعفر زمی اور تینی کو ذلت کی مار سے دنیا میں رساوا کر۔“ (مجموعہ اشتہارات حج ۳۳ ص ۶۰) تیرہ ماہ کے اندر ہی مولوی محمد حسین صاحب کو گورنمنٹ کی طرف سے مربوط ہیل گئے اور ہر سا صحاب کی کسی قسم کی ذلت نہ ہوئی۔ تو مرزا قادیانی نے ۱۸۹۹ء میں اشتہار دیا کہ مولوی محمد حسین کو ذلت کی مار پڑ گئی۔ کیونکہ اس کو زمین مل گئی یہ بھی ذلت ہے۔

۱۔ آپ کیوں نہ بار بار لکھیں۔ زندگی بھر میں یہ موقع ملا اور اپنے سفیر خدا سے ایک جھٹک مولوی صاحب کو دلو کر اپنے خیالات میں انتورپ فتح کر لیا۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں کئی جگہ اپنی اس عظیم الشان فتح کا ذکر کیا ہے۔ قارئین اس مرزا قادیانی کا سفلہ انحصار اور سفلہ مزان ہونا معلوم کر سکتے ہیں۔ (مؤلف)

۲۔ دوسری فتح عظیم کو خاص عنوان اور خاص شان سے بغتوں انکم ٹکس اور تازہ نشان پر اس نے شائع کیا تھا۔ ایسے نشان دیکھ کر مرزا نیوں نے مرزا کوئی تشکیم کیا۔

بریں عقل و دانش بباید گرذیست

۳۔ مرزا قادیانی کئی پشت سے زمیندار تھے۔ پس اپنے قول سے ہمیشہ سے ڈیل چلے آتے تھے۔

کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جس گھر میں کھینچ کے آلات داخل ہوں وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ نیز کہنا کہ تینی اور جعفر رُثی بوجہ اطلاع بنا لوی اس ذلت میں شریک ہیں۔ (مجموعہ اشتہارات ج ۲۵ ص ۳۲)

### عدم ایفائے عہد

۱ ..... بر این احمد یہ کے متعلق بیان کیا کہ کتاب ۳۰۰ جزوں کی پہنچ ہے۔ پیشگی قیمت لوگوں سے حساب کی مسلمانوں نے چندے دیئے۔ مگر ۵۰ جلدوں کی بجائے صرف ۵ جلدیں طبع ہوئیں۔ اس کے بعد یہ جلدیں کمی دفعہ طبع ہوئی۔ مگر مرزا قادیانی اشتہاری کتب فروشوں کی طرح دنیا کی نظر میں گندم نہما جو فروش ہی ثابت ہوئے۔

۲ ..... ایک رسالہ ماہوار قرآنی طاقتوں کا جلوہ گاہ اور تفسیر کتاب عزیز چھپوانے کے لئے چندہ جمع کیا۔ مگر نہ رسالہ ماہوار نکلا اور نہ ہی تفسیر شائع ہوئی۔

۳ ..... (بجگ مقدس ص ۲۱، خزانہ ج ۶ ص ۲۹۳) پر لکھا "آخر ہم پندرہ ماہ کے اندر آج کی تاریخ سے بزرائے موت ہاویہ میں نہ پڑے تو میں ہر ایک سزا لٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جائے۔ رو سیاہ کیا جائے۔ میرے گلے میں رسڈ الدیا جائے اور مجھے چھانی دیا جائے۔" وغیرہ وغیرہ مگر آخر ہم میعاد میں نہ مر، سنائے کہ عیسائی رسے لے کر گئے۔ مگر مرزا قادیانی نے وعدہ پورا نہ کیا اور گھر سے باہر نہ نکلے۔ انہیں چاہئے تھا کہ وعدہ کے مطابق خوشی سے رس اپنے گلے میں ڈال کر چھانی پر لٹک جاتے تاکہ مخلوق خدا ان کے دام غریب سے آزاد ہوئی۔

### مگر شرم چہ شی است کہ پیش مرزا اید

۴ ..... (ضیمہ تحذیل گلزار یہ ص ۲۲، خزانہ ج ۷ ص ۳۱، ۳۰) کے ساتھ ایک اشتہار انجامی پانچ سورہ پیہ شائع کیا۔ جس میں یہ لکھا کہ: "اگر کوئی ایسی مضرتوں کا ثبوت دے گا جس نے خدا کا معمور یا نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہو اور اس دعوے کے بعد ۲۳ برس جیتا رہا ہو۔ تو اس کو مبلغ پانچ سورہ پیہ انعام دیا جائے گا۔" اس کے جواب میں حافظ محمد یوسف صاحب ضلع دار نہر نے رسالہ قطع الوتین شائع کیا۔ جس میں ایک چھوڑ کئی ایسے کاذب مدعاں نبوت پیش کئے جو طبعی موت سے ۲۳ برس دعویٰ کرنے کے بعد مرے۔ مگر مرزا قادیانی نے وعدہ پورا نہ کیا اور انعام نہ دیا۔

۵ ..... (ازالہ امام ص ۱۹، خزانہ ج ۳ ص ۴۰۳) میں الفاظ توئی کے متعلق ایک ہزار رو پیہ کا انعامی پیش دیا۔ علماء نے جوابات بھی دیئے خصوصاً مولانا ابوالقاسم محمد حسین صاحب کو لوٹا رہی تھیں برس سے اس رقم کا مطالہ کر رہے ہیں۔ مگر مرزا ایں حلقوں میں برابر سنا تاری ہے۔

## عام حالات

مرزا قادیانی عالم طور پر نماز پنجگانہ اور صوم رمضان کے پابند نہ تھے۔ بلکہ اپنی زندگی کے آخری تین سالوں میں بالکل روز نہیں رکھا۔

(بیان قائد المهدی حصہ اول ص ۱۶، روایت نمبر ۱۸)

مولوی خدا بخش مر جوہ واعظ امر تسری کا بیان ہے کہ:

تے مرزا جمیعہ جماعت کو لوں تارک سنیا جاوے  
حجرے دیوچہ رہے ہمیشہ مسجد وچہ نہ آوے

(ملفوظ رحمانی ص ۱۵)

مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں کہ: "اکثر سفر میں نمازوں کو جمع کر لیتے ہوں اور وقت پر نہیں پڑھ سکتا اور مسجدوں میں جانا کراہت سمجھتا ہوں۔" (فتح الدارم ص ۴۰، ۱۷ بخراں نج ۳ ص ۲۵ ملخصہ حاشیہ) مرزا قادیانی کا بدروی مرید مشی عبد العزیز نمبردار بلالہ اپنی کتاب کاشف اسرار نہانی ص ۸۵ میں لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی محض علمائے اسلام کے سب و شتم کے تحریرات کرتے وقت بہتر بہتر نمازیں جمع کر کے ضائع کر دیتے ہیں۔

مریدوں کے اعتراض پر کہا کہ: "میری طبیعت کی افتادگی واقع ہوئی ہے۔ کہ افغان قلب نے ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کرنے کا مشورہ دیا۔... ہم اس وقت روحانی جنگ میں مصروف ہیں۔ پانچوں نمازوں کے جمع کرنے کی راہ حل گئی ہے۔"

(ملخصہ جمیعہ فتاویٰ احمدیہ ص ۶۳)

۱۸۹۱ء میں جامع مسجد بیلی میں دوسرے لوگوں نے نماز عصر ادا کی مگر مرزا قادیانی مع اپنے خدام کے علیحدہ بیٹھے رہے۔ مرزا قادیانی نے ماہ رمضان کے دنوں میں بمقام ملہ ہیانہ ایک جلسہ عام میں روزہ توڑ دیا۔ مقامی اخبار نے ان کا اظیفہ ظاہر کیا کہ مرزا قادیانی نے علی الاعلان علماء اسلام کی شکایت کرتے ہوئے کہ ان کو دائرۃ الرہمہ سے خارج ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ دریافت کیا کہ کیوں وہ ایسا کرتے ہیں۔ کیا ہم تا اوت قرآن نہیں کرتے یا نمازوں پر حصہ یا روزہ نہیں رکھتے۔ لطف یہ کہ مرزا قادیانی ہر دو منٹ کے بعد ایک جرم عدو دھکا نوش فرماتے تھے اور ان کے حواری اور مرید بھی بطور تبرک انکا پسمندہ ایک ایک جرم پیتے جاتے تھے۔ گویا مرزا کے ساتھ

ان کے مریدوں نے بھی روزہ نہیں رکھا تھا۔ اس لئے مرزا قادیانی کے اس سوال پر کہ ہم روزہ نہیں رکھتے۔ سامعین تمہم کو ضبط نہیں کر سکے۔ وہی اخبار لکھتا ہے کہ امرتسر میں اور بھی درگت پیش آئی۔ یہاں ۹ نومبر کو ایک وسیع مکان میں آپ کا پیغمبر ہوا تھا۔ ابھی آدھ گھنٹہ بھی نہ ہوا تھا کہ مرزا قادیانی نے چاء، نوشی شروع فرمائی۔ لوگوں نے تالیاں پیٹ کر آوازیں دیں کہ روزہ کیوں نہیں رکھا۔ (بحوالہ اخبار عامہ مورخہ ۱۹۰۵ء میں نقل از کتاب فیصلہ عدالت آسمانی) مرزا نے اپنی تصویر پہنچوا کر عالم شائع ہیں اور اپنے مریدوں کو دین۔ اس طرح اعلانیہ احکام اسلام کی خلاف ورزی کی، باوجود استطاعت تمام عمر جن نہیں کیا۔ اپنی کتابوں کے لئے رقم زکوٰۃ طلب کر کے کتابوں کی قیمت اصل مصارف سے سچند چہار پندرہ کروپنچھ اپنے صرف میں لاتے رہے۔ کتب فروش اپنے تھے۔ انعامی اشتہار دینے اور ناجائز شرعاً کاظم اپنی طرف سے پیش کرنے کے فن میں یکتا اور موجہ تھے۔ آپ سے پہلے لوگ فائدہ انعام سے نہ آشنا تھے۔ مناظرہ کرنے کی کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ مولوی محمد بشیر صاحب بھوپالی سے ایک دفعہ تحریری مناظرہ کیا۔ مگر ناتمام چھوڑ کر قادیان بھاگ گئے۔ مولوی محمد حسین بناوی سے تحریری مناظرہ پر آمادہ ہوئے۔ مگر ابتدائی شرائطے کرنے میں ہی جان بچا گئے۔ حضرت قبلہ سید چہرہ علی شاہ صاحب گلڑاوی مدظلہ العالی کو تفسیر نویسی کے لئے مقابلہ کی دعوت دی۔ حضرت مدد حمد چالیس علمائے کرام لاہور میں روفق افروز ہونے۔ مرزا قادیانی کوتار میں پرستاریں دی گئیں۔ مگر اسے میدان میں آنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ مرزا کے پاس بزراروں روپیرہ ہتھ تھے۔ مگر کبھی زکوٰۃ دینا ثابت نہیں ہوا۔ چال چلنے کے متعلق ایک رسالہ "عشق مجازی اور قادیانی کی بوس بازی" مرزا قادیانی کی زندگی میں شائع ہوا۔ اس کا جواب دینے کا کسی کو حوصلہ نہ ہوا اور مرزا نے اس الزام سے کسی جگہ اپنی بریت ظاہر نہیں کی۔ حال ہی میں اجمن مہابله امرتسر کی طرف سے ایک نریکٹ بعنوان "پنجابی نبی کی درویشیانہ زندگی کے چند لمحے" نہ ہوئے۔ "شائع ہوا ہے کہ جس میں مرزا قادیانی کے خطوط سے مرزا کی پر تکلف زندگی اور عیش عشرت ثابت کی ہے۔ زیورات، ریشمی کپڑے، جالی کی قمیضوں، کلاک، فیشنی اشیاء، تانبے کے حمام، کابلی گرم پوتین، نمدہ بیکھی پان، انگریزی پاخنے، عمدہ بستر اور شاندار نہیں ہوئی فرانشوش کے ذکر کے بعد مرزا کے کئی آرڈر مفرج نہیں، مشک خالص کے درن کیا گیا ہے اور ساتھ ہی سردار دو عالم سید المرسلین ﷺ کی پاکیزہ اور سادہ زندگی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تاکہ لوگوں پر مرزا قادیانی کے دعویٰ ممکن محدثی حقیقت واضح ہو سکے۔

## مرزا کی ناکامی

”اور وہ وقت آتا ہے بلہ قریب ہے کہ زمین پر نہ رام چندر پوچھا جائے گا۔ ائمہ کرش، نہ حضرت مسیح علیہ السلام۔“ (شہادۃ القرآن ص ۸۵، خزانہ حج ص ۳۸۱)

”میں صاف صاف بیان کرنے سے نہیں رک سکتا کہ (تفسیر) شائع کرنا میرا کام ہے اور دوسرا سے سے برگزندہ ہو گا۔“ (ازالہ ص ۷۳، خزانہ حج ص ۷۴)

”میرا کام جس کے لئے میں کھڑا ہوں یہی ہے کہ میں یعنی پرستی کے ستون کو توڑوں اور تیش کی جگہ تو حید پھیلاؤں۔ حضور ﷺ کی جلالیت دنیا پر ظاہر کروں۔ پس اگر مجھ سے کروڑ ہائیں بھی ظاہر ہوں اور یہ علت غالی ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں۔ دنیا مجھ سے کیوں دشمنی کرتی ہے اور میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی۔ اگر میں نے وہ کام کر دھکلایا جو منیج یا مہدی نے کرنا تھا تو میں سچا ہوں اور اگر کچھ نہ ہو اور میں مر گیا تو پھر سب گواہ رہیں کہ میں سچا جھوٹا ہوں۔“

(درج نمبر ۱۹، ۲۹ نومبر ۱۹۰۶ء، مکتبات احمدیہ حصہ اول ص ۱۶۲)

”اک خطاب علی العزة۔“ (ضیغم تحدہ گلزار یوسف ص ۲۵، خزانہ حج ص ۷۴)

۱۔ مرزا ای ان الفاظ پر غور کریں اور ہندوؤں کی موجودہ سیاسی و مذہبی ترقی اور بذریعہ شدھی مکانوں کو جذب کرنے کے واقعات سے اپنے گروکی صداقت کا اندازہ کر لیں۔

۲۔ مگر مرزا قادیانی دنیا سے جمل بے اور کوئی تفسیر شائع نہ کر سکے۔

نوٹ: علاوه ازیں مرزا قادیانی اپنے ہر مقصد و مدعای میں ناکام ہے۔ جس کی تفصیل آگے معلوم ہوگی۔ مثلاً: ۱..... آقہم میعاد میں نہ مر۔ ۲..... محمدی بیگم کے نکاح کی حسرت دل میں رکھے ہی پہل بنے۔ ۳..... ذاکر عبد الحکیم و مولوی ثناء اللہ و حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گلزاری مدظلہ العالی و دیگر حنفیین کی زندگی ہی میں مر کر ہلاک ہو گئے۔ ۴..... مولوی محمد حسین صاحب بیالوی کے مرزا ای بونے کا انتظار کرتے رہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

۵۔ دریں چہ شک مرزا ای زندگی اور اس کی موت کے بعد صلیب کو جس قدر سیاسی غالبہ دنیا میں حاصل ہوا ہے اور عیسائیوں کی تعداد میں حیرت انگیز ترقی مرزا کو جھوٹا کرنے کے لئے کافی ہے۔

۶۔ خوشامد بھی کی نوڑی بھی بنے۔ مگر خطاب ملنگی حسرت لے کر دنیا سے پہل بے۔ اگر کوئی مرزا ای کہے کہ انہیں خطاب حاصل کرنے کا شوق نہ تھا تو اس کا کہنا سارا سر غلط ہے۔ انہوں نے اس الہام کو بطور پیشگوئی شائع کیا تھا۔ مرزا قادیانی کو عدالت میں ایک دفعہ حاکم نے کری دے دی تھی۔ اس کا: کرباطور فخر بیسیوں جگہ اپنی کتابوں میں کیا ہے۔

”عنقریب ہے کہ خدا اس ملکہ (وکنوریہ) نورانی وجہ کے دل اور اس کے شہزادوں کے دلوں میں نور توحید اے ذال دے۔۔۔ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ (انگریز) اسلام کے اندرے ہیں اور عنقریب انہیں سے اس طبق کے بچے پیدا ہوں گے اور ان کے منہ الہی دین کی طرف پھیرے جائیں گے۔۔۔“ (نورانی ص ۲۲، خزانہ ج ۸ ص ۲۰)

”قرآن شریف میں ہے کہ آخری زمانہ میں قرنا میں آواز پھونکی جائے گی۔۔۔ تب سب تو میں ایک قوم بن جائیں گی اور ایک ہی مذہب پر جمع ہو جائیں گی۔۔۔“

(چشمہ معرفت ص ۷۶، خزانہ ج ۲۳ ص ۵۷ حاشیہ ٹھص)

”قرآن صحیح موعود (مرزا) ہے۔۔۔“ (چشمہ معرفت ص ۷۸، خزانہ ج ۲۳ ص ۸۶)

”صحیح موعود کے ذریعہ خدا تعالیٰ تمام متفرق لوگوں کو ایک مذہب پر جمع کر دے گا۔۔۔“

(چشمہ معرفت ص ۸۰، خزانہ ج ۲۳ ص ۸۸)

”پس خدا نے تمام قوموں کو ایک بنانے اور سب کا ایک مذہب بنانے کے لئے ایک امت میں سے ایک نائب (مرزا قادریانی) مقرر کیا۔۔۔“

(چشمہ معرفت ص ۸۲، خزانہ ج ۲۳ ص ۹۰، ۹۱ ملخصاً)

”مجھے اللہ تعالیٰ نے خوبخبری دی ہے کہ وہ بعض امرا، اور ملوک کو بھی ہمارے گروہ میں داخل کرے گا۔۔۔“

(برکات الدعا ص ۳۵، خزانہ ج ۲ ص ۳۵)

”پھر بعد اس کے عالم کشف میں وہ بادشاہ دکھلانے گئے۔ جو گھوڑوں پر سوار ہتھے۔۔۔“

(تجلیات البیض ۷، خزانہ ج ۲ ص ۹۰، ۹۱ حاشیہ)

”الہام ہوا جدت قائم کی جائے گی اور فتح ہم کھلی کھلی ہو گی۔۔۔“

(از اہم ص ۸۵۵، خزانہ ج ۳ ص ۵۶)

”الہام ہوا تیری طرف نور ہجوانی کی قوتیں لوٹائی جائیں گی اور تیرے پر زمانہ جوانی

لے۔ مگر ملک نے مرزا میں مذہب قبول نہ کیا اور مرزا قادریانی رخصت ہوئے۔۔۔

ج چشمہ معرفت وہی کتاب ہے جس کی تاریخ طباعت کے چھوٹن بعد مرزا مر گیا۔۔۔ اب

اہل انصاف غور کریں کہ مرزا پنے مشن میں بہاں تک کامیاب ہوا؟۔۔۔

سے مرزا میں وہ بادشاہ کہاں ہیں۔۔۔

ج ہر مرزا نے اپنے دلک کو ان سا بے جباں مرزا قادریانی کو فتح ہوئی۔۔۔

دے تکراں کے دو سال بعد مرزا قادریانی بڑھا پے ہی میں مر گئے۔۔۔

کا آئے گا۔ اور تی کی بیوی کی طرف بھی تروتازگی واپس کی جائے گی۔“

(بدر ۱۹۰۶ء، تذکرہ مس ۲۱ حاشیہ طبع سوم)

”بھم کلئی میں مریں گے یادیں میں۔“ (میگزین ۱۹۰۶ء، تذکرہ مس ۵۹)

## برکات مرزا

”اس برس چار بڑے اربعائی ہوئے۔“ (براہین احمد یوسف خزانہ نص ۲۸)

”جب تیرھویں صدی پچھو نصف ۳ سے زیادہ گذر گئی تو ایک دفعہ اس دجالی گروہ کا خروں ہوا۔ پھر تی بھوتی گی بیان تک کہ اس صدی کے اواخر میں بقول پادری ہنگر صاحب پانچ لاکھ تک صرف ہندوستان میں کرمان شدہ لوگوں کی نوبت پہنچ گئی اور اندازہ کیا گیا کہ قریب پارہ سال میں ایک لاکھ آدمی یہاں میں داخل ہو جاتا ہے۔“

(ازالہ ابہام مس ۱۹۳۹ خزانہ نص ۳۲۸)

”تحوڑے محمد میں اس ملک میں ایک لاکھ کے قریب لوگوں نے یہاں مذہب اختیار کر لیا۔“ (آنکنہ کتابت مس ۱۵ خزانہ نص ۵۵)

”یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر طبقہ کے مسلمان یہاں ہو چکے ہیں اور ایک لاکھ سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہوئی۔“ (لپکھر لد سیان مس ۱۶ خزانہ نص ۲۶۰)

## لے گلرا ہوری مزے۔

نوٹ: مرزا قادیانی کو ایک لاکھ فون کا خواب آیا تھا اور فرشتہ نے پانچ ہزار سپاہی دینے کا وعدہ کیا تھا اور اس فون کا سردار منصور بھی کشف سے دکھلایا گیا تھا۔

(ازالہ ابہام مس ۹۸ خزانہ نص ۳۴۹ حاشیہ)

مگر مرزا قادیانی کا یہ خواب پورا نہ ہوا۔ انہیاں علیہم السلام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں۔ مگر مرزا کی یہ خواب بھی غلط نکلی اس طرح محمود ابن مرزا کو بھی افوان ہند کا مانڈرا نجیف بنائے جانے کا خواب آیا تھا۔ مگر پورا نہ ہوا۔

عمرزا کی پیدائش ۱۲۵۹ھ میں ہوئی لہذا مرزا قادیانی کی تشریف آوری کے ساتھی ارتدا کی وبا، پھیل گئی۔ مرزا قادیانی جوں جوں ترقی کرتے گئے۔ فتنہ بڑھتا گیا۔ مہدویت کے ادعاء کے بعد بارہ سال کے اندر ایک لاکھ آدمی یہاں ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ مرزا قادیانی مجددیت و مہدویت سے ترقی کر کے مسیحیت کے حقدار ہن رہے تھے۔ سچ قادیانی کے آنے سے حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ گورنمنٹ میں مردم شماری کے

مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد مرزا محمد قادیانی لکھتے ہیں کہ: ”آج اسلام کی (۱۹۱۳ء میں) کیا حالت ہے۔ ملک پر ملک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے نہیں بلکہ سب ملک وہ اپنے ہاتھوں سے دے چکے ہیں۔“ (تحفۃ الملوك ص ۱۰)

”اسلام کے لئے تھوڑے دنوں کے بعد کوئی جگہ سرچھپانے کی نہ ہوگی۔“

(تحفۃ الملوك ص ۱۵)

”اس وقت اسلام کی حالت ایسی کمزور ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔“

(تحفۃ الملوك ص ۲۲)

”نام ہی اسلام کا رہ گیا ورنہ کام کے لحاظ سے تو اسلام کا کچھ باقی نہیں رہا۔“

(تحفۃ الملوك ص ۱۹)

”ہزاروں مسلمان ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب اختیار کر چکے ہیں..... خود

سادات میں بیسوں خاندان سمجھی ہو چکے ہیں۔“ (تحفۃ الملوك ص ۲۹)

”زمانہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ان ایام میں مسلمان ہی نہیں بلکہ اسلام کا تزلیل ہو رہا

ہے۔ کیونکہ اسلام دلوں سے مت چکا ہے۔“ (تحفۃ الملوك ص ۳۰)

### مرزاً جماعت کی خصوصیات

”وہ جماعت جو میرے ساتھ تعلق بیعت و مزیدی رکھتی ہے وہ ایک بھی مخلص اور خیرخواہ اس گورنمنٹ کی بن گئی ہے کہ میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی نظیر دوسرے مسلمانوں میں پائی نہیں جاتی۔ وہ گورنمنٹ کے لئے ایک وفادار فوج ہے۔ جس کا ظاہر و باطن گورنمنٹ برطانیہ کی خیرخواہی سے بھرا ہوا ہے۔“ (تحفۃ قصیر یہ میں ۱۲، خزانہ اسناد ص ۲۶۲)

”کوئی بہت عمدہ اور نیک اثر اب تک اس جماعت کے بعض لوگوں میں ظاہر نہیں ہوا..... ہماری جماعت کے اکثر لوگوں نے اب تک کوئی خاص الہیت اور تبدیلی اور پاک ولی

(باقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ) کاغذات کے مطابق ۱۸۸۱ء یعنی مرزا قادیانی کے سعی بننے کے وقت پنجاب میں عیسایوں کی مجموعی تعداد ۹۶۷۳ تھی۔ اس میں فوجی انگریز بھی شامل تھے اور اس وقت غالباً یہاں کوئی ہندوستانی عیسائی نہ تھا۔ مگر مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد ۱۹۱۱ء میں صرف ہندوستانی عیسایوں کی تعداد پنجاب میں ۱۴۳۹۹۲ تھی۔ جو ۱۹۲۱ء میں ۳۳۲۵۹ تک پہنچ گئی ہے۔ اسی تھی ہے جیسے گورو یسے پیلے، مرزاً جماعت اقصائے عالم میں تبلیغ اسلام کی علمبردار کہلاتی ہے۔ مگر گھر کا بھیدی خواجہ کمال الدین لا ہوری مرزاً لکھتا ہے کہ (باقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اور پرہیز گاری اور للہی محبت با ہم پیدا نہیں ہے۔ بعض حضرات ایسے کجدل ہیں کہ اپنی جماعت کے غریبوں کو بھی یوں کی طرح دیکھتے ہیں۔ وہ مارے تکہر کے سید ہے مند سے السلام علمکنیں کر سکتے۔۔۔ انہیں سفلہ اور خود غرض اس قدر، یقیناً ہوں کہ، وادنی اونی خود غرضی کی بناء پر ایک دوسرے سے لڑتے اور دست بد اہم ہوتے ہیں اور ناکارہ باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے پر حملہ ہوتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات گالیوں تک نوبت پہنچتی ہے اور دلوں میں کینے پیدا کر لیتے ہیں اور کھانے پینے کی قسموں پر نفسانی بحثیں ہوتی ہیں۔۔۔ میں جی ان ہوتا ہوں کہ خدا یا کیا حال ہے یہ کون سی جماعت ہے جو میرے ساتھ ہی نفسانی لاچوں پر کیوں ان کے دل گرے جاتے ہیں۔۔۔ بعض میں ایسے بے تہذیبی ہے کہ اگر ایک بھائی عمد سے اس کی چار پائی پر بیٹھا ہے تو وہ بختنی سے اس کو اٹھانا چاہتا ہے اور اگر نہیں اٹھتا تو چار پائی کو اتنا دیتا ہے اور اس کو نیچے گرتا ہے۔ پھر دوسرا بھی فرق نہیں کرتا اور اس کو گندی گالیاں دیتا ہے اور تمام بخارات نکالتا ہے۔ یہ حالات ہیں جو اس مجمع میں مشاہدہ کرتا ہوں۔ تب دل کتاب ہوتا اور جتنا ہے اور بے اختیار دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اگر میں درندوں میں رہوں میں رہوں تو ان بنی آدم سے اچھا ہوں۔“

(اشتہار التواتے جلد ملحقہ شہادت القرآن ص ۱۰۰، جز ائم ج ۲۶ ص ۳۹۷۶۳۹۸)

”ہم پر اور ہماری ذریت پر فرض ہو گیا کہ اس مبارک گورنمنٹ کے ہمیشہ مد گار

رہیں۔“ (از الہ اوہام ص ۱۳۲، جز ائم ج ۳ ص ۱۶۶ حاشیہ)

”اس پاک باطن جماعت (یعنی مرزاںی) کے وجود سے گورنمنٹ برطانیہ کو خداو عز و جل کا شکر گزار ہونا چاہئے۔ یہ لوگ پچے دل اور دلی خلوص سے اس گورنمنٹ کے خیر خواہ اور دعا گو ہوں گے۔“ (از الہ اوہام ص ۸۳۹، جز ائم ج ۳ ص ۵۶۱ حاشیہ)

مرزا کے خلف و خلیفہ مرزا محمود نے مرزا نیوں کو حسب ذیل شفہیت عطا کئے۔

”اس (مرزاںی) جماعت کے بعض افراد کی اولاد نہایت ہی گندہ اور شرمناک نمونہ اخلاق کا دکھار ہی ہے اور وہ اپنے تجسس باطن کی وجہ سے دنیا کے غبیث ترین وجودوں سے مشاہدہ رکھتی ہے۔ کیا تم قیامت کے دن وہ لعنتیں لے کر کھڑے ہو گئے جو تم نے دنیا میں

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ) ”ہم اپنے گریبان میں منڈال کر دیکھیں کہ آریہ جماعت کے مقابل میں ہمارے قلم سے کہاں تک مستقل لڑ پچا نکلا۔ چند ورتوں کے پنفلٹ یا بیانگاری پوشرنکال لینا دیئے ہی بے سود چیزیں ہیں۔ جیسے بیانگاری جوش کے ماتحت لوگوں کے اعمال و افعال ہوا کرتے ہیں۔“ (مجد کامل ص ۶۷)

کما تھیں۔ کیا تم نے کبھی شیشہ میں منہ بھی دیکھا ہے کہ تمہارے چہروں پر وہ رقت وہ نور وہ نرمی وہ محبت بھی پائی جاتی ہے۔ جو دلوں کی اصلاح کر سکتے تھے بھیڑیوں کے چہرے لے کر فرشتوں کا کام کرنا چاہتے ہو۔ تم اصلاح کے طریق نکالنے نکالنے قرآن مجید کو اس طرح چھوڑ رہے ہو۔ جس طرح نعمود باللہ ایک پرانی جوتی کو اتار کر پھینک دیا جاتا ہے۔ خربوزے کو خربوزہ دیکھ کر رنگ بدلتا ہے۔ تم خود انگدے ہو گئے۔ اس لئے تمہیں دیکھ کر تمہاری اولادیں بھی گندی ہو گئیں۔“  
(انضل ۲، ۱۹۳۲ء، ۲ جون)

مرزا نجیبوں کو یہ سنہری سند مبارک ہو۔ کیا اسی جماعت کو قائم کرنے کے لئے مرزا قادری میں مبعوث ہوئے تھے؟۔ وہ بقول مرزا محمود دنیا کے خبیث ترین وجودوں سے مشاہدہ رکھتی ہیں۔ جو بھیڑیوں کا چہرہ لے کر فرشتوں کا کام کرنا چاہتی ہے۔ جو اصلاح کا طریق نکالنے نکالنے قرآن کو منسوب خواردے رہی ہے۔ جن کے افراد انگدے اور ان کی اولادیں بھی گندی ہیں کیا اثر محبت کا نتیجہ نکالتا تھا؟ اور اس پر سید المرسلین ﷺ کی ہمسری کا دعویٰ۔ (معاذ اللہ)

### انجام مرزا

میں سوتے سوتے جہنم میں پڑ گیا۔  
(تمکرہ ص ۵۲۵، طبع سوم)

”کمترین کاپیز اغرق ہو گیا۔“  
(البشری حصہ دوم ص ۱۲۱، تذکرہ ص ۶۸۳)

”میرے لئے فیصلہ ہوا کہ گرایا جائے۔“  
(البشری حصہ اول)

دانیال کی پیش گوئی نقل کر کے کہا۔ ”میخ موعود (مرزا قادری) تیرہ سو پیشیں ہجری

تک اپنا کام چلائے گا۔ یعنی چودھویں صدی میں سے پیشیں برس برابر کام کرتا رہے گا۔“  
(تحقیق گراؤڈیم کے اخراج ائمہ حنفی ص ۲۹۲، حاشیہ)

”(میری عمر) اسی برس ۲۴ چار پانچ کم یا چار پانچ زیادہ۔“  
(حقیقت الٹی ص ۹۲، خزانہ ائمہ حنفی ص ۱۰۰)

۱۔ مرزا قادری بمقام اہور ۱۳۲۶ھ میں میلہ بحد رکابی کے دن بند ہیضہ (الاؤس) کی بیماری سے آنفانا مر گیا۔

۲۔ مگر مرزا قادری ۲۸ سال کی عمر ۲۶ ربیعی ۱۹۰۸ء میں مر گئے۔ ان کا سال پیدائش ۱۸۸۰ء، حوالہ کتاب البریہ پہلے درج ہو چکا ہے ان بیاء جہاں فوت ہوتے ہیں۔ وہیں فتن ہوتے ہیں۔ مگر مرزا قادری کی لاش کو خرد جاں پر سوار کر قادیان لایا گیا اور وہاں جو ہڑکے کنارے فتن کیا گیا۔

نوٹ: ماہ مگری میں بمقام لاہور سالہ پیغام صلح لکھنے میں مصروف تھے اور اپنی کتب چشمہ معرفت کی تحریکیں سے بھی ۲۰ مئی ۱۹۰۸ء کو لاہور میں فارغ ہوئے۔ اسی کتاب میں دائرہ عبدالحکیمی اپنے سامنے ہلاکت اور اپنی سلامتی کی پیش گوئی کی تھی اور ذا آئز عبدالحکیمی پیش گوئی کہ مرزا ۳۱ اگست ۱۹۰۸ء تک مرجائے گا۔ نقل کر کے لکھا تھا کہ ”اب یہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے اختیار میں ہے۔“ (چشمہ معرفت ص ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸)

حضرت صوفی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری بھی قضاۓ موت کی طرح لاہور پہنچ گئے اور انہوں نے بمقام شاہی مسجد بروز جمعہ ۲۲ مئی ۱۹۰۸ء مرزا کو مقابلہ و مناظرہ کے لئے لکارا اور اس کی ہلاکت کے لئے مجمع عام میں دعا کی اور فرمایا کہ مرزا کو تین دن کی مہلت ہے۔ پیر صاحب کی طرف سے روزانہ آدمی مرزا کے پاس آتے جاتے رہے۔ آخر بروز اتوار پیر صاحب نے کہلا بھیجا کہ اب صرف ایک دن کی مہلت ہے۔ تو بہ کروور نہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ مرزا کو مقابلہ میں آنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ سنا گیا ہے۔ بروز دوشنبہ خربوزہ کھانے کے بعد بیضہ بوجگیا اور مارفیائی ذبل خوراک کھانے کی وجہ سے الاؤس کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ آخر کار مرزا ۲۲ مئی ۱۹۰۸ء بروز منگل ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دے دی۔ پیغام صلح کی تصنیف تمام رہی اور چشمہ معرفت میں جس مقدمہ کا ذکر کیا تھا۔ اس کا خدا نے چھ دن کے اندر ہی فیصلہ فرمادیا اور سنا گیا ہے کہ اہل ہندو مرزا کے مکان پر حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے کرشمہاراج کو جلانے کے لئے ہمارے حوالہ کرو۔ لاہور کی فضاء کونا موافق دیکھ کر نور الدین نے لاش کو قادیانی لے جانے کا فیصلہ کیا اور خچر گاڑی کا ایک ڈبریز روکرا کر بیان لے گئے اور وہاں سے لے کر ایک جو ہڑ کے کنارے سپرد خاک کیا۔

## حصہ دوّم

**مرزا قادیانی کے خلیفہ اول حکیم نور الدین بھیروی کے حالات**

**ابتدائی حالات**

مرزا قادیانی کے دست راست اور مرزا ای سالمہ کے معاون اعظم حکیم نور الدین کی پیدائش بھیرہ میں ہوئی۔ نسب کے متعلق متفاہ اقوال لوگوں میں مشہور ہیں۔ ابتدائی تعلیم بھیرہ میں حاصل کی۔ اسی زمانہ میں استاذ الکل شیخ الحضور اور اس الفقہاء، والحمد شیعی، سید العابدین، سلطان

التاریخین جدی و موافق حضرت مولانا احمد الدین ۱۔ بگوی رحمۃ اللہ علیہ بھیرہ میں رونق افروز ہوئے۔ نور الدین نے اس موقع کو نعمت سمجھا اور حضرت ممدوح کی خدمت میں بغرض افاضہ تعلیم حاضر ہوا اور اس چشمہ عرفان سے محروم نہ رہا اور علوم عربی سے سند فراگت حاصل کی۔ ایسے لوگ ابھی زندہ موجود ہیں۔ جنہوں نے اپنے کانوں سے حضرت استاذ الکل کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ کلمات سنے تھے کہ ”نور الدین مجھے تم سے بوآتی ہے۔ تم دین سے دور ہو جاؤ گے اور مذہب اسلام میں کسی فتنہ کا باعث بونگے۔“ اس کے بعد ہندوستان میں کئی جگہ مصروف تعلیم رہے کے بعد مکہ معظمه و مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں حضرت شاہ عبدالغنی مرحوم کی سفارش سے تک خانہ شیخ الاسلام عارف آفندی سے ایک کتاب ۲۔ برائے مطالعہ حاصل کی اس کتاب کا دنیاۓ اسلام میں ایک ہی نجٹہ تھا وہ کتاب لے کر ہندوستان چلے آئے۔ حضرت شاہ عبدالغنی مرحوم نے خطوط لکھے۔ آدمی بھیجے۔ مگر وہ کتاب واپس نہ ہوئی اور صرف اسی کتاب کے گم ہونے پر مخالفین کتب خانہ اور شاہ صاحب ممدوح حکومت ترکیہ کے زیر عتاب رہے۔

### ترک تقلید

حر میں سے واپسی پر نور الدین نے وہابیت اختیار کی اور ترک تقلید پر وعظ کئے اور عدم جواز تقلید پر کتابیں تصنیف کیں۔ بھیرہ میں یہ جان عظیم برپا ہو گیا۔ حضرت مولانا غلام نبی صاحب اللوئی، مولانا غلام رسول صاحب چودری، مولانا غلام مرتضی صاحب بیرونی، حضرت زبدۃ

۱۔ حضرت مرحوم خاکسار مؤلف کے جدا امجد تھے۔ ظاہری علوم حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ و مولانا شاہ محمد الحلقیؒ سے حاصل کئے تھے اور فیض باطنی حضرت مجدد ملنۃ الحاضرہ شاہ غلام علی شاہ دہلویؒ سے حاصل کیا تھا۔ جامع کمالات صاحب کشف و کرامات تھے۔ پنجاب میں تنویر قلوب و اشاعت و ترویج علوم دینیہ میں آپ کا نامایاں حصہ ہے۔ سکھوں کے عہد مظاہر میں حضرت مرحوم اور حضرت کے بڑے بھائی مولانا غلام مجیدی الدین بگوئیؒ نے پنجاب میں علوم دینیہ کی نہریں بہادیں۔ جامع مسجد بھیرہ حضرت مرحوم کی علوہمتی وایشار کی عظیم الشان یادگار ہے کم و بیش دو ہزار علماء و فضلاء نے آپ سے حدیث کی سند حاصل کی آپ کے تلامذہ کی تعداد ہزاروں سے متجاوز تھی۔ تیس سال لاہور میں درس دیا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام بھیرہ میں گذارے۔ آپ کا مزار مبارک جامع مسجد بھیرہ میں زیارت گاہ ہے۔

۲۔ کہتے ہیں کہ وہ کتاب امام طحاویؒ کی تصنیف تھی جو بالکل نایاب تھی۔

العارفین مولانا عبدالعزیز بھوئی کے دنیوں سے ایک فتویٰ غیر مقلدین کے خلاف شائع ہوا اور محلہ پر اچھاں بھیرہ میں فیصلہ کن مناظرہ کے بعد غیر مقلدین کا بھیرہ میں ناطقہ بند ہو گیا اور نور الدین بھیرہ کی رہائش ترک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں سے بھاگ کر بھوپال اور وہاں سے جموں پہنچ اور ایک امیر کی سفارش سے مہاراجہ جموں کے ہاں بحیثیت طبیب ملازم ہو گئے۔

### نیچریت

ان دونوں سر سید احمد علی گردھی کی تفسیر شائع ہوئی اور مذہب نیچریت کا فروغ ہوا۔ نور الدین نے اس مذہب کو برضاہ و رغبت قبول کیا اور اس کی تائید میں منہج ہو گئے۔ چندے بھی دیئے اور کتابیں بھی فروخت کرائیں۔

### چکڑ الوبیت

بعد ازاں مولوی غلام نبی چکڑ الوبی کے دعاویٰ سن کر حدیث کے منکر ہو گئے۔ مگر ابھی اپنے چکڑ الوبی ہونے کا اعلان کرنے میں مذہب تھے کہ مرزا یت میں پھنس گئے۔

### دہریت والخاد

درactual نور الدین صاحب شروع سے آزادی کے ولاداہ تھے۔ مذہبیت سے انہیں لگاؤ نہ تھا۔ سادہ مزاج سادہ لوح اور موٹی عقل رکھنے والے تھے۔ ہر چیز کو سونا سمجھ لینا ان کا معمول تھا۔ مجھے جموں کے ایک معتبر وکیل نے بیان کیا کہ ایک دفعہ نور الدین قادریانی نے مجھے اپنی ایک تصنیف دکھائی۔ جس میں یہ ثابت کیا تھا کہ مذاہب عالم کو مٹائے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ دہریت والخاد کے اس پلنڈہ کو وہ شائع کرنا چاہتے تھے۔ مگر بعد ازاں جمہور کی مخالفت کے اندازی سے شائع نہ کر سکے۔

### مرزا کی مریدی

مرزا غلام احمد قادریانی نے براہین احمدیہ کا اشتہار دیا۔ مرزا کی کتابوں کا مطالعہ کر کے نور الدین کو انسیت پیدا ہوئی اور مت سے جس بات کی تلاش میں تھے وہ مل گئی۔ مرزا کی تعلیم انہیں اپنی طبیعت و مزاج کے موافق معلوم ہوئی۔ مرزا کی تعلیم دہریت، چکڑ الوبیت، دہریت والخاد کا ایک مرکب یا چور تھی۔ جسے نور الدین قادریانی نے فوراً قبول کر لیا۔ انہیں دونوں میں ارکان حکومت کشمیر کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ ہو رہے تھے۔ اس لئے اپنے مطب وغیرہ کے لئے کسی نے میدان کی تلاش تھی۔ آخر کار مہاراجہ نے انہیں ملازمت سے سبد و ش کر دیا اور ان کا

ریاست کی حدود سے جبرا خراج عمل میں آیا۔ نور الدین وہاں سے بھاگ کر قادیان میں فروش ہو گئے اور مرزا قادیانی کے گلے لگ کر کہا۔

**خوب گذرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو**

### تائید مرزا سعیت

اس کے بعد مرزا ای مذہب کی تائید میں نور الدین نے اپنا تمام زور قلم صرف کر دیا۔ بعض اصحاب کی رائے ہے کہ مرزا کی تصانیف کا اکثر حصہ نور الدین کی امداد سے مرتب ہوا۔ محمد احسن امر وہی، عبدالکریم سیالکوٹی وغیرہ نور الدین کے ہم خیال قادیان میں جمع ہو گئے اور مرزا کے الہام کے مطابق اسلام کے گھر کو بد لئے اور نبی ﷺ کی احادیث کو تر نے میں مشغول رہے۔ نور الدین کا ایک بچپن کا دوست حکیم فضل دین بھیروی بھی وہاں جا پہنچا۔ مرزا نے دعاوں سے اور نور الدین نے دعاوں سے پوری سعی کی مگر فضل دین کے گھر کوئی اولاد نہ ہوئی۔ دوسری شادی بھی کرادی مگر فضل دین ناکام دناراد دنیا سے رخصت ہوا۔ نور الدین نے مرزا قادیانی کی نبوت کی دوکان چلانے کے لئے جب تین ہزار روپیہ دیا تو مرزا قادیانی خوشی سے جھومنے لگے اور یہ شعر پڑھنے لگے۔

چہ خوش بودے اگر ہر یک زامت نور دین بودے

ہمیں بودے اگر ہر دل پر از نور یقین بودے

(بستان آسمانی ص ۳۷، خزانہ انسانی ص ۳۰۷)

### عام حالات

حکیم نور الدین قادیانی سے ملنے والے بیان کرتے ہیں کہ مرزا ای مذہب کی کامیابی کا دار و مدار نور الدین کی سادہ زندگی، حلم، مہمازداری اور لوگوں کی آؤ بھگت اور خوش اخلاقی پر ہوتی تھا۔ سادہ لوح عوام اس کی ملاقات کا گہرا اثر لے کر جاتے تھے۔ نور الدین ایک باکمال اور کامیاب طبیب تھا۔ دور دراز سے لوگ اس کے مطب میں حاضر ہوتے تھے اور مرزا سعیت کا اثر لے کر جاتے تھے۔ نور الدین اکثر احادیث و تفاسیری کتابوں پر پاؤں رکھ کر یا ان پر ناخنیں رکھ کر بیٹھا کرتا تھا اور وہ ان کے آداب کا چند اس قائل تھا۔ یوز آصف کی قبر کو قبر مسح ثابت کرنا نور الدین کا ہی حصہ تھا۔ نور الدین کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بے پدر پیدا نہیں ہوئے۔ مگر مصلحت اس کا اطمینان نہیں کیا۔

(عصاۓ موئی ص ۳۸۱)

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نور الدین پر مادہ حسن ظفی ایسا غالب تھا کہ اس کے سبب یا غلبہ فطرت کے باعث عمد امکار، دنباز اور فرپیوں کے فریب میں بھی آ جاتا رہا اور ان کے کہنے کی تعمیل، دھوکہ لھا کر بعد تجربہ بھی کرتا رہا۔ ایسے موقع کا ذکر اس نے اپنے کئی دوستوں سے کیا۔ اس لئے یہ بات سب میں اس کے دوستوں تک مشہور ہے کہ اس میں مردم شاہی کا مادہ نہ تھا۔ مرزاق کی صحبت میں رہ کر مزاج میں کس قدر تلوون، درشتی، تعليٰ وغیرہ پیدا ہو گئی تھی۔

### کرامات

لاہور میں سورنی ۲، جولائی ۱۹۰۰ء مضمون امساک باران پر وعظ کیا اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر مرزاق ایانی کو صادق ثابت کرنے کی سعی کی اور کہا کہ مسلمان جب تک مرزاق ایانی کو امام وقت نہ منیں گے ہرگز بارش کا منزد یکیں گے اور کئی اور بلیات دیکھیں گے اور بجائے بارش کے خاک و گرد و بجائے مخندک کے ان پر آگ بر سے گی۔ دوسرے دن نور الدین لاہور سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد نزول باران رحمت کا شروع ہو گیا اور اخیر جولائی تک چھرتبہ پر زور بارش ہوئی اور خداوند کریم نے اپنی عاجز مخلوق کو انغو اور تنذذب سے نجات دلائی۔

(عصائے موسیٰ، جواہر اخبار ایں گزٹ ۲، جولائی ۱۹۰۰ء ص ۳)

### تفقه و علمی کمالات

نور الدین نے فتویٰ دیا کہ میری تحقیق میں نکیر، قے اور قہقہے سے وضنوں میں ٹوٹتا۔

(نحو اصلی مجموعہ فتاویٰ احمد یہاں ص ۳۷)

نور الدین نے ایک کتاب کا نام *فصل الخطاب لمقدمۃ الكتاب* رکھا تھا۔ اس نام کے خلاف محاورہ عربی غلط ہونے کا اکثر چرچا رہا۔ شاید اپنے گورو کی سنت پر عمل کر کے غلط نویسی سے کام لیا ہوگا۔ (عصائے موسیٰ)

ایک دفعہ مفتی غلام مرتفعی صاحب مرحوم میانوی سے بمقام لاہور بتاریخ ۱۰ مریمی ۱۹۰۸ء مکالمہ ہوا۔ جس میں نور الدین نے اپنے دعویٰ مات عیسیٰ یقیناً کے ثابت کرانے کے لئے کوئی ایسی دلیل بیان نہ کر سکے۔ جس میں تقریب تام ہونے کا دعویٰ کر سکتے اور لا جواب ہو کر خاموش ہو گئے۔ (اظفر الرحمنی ص ۲۰۷)

ایسی طرح ایک دفعہ مولانا ابوالقاسم محمد حسین صاحب کو لوٹاڑوی کے سوالات کے جواب میں بمقام قادیان ایسے بدحواس ہوئے کہ اپنے گورو سے پوچھ کر بتانے کا وعدہ کیا۔ مولانا مددوح تین دن وہاں مقیم رہے۔ مگر ان کا بیان ہے کہ نور الدین موثی عقل کا آدمی اور

بالکل سادہ لوح انسان تھا اور حسن ظنی کی بناء پر یا مرزا کے عقائد کو اپنے مذہب کے موافق پا کر  
مرزا کی دلدل میں پھنسا رہا۔

### دینی رنگ

مرزا نیوں کی مائیہ ناز کتاب (عمل مصقی ن ۱۰۷) میں لکھا ہے کہ نور الدین نے  
خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی دارالحی منڈی ہوئی ہے۔ (استغفار اللہ) مولوی کرم  
الدین صاحب رمیس بھیں کے مقدمات جو مرزا قادیانی کے ساتھ ہوئے۔ ان میں نور الدین کی  
شہادتیں ہوئی۔ شہادتوں میں اس قدر رجھوت بولے کہ لوگ حیران رہ گئے۔ رویداد مقدمات بنا میں  
”تازیۃ عبرت“ طبع ہو چکی ہے۔ اس میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تمہیر صاحب کے زمانہ میں  
یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ یا اغلب ابد ہوا کے عالم میں کہا ہو گا۔ جھوٹوں کی تعداد صرف ایک ہی  
بیان میں دس کے قریب پہنچ چکی ہے۔ یہ صرف مرزا قادیانی کی صحبت کا اثر تھا۔

### مرزا سے عقیدت

اکثر معتبر اشخاص سے سن گیا ہے کہ مرزا کی عقیدت کا جذبہ کئی دفعہ نور الدین کے دل  
سے جاتا رہا۔ مگر چونکہ حسن ظنی کا مادہ غالب تھا اور توفیق ایزدی شامل حال نہ تھی۔ اس لئے توبہ  
کرنے کی بہت نہ ہوئی۔ دراصل حضرت امام عظیمؒ کی تقلید ترک کرنے اور ان کی شان میں بر اہملا  
کہنے کا تجھے بارگاہ خداوندی سے اسی دنیا میں مل گیا۔ امام حقؒ کی تقلید سے نکل کر امام ضلالت کی  
غلامی کا پسند گلے میں ڈال لیا اور عقل و علم سے بے بہرہ ہو کر دین و ایمان سب اس کے حوالہ کر دیا۔  
چنانچہ ایک دفعہ کہا کہ: ”میرا تو یہ ایمان ہے کہ اگر صحیح موعود (مرزا قادیانی) صاحب شریعت نبی  
ہونے کا دعویٰ کریں اور قرآنی شریعت کو منسوخ قرار دیں تو پھر بھی مجھے انکار نہ ہو گا۔“

(سیرۃ المهدی حصہ اول ص ۹۸، ۹۹، ۱۰۹، روایت نمبر ۱۰۹)

مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد محمدی بیگم کے نکاح کے متعلق یہ جواب دیا کہ میرے  
ززویک اگر مرزا قادیانی کی اولاد میں سے کسی زمانہ میں کسی کا نکاح محمدی بیگم کی اولاد میں سے کسی  
لڑکی کے ساتھ ہو گیا تو پیشیں گوئی پوری ہو جائے گی۔ (ریویو ج ۲۰۶ ص ۲۷۶-۲۷۷)  
خدا جسے گراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے۔ جان بوجھ کر جواندھا بنے اور  
کنوئیں میں گرے اس کا کوئی علاج نہیں۔ نور الدین عقل و علم و خرد مرزا قادیانی کے حوالہ کر چکا تھا  
اور عقل سے کسی جگہ کام لینا جائز نہ سمجھتا تھا۔

## مرزا نیوں میں درجہ

مرزا نے قادیانی نے اپنی تصانیف میں کئی جگل نور الدین کی بڑی تعریف کی ہے۔ اسے فاروق اور حکیم الامت کا خطاب دیا گیا۔ (عمل مصنفو ص ۷۷۲، ۲۲۲) میں لکھا ہے کہ اس کا مرتبہ صدیق اکبر و دوسرے صحابہ کے برابر تھا۔ مرزا قادیانی نے ایک دفعہ کہا تھا۔ جس نے ابو بکرؓ و دیکھنا ہوا، عمر فاروقؓ کو دیکھنا ہوا، ابو ہریرہؓ، ابو ذرؓ، سلیمانؓ، عثمانؓ اور علیؓ کو دیکھنا ہوا وہ نور الدین کو دیکھ لے۔

(استغفار اللہ چہ نسبت خاک را باعالم پاک)

مرزا کے مرنے کے بعد بالاتفاق نور الدین خلیفہ قرار پایا۔ چھ سال خلیفہ رہا۔ اس کی زندگی میں کسی قسم کا اختلاف مرزا نیوں میں رونما نہ ہوا۔ اس کی افضلیت سب کے نزدیک مسلم تھی۔ اس لئے کسی دعویدار خلافت کو مقابلہ کرنے کا حوصلہ ہوا۔

مرزا قادیانی نے نہایت ہوشیاری سے نور الدین کے ذریعہ اپنے مشن کو کامیاب بنایا۔ ہر وقت ان کا دل بہلانے میں (خود اور اہل خانہ سمیت) مصروف رہتا تھا۔ جب بھی نور الدین کہیں باہر جاتا تھا۔ تب بھی اسے خوش رکھنے کے لئے خطوط کا سلسہ جاری رکھتا تھا۔ جن میں اس کی حد درجہ خو شامد کی جاتی تھی۔ چنانچہ ذیل میں مرزا کے دو خط بنام نور الدین نقل کئے جاتے ہیں۔

جن میں نور الدین کو ازواج مطہرہ کا معزز خطاب دیا گیا ہے۔

مندوی و مکرمی حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب

السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ یقین کر آں مکرم بخیر و عافیت بھیرہ لے میں پہنچ گئے ہوں گے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ بہر حال آپ سے بہتر معاملہ کرے گا۔ میں نے کتنی دفعہ جو توجہ کی تو کوئی مکروہ امر میرے پر ظاہر نہیں ہوا۔ بشارت کے امور ظاہر ہوتے رہے اور دو دفعہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا۔ ”انی معکماً اسمع واری“ ایک دفعہ دیکھا گیا کہ گویا ایک فرشتہ ہے۔ اس نے ایک کاغذ پر مہر لگادی اور وہ مہر دائزہ کی شکل پر تھی۔ اس کے کنارہ پر محیط کی طرف اعلیٰ کے قریب لکھا تھا۔ نور الدین اور درمیان میں یہ عبارت تھی۔ ازواج مطہرہ میری دانت میں ازواج دوستوں اور رفیقوں کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے یہ معنی ہوں گے کہ نور الدین خالص دوستوں میں سے ہیں۔ کیونکہ اسی رات اس سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا کہ فرشتہ نظر آیا کہ وہ کہتا ہے کہ تمہاری جماعت کے لوگ پھرتے جاتے ہیں۔ فلاں فلاں اپنے اخلاص پر قائم نہیں

لے مرزا قادیانی کو فکر دامنگیر ہوا کہ کہیں نور الدین بھیرہ میں رہ کر کسی نیک صحبت کا اثر قبول کر کے مرزا نیت ترک نہ کر دے۔ اس لئے یہ خو شامد سے بھرا ہوا خاط لکھا۔

رہا۔ تب میں اس فرشتہ کو ایک طرف لے گیا اور اس کو کہا کہ لوگ پھرتے جاتے ہیں۔ تم اپنی کہا کہ تم کس طرف ہو تو اس نے جواب دیا کہ ہم تو تمہاری طرف ہیں۔ تب میں نے کہا کہ جس حالت میں خدا تعالیٰ میری طرف ہے تو مجھے اس کی ذات کی قسم ہے کہ اگر سارا جہاں پھر جائے تو مجھے کچھ پرواد نہیں۔ پھر بعد اس کے میں نے کہا کہ تم کہاں سے آتے ہو اور آنکھ کھل گئی اور ساتھ الہام کے ذریعہ سے یہ جواب ملا کہ ”اجئی من حضرة الوتر“ میں نے کہا کہ چونکہ اس بیان سے جو فرشتہ نے کیا وتر کا لفظ مناسب تھا کہ وتر تباہ اور طاق کو کہتے ہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ کا نام الوتر بیان کیا۔ اس خواب اور اس الہام سے کچھ مجھے بشریت سے تشویش ہوئی اور پھر سو گیا۔ تب پھر ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک کاغذ پر مہر لگادی اور نقش مہر جو چھپ گیا دائرہ کی طرح تھا اور وہ اس قدر دائرہ تھا۔ جو ذیل میں لکھتا ہوں اور تمام شکل یہی تھی۔



مجھے دل میں گزرا کہ یہ میری دل تھنی کا جواب ہے اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ ایسے خالص دوست بھی ہیں۔ جو ہر ایک لغزش سے پاک کئے گئے ہیں۔ جن کا اعلیٰ نمونہ آپ ہیں۔  
والسلام خا کسار غلام احمد از قادیان بخدمت اخویم حکیم فضل دین صاحب السلام علیکم!

### مرزا کا دوسرا خط

مندوی و مکرمی اخویم حضرت مولوی صاحب سلمہ

السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ! عنایت نامہ پہنچ کر باعث مشکوری ہوا۔ عام طور پر لوگ آن کرم کے استغفار کو بڑی تعبیر کی تگاہ سے دیکھتے ہیں۔ درحقیقت اللہ جل شانہ کے بندے جو اس کی ذات پر توکل رکھتے ہیں۔ ان کے لئے خدا تعالیٰ کافی ہے۔ کسی رلبہ رئیس کی کیا پرواہ ہے۔ جبکہ اس بات کو مان لیا خدا ہے اور ان سفتون والا کہ ایک طرفۃ لعین میں جو چاہے کر دیوے۔ تو پھر ہم کیوں غم کریں اور زید و عمری بے التفالی سے ہمارا کیا نقصان آپ کو اپنے بہت سے برکات کا مور دہنادے کہ آپ نے اس عاجز کی نہ وہ خدمت کی ہے کہ جس کی نظر اس زمانہ میں ملنا مشکل

۱۔ معلوم ہوا کہ پہلے جو قسم کھائی تھی کہ مجھے پرواہ نہیں وہ قسم جھوٹی تھی۔ مرزا قادیانی شتمیں کھانے کے عادی تھے۔ ان کی دوسری قسموں کا حال بھی اس سے معلوم ہو سکتا ہے۔

۲۔ مرزا کو خود بھی تعبیر تھا۔ دل میں خوشی بوگی کے عجب آدمی با تھا آیا ہے۔ جس میں عقل خرد کا نام نہیں۔

ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ انسان کے بعض اخلاق مخفیہ کا خلقت پر ظاہر ہونا کسی قسم کی تکالیف پر موقوف سے۔ اس لئے وہ رحیم و کریم اپنے مستقیم الحال بندوں پر حاویت بھی نازل کرتا ہے۔ تا ان کے دونوں شرم کے اخلاق جو ایام راحت اور ایام رنج سے متعلق ہیں ظاہر ہو جاوے۔ اسی وجہ سے ہم خدا تعالیٰ کے مشیت میں کچھ چلے جاتے ہیں۔ تا جو کچھ ہمارے اندر ہے ظاہر ہو جاوے۔ اس کا عاجز کا پہاڑ خط جس میں ایک دوالہا ہو رج ہیں۔ شاید پہنچ گیا ہو گا۔

و اسلام!

خَسَارِ إِنَّا مَاهُمْ قَادِيَانِي ۖ ۱۹۹۲ ستمبر

منقول از زمیندار ۱۹ نومبر ۱۹۳۲ء

**انجام:** حکیم نور الدین قادریانی نے اپنے مرنے سے پہلے روز پہلے میرے اخکرم حضرت زبده العارفین مولانا محمد ذاکر بیوی کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا۔ جس میں خاندان بگویہ کے اخلاق کریمانہ و عنایات کا ذکر کرنے کے بعد اپنے لئے دعا کی درخواست کی تھی اور اپنی مرکے آخری افعال سے ندامت کا اظہار کیا تھا اور اس کے الفاظ سے ظاہر ہوتا تھا کہ نور الدین کو تنبیہ ہو چکی ہے۔ سنا گیا ہے کہ مرنے سے آٹھ دن پہلے جمرہ کے اندر ہی رہا۔ میرے حضرت بھائی صاحب مر جوم فرمایا کرتے تھے کہ یقیناً تو بہ کر کے مرے ہے۔ واللہ اعلم بحقيقة الحال! حکیم نور الدین قادریانی نے ۱۹۱۳ء میں انتقال کیا اور اس کے بعد امام مرزا یہ میں افتراق و انشقاق کا بازار گرم ہو گیا۔

### حصہ سوم

## مرزا یہوں کے فرقہ

حکیم نور الدین قادریانی کی وفات کے بعد امام مرزا یہ اخلاف عقدہ کی بنا پر کئی حصوں میں منقسم ہو گئی۔ ان میں سے اگرچہ لاہوری و قادریانی زیادہ مشہور ہیں۔ مگر وہ سب نے تھے بھی اپنی تفریقہ اندراز سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ اس لئے ان کا مختصر تذکرہ قارئین نہ دیکھی کے لئے درست کیا جاتا ہے۔

**محمودیہ:** اس فرقہ کا مرکز قادریان ہے۔ اس لئے یہ فرقہ قادریانی بھی ہما اتا ہے۔ امام احمد قادریانی کا بڑا لڑکا امام رضا محمود احمد اس گروہ کا امام یا پیشوایہ (آن کل ۲۰۰۶ دسمبر) میں پانچواں سوار مرزا اسرور قادریانی ان کا چیف گرو ہے۔ مرتب) یہ لوگ مرزا کی نبوت کا

اعلانیہ پر چار کرتے ہیں اور مرزا کے تمام دعاوی کو اس کے اصل الفاظ میں صحیح و درست تسلیم کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے دعوے میں فرق بینی و بین المصطفی ما عرف فنی و مار آمی کے مطابق قادیانی کو صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز سمجھتے ہیں اور وللا خدا خیر لک من الاولیٰ کے مطابق مرزا کی بعثت کو بعثت اول یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اعتقاد کرتے ہیں۔ اسی جماعت کا ایک شاعر کہتا ہے کہ:

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں  
اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں  
محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل  
غایمِ احمد کو دیکھے قادیانی میں

(اخبار بدرج ۲۴ نومبر ۱۹۰۶ء، ص ۲۵، ۲۶، ۲۷)

مرزا محمد احمد کو یہ لوگ فخر المرسلین لکھا کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد نے اپنے اس لڑکے کی

تعریف میں لکھا تھا کہ:

اے فخر رسول قرب تو معلوم شد  
دیسر آمدہ از راه دور آمدہ

(تذکرہ م ۱۹۵ ص ۱۶۵ طبع سوم)

مرزا محمد کے عقائد و بارہ مرزا غلام احمد قادیانی ملاحظہ ہوں۔

مرزا قادیانی بخلاف نبوت کے ایسے ہیں جیسے اور تغیر اور ان کا منکر کافر ہے۔

(افضل ۱۹۱۲ء نومبر ص ۸)

جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتا اور کافر بھی نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے۔

(تحمید الاذہان ج ۶ نومبر ۱۹۱۱ء ص ۱۱۳، ۱۱۴ اپریل ۱۹۱۱ء)

مرزا قادیانی نے اس کو بھی کافر ہبھرا یا ہے۔ جو چا تو جانتا ہے۔ مگر بیعت میں توقف کرتا

(تحمید الاذہان ج ۹ نومبر ۱۹۱۲ء اپریل ۱۹۱۲ء)

ہے۔

مرزا قادیانی کا انکار کافر ہے۔

(ذکر الہی ص ۶۰)

”اگر نبی کریم کا انکار کافر ہے تو مسیح موعود (مرزا قادیانی) کا انکار بھی کافر ہے۔ کیونکہ مسیح

۔۔۔ (مرزا قادیانی) نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ اس نے اگر مسیح موعود کا منکر کافر نہیں

ہے تو نبی کریم کا منکر بھی کافی نہیں۔ کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ پہلی بعثت میں آپ کا انکار کفر۔ مگر دوسری بعثت میں جس میں بقول مسیح موعود آپ کی روحاںیت اتوئی اکمل اور ارشد ہے۔ آپ کا انکار کفر نہ ہو۔” (کلمۃ الفصل ص ۱۰۲)

”کیا اس بات میں شک رہ جاتا ہے کہ قادیانی میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد ﷺ کو اتنا را..... جب تک یہ آیت کریمہ قرآن میں موجود ہے اس وقت تک تو مجبور ہے کہ سچ موعود کو محمد کی شان میں قبول کرے۔“ (کلمۃ الفصل ص ۱۰۵)

”مرزا قادیانی بعض الوالعزم نبیوں سے بھی آگے نکل گیا۔“ (حقیقت الدبوۃ ص ۲۵۷)  
”تمام انبیاء علیہم السلام (جس میں نبی کریم ﷺ بھی شامل ہیں) پر فرض ہے کہ سچ موعود (مرزا قادیانی) پر ایمان لا سکیں تو ہم کون ہیں جو نہ مانیں۔“

(الفصل ج ۳ ص ۲۸، نمبر ۱۹، ستمبر ۱۹۱۵ء)

”کیا یہ پر لے درج کی بے غیرتی نہیں کہ لانفرق بین احمد من رسلاہ میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، میحی علیہ السلام کو شامل کرتے ہیں۔ وہاں سچ موعود جیسے عظیم الشان نبی کو چھوڑ دیا جائے۔“ (کلمۃ الفصل ص ۱۱۷)

”سچ موعود نے خطبہ الہامیہ میں بعثت ثانی کو بدرا کا نام رکھا ہے اور بعثت اول کو ہلال جس سے لازم آتا ہے کہ بعثت ثانی کا کافر بعثت اول کے کافروں سے بدتر ہے۔“

(الفصل ص ۲۵، نمبر ۱۵، اگر جواہی ۱۹۱۵ء)

مرزا محمود اپنے متعلق لکھتے ہیں کہ: ”جس طرح سچ موعود کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے اسی طرح میرا انکار تمام انبیاء نبی اسرائیل کا انکار ہے۔ جنہوں نے میری خبر دی۔ میرا انکار رسول اللہ کا انکار ہے۔ جنہوں نے میری خبر دی۔“ (الفصل قادیانی ج ۲۲، نمبر ۲۲، ستمبر ۱۹۱۷ء)

”وہ خلیفہ اسلامی جس کی اتباع تمام مشرقی و مغربی دنیا پر فرض ہے۔ وہ میں ہوں۔“

(ریویو آف بلینجرن ۴۳ نمبر ۱۰، ص ۳۵، اکتوبر ۱۹۲۳ء)

اپنے والد کے متابعت میں مرزا محمود نے جنگ عظیم کے دوران میں برطانیہ کی وفاداری کے راؤں والا پے اور کہا کہ اگر مجھ پر بارخلافت نہ ہوتا تو میں رنگروٹ بن کر فوج میں بھرتی ہو جاتا۔ ۱۹۱۹ء میں جنگ افغانستان کے موقع پر افغانستان کو کچلنے کے لئے احمدی رجمشیں بھرتی کرنے کا ارادہ کیا۔ بغداد و بیت المقدس کے فتح ہونے پر قادیانی میں جشن چراغاں منایا گیا۔ اس دن منارة الکھداہ قادیانی پر گیس کے ہندے روشن تھے اور جزیرہ العرب پر غیر مسلموں کے قابض ہو جانے

لی خوتی میں ہر قادیانی فرط سرت سے بھولے نہ ساتا تھا۔ انہیں اپنے نبی کے مشن کا شہر نظر آ رہا تھا۔ مرزا محمود کے چال چلن و اخلاق کے متعلق کئی روایات مشہور ہیں۔ اس کے عبد شباب اور لڑکپن کے کئی قصہ زبان ز دخلائیں ہیں۔ مرزا غلام احمد کے سامنے بھی اس بے برے چال چلن کی شکایتیں ہوئی تھیں۔ چنانچہ اسی زمانہ میں ایک لڑکی کے ساتھنا جائز تعلق کا الزام اس پر لگایا گیا تھا۔ عبد خلافت میں بھی مرزا محمود کے مشن فی النوم، کنار بیاس، کے خاص مشاغل مدرسہ نواں وغیرہ کے متعلق اخبارات میں کئی بیان شائع ہو چکے ہیں۔ مولانا عبد الکریم صاحب ایڈیٹر مبایلہ امر تسر اور ان کا خاندان پکا مرزا تھا اور وہ بہشتی مقبرہ کا نکٹ بھی حاصل کر چکے تھے۔ مگر مرزا محمود کی عیاشیوں اور دیگر کارروائیوں سے واقف ہو کر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور خدا کے فضل و کرم سے انہیں دوبارہ داخل اسلام ہونے کی توفیق حاصل ہوئی۔ مولانا مددوح نے بذریعہ اخبار مبایلہ مرزا محمود کو مبایلہ کے لئے پیش دیا۔ مگر مرزا محمود نے مبایلہ قبول کرنے کی بجائے ارکان انجمن مبایلہ کے خلاف اپنے مریدوں کو اشتغال دلایا۔ آخر کار مولانا کو اعلاء کلمۃ الحق کی پاداش میں قادیانی سے جلاوطن ہونا پڑا۔ ان کے مکانات سورج کی روشنی میں دن کے وقت جلائے گئے۔ ہزار بارو پیہ کا سامان نذر آتش کر دیا گیا اور مولانا عبد الکریم پر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کے ایک ہمراہی مستری محمد حسین صاحب بیالوی شہید کر دیے گئے۔ مگر الحمد للہ کہ مولانا مددوح نہایت صبر و استقامت کے ساتھ امر تسر میں رہ کر اخبار مبایلہ کے لئے قادیانی کے سر بستہ رازوں کا انکشاف کر رہے ہیں۔

مرزا محمود انگلستان کی سیاحت بھی کر چکا ہے۔ وہاں اس نے احمدیت یعنی مرزا نیت پر ایک پیچھر دیا تھا اور لندن کے لڈگیٹ میں اقامت اختیار کی تھی۔ مرزا نیوں نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ احادیث میں جو آیا ہے کُسیح علیہ اسلام و جاں کو باب لدے پر قتل کریں گے۔ وہ پیشیں گوئی پوری ہو گئی۔ مرزا محمود کا انگلستان کے اخبارات میں مرزا محمود نے ہزار بارو پیہ خرچ کر کے اپنی فرازت کے متعلق پر اپیلینڈ کیا۔ لندن کے اخبارات میں ہر ہوں بیس خلیفۃ الرسح (تقدس سآب خلیفۃ الرسح) کے لقب سے اس کا ذکر کیا گیا۔ عوام نے سمجھا کہ دراصل خلیفہ صاحب کا نام مل مسح ہے۔ کیونکہ انگریزی میں خلیفہ مل مسح شائع ہوا تھا۔ اس لئے اس کا نام مل مسح مشہور ہو گیا۔

۱۔ کتب لغت اور کتب احادیث میں لد ایک گاؤں کا نام ہے۔ جو فلسطین میں ہے۔ مرزا نیوں نے فن تاویل میں تمام گذشتہ ملک فرقوں سے فویقت تام حاصل کر لی ہے۔ دمشق سے مراد قادیان اہن مریم سے مراد غلام احمد لد سے لندن کا لڈگیٹ مینارہ شرقی سے مراد قادیان کا مینارہ۔ غرض مرزا نیوں کے نزدیک مصلحت اللہ کی تعلیم ایک معہد تھی۔

۱۹۲۲ء میں قادریانیوں نے بہائیت کا چرچا ہونے لگا۔ محفوظ الحق علمی مولوی و فضل قادریانی اور کئی دیگر اشخاص نے اعلانیہ بہائی مذہب قبول کر لیا اور اعلان کر دیا کہ مرزا نامہ نے بہاء اللہ تعالیٰ تعلیمات بہائی عقائد و طرز استدلال سے فائدہ حاصل کیا تھا۔ ورنہ دراٹر شیخ موعود اور مہبدی اور زمانہ کا رسول بہاء اللہ تھا۔ مرزا محمود نے اس زبردست تبدیلی کے متبلہ میں اپنے آپ کو عاجز پا کر مقاطعہ کے تھیار سے کام لیا۔ علمی و دینی بہائی قادریان کی رہائش ترک کرنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے کوکب ہند کے نام سے ایک اخبار جاری کیا۔ جو ملک ہند میں بہائیت کی تبلیغ کرنے والا واحد پرچہ ہے۔ اس میں قادریانی مذہب کی تردید بھی نہایت عمدگی سے کی جاتی ہے۔

مذہب مرزا نیت کی تبلیغ اور پر اپیگنڈا کے فن میں مرزا محمود اپنے والد سے زیادہ ماہر اور بوسیار ثابت ہوا ہے۔ گورنمنٹ برطانیہ کو ہر حال میں اپنے موافق رکھنے کے لئے خوشامد و چالپوی اور اظہار و فاداری میں کوئی غدار ملت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ممالک غیر میں اس کے کئی مبلغین خدمات خصوصی پر مامور ہیں اور ان کی خدمات کو خدمات اسلام ظاہر کر کے سادہ لوح مسلمانوں کی جیبوں پر ڈاکڑا لاجاتا ہے۔ اکثر بے خبر جاہل اور نی روشنی کے ولادا چنلیمین انہیں مبلغ اسلام اور خادم اسلام سمجھ کر ان کے پھنسے میں پھنس جاتے ہیں اور اپنے بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر ان کو چندہ دینے لگتے ہیں۔ سرمد شہید نے عالم کشف میں شاید ان ہی لوگوں کو دیکھ کر کہا ہو کہ:

یار آن چہ عجب راہ دور نگی دارند

مصحف بہ بغل دین فرنگی دارند

مرزا نیوں کی غیر ممالک میں تبلیغ کی حقیقت حسب ذیل تصریحات سے واضح ہو سکتی ہے۔ قارئین بعد ازاں الفاظ کا مطالعہ کر کے اندازہ لگائیں۔

خوبجہ کمال الدین مرزا نی لکھتا ہے کہ: ” قادریانی بھائیوں نے جا کر ولایت میں کہا کہ احمدی فرقہ دوسرے مسلمانوں سے الگ ہے ..... قادریانی دوستوں نے ماسٹر پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) اور شاگرد پیغمبر (مرزا صاحب) کا فلسفہ بھی انگلستان میں پیش کر کے دیکھ لیا۔ یہ پچھا امر ہی انگلستان میں انگلی ترقی کی روک کا باعث ہو گیا ..... قادریانی مبلغین میں سے ایک نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اتوار کے دن وہ واٹروائیشن پر آ جاتے ..... اور اس نوہ میں رہتے کہ کون لندن سے مسجد و کنگ کی طرف جا رہا ہے۔ اگر انہیں کسی ایسے شخص کا پیٹ چل جاتا تو اس کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ جاتے اور وہ کنگ تک حضرت مرزا صاحب کی نبوت کی تلقین کرتے۔

چنانچہ ایک دن ملک بجیم کی ایک نو مسلم خاتون اپنے بچوں کو لے کر ورنگ آ رہی تھی۔ تو اس کے ساتھ قادیانی مبلغ بھی بینچے گئے اور نبوت امرزا پر زور دینے لگے۔ اس پر خاتون نے کہا..... کہ بڑی سے بڑی بات جو تمہاری تقریر سے مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ محمد کے ماتحت ایک بچوں پر پیغمبر پیدا ہوا۔ ہم تو اب تک بڑے پیغمبر سے عہدہ برآ نہیں ہوئے جس وقت ہم بڑے پیغمبر کی تعلیم پر پورے عامل ہو جائیں گے اس وقت بچوں پر پیغمبر کا بھی خیال کر لیں گے۔ یہ الفاظ ..... قادیانی جماعت کے غور کرنے کے قابل ہیں۔ وہ عملی رنگ کو اپنے سامنے رکھیں۔ آخراں ہوں نے دیکھ تو لیا کہ جن ۲ وجہ سے انہوں نے اڈل جرمن اور بعد میں اپنے امریکن مشن کو بند کیا۔ وہ ہی صورت ان کی انگلستانی مشن کی ہو رہی ہے۔“

(مدد کامل ص ۸۷، ۸۸)

مرزا غلام احمد قادیانی لکھتے ہیں کہ: ”میں گورنمنٹ کی پیشکش خدمت و حمایت کے لئے ایسی جماعت تیار کر رہا ہوں جو آڑے وقت میں گورنمنٹ کے مخالفوں کے مقابلے میں لگائی اور گورنمنٹ کے متعلق مجھے یہ الہام ہوا کہ جب تک تو گورنمنٹ کی عملداری میں ہے۔ خدا گورنمنٹ کو کچھ تکلیف نہ دے گا اور جدھر تیرامت ہو گا اسی طرف خدا کا ہو گا اور میر امنت گورنمنٹ انگلشیہ کی طرف ہے۔ لہذا خدا کامنہ بھی اسی گورنمنٹ کی طرف ہے۔“ (الہامی قائل نمبر ۱۸ ص ۵) ”ہمارے گروہ میں عوام کم اور خواص زیادہ ہیں۔ اس گروہ میں بہت سے سرکار انگریزی کے ذی عزت عہدہ دار ہیں۔“ (کتاب البر ص ۱۸۶، خزانہ اسناد ج ۲۰۳ ص ۲۰۲ حاشیہ)

۱۔ مرزاں کی یہی اسلامی خدمات میں جن کا ذہنڈ و راپھا جاتا ہے اور سادہ لور ہے عوام انہیں ممالک فراغ میں اسلامی مبلغ تصور کر لیتے ہیں اور انہیں چندہ دیتے ہیں اور مرزاں ای جھوم بھوم کر کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے مغرب میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا ہے۔ فافهم! (مؤلف)  
۲۔ یعنی اہل جرمن و امریکہ قادیانی جماعت کو انگریزی جاؤں سمجھنے لگے اور مرزا غلام احمد کی نبوت کا پرچار نہ ہو سکا۔

۳۔ یعنی مرزا اور مرزاں کا قبلہ انگریز ہیں۔ فافهم!

۴۔ (بخاری ح اص ۲۱۳ کتاب الجہاد، باب دعا النبی ﷺ علی الامام والنبوة) میں روایت ہے کہ قیصر روم نے ابوسفیان سے دریافت کیا کہ پیغمبر اسلام کے ماننے والے مسکین غریب لوگ زیادہ ہیں یا سردار اور قوی لوگ؟۔ ابوسفیان نے جواب دیا۔ مسکین اور غریب لوگ ہر قل نے اس جواب پر کہا کہ ہر ایک نبی کے پہلے ماننے والے مسکین غریب لوگ ہی ہوتے رہے ہیں۔

مرزا محمود کہتا ہے کہ: "گورنمنٹ کی ایسی خدمت کرتے ہیں جو پاچ پاچ بڑا روپیہ تنخواہ پانے والے نہیں کرتے۔" (الفصل قادیانی ج ۷ انبر ۶۷، کینر پریل ۱۹۳۰ء)

مرزا محمود ۱۹۲۳ء سے لے کر ۱۹۴۱ء تک اہل اسلام سے ترک تعاوون پر عمل پیرا رہا۔ اس نے مسلمانان عالم کو کافر، مرتد اور وائزہ اسلام سے خارج قرار دیا اور ان سے رشتہ ناطق و برادری کے تعلقات قائم کرنا۔ ان کی شادی یا غمی کی رسومات میں شریک ہونا۔ بلکہ ان کے مخصوص بچوں کا جنمازہ تک پڑھنا اپنے مریدوں کے لئے ناجائز و حرام قرار دیا۔ مگر ۱۹۲۲ء کے بعد کسی پولیٹکل مصلحت سے مسلمانان ہندی کی قیادت و رہنمائی کا شوق اس کے دل میں ساچکا ہے۔ انہیں کافروں، مرتدوں اور بے دینوں کی بھلائی و بہبودی کا فکر بقول مرزا یان اسے ہر وقت بے چین کئے رکھتا ہے۔ قتنہ ارتداد کے زمانہ میں بے شمار مرزاٹی حلقة ارتداد میں مبلغین اسلام بن کر پہنچے۔ علمائے اسلام اسی وقت ان کے عزائم کوتاز گئے تھے۔ مگر مدعاں قیادت یعنی حقیقتی ظلمت کے شیدائیوں نے ہر جگہ علمائے اسلام کا استخفاف کیا اور قادیانیوں کی اسلامی ہمدردی کا شکریہ ادا کیا گیا۔ مرزا یوں نے تبلیغ و انسداد قتنہ ارتداد کے لئے لاکھوں روپیہ مسلمانوں سے وصول کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ۱۹۳۲ء کے جلسہ قادیان میں اعلان کیا گیا کہ ساندھن (حلقة ارتداد) سے احمدیوں کا قافلہ غلام آریہ بنے کے نعرے لگاتا ہوا قادیان پہنچا ہے اور احمدیت وہاں اچھی طرح پھیل رہی ہے۔ گویا آریہ بنے سے بچ کر ملکانوں کی ایک جماعت مسلمانوں کے لاکھوں روپیہ کے صرف سے مرزاٹی بن گئی۔ محمد رسول اللہ ﷺ کی امت سے نکل کر قادیانی نبی کی امت میں شامل ہو گئے۔

lahor کے ایک ہندو راجپال نے ایک دلآلی کتاب رنگیا رسول تصویف کی جس سے مسلمانان ہند میں ایک بیجان عظیم برپا ہو گیا۔ قادیانیوں نے قیادت کا موقعہ باتح سے نہ جانے دیا۔ بڑے بڑے لمبے پوسٹر ہفتہ مرزا محمود کی طرف سے شائع ہو کر بڑے بڑے شہروں کے درودیوار پر چپاں ہونے لگے۔ جن میں مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ معاشرتی و تجارتی مقاطعہ کی تلقین کی جاتی تھی۔ اس زمانہ میں عام طور پر لوگ مرزا یوں کو نبی اکرم ﷺ کے عاشق اور اسلام کے بہادر سپاہی خیال کرتے تھے۔ مرزا محمود نے اپنی جماعت کی وسیع تنظیم کے ذریعہ اپنی قیادت کا ذہن و رہ پنوایا اور سادہ لوح مسلمانوں سے لاکھوں کی تعداد میں دستخط کر کر ایک میموریل و ایسرائے کے نام بھوایا۔ جس میں انہیاء و بانیان مذہب کی توہین کو جرم قرار دینے کے لئے کسی قانون کے نفاذ کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ گورنمنٹ نے تعزیرات ہند میں مجوزہ ترمیم کو نہیں کر لیا۔

مسلمانوں کی خوشی کی کوئی انتہاء نہ رہی۔ مگر اس چال بازی اور فریب کی حقیقت جلد ہی ظاہر ہو گئی۔ مرزا نیوں نے مرزا غلام احمد قادر یا نی کو بھی بانیان مذاہب اور انبیاء میں ظاہر کیا اور اس کی ذات پر بھی نکتہ چینی ہو جب قانون جرم قرار دی گئی۔ اب تک کئی خادمان اسلام اس قانون کی زد میں آچکے ہیں۔ مگر بد گود مفسد اشخاص ابھی تک محفوظ ہیں۔ عازی علم الدین شہید کے خبر نے راجپاتی فتنہ کا خاتمہ کر دیا اور اس پر عاشق رسول نے اپنی جان عزیز اس مقصد کے لئے قربان کر دی۔ مسلمانوں کی حیرت کی کوئی انتہاء نہ رہی۔ جب انہوں نے مدعاں تحفظ ناموس شریعت یعنی قادیانیوں اور ان کے پیشواؤ مرزا محمود کی زبان سے علم الدین کی مذمت کے الفاظ سنے اور قادیان کے سرکاری صحیفہ الفضل میں اعلان کیا گیا کہ علم الدین اپنے گناہ سے توبہ کرے۔ اس سے ایسی حرکت سرزد ہوئی ہے جو شرعاً قابل معافی نہیں۔

(الفضل قادیان ج ۱۶ نمبر ۸۲ ص ۷، ۸، ۹، ۱۰ اپریل ۱۹۲۹ء)

اس کے بالعکس حاجی مسٹری محمد سین صاحب بیالوی شہید کے قاتل محمد علی مرزا تائی کی تعریفیں کی گئیں اور پھانسی کے بعد اس کا جنازہ کو مرزا محمود نے کندھا دیا اور اسے بہشتی مقبرہ میں دفن کیا گیا۔  
(الفضل قادیان ج ۱۸ نمبر ۳۳ ص ۱۹، ۲۰، ۲۱ اگسٹ ۱۹۳۱ء)

مرزا نیوں کے اس فعل سے ثابت ہو چکا ہے کہ ان کے دلوں میں نبی اکرم ﷺ سے زیادہ مرزا محمودی محبت و عزت موجز ہے۔ مرزا محمود کے دشمن کا قاتل ان کے نزدیک جنتی ہے اور نبی کریم ﷺ کو گالیاں دینے والے کو اگر کوئی مسلمان غصب میں آ کر قتل کروے تو ان کے نزدیک وہ شرعی محروم ہے۔ گناہ گار ہے اور مستحق دار ہے اور اسے توبہ کرنی چاہئے اور ایسے شخص کو اگر پھانسی دی جائے تو اسے شہید کہنا جائز نہیں۔ مرزا محمود کے نزدیک سیاست میں دھل دینا ناجائز تھا۔ وہ اعلان کر چکا تھا کہ ”مسلمانوں کے لئے سیاست کی طرف متوجه ہونا ایک ایسا زہر ہے جسے کھا کر پچاہی ممال بلکہ ناممکن ہے۔“  
(برکات خلافت ص ۵۹)

ان لوگوں کو جانے دو جو سیاست میں پڑتے ہیں۔ (برکات خلافت ص ۶۹)

خواجہ صاحب (کمال الدین) با وجود صحیح موعود کے سخت ناپسند فرمانے کے مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔  
(الفضل ۱۷ افروری ۱۹۱۴ء)

مگر اب مرزا محمود نے سیاست میں عملی حصہ لینا شروع کر دیا ہے۔ اس کے مرید ڈفتر اللہ و مفتی محمد صادق مسلم لیگ و مسلم کانفرنس کے ہر اجلاس میں شریک ہوتے ہیں اور سیاست کے متعلق مسلمانوں کو مشورے دیتے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایسے خطرناک مفسدین سے ہوشیار رہنا

چاہئے۔ ممکن ہے کہ یہ لوگ آئندہ زمانہ میں سکھوں کی طرح اپنی ایک عیحدہ سیاسی خیثیت گورنمنٹ سے تسلیم کرائیں اور اپنی تعداد بڑھا کر مسلمانوں کے لئے مستقل خطرہ ثابت ہوں۔ یہ پولیٹکل گرگٹ کئی رنگ بدل رہے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادریانی نے اعلان کیا تھا کہ ”اللہ تعالیٰ ایک جماعت الگ بنانا چاہتا ہے۔ اس لئے اس کی منشاء کی کیوں مخالفت کی جائے۔ جن لوگوں سے وہ جدا کرنا چاہتا ہے بار بار ان میں گھسنائیں تو اس کی منشاء کے مخالف ہے۔“

(البدر مورثہ ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء)

مگر جب مرزا محمود کو قیادت کا شوق کامیا اور مصلحت وقت سے کام لینا چاہا تو ہمدرد اسلام بن کر مسلمانوں کے سامنے نمودار ہوا اور ۲۶ جون ۱۹۲۵ء کو نیا روپ بدل اور تقریر میں کہا کہ: ”میں نصیحت کرتا ہوں اور وہ یہ کہ اب تک ہماری جماعت سے ایک غلطی ہوئی ہے۔ میں نے بارہا اس سے روکا بھی ہے مگر اس جماعت نے جو اخلاص میں بے نظیر ہے تا حال اس پر عمل نہیں کیا اور وہ یہ کہ مباحثات کو ترک کر دو۔ میرے زندگی وہ نکست ہزار درجہ بہتر ہے۔ جو لوگوں کے لئے ہدایت کا موجب ہو۔ بہ نسبت اس فتح کے جو لوگوں کو حق سے دور کر دے۔ پس ایک دفعہ پھر جب کہ ہمارے مبلغ تبلیغ کے لئے جا رہے ہیں انہیں اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ مباحثات کو چھوڑ دیں اور ایسا طرز اختیار کریں جس سے دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خدا تعالیٰ سے خیثیت ظاہر ہو۔ مگر ساتھ ہی یہ خیال رکھنا چاہئے کہ وہ مبلغ کی خیثیت سے نہیں جا رہے۔ بلکہ مدبر کی خیثیت سے جا رہے ہیں۔ ان کا کام یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک میں کس طرح تبلیغ کرنی چاہئے۔“

(الفضل ۱۱ ار جولائی ۱۹۲۵ء)

کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہوا۔ مظلومین کی ہمدردی کے جذبے سے مسلمانان ہند بے چین تھے۔ ایسی حالت میں مرزا محمود نے شملہ میں چند نام نہاد لیڈروں کو جمع کر کے کشمیر کیثیتی قائم کی اور اس کی صدارت کے فرائض اپنے ذمے لئے اور اس کا سیکرٹری اپنا ایک مرید عبدالرحمیم درد کو بنایا اور کمیٹی کا صدر مقام قادریانی میں مقرر کر کے طول و عرض ہند میں چندہ کی اپلیئن شائع کیں

---

۱۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا نیوں کو ہر جگہ مناظروں میں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مرزا نیت کی حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے۔ اس لئے مرزا محمود کوئی طریقہ سے کام لینا پڑا اور منافق بن کر ظاہری ہمدردی دکھا کر تدبیر و حکمت سے لوگوں کے دل و دماغ میں اپنا اثر قائم کرنا چاہزے۔ (مؤلف)

ورکنی لاکھ ا روپیہ غریب مسلمانوں نے اپنے کشمیری مظلوم بھائیوں کی امداد کے لئے دیا۔ مگر وہ روپیہ مرزا بیت کی تبلیغ پر صرف ہوا۔ کشمیری کی صدارت کے نام سے ناجائز فائدہ حاصل کیا گیا۔ مرزا بیوں نے کشمیر میں پراپرینڈا کیا کہ مرزا محمود کو مسلمانان ہند نے اپنا پیشوائ غلیف اور امیر تسلیم کر لیا ہے۔ معصوم کشمیری بچوں کے جلوس نکالے گئے اور ان سے مرزا شیر الدین محمود زندہ ہاد کے نفرے لگوائے گئے۔ کشمیری زماء کو مالی اعانت سے اپنا ہمتو اہنایا گیا۔ چنانچہ سنائی ہے کہ کشمیر کے ہر بڑے قصہ میں سرکردہ مسلم پیشوایا سردار کو قادیان سے ماہواری رقم موصول ہوتی ہے۔ اس طرح تالیف قلوب سے کام لے کر مرزا بیت کے بیسوں مبلغ دیہات و قصبات میں دورہ کر رہے ہیں۔ حکومت کشمیر پر بھی مرزا بیوں کا اثر ہے۔ اس لئے مرزا بیت کے مخالفین کی زبان بندی کرائی جاتی ہے۔ ان کا داخلہ منوع قرار دیا جاتا ہے۔ نوجوان ڈھین اور مستعد طباء فرماہم کر کے بغرض تعلیم قادیان روانہ کئے جاتے ہیں۔ تاکہ انہیں مبلغ بنا کر ان کے وطن میں واپس بھیجا جائے۔ صرف علاقہ شوپیاں (کشمیر) سے دس طباء بھیجے جا چکے ہیں۔ مرزا بیت کے خلاف آواز بلند کرنے والے کا گلا اتحاد کی رث لگا کر دبائے والے ہر جگہ موجود ہیں اور اگر چند دن یہی حالت رہی تو اندر یہ ہے کہ تمام کشمیر میں مرزا بیت کی جڑیں نہایت محکم واستوار ہو جائیں گی۔ علمائے کرام کا فرض ہے کہ اس فتنہ کو فتنہ شدھی سے زیادہ خطرناک سمجھ کر مردانہ وار میدان عمل میں آئیں۔ ورنہ بعد میں پچھتائے سے کچھ نہ ہے گا۔

تحریک احرار نے کسی حد تک قادیانی فتنہ کے سد باب میں حصہ لیا۔ مگر گورنمنٹ نے اس تحریک کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ اس کے بعد مرزا محمود نے نیارنگ اختیار کیا۔ یوم سیرت کے نام سے ہر سال مقررہ تاریخوں پر طول و عرض ہند میں ہر جگہ جلسے منعقد کرائے۔ جن میں نبی کریم ﷺ کی سیرت کے پرده میں مرزا بیت کی تبلیغ کی گئی۔ عاشقان سید المرسلین ﷺ جو در جوق ان جلوسوں میں شامل ہوئے اور سادہ لوح عموم نے مرزا بیوں کو مداح رسول سمجھا۔ علمائے کرام میں سے بھی اکثر اس رو میں پہنچے مگر دنیانے دیکھ لیا کہ مرزا بیوں کا مقصد ان جلوسوں سے سوائے جلب ذر، حصول منفعت اور ذاتی جاہ و اقتدار کے کچھ نہ تھا۔ اپنے آپ کو سید المرسلین ﷺ کا محبت ظاہر کر

---

। صرف شہر بھیرہ سے کئی سور روپیہ اعانت مظلومین کا نام لے کر بعض فریب خورده اشخاص نے جمع کیا اور قادیان میں ارسال کیا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ تمام ہندوستان سے کس قدر رقم فرماہم ہوئی ہوگی۔

کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور غیر ممالک میں تبلیغ کی کہ مرزا محمود ہندوستان کے مسلمانوں کا پیشوائے اعظم ہے۔ اس کے اشارہ پر سات کروز مسلمان ایک وقت اور ایک ساعت میں ہر جگہ جلسے منعقد کیا کرتے ہیں۔ اس طرح غیر ممالک اور غیر اقوام میں مرزاںی جماعت کا وقار حاصل کیا گیا۔

مناقنہ حکمت عملیوں میں ناکامی کا منہ دیکھ کر مرزا محمود نے ۱۹۳۲ء کے آخر میں تمام پنجاب و یو۔ پی میں مبلغین کے وفاد بھیجے۔ ان کے مبلغین نے جہاں میدان خالی دیکھا۔ مناظرہ کی دعوت دی اور جہاں خادمان اسلام کو مقابله کے لئے آمادہ پایا۔ وہاں سے فرار ہو گئے۔ ضلع شاہ پور میں حزب الانصار کی سرگرمیوں کی وجہ سے مرزا بیت کا قلع قمع ہو رہا تھا۔ اس لئے اپنے چوتھی کے مناظر اور مبلغ صاحبان اس علاقہ میں دورہ کرنے کے لئے بھیجے گئے تھے جن کو اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی۔

مرزا غلام احمد قادریانی اور مرزا محمود یعنی باپ اور بیٹے کے خیالات میں جس قدر اختلاف ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سلسلہ کی بنیاد ہی عقلی ذہنوں پر ہے اور دروغ گورا حافظہ نباشد کی مثل ان پر صادق آتی ہے۔ جناب یا عصیب اللہ صاحب کلرک نہرا امرتر نے چند امور پر روشنی ڈالی ہے۔ جن میں بیٹے نے باپ کے خلاف رائے ظاہر کی ہے۔ جن کو ذیل میں نقل کیا جاتا ہے۔

### اقوال مرزا محمود احمد قادریانی

۱ ..... ”دیکھوآ خضرت ﷺ سے زیادہ کس پر خدا کے فضل ہوں گے۔ لیکن جس قدر آپ پر خدا کے فضل اور احسان ہیں۔ اسی قدر آپ عبادت اور شکر گذاری میں بھی سب سے بڑھ کر تھے۔ نادان ہے وہ شخص جس نے کہا کہ: کر مھائے تو مارا کرد گستاخ کیونکہ خدا کے فضل انسان کو گستاخ نہیں بنایا کرتے اور سرکش نہیں کر دیا کرتے۔ بلکہ اور زیادہ شکر گذار اور فرمانبردار بناتے ہیں۔“ (الفضل تاویان ح ۵۸۔ ۵۸۔ جنوری ۱۹۴۳ء ص ۲۳)

۲ ..... ”نادان مسلمانوں کا خیال تھا کہ نبی کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ کوئی نبی شریعت لائے یا پہلے احکام میں سے کچھ منسوخ کرے یا با واسطہ نبوت پائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صحیح موعود کے ذریعہ اس غلطی کو دور کروادیا اور بتایا کہ یہ تعریف قرآن کریم میں تو نہیں۔“

(حقیقت الموجہ ص ۱۳۳)

۳ ..... ”بعض نادان کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی دوسرے نبی کا تبع نہیں ہو سکتا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا

لیطاء باذن اللہ اور اس آیت سے حضرت مسیح موعود کی نبوت کے خلاف استدال کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب بسب قلت تدبیر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود دوسری جگہ فرماتا ہے کہ انا انزلنا التوراة فیھا هدی و نور یا حکم بہا النبیوں یعنی ہم نے تورات اتنا ری ہے۔ جس میں ہدایت نور ہے۔ اس کے ذریعے سے بہت سے انبیاء یہودیوں کے فیصلہ کرتے رہے ہیں۔ اب بتاؤ اگر ایک نبی دوسرے نبی کے ماتحت کام نہیں کر سکتا تو بہت سے انبیاء تورات کے ذریعے فیصلہ کیوں کر کرتے رہے ہیں۔ ان کا توریت پر عمل پیرا ہونا بتاتا ہے کہ موئی علیہ السلام کی شریعت کے وہ پیر و تھے۔ گویہ ایک اور بات ہے کہ انہوں نے موئی کے ذریعہ نبوت حاصل نہیں کی۔“

(حقیقت الدینہ ص ۱۵۵)

۳ ..... ”آنحضرت ﷺ سے پہلے کوئی امتی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لئے کہ آپ سے پہلے جس قدر انبیاء گذرے ہیں ان میں وہ قوت قدیمة نہ تھی۔ جس سے وہ کسی شخص کو نبوت کے درجے تک پہنچا سکتے اور صرف ہمارے آنحضرت ﷺ ہی ایک ایسے انسان کامل گذرے ہیں جو نہ صرف کامل تھے بلکہ مکمل تھے۔ یعنی دوسروں کو کامل بنانے سکتے تھے۔“ (حقیقت الدینہ ص ۳۹، ۴۰)

۴ ..... ”نبوت کے لحاظ سے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام اور مسیح موعود (مرزا قادریانی) دونوں نبی ہیں۔ فیضان پانے کے لحاظ سے حضرت مسیح ناصری نے براہ راست فیضان پایا ہے۔“

۵ ..... ”دوسری دلیل حضرت مسیح موعود کے نبی ہونے پر یہ ہے کہ آپ کو آنحضرت ﷺ نے نبی کے نام سے یاد فرمایا ہے اور نواس بن سمعانؓ کی حدیث میں نبی اللہ کر کے آپ کو پکارا ہے۔“ (حقیقت الدینہ ص ۱۸۹)

۶ ..... ”رسول کریم ﷺ کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی دوسرے نبی کو نہیں۔ اگر مسیح موعود کو یہ درجہ حاصل ہوا تو آنحضرت ﷺ کی غلامی سے ہی حاصل ہوا ہے۔ مگر چونکہ آنحضرت ﷺ کو گذشتہ انبیاء علیہم السلام کے نام نہیں دیئے گئے تھے۔ اس لئے لوگ مسیح وغیرہ کے منتظر رہے اور اب بھی ہیں۔ مگر آپ کے منتظر نہیں۔“ (الفضل ۱۶، ۱۷ جون ۱۹۱۴ء ص ۵)

”حضرت مسیح علیہ السلام کو صرف ایک نبی کا نام دیا گیا۔ مگر مسیح موعود کو جن کے لئے حضرت مسیح علیہ السلام ایک دلیل کے طور پر ہیں تمام گذشتہ انبیاء کے نام دیئے گئے ہیں۔“

(الفضل ۱۶، ۱۷ جون ۱۹۱۴ء ص ۶)

۷ ..... ”پس آپ اس آیت یعنی آیت ومبشراً برسول یاتی من

بعدی اسمہ احمد ”میں جس رسول احمد نام والے کی خبر دی گئی ہے وہ آنحضرت ﷺ نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر وہ تمام نشانات جو اس احمد نام رسول کے ہیں آپ کے وقت میں پورے ہوں۔ تب بے شک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں احمد نام سے مراد احمدیت کی صفت کا رسول ہے۔ کیوں کہ سب نشانات جب آپ میں پورے ہو گئے تو پھر کسی اور پر اس کے چیزوں کرنے کی کیا وجہ ہے۔ لیکن یہ بات بھی نہیں۔“ (انوارخلافت ص ۲۳)

۹ ..... ”فارقلطی کی پیشین گوئی آنحضرت ﷺ کے متعلق ہی ہے اور ہمارے نزدیک آپ ہی اس پیشین گوئی کے مصدق ہیں۔“ (انوارخلافت ص ۲۵)

”غرض اسر احمد کے ساتھ فارقلطی والی پیشین گوئی کا کوئی تعلق نہیں..... ان دونوں میں کوئی تعلق دلائل سے ثابت نہیں کہ ہم ان دونوں پیشین گوئیوں کو ایک ہی شخص کے حق میں سمجھنے کے لئے مجبور ہوں۔“ (انوارخلافت ص ۲۷)

### اقوال مرزا غلام احمد قادریانی

۱ ..... ”رب نجني من غمی ايلی ايلی. لما سبقتنی کر مهائی تو مارا کرد گستاخ! اے میرے خدا مجھ کو میرے عم سے نجات بخش۔ اے میرے خدا تو نے مجھ کیوں چھوڑ دیا۔ تیری بخششوں نے ہم کو گستاخ کر دیا۔“ (براہین احمد یہ ص ۵۵۵، ۵۵۶، خزانہ ح ص ۲۲۳، ۲۲۴ حاشیہ)

۲ ..... ”انبياء عليهم السلام اس لئے آتے ہیں تاکہ ایک دین سے دوسراے دین میں داخل کریں اور ایک قبلہ سے دوسرا قبلہ مقرر کروائیں اور بعض احکام کو مفروض کریں اور بعض نئے احکام لاویں۔“ (آئین کمالات اسلام ص ۳۳۹، خزانہ ح ص ۵)

۳ ..... ”صاحب نبوت تامہ ہرگز امتی نہیں ہو سکتا اور جو شخص کامل طور پر رسول اللہ کہلاتا ہے اس کا کامل طور پر دوسرے نبی کا امتی ہو جانا نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کی رو سے بکھی ممتنع ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ: ”وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله“ یعنی ہر ایک رسول مطاع اور امام بنانے کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ اس غرض سے نہیں بھیجا جاتا کہ کسی دوسرے کا مطیع اور تابع ہو۔“ (ازالہ اوہام ص ۵۶۹، خزانہ ح ص ۳۷)

۴ ..... ”اخبار الحکم ح ۲۳ نمبر ۳۳ مورخ ۲۳ نومبر ۱۹۰۲ء ص ۵، اخبار الفضل مورخہ ۲۲ نومبر ۱۹۲۹ء ص ۸ اور الفضل مورخہ ۲۲ نومبر ۱۹۳۹ء ص ۸) پر مرزا قادریانی کا قوم یوں درج ہے۔ ”حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع سے ان کی امت میں ہزاروں نبی ہوئے۔“

۵ ..... ”اور پھر قرآن کہتا ہے کہ مسیح کو جو کچھ بزرگی ملی وہ بوجہ تابعداری حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے ملی ..... کیونکہ مسیح آنحضرت پر ایمان لایا اور بوجہ اس ایمان کے مسیح نے نجات پائی۔ پس قرآن کی رو سے مسیح کے نجی پاک ہمارے نبی ﷺ ہیں۔“ (مکتوبات احمدیہ ج ۳ ص ۱۲)

۶ ..... ”یہ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں امام مسلم صاحب نے لکھی ہے۔ جس کو نعیف سمجھ کر رئیس الحجۃ بن احمد بن عاصیل بخاری نے چھوڑ دیا ہے۔“

(ازالہ اوہام ص ۲۲۰، خزانہ ج ۳ ص ۳۰۹)

”وہ مشقی حدیث جو امام مسلم نے پیش کی ہے خود مسلم کی دوسری حدیث سے ساقط لا اعتبار تھا ہر تی ہے اور صرف تی ثابت ہوتا ہے کہ نواسُ نے اس حدیث کے بیان کرنے میں دھوکہ کھایا ہے۔“ (ازالہ اوہام ص ۲۲۷، خزانہ ج ۳ ص ۲۲۰)

”اوہ مسلم میں اس بارہ میں حدیث بھی ہے کہ مسیح نبی اللہ ہونے کی حالت میں آئے گا۔ اب اگر مثلی طور پر مسیح یا ابن مریم کے لفظ سے کوئی امتی شخص مراد ہو جو محمدیت کا مرتبہ رکھتا ہو تو کوئی بھی خرابی ای زم نہیں آتی۔“ (ازالہ اوہام ص ۵۸۶، خزانہ ج ۳ ص ۳۲۸، مسئلہ ص ۱۰۱)

۷ ..... ”بات یہ ہے کہ ہمارے نبی ﷺ تمام انبیاء کے نام اپنے اندر جمع رکھتے ہیں۔“ (آئینہ کمال اسلام ص ۳۲۳، خزانہ ج ۵ ص ایضاً)

۸ ..... ”حضرت رسول کریم کا نام احمد وہ ہے جس کا ذکر حضرت مسیح نے کیا۔ یاتی من بعدی اسمہ احمد، من بعدی کالفاظ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نبی میرے بعد بلا فصل آئے گا۔ یعنی میرے اور اس کے درمیان اور کوئی نبی نہ ہو گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ نہیں کہے بلکہ انہوں نے محمد رسول اللہ والذین امنوا! معا اشدأ ..... میں حضرت رسول کریم ﷺ کی مدنی زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب بہت سے مومنین کی معیت ہوئی۔ جنہوں نے کفار کے ساتھ جنگ کئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنحضرت ﷺ کا نام محمد بتا یا ﷺ۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی جلالی رنگ میں تھے اور عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا نام احمد بتا لیا۔ کیونکہ وہ خود بھی ہمیشہ جمالی رنگ میں تھے۔“

(اخبار الحکم ۳، روزنوری ۱۹۰ ص ۱۱، مخطوطات ج ۲ ص ۲۰۸)

۹ ..... ”بعد اداۓ نماز مغرب حضرت اقدس حسب معمول شہنشیں پر اجلاس فرمائوئے تو تو سی شخص کا اعتراض پیش کیا گیا کہ وہ کہتا ہے کہ: جب فارقلیط کے معنی حق و باطل میں

بلے پارہ ۲۴ سورہ فتح کی آخری رکوع کی آیت ہے اس میں لفظ آمنو اہمیں ہے۔

فرق کرنے والا ہے تو قرآن کریم میں جو بشر اُبر سول پاتی من بعد اسمہ احمد والی پیشین گوئی مسح علیہ السلام کی زبانی بیان فرمائی گئی ہے۔ وہ انجیل میں کہاں ہیں؟ فرمایا! یہ ہمارے ذمہ ضروری نہیں کہ ہم انجیل میں سے یہ پیشین گوئی نکالتے پھریں۔ وہ حرف مبدل ہو گئی ہے جو حصہ اس کا قرآن مجید کے خلاف نہیں اور قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے وہ ہم مان لیں گے۔“  
(ملفوظات ج ۲ ص ۱۹۶۷ء)

”فارقلیط کی پیشین گوئی انجیل میں ہے اور اس کے معنی حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے اور یہ آنحضرت ﷺ کا نام ہے کیونکہ قرآن کا نام اللہ تعالیٰ نے فرقان رکھا ہے اور آپ صاحب القرآن ہیں اور پھر آعوذ بالله من الشیطان الرجیم میں لفظ بسیط بھی آ گیا ہے۔ جس کے معنی شیطان کے ہیں۔ بہر حال فارقلیط آنحضرت ﷺ کا نام ہے اور آپ کا نام جو احمد ہے۔ احمد کے معنی یہیں خداوند تعالیٰ کی بہت حمد کرنے والا اور آنحضرت ﷺ سے بڑھ کر خدا ای جمد کرنے والا اور کون ہو گا۔ کیونکہ حق اور باطل میں آپ فرق کرنے والے ہیں اور سب سے بڑھ کر وہی حمد کر سکتا ہے۔ جو حق و باطل میں فرق کرے۔ احمد وہی ہے جو شیطان کا حصہ دور کر کے خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال قائم کرنے والا۔ پس آپ فارقلیط تھے اور دوسرے الفاظ میں یوں بُوکہ آپ احمد ہی ہیں۔ گویا فارقلیط کی پیشین گوئی بھی احمد ہی کے حق میں ہے۔“  
(خبر بدر ۲۱ نومبر ۱۹۰۲ء ص ۲۹، ملفوظات ج ۲ ص ۱۹۸، ۱۹۹۷ء)

### لاہوری پیغامی یا اندرسی گروہ

حکیم نور الدین قادریانی کی وفات کے بعد مسئلہ خلافت کے متعلق امت مرزا یہی میں اختلاف پیدا ہوا۔ ہر یہ بحث و تجھیص کے بعد حکیم محمد احسن صاحب امرد ہی خلیفہ قرار پائے۔ مگر حکیم محمد احسن صاحب نے مرزا محمود کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تم لوگوں نے مجھے انتخاب کیا ہے اور میں اس صاحبزادہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اس پر سب لوگوں نے مرزا محمود سے بیعت کر لی۔ مگر مسٹر محمد علی، خواجہ کمال الدین اور ان کے ہم خیال اشخاص کو پہلے ہی مرزا محمود سے انتخاب ریا کرتا تھا اور ان کے دلوں میں اس کا وقار علیٰ بہت کم تھا۔ اس نے انہوں نے بیعت۔ نکار کر کر دیا اور قادیانی کی ربانش ترک کر کے لاہور میں اقامت اختیار کر لی۔ اس کی خلافت جائز کر دیا اور اپنی جماعت کی علیحدہ تنظیم قائم کی اور مسٹر محمد علی ایم اے کو اپنا امیر منتخب کر دیا۔ پھر مدد کے بعد حکیم محمد احسن امرد ہی بھی اس جماعت میں شامل ہو گئے۔ اس وقت سے مرزا یہیان سے یہ دو

بڑے گروہ قادریانی والا ہوری کے نام سے موسوم ہوئے۔ چونکہ قادریان مرزا قادریانی کے الہام کے مطابق مشق کا قائم مقام ہے۔ اسی نسبت سے قادریانیوں کو آج کل مشقی اور لا ہوریوں کو اندری بھی کہا جاتا ہے۔ ہر دو گروہ ایک ہی شجرہ خبیث کی دوشاخیں ہیں۔ ان میں بحاظ عقائد کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ ان کا باہمی اختلاف حفظ لفظی و اصطلاحی ہے۔ مگر مسلمانوں کے لئے لا ہوری گروہ زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ ان کا منافقانہ طرز عمل اکثر اشخاص کو صراط مستقیم سے عیلحدہ کر دیتا ہے اور لوگ انہیں مسلمان سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ گروہ مرزا غلام احمد قادریانی کو اپنا مقتدی پیشوائ، مجدد وقت محدث، مسیح موعود، کرشن، امام الزمان سب کچھ مانتا ہے اور کہتا ہے کہ مرزا انی تعلیمات پر ہم ہی لوگ قائم ہیں۔ مگر انصاف یہ ہے اس معاملہ میں قادریانی گروہ بر سر حق ہے۔ یعنی مرزا کی تعلیمات پر اسی کا عمل ہے۔ لا ہوری پارٹی کا دعویٰ ہے کہ مرزا غلام احمد نے حقیقی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور مرزا نے جن الفاظ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس سے مراد حدیثت ہے۔ مگر دراصل یہ گروہ حقیقت حال کو پوشیدہ رکھنے کے لئے دوراز کار تاویلات سے کام لے رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لا ہوریوں نے دیکھا کہ مسلمان دعویٰ نبوت سے بھڑکتے ہیں اور ایسے متوجہ ہوتے ہیں کہ پھر کسی طرح ان کے شکار کی امید نہیں کی جاسکتی اور ظاہر ہے کہ چندہ غیرہ جو کچھ وصول ہو سکتا ہے وہ یا تو مسلمانوں سے یا مرزا یوں سے مگر مرزا یوں کی غالب اکثریت مرزا محمود کے ساتھ تھی۔ اس لئے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے اور ان کی ہمدردی حاصل کرنے کے منافقانہ طرز عمل اختیار کرنے پر مجبور ہوئے اور اعلان کر دیا کہ ہم مرزا کوئی نہیں مانتے اور مرزا کوئی نہ مانتے والوں کو کافرنہیں کہتے۔ چنانچہ اس پالیسی سے وہ بہت کچھ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سادہ لوح مسلمان جس قدر جلد ان کے فریب میں آ جاتے ہیں قادریانی پارٹی کے فریب میں نہیں آتے۔ نواب شاہ جہاں بیگم والیہ بھوپال کی تعمیر کردہ مسجد و وکنگ لندن ان کے قبضہ میں ہے اور لندن مشن کے اخراجات سب مسلمانوں کے چندوں سے پورے ہو رہے ہیں۔ مسٹر محمد علی نے قرآن مجید کا انگریزی زبان میں ترجمہ مع تفسیری نوٹوں کے شائع کیا ہے۔ جس کی طباعت کے لئے حقوقی و سنتا تاجر ان رنگوں نے یکمشت سولہ ہزار روپیہ دیا تھا۔ مسٹر محمد علی نے اب قرآن مجید کی تفسیر اردو میں بھی شائع کی ہے۔ تفسیر و ترجمہ سر سید اور مرزا کے تمام باطل عقائد، تحریفات معنوی تاویلات، مجررات کے انکار وغیرہ سے بھر پور ہیں۔ اس ترجمہ اور تفسیر نے ہندوستان میں روح الحاد کو زندہ کر دیا ہے۔ انگریزی خوان طبقہ سوائے انگریزی کے اور کسی چیز کا مطالعہ کرنا پسند

نہیں کرتا۔ اس لئے یہ ترجمان میں راجح ہو رہا ہے اور ان کے دینی عقائد کو متزلزل کر کے انہیں دہربیت والخادی کی جانب لے جا رہا ہے۔ افسوس ہے کہ آج تک ہندوستان کی کسی مقتدر اسلامی سوسائٹی نے اس خطرناک زہر کے علاج کی طرف توجہ نہیں کی۔

لاہوری جماعت کے مبلغین غیر ممالک میں اپنے پیشوایینی مرزا کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور شاید اسی سنت پر عمل کرنے کی بدولت ان کی مرکزی انجمن کو کئی مرتبے اراضی زرعی علاقہ فلگری میں گورنمنٹ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں۔ خواجہ کمال الدین نے اپنی تصنیف "مجد و کامل" میں اقرار کیا ہے کہ تمام اسلامی ممالک کے نزدیک ہماری حیثیت انگریزی جاموس سے زیادہ نہیں رہی۔ لاہوری جماعت کے ممتاز ارکین مرزا کی نبوت کے قائل تھے اور اب بھی ہیں۔ صرف مسلمانوں کو ہو کر دینے کے لئے اور اہل اسلام میں اپنا وقار حاصل کرنے کے لئے انکار کر رہے ہیں۔ ورنہ لاہوری جماعت کے امیر مسٹر محمد علی نے رسالہ ریو یو آف ریجنز کی ایڈیٹری کے زمانہ میں لکھا تھا۔ "آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جس شخص (مرزا قادیانی) کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں دنیا کی اصلاح کے لئے مامور و نبی کر کے بھیجا ہے۔ وہ بھی شہرت پسند نہیں۔"

(ریو یو اردو ج ۵ نمبر ۳ ص ۱۳۲، اپریل ۱۹۰۶ء)

"بھی وہ آخری زمانہ ہے جس میں موعود نبی کا نازول مقدر تھا۔"

(ریو یو اردو ج ۶ نمبر ۳ ص ۸۳، مارچ ۱۹۰۷ء)

"آیت کریمہ میں جن لوگوں کے درمیان اس فارسی الاصل نبی کی بعثت لکھی ہے انہیں

(ریو یو ج ۶ نمبر ۳ ص ۹۶، مارچ ۱۹۰۷ء)

"نبی آخر الزمان کا ایک نام مرجل من انباء فارس بھی ہے۔"

(ریو یو ج ۶ نمبر ۳ ص ۹۸، مارچ ۱۹۰۷ء)

۱۔ شیخ غلام حیدر صاحب ہیڈ ماسٹر پنشر سرگودھا نے مسٹر محمد علی مرزا کی کے انگریزی ترجمہ پر نہایت عمدہ ریو یو لکھا ہے۔ جو صاحب مددوح سے انگلیساً ترجمہ ۱۲ مرل ملتا ہے۔ اس ریو یو کی عام اشاعت کا ہونا ضروری ہے۔ بلکہ ہیڈ ماسٹر صاحب مددوح کو چاہئے کہ اس کا ترجمہ انگریزی میں کر دیں۔ تا کہ انگریزی خوان طبق اس کا مطالعہ کر کے گراہی سے بچے۔ تمام اسلامی جالس کو چاہئے کہ اس دینی خدمت میں ہیڈ ماسٹر صاحب کی حوصلہ افزائی اور امداد کریں۔ (بحمدہ تعالیٰ اسے بھی احتساب قادیانیت میں شامل کیا جائے گا۔ مرتب)

”ایک شخص (مرزا قادیانی) جو اسلام کا حامی ہو کر مدعا رسالت ہو۔“

(ریویو ۵ نمبر ۱۹۰۶ء، ص ۱۲۶)

مگر مسیٹر محمد علی اور ان کے تبعین دنیا کی آنکھ میں خاک جھونکنے کے لئے کہہ رہے ہیں جیسے ہم نے مرزا قادیانی کو کبھی نبی تسلیم نہیں کیا۔ نور الدین قادیانی کی زندگی میں ایک دفعہ اس جماعت کے بعض افراد پر الزام لگایا گیا تھا کہ یہ لوگ نبوت مرزا سے منکر ہیں۔ اس الزام کو دور کرنے کے لئے انہوں نے تین بار اعلان کیا تھا کہ ”معلوم ہوا کہ بعض احباب کو غلط فہمی میں ڈالا گیا ہے۔ کہ اخبار ہذا کے ساتھ تعلق رکھنے والے اصحاب یا ان میں سے کوئی ایک سیدنا وہا بنا حضور حضرت مرزا نام احمد قادیانی مسیح موعود کے مدارج عالیہ کو اصلیت سے کم استھناف کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ہم تمام احمدی جم کا کسی نہ کسی صورت میں اخبار پیغام صلح سے تعلق ہے۔ خدا تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر علی الاعلان کہتے ہیں کہ ہماری نسبت اس قسم کی غلط فہمی مسیح بہتان ہے۔ ہم حضرت مسیح موعود کو اس زمانہ کا نبی، رسول اور نجات و ہندہ مانتے ہیں اور جو درجہ حضرت مسیح موعود نے اپنا بیان فرمایا ہے اس سے کم و بیش کرنا موجب صلب ایمان بھجتے ہیں۔“

(اخبار پیغام صلح اول ص ۳۲، ۱۹۱۳ء)

”ہم خدا کو شاہد کر کے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ مسیح موعود یعنی (مرزا قادیانی) اللہ تعالیٰ کے پچھے رسول تھے اور اس زمانہ کی ہدایت کے لئے دنیا میں نازل ہوئے۔ آج آپ کی متابعت میں ہی دنیا کی نجات ہے۔“ (پیغام صلح اص ۳۵، ۱۹۱۳ء)

ان دو بڑے فرقوں کے علاوہ اور بھی کئی مرزا کی فرقے ہیں۔ جن کی تعداد اگرچہ قلیل ہے تاہم ان کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ان کا تذکرہ بھی محضرا درج کیا جاتا ہے۔

### اروپی یا ظہیری

اس فرقہ کا پیشوائے محمد ظہیر الدین اروپی ہے۔ یہ فرقہ مرزا نام احمد قادیانی کو صاحب شریعت اور مستعلل نبی مانتا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ مرزا ناج شریعت محمد یہ تھا۔ ان کا گلہ لا الہ الا اللہ احمد جری اللہ ہے۔

### تیماپوری

اس فرقہ کا پیشوائے عبد اللہ تیماپوری ہے۔ تیماپور ریاست حید آباد دہن میں واقع ہے۔

پہلے یہ شخص مرزا تھا۔ اب اپنے آپ کو مظہر اول قدرت ثانی فی الارض خلیفۃ اللہ و فی السمااء محمد عبد اللہ مامور من اللہ یمین السلطنة حکم و عدل مبدئ معبود صاحب قرآنی تیکا پوری کے لقب سے ملقب کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے یہ وجہ ہوئی۔ یا ایها النبی تیکا پور میں رہیو۔ اس فی جماعت ریاست میسور و دکن میں دن بدن بڑھ رہی ہے۔ جاہل اشخاص اس کے قابو میں آ رہے ہیں۔ ۱۳۲۳ھ میں اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا۔ اس کو دعویٰ کئے ہوئے ۷۲ سال کا طویل عرصہ گذر چکا ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب ”محاکمہ آسمانی“ مطبوعہ ۱۳۳۳ھ نعت پر لیں دکن کے صفحہ ۳۳ پر مرزا نیوں کو اس نے حسب ذیل الفاظ میں پیش دیا ہے۔

”الله پاک کا آسمانی قانون ہے کہ مفتری عصی اللہ اور جھوننا مامور من اللہ یمین اسلطنت اور حکم و عدل ہونے کا دعویٰ کرے۔ پھر اپنی صداقت میں الہام حق کے جاری کرے اور لوگوں کو اطاعت حق میں اپنے اتباع کی طرف بائے۔ ماننے والوں کو خوشخبری اور نہ ماننے والوں کو مذابح حق سے ڈراوے۔ ایسا شخص سر کار آسمانی کا با غی ہے۔ ایسے مدعا کا دست یمین گرفت کر کے رگ گردن کاٹ دی جائے گی۔ اس عاجز پر صحیفہ آسمانی نازل ہوئے۔ وساں ۱۳۳۳ھ سال ہے۔ اللہ پاک نے خاکسار کے عروج کے لئے وس پانچ پندرہ سال کا الہام نازل کیا ہے۔ اگر کسی دشمن خلافت کو مقابلہ منظور ہے تو اس کے لئے میدان مبارکہ موجود ہے۔ اگر حوصلہ ہو تو آئیں۔“

اس پیشی کے جواب میں مرزا نیوں کو مقابله کا حوصلہ ہوا۔ تیکا پوری نے اپنے سلسلہ کا نام سلسلہ محمد یہ رکھا ہے۔ اسی کتاب محکمہ آسمانی کے ص ۱۶ پر لکھتا ہے۔ ”یہ کتاب ۱۳۳۳ھ میں لکھی گئی۔ اس سے قبل ۲۰ سال سے الہامات شروع تھے۔ مگر ۱۳۳۳ھ سے وہی کا اعلیٰ مرتبہ شروع ہوا۔“ مرزا غلام احمد کے متعلق لکھتا ہے کہ ”حضرت صاحب (مرزا قادری) کا مرتبہ شہور تک عروج تھا۔ مقام وجود تک ان میں رسائی نہ تھی۔ خاکسار نے ہر دو کو اپنے ترجمہ میں صحیح پایا۔ اس لئے دونوں مراتب کا جامع قرار پا کے ظلِ محمد و احمد بن کر ہر دو مراتب کا مظہر ہتا ہے۔ اللہ پاک نے اس عاجز کے سلسلہ کا نام طریقہ محمد یہ رکھا ہے۔ حضرت مسیح موعود (مرزا قادری) کے الہامات میں اسی رازی طرف اشارہ ہے۔“ کان اللہ نزل من السمااء وجائق النور وهو افضل منك یعنی وہ بھی مظہر خدا ہوگا اور بعض کمالات کے مستعداد یہ ہیں۔ حضرت مسیح موعود (مرزا قادری) سے افضل ہوگا۔ اے قوم احمدی میرے حق ظاہر کرنے پر غصہ مت ہو۔ کیا خدا کے کام پورے ہوتے دیکھنا نہیں چاہتے۔ آخمرُسیح کا الہام پورا ہونا ہے یا نہیں۔“ (محاکمہ آسمانی ص ۸ حاشیہ)

”باد جود ان تمام خوش بیوں کے خاکسار کو اس انعام الہی کا اقرار ہے کہ حضرت غلام احمد مسیح موعود اور یہ خاکسار مہدی موعود ہر دو خدا کی طرف سے مامورو مرسل ہونے کی وجہ سے ہم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک دوسرے کے ظل ہو کر ایک میوے کے دو پھاٹک ہیں۔ یا ایک تھم کے دو وال دانے۔ ہمارے ہر دو کے طاپ کے دور ثانی عرون اسلام کا آغاز ہوا ہے۔ جو لوگ ہم میں تفریق کرتے ہیں۔ وہ ہم میں سے نہیں۔ بلکہ اپنے ایمان کے تھم میں تفریق کرتے ہیں۔“ یا ایها الدین آمنوا آمنوا بالله و رسوله<sup>ا</sup> (حکم آناملی ص ۱۹)

”یہ (مرزا قادیانی) وہی انسان ہے جس کے لئے ساری دنیا انتظار کر رہی تھی۔“ (حکم آناملی ص ۱۹)

”اس طرح حضرت صاحب (مرزا قادیانی) کی نبوت اور خاتم النبیین کی نبوت اور مرتبہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔“ (حکم آناملی ص ۲۰)

”حضرت صاحب (مرزا قادیانی) کا علمی اکتساب اعلیٰ درجہ پر تھا۔ کئی استاد آپ کو ایک زمانے تک تعلیم چڑھتے رہے۔ لیکن وہی ظل نبوت جو آپ پر نازل ہوئی۔ وہی ہے کہ خاکساری استاد اور رزول وحی دونوں وہی ہیں۔“ (حکم ص ۱۸)

”مامور کوئی سے چالیس مردوں کی قوت عشق عطا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض حالت میں وہ انزال کے لئے جب تک اپنی رضا مندی ظاہر نہ کرے۔ انزال نہیں ہوتا۔ اس سے میں نے حوران بہشت کے راز و پایا ہے۔ یہ سب خدا کا فضل ہے۔“ (حکم ص ۱۹)

”میرے دونوں آندھوں کے درمیان مہربنوت کا عکس دکھایا گیا۔“ (حکم ص ۱۷)

”اللهم صلی علی محمد عبد الله“ (حکم ص ۱۶)

”میں مرزا قادیانی کو ظلی نبی مانتا ہوں۔“ (رحمت آناملی ص ۲۵)

کذاب تیاپوری نے ۱۳۴۹ھ میں کتاب ”سود کا مسئلہ اور قدسی فیصلہ“ شائع کیا تھا۔

۱۔ اس سے ثابت ہوا کہ تیاپوری اپنے آپ کو خاتم النبیین ﷺ سے افضل سمجھتا ہے اور مرزا کو خاتم النبیین کا ہر مرتبہ ظاہر کر کے اپنے کو مرزا سے افضل سمجھتا ہے۔ اللهم احفظنا من شرور الکاذبین (مؤلف)

۲۔ میرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرا استاد کوئی نہیں۔ (مؤلف)

جس میں ظاہر کیا کہ سوداً شرج آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں نہ ہونے پائی تھی۔ وہ اس زمانہ کے لئے خدا کے مامور کے ذریعہ ہونا تھا۔ مجھے الہام ہوا کہ سینکڑہ ساڑھے بارہ روپیہ سالانہ سود کی آخری حد ہے۔ جس کی اجازت ہے۔ تیکاپوری نے اپنی امت کے لئے کمی آسانیاں بھی پہنچائی ہیں۔ اپنی کتاب رحمت آسمانی صفحے پر لکھتا ہے کہ: ”ماہ رمضان کے تیس روزوں کی بجائے تین روز سے کافی ہیں۔ عورتوں کو بے پرده رہنے کی اجازت ہے۔ ساڑھے بارہ روپیہ سینکڑہ سالانہ سود لینا جائز ہے۔“ عبد اللہ تیکاپوری پر اعتراض ہوا کہ تم ناج شریعت محمدیہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو۔ اس پر اس نے وہی جواب دیا۔ جو مرزاً دیا کرتے ہیں۔ یعنی میں بروزی طور میں محمد ہوں۔ لہذا میں پچھلیں جو کچھ ہے وہ ہے۔ اس لئے ﷺ خود اپنی شریعت میں ترمیم کر رہے ہیں۔ اس پر کسی کو اعتراض نہ ہونا چاہئے۔ کذاب تیکاپوری کی تصانیف میں سے تفسیر فاتح، طوفان کفر، تقریر آسمانی ہدایات آسمانی، حیفہ آسمانی، شان تعالیٰ، حقیقت وحی الہ، اسلامی گیت، ام العرفان، تفسیر قصہ آدم، قدرت ثانی، رحمت آسمانی، ارشادات، توحید آسمانی، شناخت آسمانی، مکار مرشدوں کے ارشادات، فرمان محمدی، کسر صلیب، رسمی شادی وغیرہ کئی کتابیں طبع ہو کر شائع ہو چکی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا معادون میر حسن مرزاً میں کثر کثر موثر سروں ممکور صوبہ دکن ہے۔ یہ شخص تیکاپوری کی دعاویٰ کی اشاعت میں بیدار لغز روپیہ صرف کر رہا ہے۔“

### چین بسویشور

یہ شخص نہایت چالاک مفتری اور خطرناک ثابت ہوا ہے۔ اس کا اصلی نام صدیق تھا۔ اس نے اپنا تخلص دیندار رکھا اور اس کے پیرو دیندار کہلاتے ہیں۔ اہل ہنود کو اپنے کسی موعود چین بسویشور کا انتظار تھا۔ یہ مدعی ہے کہ چین بسویشور میں ہی ہوں۔ یہ شخص پہلے مرزاً تھا۔ اس کا اصلی وطن گذک علاقہ بجاپور دکن ہے۔ قادیانی میں کچھ مدت مقیم رہنے کے بعد نبوت کے دعویٰ کا شوق دل میں سایا۔ وہ اپنی کتاب ”خادم خاتم النبیین“ میں لکھتا ہے کہ ”قادیانی جماعت نے مرزاً غلام احمد کو نبی قرار دے کر حضور سرور العالم ﷺ پر ایسا حملہ کیا ہے۔ جواب تک کسی غیر نے یا اپنے والے نے نہیں کیا تھا۔ اس حملہ کے دفعیہ کے لئے ایسا زبردست پہلو ہونا چاہئے تھا۔ کم از کم اتنا تو بوک جس بزرگ کی شان میں غلوکیا گیا ہے۔ اس کا ایک ہم پلہ انسان پیدا ہوا اور اپنے وجود و میزبان کے پلے میں برادر تول کر دکھائے اور باور کرنے کے باوجود اس شان و شوکت کے حضور ﷺ کے بعد

میں نبی نہیں بن سکتا تو مرزا قادیانی کی کیا مجال ہے کہ وہ نبی ہن سکے۔“ (خادم خاتم النبیین ص ۶)

مگر اس دعویٰ کے باوجود وہ تھا ہے کہ ”میں میاں محمود احمد صاحب کو دن کی بشارتوں کی بناء پر خلیفہ جماعت احمدیہ مانتا ہوں۔ گواہ ہو رکی جماعت مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ جس کاظمیہ ہو چکا ہے اس کا انکار کیسا۔“ (خادم خاتم النبیین ص ۲۷)

”چند دن کے بعد دنیا کیھے لے گی کہ وہ (محمود) الاعززم مختلف اقوام کا سردار ہو گا۔ فقیر جانتا ہے کہ وہ تحقیقی مرد ہے۔“ (خادم خاتم النبیین ص ۲۷)

”مرزا غلام احمد مامور وقت کرشن اوتار تھا۔“ (خادم خاتم النبیین ص ۲۷)

تیکاپوری کی طرح یہ بھی مراز یوں کوچلخ دیتا ہے کہ لو تقول علینا (الا یہ) سے ثابت ہے کہ کون انسان ہے جو خدا پر افتراء ہاند ہے اور فتح جائے۔ میرے دعویٰ ماموریت یعنی ۱۹۲۳ء سے برداشت کا مادہ وحی کا بڑھتا گیا۔ اس وقت یہ حال ہے کہ متعدد جملے الہام آنا زل ہوتے ہیں۔ (خادم خاتم النبیین ص ۲۷)

”ایک زمانہ سے اللہ تعالیٰ کا مکالمہ سمجھ سے جاری ہے۔“ (خادم خاتم النبیین ص ۳۰)

”مرزا قادیانی نے ۱۸۸۶ء میں یہ اعلان کیا کہ ایک مامور فریب میں پیدا ہونے والا ہے۔ یعنی آج سے ایک مدت حمل میں دنیا میں آئے گا۔ وہ روح حق سے بولے گا۔

اس کا نزول گویا خدا کا آنا ہے۔ وہ ایک عظیم الشان انسان ہے۔“ (خادم خاتم النبیین ص ۷۱)

اگر میں احمد یوں کا مامور و موعود نہیں ہوں تو دوسرا کوئی بتائے۔ (خادم خاتم النبیین ص ۱۸)

”میرے متعلق اس کثرت سے نشان بیان کئے گئے ہیں کہ مسلمانوں میں مہدی اور

مسیح کے بھی نہیں اتنی عظمت اس مامور کو اس وجہ سے دے گئی ہے کہ وہ بڑی خدمت کرنے والا

۱ یعنی ۱۹۲۳ء میں جن بسویشور کو دعویٰ کئے ہوئے وہ سال ہو چکے ہیں۔ اس کی جماعت بھی ترقی کر رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مرزا ای اسے اپنے مقرر کر دہ، بیان کردہ معیار کے مطابق چنانہیں سمجھتے۔ اسی طرح کذاب تیکاپوری کو دعویٰ کئے ہوئے ۲۸ سال ہو چکے ہیں۔ مگر ابھی تک زندہ موجود ہے اور اپنے مشن کو کامیاب بنا رہا ہے۔ مسلمانوں کے نزد دیک کسی مفتری علی اللہ کا دیر تک زندہ رہنا اس کی صداقت کا نشان نہیں ہو سکتا۔ پچھے انگیاء کئی قتل ہوئے اور تیکاپوری کی طرح کئی کاذبوں کو لبی عمریں ملیں۔ (مؤلف)

ہے۔ حضور ﷺ کی ذات پاک پر جو ملہ بورہ ہے اور بے عزتی و ہنگ بورہ ہی ہے۔ اس کے دور کرنے کے لئے ایسے شان و شوکت سے اتنے ہی نشانوں سے اتنی ہی دھوم دھام سے ایک شخص مختلف اقوام کے لئے رحمت کا نشان بن کر اشاعت اسلام کا بہترین ذریعہ بن کر ساری اقوام کا پیارا بن کر آنا چاہئے تھا کہ اللہ پوری طاقت کے ساتھ آسان سے آتا ہو انتظار آئے۔“

(خادم خاتم النبیین ص ۱۱)

”خود اس مجدد (مرزا قادیانی) سے بڑھ کر زمین اور آسان نے میرے لئے نشانات ظاہر کئے تاکہ اتمام جدت میں کوئی کسر نہ رہے۔“

(خادم خاتم النبیین ص ۲۱)  
عید منا یو اے احمد یو سب مل کر  
منظر جس کے تھے تم آج وہ موعود آیا

(خادم خاتم النبیین ص ۹)

”خدا نے اپنے فضل سے مجھے پیشوائیا ہے۔ میں اپنے اندر سارے عالم کو دیکھتا ہوں اور میں خود کو سارے عالم میں بھرا ہوا پاتا ہوں۔ میری تبلیغ عام ہے۔ میری تلقین و ارشادات عام ہیں۔“

مرزا قادیانی نے میرے متعلق خبر دی تھی کہ:

باغ میں ملت کے ہے کوئی گل رعناء کھلا  
آئی ہے پادباء گلزار سے مستانہ وار  
آرہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے  
گوکھو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار

”فرزند گرامی ارجمند مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء۔“

کان اللہ نزل من السماء“

(خادم خاتم النبیین ص ۵۵)  
”اس کو حضرت (مرزا قادیانی) کے مکان کا بچھ خیال کرنا نادانی ہے۔ کیونکہ اس کو خدا تعالیٰ نے اپنے فعل سے غلط ثابت کیا ہے۔ یعنی اس بشارت لے بعد مکان میں ایک اور ایک لڑکا پیدا ہوتے ہیں۔ لڑکا کم سنی میں مر جاتا ہے۔“

(خادم خاتم النبیین ص ۷۵)  
”اے جماعت احمد یہ کے فریس اور داشتہ اُو! اللہ تعالیٰ نے آپ کو پر نسبت

دوسرے کے۔“

(خادم خاتم النبیین ص ۲۹)

(خادم خاتم النبیین ص ۳۹)

مرزا غلام احمد کی اتباع میں چن بسویشور کے دعاوی بھی متضاد ہیں اور وہ سب کچھ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مگر ہوشیاری و مکاری سے دعویٰ نبوت کا انکار کر دیتا ہے۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ میں کیاں ہوں۔

سارے قوموں کے میرے سامنے یہ اصل اصول  
جگ کی ہر قوم کے دنگل کا پبلواں ہوں میں  
یعنی عیسائی و موسائی وزرداشتی ہوں  
آریہ ہوں ولنگایت ہوں وقر آں ہوں میں  
چھتری ہوں ولیش ہوں شودر ہوں برہمن ہوں میں  
سکھ کانیجھ ہوں درحلقہ بھگوان ہوں میں  
قادیانی ہوں والا ہوری ونجدی ہوں میں  
نچپری ہے میرا ندہب اس سے فرحاں ہوں میں

(کتاب خادم خاتم النبیین ص ۴۰)

ایک جگہ لکھتا ہے کہ ”کیا اللہ پر بھی جادو ہو سکتا ہے۔ میرا وجود میرا نہیں۔“

(خادم خاتم النبیین ص ۴۳)

(خادم خاتم النبیین ص ۴۶)

”میں خود قرآن ہوں۔“

تیکاپوری کذاب کی طرح چن بسویشور بھی اپنی کتاب میں فخر یہ ذکر کرتا ہے کہ ”فلاں عورت میری رو حانیت کے اثر سے مجھ پر اس قدر فریفہ ہو گئی کہ وہ جس طرف دیکھتی تھی اسے چن بسویشور ہی نظر آتا تھا۔ مرغ کی اذان بچہ کے رونے غرض ہر آواز سے چن بسویشور کے الفاظ ہی سنتی تھی۔“

”ایک عورت تھی میں رات کے وقت میرے پاس آیا کرتی تھی اور فلاں عورت آدھی رات کے وقت پھول و زیورات سے آراستہ ہو کر میرے لحاف میں آٹھسی اور میرے منہ پر منہ رکھ دیا۔“

”یہ شخص اپنے آپ کو صدیق دیندار یوسف موعود چین بسویشور کھلاتا ہے اور اپنے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام سے چھامور میں افضل قرار دیتا ہے۔“ (خادم خاتم النبیین ص ۶۶، ۶۷) قادریانی والا ہوری ہر دو جماعتیں اس کی حوصلہ افزائی و امداد میں منہک ہیں اور تجربہ کے میر حسن میں لئے یک مشہور مدرسہ ممکور اس کی بھی امداد کرتا ہے اور اس نے پانچ ہزار روپیہ اس کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ ص ۸۷ پر لکھتا ہے کہ ”حضرت مولانا محمد علی صاحب امیر جماعت احمد یہ لا ہور نے ایک خط میں مجھے اطلاع دی ہے کہ آپ سے ہماری جماعت کا ہر فرد خوش ہے۔“ نیز اسی صفحہ پر قادریان کے ایک خط کی نقل شائع کی ہے۔ جس میں ناظر دعوت و تبلیغ قادریان نے لکھا ہے کہ ”آخر نہ سال کے پروگرام میں دکن کی طرف و فدھیجتے اور آپ کے کام میں دلچسپی پیدا کرنے کی خاص کوشش کی جائے گی۔ بہر حال آپ کام کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے اپنے وقت پر ضرور پورے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو کام کی روپورث براہ کرم ضرور بنتجھ دیا کریں۔“ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دراصل مرزاں فرقے عقائد و مقاصد میں تتفق ہیں اور سب مرزا غلام احمد کے قائم کردہ شجرہ نسبت کی شاخیں اور شری ہیں اور اپنے اصل کی طرف راجح ہیں۔

### گنا چوری

اس فرقہ کا پیشواعبداللطیف ساکن گنا چور ضلع جالندھر ہے۔ اس نے ۱۹۲۱ء میں دعویٰ نبوت کیا۔ یہ امام آخر الزمان و مہدی معہود ہونے کا مدعا ہے اور مرزا غلام احمد قادریانی کو سچ موعود تسلیم کرتا ہے۔ اس نے ایک کتاب ۵۰۰ صفحات کی ”چشمہ نبوت“ تالیف کی ہے۔ جس میں اپنی صداقت کی ۳۶۰ دلیلیں دی ہیں۔ اس کے دلائل عام طور پر وہی ہیں جو مرزا قادریانی نے اپنے لئے دیے ہیں۔ عبداللطیف نے مرزا محمود کو اور اپنے تمام خلافیں کو دعوت مقابلہ بھی دی تھی۔

### رجل یسعی

یہ شخص چیچاوطنی ضلع ملتگیری (سائبیوال) میں پنواری ہے۔ اپنے آپ کو احمد محمد عبد اللہ حارث حراث مہدی آخر الزمان رجل یسعی کہلاتا ہے۔ اس نے ایک کتاب ”ہدایت العالمین“ تالیف کی ہے۔ جس کے تین حصے شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے دعاؤی والہاہت نہایت عجیب و غریب ہیں۔ اپنے آپ کو کئی انبیاء سے افضل سمجھتا ہے اور قرآن نبھی میں اپنا کمال بیان کرتا ہے۔

قرآن مجید میں ہے کہ: ”وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ“ ایک آدمی شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ جل یعنی میں ہوں۔

### احمد نور کابلی

قادیانی کے نبی خیز قطعہ سے ایک اور شخص مدعا نبوت ظاہر ہوا ہے۔ اس کا نام احمد نور کابلی ہے۔ یہ شخص بمروس ہے اور اس نے پنساری کی دوکان کھول رکھی ہے۔ بخشش و گاؤں زبان یعنی بیچتے نبی بن گیا۔ اس کے ایک پیر و عبد الرحمن ساکن ہولا گنج بھرہ کان پور نے اس کا ایک اعلان مٹچ احمد المطاع کان پور سے طبع کر کر شائع کیا ہے جو جنس نقل کیا جاتا ہے۔ \*

### اعلان

”اے اللہ تعالیٰ کے ماننے والو! اور رسولوں کے ماننے والو! اے تمام آدم علیہ السلام کی اولاد! میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت خبر دیتا ہوں کہ میں اللہ کی طرف سے مامور ہو گیا ہوں۔ دنیا کے واسطے رسول اور نبی مامور من اللہ ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا ویسا ہی رسول ہوں۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام، جیسے موسیٰ علیہ السلام، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، جیسے محمد ﷺ، جیسے مسیح علیہ السلام مرزا صاحب میری آمد تمام انبیاء کی آمد ہے۔ میں تمام انبیاء کا مظہر ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا مذہب ہوں۔ میری ساتھ وہ خدا جو تمام انبیاء کے ساتھ کلام کیا ہے کلام کرتا ہے۔ اس نے آرڈر دیا کہ میری رضا کی خاطر خبر دو کہ اگر اللہ کی محبت کرتے ہو تو میری بات مان لو۔ میری تابع داری کو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے خبر دیا۔ جو مانے گا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا وارث بنے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ انعام جس کو وہ پسند کرتا ہے۔“

### اعلان کرنے والے اللہ تعالیٰ کے رسول احمد نور کابلی احمدی

### اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کے ماننے والے

”میں ایمان کا درخت ہوں۔ جیسا کہ تمام انبیاء اور جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اور جیسے موسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ محمد ﷺ، اور جیسا کہ مسیح علیہ السلام الغنیم تمام انبیاء ایمان کے درخت ہیں۔ سب کے ماننے سے ایمان کا پھل ملتا ہے اور‘

خدا تعالیٰ کا قرب ملتا ہے اور جنت ملتی ہے۔ میں بھی اسی طرح ایمان کا درخت ہوں۔ میرا انکار اسی طرح زہر قاتل ہے۔ جیسا تمام انباء کا انکار زہر قاتل ہے۔ احمد نور کا ملی احمدی اللہ کا رسول، مقام قادیان پنجاب۔“

”میری آواز پر لبیک کرنا اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کرنا ہے۔ وہ آدمی لبیک کرنے والا اپنے گھر بیٹھا ہوا خدا تعالیٰ کے فضل کا وارث بن سکتا ہے۔ جیسا کہ ہر ایک نبی کا ماننے والا اپنے گھر قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل کا وارث بنتا ہے اور میرے نہ ماننے والا اپنے گھر میں خدا تعالیٰ کو ناراض کرتا اور با غنیمتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آواز سے غافل اور غفلت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ میں مجھون نہیں ہوں۔ مجھون کے ساتھ اللہ کا کلام نہیں ہوتا اور اس کو اللہ تعالیٰ رسول کے نام سے ہادی کے نام اور نبی کے نام سے نہیں پکارتا ہے۔ دنیا کے لوگو! اللہ کی رضا لو۔ اللہ کو ناراض مت کرو۔“

### معراجکے

ایک شخص مسکی نبی بخش مرزاںی ساکن معراجکے ضلع سیالکوٹ نبوت کا مدعا ہے۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ ”میں نبی ہوں، میرے والدین نے میرا نام نبی بخش اسی لئے رکھا تھا اور میرے مولود مسکن کا نام معراجکے میں، کسی ظریف الطبع نے جس کا نام خدا بخش تھا۔ اس کے جواب میں اعلان کیا کہ میں نے نبی بخش کو نبی نہیں بنایا۔ اس لئے وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔

### سمبرڈ یاںی

اس فرقہ کا پیشواء محمد سعید مرزاںی سمبرڈ یاں ضلع سیالکوٹ کا رہنے والا ہے۔ مرزا غلام احمد نے کہا تھا۔ سیاتی قمر الانبیاء محمد سعید کہتا ہے کہ میں قمر الانبیاء ہوں۔ اس کو پھر وہ اسی بیماری ہے۔ یعنی بھوزی کے نیچے گردن پر نہایت بد نماورم ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ مہر نبوت ہے۔ علاوه ازیں امانت مرزا نیتی میں اور کئی مدعاں نبوت پیدا ہو گئے ہیں اور ہور ہے ہیں۔ مرزا کے خاص مولوی محمد فضل چنگلوی (چنگا گنیال گوجرانوالہ پنڈی) نے حال ہی میں دعویٰ نبوت کیا ہے۔ غلام سعید ہمکم الدین پٹیالوی، محمد زمان سندھی و دیگر کاذب مدعاں نبوت پہلے مرزا نیتی تھے در۔ گاہ مرزا سے انہوں نے افریقیہ، علی اللہ کا سبق سیکھا۔ حیرت ہے کہ مرزا نیتی جب اجرائے نبوت کے قتل ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان مدعاں نبوت کو استیاز تسلیم نہیں کرتے؟۔

## مرزاںیوں کی تعداد

مرزاںیوں کی عادت ہے کہ جہاں کسی ناواقف سے انگٹو کا موقع ملے۔ اپنی کثرت تعداد کا ذکر شاندار الفاظ میں کرتے ہیں۔ مرزاںیوں کی تعداد بھی ایک چیستان اور معہم بھی ہوئی ہے۔ مرزاںیوں کے تو بال اس قدر مختلف اور متضاد ہیں کہ صحیح اندازہ کرنا دشوار ہے۔ مرزا غلام احمد قادریانی اپنی آخری تصنیف پیغام صلح میں لکھتے ہیں کہ ”اس وقت میرے مانند والوں کی تعداد چار لاکھ ہے۔“ (پیغام صلح ص ۲۶، خزانہ ح ۲۳ ص ۵۵۵)

ان کا ایک مرید عبد العزیز بھڑا انوی نے اپنی کتاب ”کوب دری“ میں پانچ لاکھ بیان کی ہے۔ مقدمہ اخبار مبایبلہ میں مرزاںیوں نے اپنی تعداد ۴۰ لاکھ بیان کی تھی۔ مگر کوب دری کا مصنف لکھتا ہے کہ ۱۹۳۰ء میں احمدیوں کی تعداد ۱۰ میں لاکھ ہے۔ مناظرہ بھرہ میں مولوی مبارک احمد مرزاںی نے مجمع عام میں اعلان کیا تھا کہ سلسلہ مرزاںیوں میں اس وقت پچاس لاکھ آدمی موجود ہیں۔ مولوی مذکور نے اپنی تحریر بہام مولانا ابوالقاسم صاحب میں بھی مرزاںیوں کی تعداد پچاس لاکھ بیان کی ہے۔ مگر مرزا محمود قادریانی اپنے خطبہ مندرجہ (خبر افضل ن ۱۸ نمبر ۱۵ ص ۵، ۲۷ جون ۱۹۳۱ء) میں بیان کرتے ہیں کہ ”آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ آپ اپنی تعداد کے لحاظ سے مخالفین کے مقابلے میں آٹے میں نک کے برابر بھی نہیں۔ پنجاب میں ہماری جماعت سب سے زیادہ ہے۔ پنجاب میں ۵۵ ہزار احمدی قرار دیئے گئے۔ قادریان میں پانچ ہزار دوسرا و سو احمدی ہیں۔ بیالہ کی ساری تحصیل کے کل احمدی (مرزاںی) ۸ بزرار مردم شماری میں لکھے گئے۔“


مرزا محمود قادریانی کے اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ مرزاںیوں کی سب سے بڑی تعداد پنجاب میں ہے اور وہ سب سے بڑی تعداد بھی ۵۵ ہزار سے زیادہ نہیں۔ یہ تعداد بھی مرزاںیوں کی بیان کردہ ہے۔ ورنہ دراصل تعداد اس سے بھی کم ہے۔ اب قارئین مولوی مبارک احمد مرزاںی کی ایمانداری اور راست بازی کا اندازہ کر لیں اور اسی سے مرزا غلام قادریانی سے لے کر اس کے ہر چھوٹے بڑے مرید کی راست پسندی کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔

### خلاصہ

خبر از مینڈار لاہور مورخ ۲ نومبر ۱۹۳۲ء میں سید سرور شاہ صاحب گیلانی کا مرتبہ ایک نقشہ شائع ہوا تھا۔ جس سے مرزاںی تعلیم اور مرزاںیت کے مذاکہ نہایت واضح ہوتے تھے۔ وہ نقشہ کسی قدر تصرف کے ساتھ درج ذیل ہے۔ اس نقشہ میں کتاب ہذا میں مندرجہ حوالوں کا خلاصہ ملتا ہے۔

لهم إني عاليٌ كسبتْ بِهِ تُرَبَّتْ  
القاديان وما القاديان وما ادريك ما القاديان

## خسر الدنيا والآخرة



## حصہ چہارم

### صلح شاہ پور میں مرزا نیوں کا دورہ

حزب الانصار بھیرہ میں مسائی جیل سے مرزا نیت کی تحریک مردہ ہوئی تھی۔ ارباب قادیانی نے اس کے احیاء کے لئے پوری سرگرمی سے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہم مرزائی سرگودھا نے ضلع بھر میں تبلیغ کا ایک پروگرام بنایا اور قادیانی سے دو بلغ مولوی احمد خان و مولوی عبداللہ اعجاز ضلع کا دورہ کرنے کے لئے منتخب ہوئے۔ قادیانیوں کا ارادہ تھا کہ دو ماہ مسلسل دورہ کر کے ہر جگہ مقامی علماء کو دعوت مناظرہ دے کر پریشان کیا جائے۔ وہ جانتے تھے کہ علمائے کرام قادیانی مذہب کی حقیقت سے قطعاً ناواقف ہیں۔ ان لئے وہ یا مناظرہ پر آمادہ نہ ہوں گے اور اگر اسلام کی عزت کے تحفظ کے لئے مقابلہ پر آمادہ بھی ہوئے تو مرزائی عقائد و مرزائی علم کام سے ناواقفیت ان کے لئے سدر اہم ثابت ہو گی۔ حزب الانصار نے وقت کی اہم ضرورت کا احساس کر کے مرزائی مبلغین کے کامل تعاقب اور مقابلہ کا فیصلہ کیا۔ مالی مشکلات نے کارکنان کو پریشان کر کھاتھا اور مزید مصارف کے لئے کہیں سے روپیہ حاصل ہونے کی امید نہ تھی۔ مگر تحفظ اسلام کی غرض سے محض خدا کے بھروسے پر ایک تبلیغی و فدمرتب کیا گیا۔ تاکہ وہ ضلع بھر میں ہر جگہ مرزائیوں کے تعاقب اور ہر جگہ مناظرہ کی دعوت قبول کرنے کا کام سرانجام دیں۔ اس وفد کے ارکان مولانا ابوالقاسم محمد حسین صاحب کو اوتارزوی، مولانا محمد شفیع صاحب خوشابی، خاکسار مؤلف کتاب ہذا، مولوی عبد الرحمن میانوی صاحب مبلغ حزب الانصار قرار پائے۔ علاوہ ازیں مولوی محمد اسماعیل صاحب و دیگر کئی حضرات نے دورہ میں ساتھ رہ کر ممنون فرمایا۔ یکم نومبر ۱۹۳۲ء سے لے کر ۱۰ اکتوبر ۱۹۳۲ء تک مرزائیوں کا تعاقب جاری رہا۔ اس عرصہ میں ان کے ساتھ دس معمر کے پیش آئے۔ ہر مرک میں مسلمانوں کو خداوند کریم نے فتوحات عطا فرمائیں۔

### پہلا معرکہ! میانی

بھیرہ سے جانب مشرق و میل کے فاصلہ پر قصبہ نمک میانی، آباد ہے۔ جہاں کے مفتی ناہم مرتشی صاحب مرحوم نے حکیم نور الدین قادیانی کو لا ہور میں اجواب کیا تھا اور مناظرہ ہریا میں خس قادیانی کی درگات بنائی تھی۔ مفتی صاحب مرحوم کے انتقال کے بعد مرزائی چوبے اپنے بلوں سے نکل آئے اور انہیوں نے میدان خالی دیکھ کر اپنا اثر و اقتدار جھانا چاہا۔ چنانچہ سورج ۳۱ اگست ۱۹۳۲ء شام کی گاڑی سے قادیانی مبلغین و بیان پہنچئے۔ وہ مرے دن صحیح حزب الانصار

کے وفد کے ارکین بھی میانی چاہئے۔ مرزا نبیوں پر بدحواسی طاری ہو گئی۔ مسلمانوں میں اس قدر بیداری پیدا ہونے کی انہیں توقع نہ تھی۔ مسلمانات میانی نے علمائے کرام کا شامدار استقبال کیا اور بمقام چنلی شاہ جلسہ کے لئے پذال بنایا گیا تھا۔ میانی کے مرزا تی کتنی دن سے مسلمانوں کو مناظرہ کا چیلنج دے رہے تھے۔ اس نے علمائے اسلام نے مرزا نبیوں کا چیلنج قبول کر کے انہیں تصفیہ شرائط کے لئے پیغام بھیجا۔ مگر مرزا تی عبداللہ و احمد خان نے مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر مورخہ ۲۰ ستمبر ۱۹۳۲ء ہر دور و صبح سے لے کر شام تک مسلمانوں کے شامدار جلسے منعقد ہوئے۔ جن میں مرزا نیت کے پرچے اڑائے گئے اور دعویٰ مرزا والیمانت مرزا تی حقیقت کھولی گئی۔ مرزا نبیوں کو مناظرہ کی بعوت پر بعوت دی گئی۔ مگر انہیں مقابلہ میں آنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ ان کے جلسہ میں حاضرین کی تعداد دس بارہ تھی۔ یادہ نہ ہو سکی۔ یہ حالت دیکھ کر انہیوں نے قادیانی میں تاریخ دیں اور ان حالات میں تسلیق دورہ کے انتوار کی خواہش ظاہر کی۔ مگر مرزا محمود نے اپنے مبلغین کا حوصلہ قائم رکھنے کے لئے بہترین منظر و بلطف سمجھنے کا وعدہ کیا۔ قادیانی مبلغین مورخہ ۲۰ ستمبر کو میانی سے بھیرہ پہنچے۔ علمائے اسلام بھی شام کی گاڑی میانی سے روانہ ہو کر شامدار جلوس کے ساتھ بھیرہ میں وارد ہوئے۔

## دوسرے امعرا کے بھیرہ

دریے چہلم کے کنارے شہر بھیرہ ایک قدیم تاریخی قصبہ ہے۔ سندر عظیم کا یہاں سے گذر ہوا۔ سلطان محمود غزنوی کے مجاہدین نے اس کی دیواروں پر بزرگ شیری علم اسلام نصب کیا۔ باہر نے اپنے ترک میں اس شہر کا ذکر نہایت عمدہ الفاظ میں کیا ہے۔ جہانگیر نے کابل جاتے ہوئے اس جگہ اقامت اختیاری تھی اور یہاں کے علماء و مشائخ و فقراء کو داد و داش سے مالا مال کیا تھا۔ سکھوں کے عبید میں یہ قصبہ اہل بنود کے قبضہ میں تھا اور مسلمانوں کی حالت نہایت ہی کمزور تھی۔ شیر شاہ سوری کی تعمیر کردہ جامع مسجد کھنڈرات کا ذہبی گھوٹی اور سکھوں نے اس کی ایمنت سے ایٹھ بجا دی۔ مگر سید العلامہ و احمد شیخ، استاذ الکل مضرت موالانا احمد دین گوئی کے قدمہ مہمنت لزوم سے اسی بھیرہ سے طومانی کے پیشے جاری ہوئے۔ ہر طرف علمی نہریں جاری ہوئیں۔ ہزار بآشنا صاف اپنے علم سے یہاں پہنچ گئے۔ سہ زمین پنجاب اس خطہ پر دو امتیں دو برہے سنور ہوئی۔ مسلمانوں کی حالت نے پلتا ہیا۔ ایر رحمت نے آئیں تھے۔ حضرت مرحوم کی بالغی توجہ اور رہمت سے جامع مسجد شامدار عالم۔ ت تمیہ ہوئی اور ہر گھر میں یہی چیز ہوئے اگر۔ موالانا قادر صاحب بھیروی، موالانا ناگام رسول سے حسب چودہ ہی اور زبدۃ العارفین نضرت قبلہ موالانا

عبدالعزیز بنوی نے اپنی عمر میں خدمتِ اسلام میں بسر کیں۔ مگر جہاں گل ہوتے ہیں وہاں خارجی ہوتا ہے۔ افسوس یہی شہر حکیم نور الدین قادریانی کی بدولت دنیا بھر میں بدنام ہوا اور نور الدین کے اثر سے جو لوگ غیر مقلد ہو چکے تھے وہ مرزا ایوب کے نزدیک قادریان کے بعد بھیرہ ایک مقدس شہر ہے اور وہ لوگ اسے مدینہ خلیفہ اسحاق کہا کرتے ہیں۔ مرزا ایک ماہ سے اپنے مبلغین کی آمد کی خبر سن کر اپنے خیال میں لوگوں کو خوف زدہ کر رہے تھے۔ اعلانیہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے شیر آرہے ہیں۔ کسی کی ہمت ہوتا ان کے مقابلہ پر آئے۔ مگر علمائے اسلام کے ورود اور میانی میں حضرت ناک ناکامی کی خبر سن کر گھبراہٹ کا عالم طاری ہو گیا۔ قادریان میں تاریخ دی گئیں۔ ۲ ستمبر کا دن انہوں نے کربلا و اضطراب میں کاشتا۔ انہیں جلسہ کرنے کا بھی حوصلہ نہ ہوا۔ دوسرے دن صبح کی گاڑی قادیریان سے مرزا ایوب کا نیا قافلہ بس کر دی مولوی محمد سعید قادریانی پہنچ گیا اور مرزا ایوب کی جان میں جان آئی اور انہوں نے اپنے جلسہ کا اعلان نہایت زور شور سے کیا۔ منادی کرنے والے کے ہاتھ میں تکوار تھی اور اس کا رو یہ نہایت اشتعال انگیز تھا۔ اس منادی میں کھل لفظوں کے ساتھ علمائے کرام کو دعوت مناظرہ دی گئی۔

### مرزا ایوب کے ساتھ علمائے کتابت خط و کتابت

مرزا ایوب نے نداء حق کے عنوان سے ایک اشتہار شائع کیا۔ جس میں علمائے اسلام پر ناجائز الزرام لگائے گئے۔ اس کے جواب میں دعوت حق کے عنوان سے سیکرٹری جماعت اسلامیہ کی طرف سے اشتہار شائع ہوا۔ بعد ازاں مرزا ایوب کی طرف سے حسب ذیل تحریر موصول ہوئی۔

جناہ مولوی ظہور احمد صاحب!

السلام على من اتبع الهدى مشموله رقעה هذا اطلاعا!

آپ کی خدمت میں اعتماد جنت کے لئے اسال کیا جاتا ہے۔ ۱۹۳۲ء/۱۹۴۷ء

سیکرٹری انجمن احمدیہ محمد الدین کریم

باسمہ سبحانہ

صاحبان! عرصہ دراز سے علماء حنفیہ کی طرف سے جماعت احمدیہ پر ناجائز حملے کئے جا رہے ہیں۔ اتفاق سے آنے کل علمائے جماعت احمدیہ میں چند مبلغین تبلیغی جلسہ کے لئے بھیرہ میں تشریف لائے ہیں۔ اس لئے ہم تمام متأملاً شیان حق کو عموماً اور بھیرہ کے صاحب وقار اصحاب کی خدمت میں خصوصاً اپیل کرتے ہیں کہ وہ حفظ امن کی باقاعدہ طور پر ذمہ داری اٹھا کر مولوی ظہور

احمد صاحب بگوئی یا ان کے کسی نمائندہ کو تابو لہ خیالات کے لئے میدان عمل میں لا کیں۔ بعد ازاں شیخیاں مارنی فضول ہوں گی۔ مورخ ۲۹/۱۹۳۲ء

۳ ماہ تبرحال کی شام تک فیصلہ ہونا الزمی ہوگا۔

نوٹ: مندرجہ بالا مضمون کی شہر بھیرہ میں منادی کرائی جا رہی ہے۔

پرنسپل اسنڈت جنرل سیکرٹری انجمن احمدیہ بھیرہ!

اس کے جواب میں سیکرٹری صاحب تبلیغ جماعت اسلامیہ کی طرف سے حسب ذیل

تحریر مرزا یوسوں کو پہچھی گئی۔

### اتمام حجت

ہنام! سیکرٹری صاحب انجمن احمدیہ بھیرہ

السلام علی من اتبیع الهدی! جناب کی طرف سے ایک اشتہار بعنوان "شاندار جلسہ" شائع ہوا ہے اور سیکرٹری تبلیغ احمدیہ نے ندائے حق کے نام سے اشتہار شائع کیا ہے۔ ابھی ابھی ایک اشتہار من جانب سیکرٹری انجمن انصار اللہ احمدیہ موصول ہوا ہے۔ ان ہرس اشتہارات میں غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے اور اگر مگر اور خوشنا الفاظ کی آڑ میں مناظرہ کرنے سے انکار و اقرار اور فرار کے لئے راہیں محفوظ رکھی گئی ہیں۔ اس لئے بذریعہ تحریر یہاں جناب کو چیلنج دیا جاتا ہے کہ اگر ہمت ہے تو اپنے علماء کو شیران اسلام یعنی علمائے اسلام کے سامنے لانے کی جرأت کوئی اور صاف لفظوں میں مناظرہ پر آمادگی کا اعلان کر دیں اور مقام و شرائط کے تصفیہ کے لئے اپنے دو معتر اشخاص نامزد کر دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کے فراری حقیقت عالم آشکارا ہو جائے گی۔ چونکہ آپ کی طرف سے زبانی چیلنج مناظرہ اہل اسلام کو مت سے مل رہا ہے۔ اس لئے حفظ امن کا انتظام وغیرہ بھی آپ کے ذمہ ہوگا۔

عبد الرحمن سیکرٹری تبلیغ جماعت اسلامیہ جامع مسجد بھیرہ!

اسی روز حضرت مولانا ابو القاسم محمد حسین صاحب کو لوٹارزوی کی طرف سے ذیل کا

اشتہار شائع ہو کر شہری دیواروں پر چپاں ہو گیا۔

### مرزا یتیت کی موت

جملہ مرزا یوسوں کو اور خصوصاً مرزا یان بھیرہ کو واضح ہو کہ میں نے ستمبر ۱۹۲۸ء کے العدل میں ایک مکتوب مفتوق بنا مز احمد قادیانی شائع کیا تھا کہ میں مرزا کے انعامی اشتہار دربارہ لفظ توفی کی دوسری شق کے مطابق ثابت کر دوں گا کہ اس کے معنی جسم مع روح کو یہیت کذاںی

وصورت مجموعی اپنے قبضہ میں لے لینے کے ہیں۔ آپ میرے ساتھ منصفانہ شرائط کرنے کے بعد فیصلہ کر لیں۔ لیکن مرزا یہیت کے علمبردار نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد مختلف موقع پر مرزا یہی مولویوں کو مناظروں میں فیصلہ کی دعوت دی گئی۔ مگر صدائے بُرخواست مارچ ۱۹۳۲ء کے رسالہ شش الاسلام میں مکرر بعنوان اتمام جماعت اس مضمون کو مشتہر کیا گیا۔ لیکن مرزا یہیوں کی طرف سے کوئی آمادگی نہ ہوئی۔ العدل و شمس الاسلام کے پرچے بذریعہ جمشری خلیفہ قادریان کے پاس بھیجے گئے۔ پھر بھی انہیں مقابلہ کا حوصلہ نہ ہوا۔ حق کارعبد ان کے دلوں پر مسلط ہو چکا ہے۔ لہذا ان میں جرأت نہیں ہے کہ اس فیصلہ پر آمادہ ہوں۔ جملہ مرزا یہیوں کو الزم ہے کہ اپنے خلیفہ کو اس فیصلہ پر آمادہ کریں۔ ورنہ سمجھ لیں کہ مرزا یہیت مرگی۔ لہذا اس کی تجدیہ و تغییر کر کے میرے ہاتھ پر تو بہ کر لیں۔ جماعت تمام ہو چکی۔ خدا کے حضور میں تمہارے پاس کوئی عذر نہ ہو گا۔ اگر تمہارے مولوی جو قادریان سے آئے ہیں۔ فیصلہ پر آمادہ ہوں تو فوراً بذریعہ تارا پنے خلیفہ سے اپنی نیابت کی تصدیق کرائیں اور خلیفہ صاحب لکھ دیں کہ ان علماء کا ساختہ پر داختہ میر اساختہ پر داختہ ہے۔ ان کی فتح میری فتح اور ان کی نکست میری نکست ہے۔

ابوالقاسم محمد حسین عفی عنہ، مولوی فاضل از کولوتارڑ حال وارد بھیرہ!

نوٹ: یہ چیلنج لفظ تو فی کے متعلق ہے۔ سیکرٹری تبلیغ اسلامیہ کی طرف سے جو چیلنج مناظرہ کا دیا گیا تھا اس کے لئے نیابت کی سند کی ضرورت نہیں۔ اس کے لئے ہم ہر طرح سے تیار ہیں۔ مرزا یہیوں نے اس کے جواب میں حیله سازی اور نال مثول سے کام لینا چاہا اور علمائے اسلام کو عبادت گاہ مرزا یہی میں شرائط کے تفصیل کے لئے مدعو کیا۔ مگر اپنی طرف سے دونماں نہ گاں منتخب نہ کئے۔ اس حالت میں حسب ذیل خط سیکرٹری تبلیغ جماعت اسلامیہ کی طرف سے انہیں بھیجا گیا۔

### خدمت جناب جزل سیکرٹری صاحب نجمن الحمدیہ بھیرہ

والسلام علی من اتباع الهدی! جناب کارقعہ موصول ہوا۔ جواباً التماس ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے دو معتر اشخاص نامزد نہ کر کے خواہ مخواہ معاملہ کوتا خیر میں ڈالنا چاہا ہے۔ آج بوقت منادی آپ کی جماعت کے افراد کا تلواروں اور سنگلیوں سے مسلح ہو کر اشتغال انگیز الفاظ بہنا نہیات شرمناک و خطرناک حرکت ہے۔ آپ کا فرض ہے کہ اپنی جماعت کو ایسی مفسد ان حرکات سے باز رکھیں ورنہ اس کے نتائج کے آپ ہر طرح کے مدد دار ہوں گے۔ اگر آپ واقعی تحقیق حق کے خواہ شنید ہیں تو اپنی طرف سے دونماں ندوں کے اسماء سے مطلع فرمائیں۔ ہماری

طرف سے مولوی محمد قاسم صاحب و مولانا مولوی ظہور احمد صاحب تصفیہ شرائط کے لئے منتخب کئے گئے ہیں۔ ان کا ساختہ پرداختہ ہم سب کو منظور ہو گا۔ عبادت گاہ احمدیہ بحالات موجودہ بہت غیر موزوں مقام ہے۔ کسی غیر جانبدار مقام کا تعین کر کے اطلاع دیں۔

عبد الرحمن سیکرٹری تبلیغ جماعت اسلامیہ بھیرہ ۳ ستمبر ۱۹۳۲ء

دوسرے دن صحیح آٹھ بجے مسرا یم۔ ذی کریم صاحب مرزا یم مع اپنے چند ہمراہ یوں کے مقام کا تصفیہ کرنے کے لئے جامع مسجد پنجی اور آخر کار انہوں نے میاں محمد رحیم صاحب درویشانہ پر اچھا بانگلہ واقع محلہ پر اچھاں بھیرہ میں گیارہ بجے دن پنجی کر شرائط کا تصفیہ کرنے پر آمادگی ظاہری۔ عین گیارہ بجے دن خاکسار مع مولانا مولوی محمد قاسم صاحب مقام مقررہ پر پنجی گیا۔ مگر مرزا یوں کی طرف سے صرف ایم۔ ذی کریم صاحب پنجی اور ان کے ساتھ ہی باوجود امین پر اچھا مرزا یم، محلہ پر اچھاں کے سربرا آور دہ معزز اشخاص کو ہمراہ لے کر پنجی۔ تمام پر اچھوں نے بالاتفاق درخواست کی کہ مناظرہ میں فساد کا احتمال ہے اور مسلمانوں کے آئندہ امن و چین کی زندگی پر اس کا براثر پڑے گا۔ اس لئے مناظرہ کو ملتوی کیا جائے۔ باوجود امین پورے جوش و خوش سے ان کی وکالت کر رہا تھا۔ خاکسار نے کہا کہ قادیانیوں نے جو چیخ دیا ہے اس کے قول کرنے کے لئے ہم مجبور ہیں۔ اس لئے اگر ایم۔ ذی کریم صاحب ان کی طرف سے اس چیخ کو واپس لے لیں تو میں بخوبی التواہ مناظرہ پر رضا مند ہو سکتا ہوں۔ اس پر ایم۔ ذی کریم صاحب نے میرے اس بیان کی تردید کی اور کہا کہ چیخ جماعت اسلامیہ کی طرف سے دیا گیا اور جماعت احمدیہ کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ اس پر ایم۔ ذی کریم کی تحریر (جس کی نقل پہلے درج ہو چکی ہے) اسے دکھائی گئی۔ جس پر اس نے غیر متعلق سلسلہ منتگلو شروع کر دیا۔ خاکسار نے کہا کہ ایم۔ ذی کریم صاحب صرف یہ لفظ لکھ دیں کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے چیخ نہیں دیا گیا۔ مگر اس نے اس سے بھی انکار کر دیا اور اپنی طویل تقریر میں علمائے اسلام پر تفرقہ اندازی و فرقہ بندی کا الزام عائد کیا اور رسالہ نہیں الاسلام میں حیات مُسْعِح علیہ السلام و تردید مرزا میں شائع شدہ مضامین کا حوالہ دیا۔ جس کے جواب میں خاکسار نے تمام معززین کے سامنے حسب ذیل تجویز پیش کیں۔

.....  
اہل اسلام کی طرف سے میں ذمہ لیتا ہوں کہ آئندہ بھیرہ میں کوئی جلسہ ایسا نہ ہوگا اور کسی جگہ کوئی ایسی تقریر نہ ہوگی جس میں حیات مُسْعِح علیہ السلام، ختم نبوت یا آئندہ رب مرزا کا ذکر ہو۔ نیز رسالہ نہیں الاسلام میں بھی آئندہ ایسے مسائل پر کبھی بحث نہ ہوگی۔

**بشرطیکہ:** ایم ڈی کریم صاحب تمام مرزا یوں کی طرف سے اس بات کا ذمہ لیں کہ وہ کبھی بھیرہ میں کوئی جلسہ ایسا نہ کریں گے جس میں وفات مسح علیہ السلام، اجرائے نبوت یا صداقت دعاویٰ مرزا کے متعلق تقاریر ہوں اور کوئی مرزا کی آئندہ ان مسائل پر کسی سے جھگڑا نہ کرے گا۔ نیز مرزا کی اخبارات و رسائل بھی ان اختلافی مسائل کے تذکرہ ہے پاک رہیں گے۔ خاکسار کی اس تجویز کو معززین قصہ نے بے حد پسند کیا۔ مگر ایم ڈی کریم صاحب نہایت گھبراۓ اور کہنے لگے کہ ہم سے ایسا کبھی نہ ہوگا۔ ہم اپنے عقائد کی ضرور تبلیغ کریں گے۔ خاکسار نے عرض کیا کہ زہر کا اثر دور کرنے کے لئے تریاق کا ہونا ضروری ہے۔ اس لئے ہم مجبور ہیں کہ مدافعانہ کارروائی کے ذریعہ مرزا یوں کی زہری تبلیغ کے اثر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں۔ اس گفتگو سے فریب خودہ اشخاص پر مرزا یوں کی اتحاد پسندی کی حقیقت ظاہر ہو گئی اور مرزا یوں کے ساتھ شرائط مناظرہ طے کرنے کے لئے حکیم شاہ محمد صاحب رئیسِ اعظم شاخوپورہ کا مکان تجویز ہوا۔ جہاں بعد دو پھر ۳ بجے خاکسار اور مولانا محمد قاسم صاحب نے مرزا یوں کے نمائندوں ایم ڈی کریم اور مولوی عبد اللہ اعجاز کا انتظار کیا۔ ساڑھے تین بجے مرزا یوں کے نمائندے وہاں پہنچے اور شرائط مناظرہ طے کرنے کے لئے گفتگو شروع ہوئی۔

عبد اللہ نے نہایت ہی اشتغال انگیز دل آزار اور گستاخانہ رویہ اختیار کیا اور اگر ایم ڈی کریم صاحب مصلحت اندیشی سے کام نہ لیتے تو یقیناً یہ تمام گفتگو بے نتیجہ رہتی۔ اس عرصہ میں مرزا یوں نے اپنے مناظر مولوی محمد سعید کو بھی بالایا اور چار گھنٹہ کی مسلسل بحث کے بعد حسب ذیل شرائط پر فریقین کے نمائندوں نے دستخط کر دیئے۔

بسم الله الرحمن الرحيم، نحمدہ و نصلی علی رسوله الکریم!

شرائط مناظرہ مابین جماعت احمدیہ و جماعت اسلامیہ بھیرہ

..... ۱  
مناظرہ تقریری ہوگا۔

..... ۲  
موضع مناظرہ

..... ☆  
حیات مسح ناصری علیہ السلام۔

..... ☆  
ختم نبوت۔

..... ☆  
صداقت دعاویٰ نبوت مرزا امام احمد۔

۳ ..... پہلے دو مناظروں میں مدّت جماعت اسلامیہ ہوگی۔ تیرے مناظرہ میں مدّت جماعت احمدیہ اسلامیہ ہوگی۔

۴ ..... ہر مناظرہ کے لئے کافی وقت تین تین گھنٹے ہوگا۔ پہلی تقریر میں نصف نصف گھنٹہ بقید تقاریر آڑک پندرہ منٹ ہوں گی۔ اگر ضرورت پیش آجائے تو ہر دو گھنٹے کے بعد دس منٹ کا وقفہ یا جائے گا۔

۵ ..... ہر ایک طرف سے ایک ایک صدر ہوگا۔ جو اپنے اپنے فریق کے حفظ امن کا ذمہ دار ہو گا اور اس کا فرض ہو گا کہ وہ مناظرین سے شرائط کی پابندی کرائے۔ دلائل صرف قرآن مجید و احادیث صحیح سے پیش ہوں گے۔ اقوال مرزا صاحب جماعت احمدیہ کے لئے ججت ہوں گے اور اقوال امام عظیم جماعت اسلامیہ کے خلاف احمدی مناظر اپنی تائید میں پیش کر سکتا ہے۔

۶ ..... پہلا مناظرہ بروز دوشنبہ بتاریخ ۵ ستمبر ۱۹۳۲ء صبح آٹھ بجے سے گیارہ بجے تک ہوگا۔ دوسرا اسی دن ساڑھے تین بجے شروع ہوگا۔ نماز عصر کے لئے نصف گھنٹہ کا وقفہ سارے پانچ بجے سے دیا جائے گا۔ تیرا مناظرہ ۶ ستمبر ۱۹۳۲ء صبح آٹھ بجے سے گیارہ بجے تک ہوگا۔ خلاف تہذیب و کلمات تو ہین درشان بزرگان سے اعتناب کرنا مناظر کا فرض ہوگا۔

۷ ..... آخری تقریر کے اختتام تک فریقین کے اصحاب ذمہ دار کا ظہر نا لازمی ہوگا۔

۸ ..... اپنی آخری تقریر میں کوئی مناظری بات پیش کرنے کا مجاز نہ ہوگا۔  
ظہور احمدیو!

محمد قاسم منجانب جماعت اسلامیہ

جماعت اسلامیہ بھیرہ۔ ۳ ستمبر ۱۹۳۲ء

بقلم محمد عبد اللہ عیاز (مولوی فاضل) ..... منجانب جماعت احمدیہ اسلامیہ بھیرہ۔ ۳ ستمبر ۱۹۳۲ء

بقلم خودا یمیزی کریم احمدی بھیرہ۔ ۳ ستمبر ۱۹۳۲ء

### شرائط کی توضیح

۱ ..... مرزا نیوں نے اصرار کیا کہ ہماری جماعت کا نام جماعت اسلامیہ احمدیہ ہے۔ اس لئے ان کے زعم کی بناء پر اس کی جماعت کا نام جماعت اسلامیہ احمدیہ تحریر

کیا گیا مگر افسوس ہے کہ محمد سلیم قادیانی نے اسی روز بعد نماز مغرب اپنے جلد میں اعلان کیا کہ علمائے اسلام نے ہمارا بیل اسلام میں سے ہوئے تسلیم اور اس طرح مرزا یت کو پہلی عظیم الشان فتح حاصل ہو چکی ہے۔ مرزا یت نے اس پر بے اختصار صرفت کا اظہار کیا۔ بریں عقل و دانش بیانیہ گریست۔ علمائے اسلام کو اس واقعہ سے بھرت حاصل کر کے مرزا یت کے ساتھ خط و کتابت کرتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہئے۔

۲ ..... مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے سر سید احمد خان علی گڑھی نے حیات مسح علیہ اسلام کا انکار کیا تھا اور اپنی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ اس اسلامی عقیدہ کی تردید میں زور قلم صرف کرو یا تھا۔ بہاء اللہ ایرانی نے بھی وفات مسح علیہ اسلام کا عقیدہ اختیار کر کے مسح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ مرزا قادیانی سر سید اور بہاء اللہ ایرانی کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ان کے پیش کردہ دلائل کو ترتیب دے کر وفات مسح علیہ اسلام ثابت کرنے کی سعی کی اور بہاء اللہ کے نقش قدم پر بجل کرمج موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ عیسیٰ علیہ اسلام کو اگر فوت شدہ تسلیم کیا جائے تو بھی میسیح کے دو دعویدار بہاء اللہ، مرزا غلام احمد میں باہمی رسکشی باقی رہ جاتی ہے۔ وفات مسح کے اثبات سے مرزا کی صداقت کا کوئی تعلق نہیں۔ مرزا کی شخصیت کو بے نقاب ہونے سے بچانے کے لئے اس مسئلہ سے پر کا کام لیا جاتا ہے۔ مرزا ای ہمیشہ توفی، رفع، توفیقی وغیرہ الفاظ کی آڑ لے کر اور قرآن کی آیات سے مغالطہ دے کر اصل حقیقت پر پر وہ ذالئے کے عادی ہیں۔ حالانکہ مسح علیہ اسلام کی حیات وفات سے مرزا کے دعاویٰ کا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مرزا قادیانی مسلمان نہ تھے۔ بلکہ وہ انسانیت کے عام معیار پر بھی پورے نہیں اترتے۔ مسح موعود کے لئے کم از کم مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مرزا یت کا فرض ہے کہ انہیں پہلے مسلمان ثابت کریں۔ اس کے بعد مہدویت و میسیحیت وغیرہ کے دعاویٰ پیش کریں۔

بھیرہ میں مرزا یت سے کہا گیا تھا کہ طول کام سے پنج کے لئے صرف دعاویٰ مرزا پر محضر مناظرہ ہو جائے اور اگر مرزا قادیانی کو آپ راستہ اور صادق ثابت کر دیں تو اجر ابتوت اور وفات مسح علیہ اسلام تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ مگر انہیوں نے اس سے صاف انکار کر دیا اور حیات و ممات مسح علیہ اسلام کو ہی موضوع مناظرہ قرار دینے پر اصرار کیا۔ بالآخر حیات مسح علیہ اسلام، ختم نبوت اور صداقت دعاویٰ مرزا اہر سا مفہوم پر مناظرہ ہونا قرار پایا۔

۳..... مرزا نیوں نے تحریری مناظرہ پر اصرار کیا۔ مگر اس سے عوامِ الناس کما حق مستفید نہ ہو سکتے تھے۔ اس لئے بحث و مباحثہ کے بعد عبداللہ اعجاز سے طے پایا کہ رسالہؐ مسیح اسلام بھیرہ کے ساتھ تحریری مناظرہ کے لئے اپنے کسی جریدہ کو آمادہ کریں گے اور عبداللہ صاحب نے رسالہؐ مسیح اسلام میں شائع شدہ مضامین کی تردید کا ذمہ لیا۔ مگر انہوں نے آج تک اپنے وعدے کا ایفا نہیں کیا اور مناظرے کے بعد مبارک احمد صدر جماعت احمدیہ نے اس طریقہ سے تحریری مناظرہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔

۴..... اہل سنت والجماعت عقائد کے بارہ میں قرآن مجید و احادیث صحیح کو اصل قرار دیتے ہیں۔ عقائد کے لئے صحیح معیار قرآن مجید اور حدیث صحیح کے بغیر کوئی اور قرار دینا کھلی گرا ہی اور ضلالت ہے۔ ہمارے نزد یک بزرگ وہ ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو۔ مگر مرزاؐ ہم سے منوانا چاہتے تھے کہ عقیدہ صحیح وہ ہے جو کسی بزرگ کا ہو۔ ہم حیران تھے کہ استدال کے طور پر اقوال بزرگان پیش کرنے سے مرزا نیوں کا کیا مقصد ہے؟۔ مگر حالات و اقدامات نے بتا دیا کہ بزرگان کے عام لفظ سے فائدہ حاصل کر کے نہ چھوڑو اور مکوڑی شاہ و گند اشاہ کے اقوال پیش کر کے اور بعض مسلمہ بزرگ ہستیوں کے اقوال کو توڑ موز کر اور بعض صوفیائے کرام کے شطحيات پیش کر کے یہ جماعت عوام کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ حالانکہ عقائد کے بارہ میں قرآن و حدیث صحیح کے سوا اور کسی چیز کا ذکر ہماری کتب عقائد میں نہیں ہے۔ عقیدہ ہی صحیح ہو سکتا ہے جو کسی معصوم کا ہو۔ ہم اولیاء اللہ کو معصوم قرار نہیں دیتے اور شطحيات کی بناء پر کوئی عقیدہ قائم کرنا مرزا نیوں کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ امام الصوفیہ حضرت مجدد الف ثانی سرہندیؒ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا کشف جدت نہیں بلکہ فرمایا ”مارانص در کار است نہ فص“، بعض بزرگان دین سے حالت سکر میں بعض کلمات سرزد ہوئے۔ مگر ہوش میں آنے کے بعد فرمایا کہ جب ہم ایسے الفاظ کہیں تو ہمیں روک دیا کرو۔

فقہ میں امام ابوحنیفہ اور تصوف میں صوفیائے کرام اور منطق میں شیخ الرئیس وغیرہ کے اقوال پیش ہو سکتے ہیں۔ مگر عقائد کے بارہ میں کسی کا قول اہل سنت پر جدت نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس قول کی تائید نہیں قرآن اور حدیث صحیح سے نہ ملے مرزا نیوں نے تین گھنٹہ اسی بحث میں ضائع کر دیئے۔ وہ چاہتے تھے کہ قرآن و حدیث اور بزرگان ہرس سے استدال کرنے کا موقع

میں عکے۔ مگر انہیں کہا گیا کہ اگر تم تحریر کرو کہ قرآن و حدیث ہمارے دعاویٰ کے اثبات کے لئے کافی نہیں ہیں۔ تو ہم تمہاری یہ استدعا قبول کر سکتے ہیں۔ مگر ایسا لکھنا ان کے لئے پیام ہوتے ثابت ہو رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حفیوں کے لئے اپنے امام کا قول جوت ہے۔ ہم نے کہا کہ فقہ میں حضرت امام اعظمؑ کے ہم مقلد ہیں۔ مگر عقائد کے بارہ میں آپ ان کا کوئی قول کسی قرآنی یا حدیثی دلیل کی تائید میں پیش کریں تو ہم تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں۔ مرزائیوں نے کہا کہ اقوال بزرگان تمہیں منظور نہیں تو تم کو اقوال مرزائیوں کے لئے بھی حق نہیں ہو سکتا۔ خاکسار نے ان کی غلط فہمی رفع کرنے کے لئے کہا کہ آپ اگر تحریر کر دیں کہ مرزاقادیانی صرف بزرگ تھے۔ نبی نہ تھے تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ ان کی کتب سے کوئی حوالہ پیش نہ کریں گے اور اگر وہ نبی نہ تھے تو نبی کا قول اپنی امت پر جوت ہوتا ہے۔ اس لئے آپ کو ان کے اقوال تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہ ہونا چاہئے۔ اس پر مرزاقادی مہبوبت ہو گئے۔

..... ۵ ..... آخری شرط میں مرزائیوں کے پیش کردہ الفاظ یہ تھے۔

آخری تقریر کے اختام سے پہلے فریقین میں سے جو فریق اٹھ کر چلا جائے گا۔ وہ شکست خورده سمجھا جائے گا۔ مگر اس سے پہلے مناظرہ جو کامیں اس شرط کی حقیقت آشکارا ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کے مجمع میں سے کچھ دیہاتی جودور دراز سے آئے تھے اپنے گھروں کو واپس جانے کے لئے بیقرار تھے۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔ مگر مرزائیوں کا یہ اصرار تھا کہ اگر آپ کی جماعت کا ایک آدمی بھی چلا گیا تو آپ کی شکست سمجھی جائے گی۔ صدر جلسہ حضرت علامہ معین الدین اجمیری نے بار بار کہا کہ یہ لوگ ثالث کی حیثیت رکھتے ہیں اور فریق سے حضرات علمائے کرام ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ مگر مرزائیوں نے کہا کہ شرط میں ذمہ دار کا لفظ موجود نہیں۔ ہم نے بھیرہ میں سابقہ تحریر بھی بناء پر ذمہ دار صحابہ کے الفاظ اس شرط میں درج کرائے۔

### ۵ ستمبر کی صبح

۱۹۳۲ء کی صبح آٹھ بجے سے پہلے اہل اسلام میدان مناظرہ میں پہنچ گئے۔ وہاں ہیڈ کاشیبل صاحب ایک پروانہ لئے ہوئے پہنچے۔ جس میں مناظرہ کے التواء کا حکم درج تھا۔ میرے استفسار پر ایم۔ ذی کریم صاحب اور تمام مجمع کے سامنے ہیڈ کاشیبل صاحب نے اعلان کیا کہ احمدی صاحبان ہمارے پاس صبح سوریے یہ استدعا لے کر گئے تھے کہ ہمیں تقضی امن کا خطروہ

ہے۔ اس نے پولیس اپنی کارروائی کے نتے سے مجبور ہے۔ مرزا نیوں میں باہمی تو تو میں میں شروع ہو گئی۔ ایم۔ ذی کریم صاحب کا رنگ فق ہوئی اور جمع بادل ناخواستہ منتشر ہو گیا اور ذمہ دار حضرات کا ایک وفد سب انپلٹر صاحب سے ملا اور انہوں نے حالات سے مطلع ہو کر مناظرے کی اجازت دے دی اور اس طرح مرزا اپنی سازش میں ناکام رہے۔

### پہلا مناظرہ

۵ ستمبر ۱۹۳۲ء بعد نماز ظہر ساز ہے تین بجے حضرت سجان شاہ کے روپہ کے سامنے بلکہ حضرت پیر انور امیر شاہ صاحب کے چبوترہ پر ہردوفریق کے لئے اشیع تیار کئے گئے اور سامعین کے لئے وسیع میدان موجود تھا۔ گرمرزا نیوں نے چبوترہ سے یونچ میدان میں اپنا اشیع منتقل کر لیا۔ اس طرح ان کا زیر نظر ہو جانا نیک علامت سمجھی گئی۔ مرزا نیوں کی طرف سے صدر حافظ مبارک احمد قادریانی پروفیسر مدرس احمد یہ قادیان منتخب ہوئے اور اہل اسلام نے خاسار کو صدر منتخب کیا۔ حافظ مبارک احمد قادریانی نے کھڑے ہو کر کہا: مبارک احمد! اہل سنت کی طرف سے مناظرہ کون کرے گا؟۔

خاسار! ہماری طرف سے حضرت مولانا ابوالقاسم محمد حسین صاحب کو لو تارزوی مناظرہ ہوں گے۔

مبارک احمد! ہماری دیرینہ آرزو تھی کہ مولوی ظہور احمد صاحب کے ساتھ ہوتا۔ کیونکہ ان کی علمی حیثیت مسلمانوں میں مسلسل ہے اور ان کے ساتھ مناظرہ کرنے سے حق و باطل میں امتیاز ہو جاتا۔ گرل کیا وجہ ہے کہ مولوی صاحب مناظرہ سے گریز کر رہے ہیں؟۔

خاسار! ہماری بھی یہ دیرینہ آرزو تھی کہ میاں محمود احمد کے ساتھ مناظرہ ہوتا۔ کیونکہ وہ جماعت قادیانی کے مسلسل خلیفہ ہیں۔ ان کے ساتھ مناظرہ کرنے سے احراق حق میں مددملتی۔ کیا آپ ان کو میدان مناظرہ میں لا سکتے ہیں؟۔

مبارک احمد! (نہایت غصہ کی حالت میں) آپ کا کیا حق ہے کہ پچاس ۱ لاکھ احمدیوں کے مسلسل خلیفہ کو اپنے مقابلہ میں بلا ہیں؟۔

۱۔ مبارک احمد نے اپنی تقریر و تحریر میں مرزا نیوں کی تعداد مناظرہ بھیرہ میں پچاس لاکھ بتائی ہے۔ مرزا نیوں کی صحیح مقدار کے متعلق گذشتہ صفحات پر لکھا جا چکا ہے۔ قارئین اندازہ لگ سکتے ہیں کہ مرزا اپنی مناظر جھوٹ بولنے میں کیسے مشاق ہوتے ہیں۔

خاکسار آقا نے نام ارث خرموج دات سید المرسلین ﷺ کے ناموں کے خاک پا ہونے کی حیثیت سے میر ارتباً اس قدر بلند ہے کہ مرزا محمود بھی میرے مقابلہ میں کھڑا ہونے کی وجہ نہیں کر سکتا۔ ابو جبل کو قتل کرنے والے دو کم من لا کے تھے۔ رسم ایرانی کو قتل کرنے والا ایک بدوسی تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ امت اسلامیہ کا ہر فرد لفڑ کے علمبرداروں کے لئے پیام موت ثابت ہو سکتا ہے۔ اس پر مبارک احمد قادریانی نے کچھ کہنا چاہا۔ مگر ان کے مرزاں دوستوں نے انہیں خاموشی کی تلقین کی اور تمیں بچ کر چالیس منٹ پر حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب نے حیات مُسْعِیۃ اللہ علیہ السلام پر تقریر شروع کی۔ مولانا کی تقریر اس قدر واضح، مدلل اور دلچسپ تھی کہ تمام حاضرین فرط سرت سے جھوم جھوم رہے تھے۔ مولانا کی چچے تقریریں ہوئیں اور مرزاں ایمناظر مولوی محمد سلیم کی پائچھے ہوئیں۔ تمام تقاریر کا خلاصہ اسی کتاب میں بطور ضمیمہ درج ہے۔ محمد سلیم قادریانی کی آخری تقریر میں آندھی کا طوفان آیا۔ مگر خدا کے فضل و کرم سے اسلامی اشیع اس کے اثر سے محفوظ رہا۔ مرزاں یوں کے چہرے گرد آ لو دھو گئے اور ان کے مناظر کا منہ مٹی سے بھر گیا۔ ان کا سائبان اکھڑا گیا۔ ان پر بدحواسی کا عالم طاری تھا۔ حاضرین نے جنگ خندق والا سماں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ بجے شام مرزاں ای اپنے سرو سینہ اور منہ سے گرد جھاڑتے ہوئے گھروں کو سدھا رے۔ مرزاں یوں نے تمام رات دعا اور عبادت میں گذاری تھی اور صدقہ و خیرات سے بھی کام لیا۔ مگر آج کی واضح شکست اور ان کے مائیہ ناز مسئلہ کی حقیقت واضح ہونے پر ان کی کمرہ مت ٹوٹ گئی۔ عبادت گاہ مرزاں یہ میں مغرب و عشاء کی آذان بھی دینے کی توفیق نہ ہوئی اور تمام رات نہایت کرب و اضطراب سے بسر کی۔ حاضرین پر مرزاں مذہب کی حقیقت واضح ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کی حیات قرآن و حدیث اور مسلمات مرزاں یہ سے مولانا ابوالقاسم صاحب نے اس قدر وضاحت سے ثابت کی کہ ان کے دلائل کا مرزاں مناظر کوئی جواب نہ دے سکا۔ مناظرہ کے اختتام پر ایم۔ ذی کریم صاحب استنشت سیکرٹری انجمن مرزاں بھیرہ نے اقرار کیا کہ حیات مُسْعِیۃ اللہ علیہ السلام پر مولانا کو زبردست کامیابی ہوئی ہے اور اس نے مولانا کو اس کامیابی پر مبارک باد دی۔

دوران مناظرہ میں صدر جماعت مرزاں یہ نے لفظ مرزاں کے استعمال سے اسلامی مناظر کو روکنا چاہا مگر مولانا مددوح نے فرمایا کہ تم مرزاں ہو۔ تمہارے نبی کا نام خدا نے الہام میں مرزا بتایا ہے۔ اسے الہام ہوا تھا کہ: ”سنفرغ یا مرزا“ (ذکرہ ص ۱۲۹) مرزاں مناظر

قرآن کی آیات غلط پڑھتا تھا اور اس کی آخری تقریر نہایت ہی مبہل تھی۔ بدحواسی کے آثار اس کے چہرہ پر رونما تھے۔ خدائی قہر کا نشان یعنی آندھی منٹ سے اس کے منہ کو پر کرنے میں مصروف تھی۔ چہرہ خاک آ لو دھا۔ مرزاںی مناظر نے رسیمین گڈی سر پر باندھ رکھی تھی اور داڑھی کی ہوئی تھی۔ اس کا رویہ نہایت ہی دل آزار تھا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا بنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ توبین سن کر قریب تھا کہ مجع جوش غضب سے بے قابو ہو جاتا۔ مگر خاکسار نے لوگوں کو صبر و تحمل کی تلقین کی۔

### دوسرے مناظر

مورخ ۲۷ ستمبر صبح ساز ہے آٹھ بجے ختم نبوت پر مناظرہ کا آغاز ہوا۔ اسلامی مناظر مولانا ابوالقاسم محمد حسین کو لو تارزوی صاحب نے ۱۸ آیات قرآنیہ، دس احادیث صحیح اور دو اقوال مرزا سے ثابت کیا کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ مرزاںی مناظر کی امداد کے لئے اسی روز ملک عبد الرحمن خادم قادریان سے پہنچ گیا تھا۔ مرزاںی چاہتے تھے کہ کسی طرح کوئی فرار کا راستہ نہ کالیں۔ مگر مولانا ابوالقاسم نے دلائل کے زبردست شکنجہ میں انہیں جکڑے رکھا۔ مبارک احمد نے دعویٰ کیا کہ میں نجومیں ہوں۔ یہ سن کر مولانا مولوی محمد اسماعیل صاحب دامائی کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ تمام مرزاںی مولوی مل کر اس عبارت کی ترکیب کر دیں۔ ورنہ دعویٰ علم سے مجع کے سامنے تو بکریں۔ ”جاء رجل على باب نحوی فقرع الباب فخرج الصبي فقال اباك ابوك ابیک قال لا لولی“ تمام مرزاںی اس کے جواب سے عاجز آگئے اور اپنا سامان سروں پر اٹھاتے ہوئے اپنے گھروں کو چل دیئے۔

### تیسرا اور آخری مناظرہ

مورخ ۲۷ ستمبر ۱۹۳۲ء بعد نماز ظہر مرزاںیوں کی طرف سے آخری اور فیصلہ کن مناظرہ دعاویٰ مرزا کے متعلق تھا۔ اس میں مرزاںی مدعا تھے اس لئے پہلی اور آخری تقریر کا حق انہیں حاصل تھا۔ محمد سلیم کی کمرہ مت نوٹ چکی تھی اور مرزاںیوں نے ملک عبد الرحمن خادم گجراتی کو اپنی طرف سے مناظر مقرر کیا۔ اہل اسلام کی طرف سے حضرت مولانا ابوالقاسم محمد حسین صاحب نے حسب سابق نہایت قابلیت سے حق نمائندگی ادا کیا۔ عبد الرحمن خادم نے فخش کلامی۔ دریہ وہ وہی اور گندہ مذاقی کا مشہوت دیا اور حقائق کا منہ چڑانے اور جی بھر کر گالیاں دینے سے اپنی بحکمت کا بدلہ لینا

چاہا۔ اسے کئی دفعہ روکا گیا۔ مگر وہ اپنی عادت سے مجبور تھا۔ اس نے تمام سامعین و جن میں معززین بھی موجود تھے بھانڈ اور میراثی کہہ دیا۔ اس پر مجمع میں اشتغال پیدا ہوا اور ہبید کا نشیبل پولیس نے عبد الرحمن گجراتی کو ان الفاظ کے واپس لینے پر مجبور کیا۔ یہ آخری مناظرہ مرزا بیت کے لئے پیام موت ثابت ہوا۔ حق کا نور چکا اور باطل بھاگ لکھا۔ مناظرہ کے اختتام پر فقیر آزاد بھیروی نے خوشحالی سے اپنی فی البدیل حلم سنائی جس کے پہلے دو شعر یہ تھے۔

ہو مبارکِ مومناں نوں آج خوشِ ایام دی  
ہے ایس سب برکتِ خدادی تے خدادے نام دی  
لاکھِ مرزاں کرن توڑے پئے ڈھنگ بازیاں  
بجھ نہیں سکدی کدی نوری شمعِ اسلام دی  
علمائے اسلام شاندار جلوں کے ساتھِ جامعِ مسجد پہنچ اور مرزاں کریاں سر پر رکھے  
ہوئے گھروں کو سدھارے۔

شہر بھیرہ کے اندر پیرو جواں بلکہ ہر بچہ کا دل بھی جذبہِ مسرت سے لبریز تھا۔ کئی روز تک حق کی عظیم الشان فتح اور باطل کی نمایاں ہزیبت کا تذکرہ ہر مسلم وغیر مسلم کے ورزیابان رہا۔ لوگ مرزا یوس کی ڈھنگی و بے حیائی اور ان کی ضد پر حیران تھے۔ مرزا یوس کی کثیر تعداد مذہب ہو چکی تھی۔ اس لئے دوسرے روز مرزا یوس نے جلدہ کیا۔ جس میں محمد سلیم و عبد الرحمن نے اپنی جماعت کو ثابت قدم رکھنے کے لئے کذب بیانی مدلیں تلبیس سے کام لیا اور بزرگان دین کی طرف غلط ہوا لے واقوال منسوب کئے اور علمائے کرام کے خلاف سب و شتم سے کام لیا۔

اس کے باوجود ایک مرزاں فضل داد کو مرزا بیت سے تو بے کرنے کی توفیق ہوئی اور اس نے حسب ذیل اشتہار طبع کرا کر تقدیم کیا۔

میں کیوں مرزا بیت سے تائب ہوا؟

”عرضہ سے کفر و ضلالت کے گزھے میں پھیل ہو اصراطِ مستقیم کا متلاشی تھا۔ جب دیکھتا تھا کہ رو حانی موت قریب آ رہی ہے اور قادریانی بھول بھیلوں سے نکلا دشوار نظر آ رہا ہے تو تائید ایزدی شامل حال ہوئی اور خضر راہ نے وحیگری کی کہ سرز میں بھیرہ میں عظیم الشان مناظرہ ہوا اور مولا ناصح حسین صاحب قاتع قادریان کی بصیرت افروز اور قادریانیت ملکن تقریر نے میرے دل کے

فضل کو کھول دیا اور میں نے اس کے بعد کھلے بندوں اعلان کرنے کا مضموم ارادہ کر لیا۔ تاکہ اور بھائیوں کو بھی بدایت ہو۔ لیکن مرزا تی پوسٹرے پیچھے پڑ گئے اور ہر جائز و ناجائز طریقہ سے مجھے اسلام قبول کرنے سے باز رکھا۔ میں نیز سمجھتا تھا کہ جب تک مرزا بیت کا جواہ اتنا رہ پھیلنگوں گا۔ شفاعت محدث صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہوں گا۔ پس میں نے بغیر کسی لائق کے محض خوف خدا اور رسول کی وجہ سے جامع مسجد میں جا کر صراط مستقیم اختیار کیا۔ مرزا تی دوستوں کے مقاٹبوں کو دور کرنے کے لئے اصل کا رد بیعت کی نقل پیش کرتا ہوں۔“

### نقل مطابق اصل

بسم الله الرحمن الرحيم!

مکرمي السلام عليكم ورحمة الله! آپ کی درخواست  
بیعت موصول ہوئی۔ خلیفۃ اسحاق الثاني  
ایداللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا آپ کی  
استقامت کے لئے اور دینی و دنیاوی بہتری کے  
لئے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آپ اس پر عمل  
کریں۔ احمدیوں سے میل جوں رکھیں۔ انشاء  
الله ربہ بھی مل جائے گا۔

و تحفظ پر ایکوٹ سیکرٹری!

المشتہر فضل داعی اللہ عن!

### مناظرہ بھیرہ پر غیر مسلم اصحاب کی آراء

میں تصدیق کرتا ہوں کہ مناظرہ جو کہ احمدی صاحبان کی طرف سے بھیرہ میں موجود ۵ ستمبر ۱۹۳۲ء کو مولوی صاحب محمد سلیم قادری اور مولوی محمد حسین صاحب جماعت اہل سنت کی طرف سے مقرر تھے۔ ذیل کے مضامین پر ہوا۔

۱ ..... حیات و ممات مسیح علیہ السلام

۲ ..... ختم نبوت

۳ ..... صداقت مرزا

بدلائل ثابت کیا اور مولوی سلیم قادری کو ان دلائل کے توڑنے کی جرأت نہ ہو سکی۔  
(پادری) سند رواس ..... بھیرہ!

## احمدی سنسی مناظرہ

مورخ ۲۵، ربیعہ صاحب کے متبرک روضہ پر علمائے سنسی اور احمدی صاحبان کے درمیان چند مذہبی مسائل پر مناظرہ منعقد ہوا۔ حاضرین کی تعداد کئی ہزار اشخاص پر مشتمل تھی۔ جن میں ہندو، سکھ، عیسائی وغیرہ ہر فرقہ کے اصحاب شامل تھے۔ ضمیون مباحثہ درج ذیل تھے۔

### ۱ ..... حضرت سُبحَّ کی حیات

### ۲ ..... مسئلہ نبوت

### ۳ ..... صداقت مرزا

احمدی صاحبان کی طرف سے قادیان وغیرہ جگہ سے پانچ یا چھ مولوی بفرض شمولیت تشریف لائے تھے اور سنسی صاحبان کی طرف سے مولوی ظہور احمد صدر مناظرہ کے علاوہ مولوی محمد حسین و دیگر حضرات مضافین پر بحث کر رہے تھے۔ چونکہ بندہ عربی زبان سے ناواقف تھا۔ اس لئے تمام دلائل کو کما حقہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ البتہ مولوی محمد حسین صاحب جو سنسی حضرات کی طرف سے سوالات کا جواب دے رہے تھے۔ اپنا حقن نہایت قابلیت سے ادا کر رہے تھے۔ میرے خیال میں تمام سوالات اور اعتراضات کا پر دلائل، پر تاثیر اور پر تہذیب پیر ایا یہ سے جوابات دے رہے تھے۔ مجھے ان کے جوابات سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک نہایت ہی فاضل ایڈو و کیٹ ہائی کورٹ نے کے سامنے بحث کر رہے ہیں۔ بھیرہ پیلک پر ان کی دلائل کا گہرا اثر ہوا۔

میں نے مناظرہ میں چند شرمناک قابل اعتراض واقعات کو دیکھا۔ جن کو بطور شہر بھیرہ کا باشندہ ہونے کے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا ہم وطن ہونے کے دل سے محسوس کرتا ہوں اور ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے زیادہ قابل اعتراض بات پیر احسن صاحب پیر کے متبرک روضہ پر لٹھ بند پولیس کی نمائش تھی۔ جو ہر وقت موجود ہتھی تھی۔

۱ ..... میرے استفسار پر ایک پولیس کے آدمی نے بتایا کہ کسی احمدی بھائی نے درخواست دے کر ان کو طلب کیا ہے۔ میں نے مولوی دل پذیر ماہر خادم حسین و دیگر برگزیدہ احمدی احباب سے خاص طور سے دریافت کیا۔ لیکن مجھے جواب دیا گیا کہ یہ ہمارے خادم ہیں۔ ان سے مذہبی مجالس میں کام لینا کیا ہرجن ہے۔ سوال کا دوسرا حصہ کہ پیر صاحب کے روضہ پر یہ ناوجب ہے۔ اس کا جواب خاموشی میں تھا۔ الغرض ہمارے مذہبی تبادلہ خیالات میں پولیس کی

مداخلت اور نمائش ہماری متبرک درسگاہوں میں میرے خیال میں نہایت قابل اعتراض ہے۔ جس کے لئے مجھے اپنے احمدی بھائیوں سے (اگر واقعی درخواست ان کی طرف سے تھی یا ان کے ایسا پر باقی گئی تھی) موزوں شکایت ہے۔ مجھے امید ہے یا تو وہ اپنے مذہبی تبادلہ خیالات میں ضرور ان باتوں کا خیال رکھیں گے یا وہ ایسی مجلس کو بند کر دیں گے۔ جو بغیر پولیس کے ذمہ کے سرانجام نہ پاسکیں۔ ایسے موقعوں پر پولیس کی امداد اپنے دلائل کی کمزوری کا اعتراف ہے۔

..... ۲ ..... میرا دوسرا اعتراض احمدی صاحبان کے مولوی صاحب کے چند کلمات پر ہے۔ جن میں انہوں نے بھیرہ کی مہذب پبلک کو لفظ میراثی بہنڈ سے مخاطب کیا اور باوجود ہمارے اعتراض کے واپس لینے سے انکار کر دیا۔ مولوی محمد حسین صاحب نہایت تہذیب اور شرافت سے بھیرہ پبلک کو دونوں دن مخاطب کرتے رہے اور آداب مجلس کو پوری طرح ملاحظہ رکھا۔ لیکن میرے احمدی بھائیوں میں یہ کمی دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میرے خیال میں آئندہ ان باتوں کا ضرور خیال رکھا جائے گا۔

الرقم: جوندہ رام بی۔ ۱۔ے ایل ایل بی۔ سٹوڈنٹ بھیرہ

### مرزا یوں کی شرمناک کذب بیانی

مسلمانان بھیرہ مرزا یوں کے صحیفہ الدجل قادیانی کے منتظر تھے۔ اس واضح و بین شکست کو فتح قرار دینے میں مرزا یوں کے دلائل کا نہایت بے تابی سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ الدجل نے کامل ڈیڑھ ماہ خاموشی سے کام لیا اور مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ ابھی مرزا یوں میں کسی قدر شرم وحیا کا جوہر موجود ہے۔ مگر ۲۰ اکتوبر ۱۹۳۲ء کے (الفصل ج ۲۰ ش ۲۸۸ ص ۸) میں احمدیت کی عظیم الشان فتح کے عنوان سے بھیرہ کے مناظرہ کا حال پڑھ کر لوگوں کے غنیض و غصب کی انتہا رہی۔ عوام الناس حیران تھے کہ اس قدر سیاہ جھوٹ سے کام لینا مرزا یوں کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ صحیفہ الدجل میں دجالیت کا مظاہرہ حسب ذیل طریقہ سے کیا گیا۔

..... پہلی شکست غیر احمدیوں کو یہ ہوئی کہ انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ علماء سلف اہل سنت والجماعت کی کتب اور ان کی تحریریں ان کے خلاف پیش ہو سکیں۔ گویا اپنے بزرگوں کی تحریریوں سے انکار کر دیا۔

حالانکہ الدجل کے ان الفاظ ہی سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا یوں قرآن و حدیث صحیح سے اپنے دعاویٰ کو ثابت کرنے سے عاجز تھے اور گماناً بعض غیر معروف اشخاص کو بزرگ ظاہر کر کے

ان کے اقوال پیش کر کے عوام کو مغالطہ دینا چاہتے تھے۔ مرحوم مناظر محمد سلیمان نے سلانوائی کے مناظرہ میں ایک بزرگ سردارِ اسٹنگھ کے اشعار بطور استدلال وفات مسیح پر پیش کئے تھے اور مرا زائیوں کی حدیث کی کتاب سیرۃ المہدی میں ان کے کئی معتبر راوی سردار جھنڈا اسٹنگھ جیسے ہیں۔ مرا زائیوں کی اصلی غرض یہ تھی کہ غیر معتبر کتب سے بعض اقوال بیان کر کے ان کتب کے معتبر ہونے یا ان اشخاص کے بزرگ ہونے کی غیر متعلق بحثوں میں ہی وقت ضائع ہو جائے۔ مگر ان کا یہ جل وزور بھیرہ کے مناظرہ میں کامیاب نہ ہو سکا اور قرآن کریم و حدیث کے دائرہ کے اندر رکھ کر ان کے لئے موت کا سامان فراہم کیا گیا۔ بھیرہ میں طشدہ شرائط کی تحقیقی انہیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ خوشاب، سرگودھا، سلانوائی، چک نمبر ۲۳ غرض کسی جگہ بھی انہوں نے شرائط بھیرہ پر مناظرہ کرنا گوارانہ کیا اور انشاء اللہ کسی بھی جگہ انہیں ان شرائط کے ماتحت مناظرہ کرنے کا حوصلہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن و حدیث سے انہیں کوئی دلیل نہیں مل سکتی۔

آگے چل کر لکھتا ہے کہ:

۲..... ہم نے چیخ دیا کہ اگر فریق مخالف قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ آسمان کا لفظ اور لفظ جسد عضری اور زندگی کا ثابت کر دے تو مقرر شدہ انعام لے۔ یہ مطالبہ آخوند کیا گیا۔ لیکن فریق مخالف اس کی تردید نہ کر سکا۔

حیات مسیح علیہ السلام کا اثبات قرآن سے سمجھانے کا تعلق جہاں تک زبان سے ہے وہاں تک تو اسلامی مناظر نے کوئی دلیل فروغ نہیں کیا۔ مگر قلندر کے بندر کی طرح سر ہلاکر بار بار یہ کہنا کہ میں نہ مانوں۔ اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس کا بہترین جواب ہم ان کو کہاں دے سکتے تھے قبر کے اندر مکر و نکیر سے مرا زائیوں کوں سکتے گا۔ مولانا ابوالقاسم کولوتارڑوی کے دلائل اسی کتاب میں درج کئے گئے ہیں۔ قارئین خود فیصلہ فرمائیں کہ مولانا نے اس سوال کا جواب کس خوبی سے دیا اور اللہ جل کا یہ بیان کس قدر کذب و افتراء سے مملو ہے۔

۳..... پھر لکھتا ہے کہ اس دفعہ ایک نیارنگ تھا۔ جو اثبات حیات مسیح میں فریق مخالف نے اختیار کیا کہ سارا دار و مدار کتب مسیح موعود (مرا زا قادری) پر رکھا۔

اس میں شک نہیں کہ اسلامی مناظر نے کتب مرا زا کے حوالوں سے ثابت کیا کہ قرآن دالی کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی مرا زا حیات مسیح کا معتقد رہا اور مرا زا کا دعویٰ ہے کہ اس

نے اس مقید میں تبدیل قرآن کی بنا پر نہیں کی۔ جبکہ اس تبدیلی کی بنا، الہام و حجی بیان کی ہے۔ ملامی مناظر نے اس سے ثابت کیا کہ قرآن مجید میں کسی جلد وہ تصحیح کا ذکر نہیں۔ درہ مرزات و یا انی ضرورتی وقت تصحیح طبیہ السلام کے قائل پہنچے سے ہی ہوتے۔ موالتا کے اس پھوٹے درہ استدلال سے مرزائی مناظر اپنارہ ہوا سبق بھول گئی اور اسے سخت پر یعنی الحق ہوئی۔ مگر معاذ نے اس کے علاوہ بھی متعدد آیات قرآنیہ و احادیث سے اپنا دعویٰ کیا۔ جس کا جواب مرزائی مناظر سے بن نہ کا۔

۳۔ الدجال لکھتا ہے کہ: ”اس پہنچے مناظر کا پیک پر ایک خاص اثر تھا اور پیک نے غیر احمدی مناظر کی ناکامی کو محسوس کر لیا۔“

خاص اثر ہونے میں شک نہیں۔ مگر وہ خاص اثر ہی تھا۔ جس کی بنا پر آپ کی جماعت اس سندت سیرہ زمی ایمج۔ ڈی کریم صاحب نے صاف الفاظ میں اسلامی مناظر کو مخالف کرتے ہوئے کہ: ”میں آپ کے طرز استدلال سے بہت مخطوظ ہوں۔ آپ داکل دینے اور اپنا دعویٰ ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس پر میں آپ کو مبارک باد دیتا ہوں۔ مگر فی الحال میراث امام طاہر ہے یہ بھئے۔“

ایمیں ڈی کریم صاحب اگر اس کا انکار کریں تو مؤکد بعذاب حلفیہ اشتہار شائع کریں۔ اخراج یہ نہیں کہ انہیں ایسا کرنے کی بھت ہو سکے۔

۴۔ الدجال لکھتا ہے کہ: ”آخر نبوت کے مناظر میں دوسرے دن مولوی محمد حسین کے پیغام سے جواب میں کوتونی کے متعلق ایک بزرارو پیغام پورا کرنے کو تیار ہوں۔ ان پیغام کو مشترک رہی گیا اور لفڑا ایک بزرارو پیغام پیش کیا گیا۔“

لعنة الله على الكاذبين امماانا محمد حسین صاحب کا مطالبہ تھا کہ مرزائی مناظر یہ تھے کہ اتم سند نمائندگی حاصل کر کے مسئلہ کوتونی کے متعلق شرعاً ظاہر مناظر وہ طریقہ تھے کہ مسئلہ حدیث تصحیح طبیہ السلام پر مناظر ہو جانے کے بعد آخر نبوت کے مسئلہ پر مناظر وہ طریقہ تھے کہ مسئلہ مناظر ۔ جیب سے آجھ کانفذ نکال کر کہا تھا کہ یہ ایک بزرارو پیغام موجود ہے۔ امماانا محمد حسین صاحب نے اس وقت فرمایا کہ کسی غیر جانبدار آدمی کے پاس رکھو۔ مگر فراہی مرزائی مناظر نے وہ

کاغذ جیب میں ہاں لئے۔ پبلک کو معلوم نہ ہو سکا کہ ان کاغذات میں کیا چیز لیٹی ہوئی تھی۔ دراصل اسلامی مناظر کا نشائیک ہزار روپیہ حاصل کرنے کا نہ تھا۔ بلکہ وہ بانی مذہب مرزا یت کی تحدی کو توڑنا چاہتے تھے اور اس کے لئے ضروری تھا کہ ان کام مقابل میاں محمود احمد خلف و خلیفہ مرزا کا مصدقہ نہ اسندہ ہو۔ مگر مرزا یوں نے آخر دم تک ان شرائط کو قبول نہ کیا۔ نیز حیات مُسح کے مناظرہ میں مرزا یوں نے اس چیلنج کا کوئی جواب نہ دیا اور ختم نبوت کی بحث میں اس غیر متعلق امر کا ذکر کر کے خلط بحث سے کام لینا چاہا۔“

۶ ..... الدجل لکھتا ہے کہ: ”ختم نبوت کے متعلق فریق مخالف نے اوہرا وھر کی باتوں میں گلا اور کوئی دلیل ختم نبوت کے متعلق پیش نہ کی۔“

اس کے جواب میں ہم چیلنج دیتے ہیں کہ ۱۸ آیات قرآنیہ اور ۱۰ احادیث اور ۲۰ اقوال مرزا کل میں دلائل جو ختم نبوت پر مولانا نے پیش کئے تھے ان کا جواب مرزا یت دنیا مل کر بھی قیامت تک نہیں دے سکتی۔

۷ ..... الدجل دعویٰ کرتا ہے کہ ہماری طرف سے اسلامی مناظر کی انتہائی بد تہذیب کا شرافت و ممتازت کے ساتھ جواب دیا گیا۔

مرزا یت میں شرافت و ممتازت سے مراد فخش کلامی ہو گی۔ معزز حاضرین کو میراثی اور بھانڈ کہنا اور منہ چڑانا اور مرزا یتی مناظر کی قابل نفرت حرکات سے تمام سامعین بیزار ہو رہے تھے۔ شہر بھیرہ کے ایک معزز ہندوالہ جوندہ رام صاحب بھائیہ ہی۔ اسی شبادت اس بارہ میں قابل غور ہے۔

۸ ..... الدجل کہتا ہے کہ: ”اس مناظرہ کا ہی اثر تھا کہ کئی لوگ ہماری عبادت گاہ احمدیہ میں آ کر ہمارے مبلغین سے گفت و شنید عقائد احمدیت کے متعلق کرتے رہے اور کئی لوگوں نے کتب احمدیہ کے پڑھنے کا وعدہ کیا ہے۔“

ان الفاظ کو دراصل اس طریقہ سے قلمبند کرنا چاہئے تھا۔

اس مناظرہ کا ہی اثر تھا کہ شہر بھیرہ کا بچہ بچہ ہمارے بڑے بڑے مبلغین سے بحث کرنے پر تیار ہو چکا ہے۔ نوجوانوں نے ہمارے مبلغین کو ہر جگہ پر پیشان کیا۔ جھوٹے بچوں نے گلی و کوچہ میں اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی اور کئی لوگوں نے ہمارے مذہب کی تردید کے لئے ہماری کتابوں کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

الدجل کی ایک بدحواسی قابل داد ہے۔ لکھتا ہے کہ مناظرہ ۱۵ ستمبر کو ہوا۔ حالانکہ مناظرہ ۲۶ ستمبر کو ہوا تھا۔

### مرزا یوں سے خط و کتابت

مناظرہ کے بعد یادہ بانی کی غرض سے مولانا ابوالقاسم نے شیخ مبارک احمد مرزا تی کو لفظ تو فی کے متعلق فیصلہ کرنے کے لئے خط لکھا۔ جس کے جواب میں مرزا یوں نے مرزا محمود کی سند نمائندگی حاصل کرنے سے انکار کیا اور لکھا کہ مولانا ابوالقاسم صاحب عالم اسلام کے علماء سے سند نمائندگی حاصل کر لیں۔ اس کے بعد ہم سے سند نمائندگی دکھانے کا مطالبہ کریں۔ اس کے جواب میں مولانا ابوالقاسم صاحب نے حسب ذیل آخری خط مبارک احمد کے نام بھیجا۔ جس کے جواب میں انہوں نے کامل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔

از بھیرہ! ۱۹۳۲ ستمبر

بسم الله الرحمن الرحيم۔ نحمدہ و تصلی علی رسولہ الکریم!  
کمری مولوی مبارک احمد صاحب!

سلام علی من اتبع! آپ کا رقد میرے رقد کے جواب میں پہنچا آپ وقت کو ضائع نہ فرماویں۔ برادر مہربانی پہلے آپ مرزا قادیانی کے چیلنج کو ملاحظہ فرماویں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اس چیلنج میں کہیں بھی یہ نہ پائیں گے کہ جواب دینے والا روئے زمین کے مسلمانوں کا یا کسی مرکزی جماعت کا نمائندہ ہو۔ پھر آپ کا یہ شرط زیادہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟۔ باقی رہایہ امر کہ میں نے جناب کو سند نیابت نمائندگی حاصل کرنے کی کیوں تکلیف دی ہے اس کا بہب یہ ہے کہ میں نے جناب مرزا غلام احمد قادیانی کے چیلنج کا جواب دینا ہے۔ نہ آپ کے کسی احمدی کا۔ اگر آپ کی تعداد اصلاحات ہوتی تو سند نمائندگی و نیابت کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن جب کہ آپ مرزا قادیانی کی طرف سے نیابت کے طور مقابلہ میں آنے والے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ اس صورت میں سند نیابت از بس ضروری ولازمی ہے۔ ورنہ بصورت دیگر ممکن بلکہ اغلب ہے کہ جناب مرزا محمود احمد صاحب خلف و خلیفہ جناب مرزا قادیانی فرماؤں کے یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ پس آپ اس صورت میں ”مان نہ مان میں تیرا مہمان“ کا مصدق قرار پاتے ہیں۔ لہذا سند نیابت حاصل کرنا از بس ضروری ہے۔ ورنہ فیصلہ ناطق نہیں ہو سکتا اور جب کہ آپ کو سند نیابت کے

حصول کا پورا اعتماد ہے تو اپ اس سے پہلو تھی کیوں کرتے ہیں اور اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟۔ برآہ میر بانی تفہیم اوقات اور ٹال مثول چھوڑ کر تحریر فرمائیں کہ میں سند نیابت حاصل کروں گا۔ بعدہ آج ہی بقیہ شرائط طے کر کے تیار ہو جائیں۔ سند نیابت آجائے پر گفتگو شروع ہو جائے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ اور اگر آپ اس ضروری شرط سے بھی پہلو تھی کریں اور سیدھی راہ پر نہ آؤں تو پھر فضول باتوں میں وقت شائع کرنے سے خاموشی بہتر ہے۔ میری طرف سے اتمام

جنت ہو چکی۔ والسلام علی من اتبع الهدی والتزم متابعة المصطفیٰ ﷺ

ابوالقاسم محمد حسین کولوتارزوی

مرزا نیوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ مرزا نیوں کو تحریری مناظرہ کا بہت شوق تھا۔ مگر انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ خاکسار کی حافظ مبارک احمد قادریانی کے ساتھ تحریری مناظرہ کے متعلق حسب ذیل خط و کتابت ہوئی۔

بسم الله الرحمن الرحيم۔ نحمدہ و نصلی علی رسوله الکریم۔

مکرمی مولوی مبارک احمد صاحب!

سلام علی من اتبع الهدی! جناب کی جماعت تحریری مناظرہ کرنے کی خواہش مند تھی۔ اس کے لئے میں نے آپ کے نمائندوں ایم۔ڈی کریم اور محمد عبداللہ اعجاز قادریانی کو لکھا تھا کہ رسالہ نبیؐ کے صفات اس کے لئے وقف ہو سکتے ہیں۔ جناب کے ہر سوال پر اعتراض یا ہر مضمون کا حامل اعتمتن جواب رسالہ میں شائع ہوا کرے گا۔ بشرطیکہ جناب بھی اپنے کسی مدیر جریدہ کو اس پر آمادہ کر سکیں کہ وہ ہمارے مضامین یا اعتراضات کا حامل اعتمتن جواب شائع کرنے کا حصی و عدہ کرے۔ عام پبلک پر اس طرح حق واضح ہو جائے گا۔ مولوی اعجاز قادریانی نے اس چیلنج کو قبول کر لیا تھا۔ اب آپ کا فرض ہے کہ اس وعدہ کا ایفا کریں اور بہت جلد کسی مرزا نی اخبار کے مدیر کی تحریر میرے پاس بیجوادیں۔ تاکہ اس سے تبادلہ کیا جائے اور ماہ اکتوبر سے تحریری مناظرہ شروع کر دیا جائے۔ اگر آپ کی جماعت نے ایسا نہ کیا تو ثابت ہو جائے گا کہ تحریری مناظرہ سے صرف تفہیم اوقات مقصود تھا ورنہ آپ کو تحقیق حق مطلوب نہیں۔ آپ کا یہ گریز بھی نتھر کر دیا جائے گا۔

ظہور احمد بگوی! مدیر جریدہ نبیؐ کے اسلام و صدر جماعت تبلیغ اسلامیہ بھیرہ

مرزا یوں کے نام حسب ذیل آخری تحریر غیرت دلانے کے لئے بھی گئی۔ مگر اس پر بھی ان کو آمادگی کی جرأت نہ ہو سکی۔

بسم الله الرحمن الرحيم . نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم!

از جامع مسجد بھیرہ! ۱۹۳۲ ستمبر ۸

جناب مولوی مبارک احمد صاحب!

سلام علی من اتبع الهدی! جناب کا رقصہ کل ملا پڑھ کر تعجب ہوا۔ آپ اپنے اخبارات کے صفات کو باطل سے ہی مملود کھنا چاہتے ہیں اور اپنے لغو، لائیقی، اور مقاالتیوں سے بھر پور تحریروں کے سوا اور کسی مضمون کا شائع ہونا آپ کو منظور نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جماعت مرزا یہ صرف خرافات کی وجہ سے ان اخبارات کی خریدار ہے۔ حقیقت حق سے نہیں غرض نہیں۔ حق کے اندر اس سے آپ کو قیمتیں کم ہونے کا خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ شمس الاسلام کے سامنے ان شپرہ چشمیں کا تھہرنا ناممکن ہے۔ آپ نے شمس الاسلام کے مضامین کو پادر ہوا لکھا ہے۔ حالانکہ:

نہ شتم نہ شب پر ستم کہ حدیث خواب گوئیم  
چو غلام آفتاب ہمه ز آفتاب گوئیم

شمس الاسلام کی ظلمت شکن کرنیں مرزا ای ظلمت و ضلالت کی گھٹاؤں کے لئے پیغام  
موت ثابت ہو رہی ہیں۔ بہت ہے تو اپنے قادیانی چیتھروں اور سوائے عالم جراید کو سامنے لانے  
کی جرأت کریں۔ آپ کبھی بھی نہ لاسکیں گے اور یہ ایک پیشین گوئی ہے۔ جو پوری ہو کر رہے گی۔  
ظہور احمد گلوی کان اللہ لہ..... صدر جماعت اسلامیہ بھیرہ

تیسر امعر کہ! خوشاب

بھیرہ میں شرمناک ہزیست حاصل کرنے کے بعد مرزا ای مبلغین مولوی احمد خان  
وعبد اللہ اعجاز رات کی تاریکی میں بھیرہ سے فرار ہو کر جہاڑیاں چلے گئے۔ حزب الانصار کے

مرزا یوں نے کسی طرح بھی تحریری مناظرہ کی یہ صورت قبول نہ کی اور اگر اب بھی  
مرزا یوں کو بہت ہو تو تحریری مناظرہ پر اپنے کسی جریدہ کو آمادہ کریں۔ افسوس ہے کہ مولوی  
اعجاز قادیانی نے وعدہ کا ایقانہ کیا۔ ورنہ دنیا پر حق و باطل آشکارا ہو جاتا۔

کارکنوں کو ان کے فرار کا علم نہ ہو سکا۔ جھاوریاں میں مسلمانان قصہ نے ان کی تقریر سننے سے انکار کر دیا۔ وہاں سے مرزا امی و فد مورخ ۹ اگست ۱۹۳۲ء کو خوشاب میں وارد ہوا۔ خوشاب بھیرہ سے شمال مغربی جانب ۳۵ میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ مسلمانان خوشاب کی درخواست پر حزب الانصار کا تبلیغی زندہ اسٹمبر کی صحیح کو بھیرہ سے روانہ ہو کر اسی روز دن کے گیارہ بجے خوشاب پہنچا۔ ریلوے اسٹیشن پر حضرت مولانا محمد شفیع صاحب (سر گودھوی) کی سر کردگی میں مسلمانان خوشاب نے شاندار استقبال کیا اور جلوس کی شکل میں علمائے کرام کی فروڈگاہ پر پہنچایا گیا۔ مرزا یوں کی امداد کے لئے قادیانی سے مولوی غلام رسول آف راجیکی بھی اسی گاڑی سے وارد خوشاب ہوا۔ مگر اسلامی قافلہ کا راعب مرزا یوں پر غالب ہو چکا تھا۔ انہوں نے خلیفہ قادیانی سے بذریعہ تاریخیہ کمک طلب کی۔

مورخ ۱۰، ۱۱ اسٹمبر ہر دو روز عید گاہ میں شاندار اسلامی جلسے منعقد ہوتے رہے۔ جن میں مولانا ابوالقاسم محمد حسین صاحب، خاکسار اور مولوی عبد الرحمن صاحب میانوی، مولانا محمد شفیع صاحب، مولوی محمد اسماعیل صاحب دامانی کی مرزا یتیت شکن تقریریں ہوتیں۔ مرزا یوں کے جلسے ناکام رہے اور انہیں مناظرہ کا چیخ قبول کرنے کا حوصلہ ہوا۔ مورخ ۱۱ اسٹمبر ۱۹۳۲ء ملک عبد الرحمن خادم گجراتی مرزا یوں کی امداد کے لئے قادیانی سے پہنچ گیا۔ شرائط مناظرہ کے تفصیل کے لئے مجلس منعقد ہوئی۔ بھیرہ میں طے شدہ شرائط پر مرزا یوں نے مناظرہ کرنا گوارنہ کیا اور ملک عبد الرحمن خادم نے خاکسار کے ساتھ گفتگو کرنے یا شرائط مناظرہ طے کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ مرزا یوں نے کئی گھنٹے شرائط طے کرنے میں صرف کر دیے۔ ۵ گھنٹے کی سلسلہ بحث و تجھیص کے بعد بلا خرسب ذیل شرائط طے ہوئیں۔

### شرائط مناظرہ

- |                                                                                                                            |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>۱ ..... موضوع مناظرہ</p> <p>☆ ..... حیات مسیح علیہ السلام</p> <p>☆ ..... ختم نبوت</p> <p>☆ ..... صداقت مرزا قادیانی</p> | <p>..... پہلے ہر دو مناظرہ میں مدئی جماعت اسلامیہ ہوگی۔ آخری مناظرہ میں</p> <p>مدئی جماعت احمدیہ ہوگی۔</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- ۳ ..... دلائل قرآن کریم و احادیث صحیح بحوالہ کتب حدیث پیش ہوں گی۔ نیز اجماع امت بقول مستند بلفظ اجماع جلت ہوگا۔ نیز اقوال جناب مرزا قادیانی جماعت احمدیہ پر جلت ہوں گے۔
- ۴ ..... دلائل خاص کے مقابلہ پر دلیل خاص پیش ہوگی اور اس خاص کی تائید میں عام دلیل بھی پیش ہو سکے گی۔
- ۵ ..... ہر ایک مسئلہ پر مناظرہ پونے تین تین گھنٹے ہوگا۔ جس کے درمیان میں ۱۰ منٹ کا وقت ہوگا۔ اگر نماز کا وقت درمیان میں آئے آدھ گھنٹہ وقت ہوگا۔ لیکن یہ وقت مناظرہ میں شامل نہ ہوگا۔ پہلی ہر دو تقاریر نصف گھنٹہ اور بعد کی تقاریر پندرہ پندرہ منٹ ہوں گی۔
- ۶ ..... ہر ایک دلیل پر مناظر اثبات دعویٰ کے لئے پیش کرے۔ مستقل بحث ہوگی۔ خلط ادلہ نہ ہوگا۔ تاکہ حاضرین بخوبی قوت دلیل کا موازنہ کر سکیں۔
- ۷ ..... خلاف تہذیب و توہین آمیز کلمات ایک دوسرے کے خلاف کوئی مناظر استعمال نہ کرے گا اور ہر مناظر دوسرے کے متعلق ذاتیات کی بحث سے پرہیز کرے گا۔
- ۸ ..... ہر ایک فریق کی طرف سے ایک صدر ہوگا۔ جو حفظ امن کا ذمہ دار ہوگا اور مناظر کو پابند شرائط کرے گا۔
- ۹ ..... آخری تقریر میں مناظر کوئی نئی بات پیش نہ کر سکے گا۔
- ۱۰ ..... پہلی و آخری تقریر مدعی کی ہوگی۔

منجانب جماعت احمدیہ

خوشاب تحصیل! ایضاً ضلع! سرگودھا۔

عمر خطاب احمدی سیکرٹری تبلیغ..... حال خوشاب

تفصیلی شرائط کی خبر سن کر تمام شہر میں مسرت و خوشی کے نفرے بلند کئے گئے۔ حق و باطل کے امتیاز کی توقع پیدا ہو گئی۔ مگر مرزا یہوں کے گھروں میں صفات متم بچھ گئی۔ ملک عبدالرحمٰن اور اس کے رفقاء نے عمر خطاب قادیانی کو لعنت و ملامت کی اور انہوں نے ان شرائط کو بھیرہ والی شرطوں سے بھی زیادہ تباہ کن سمجھا۔ تمام رات مسلمانان خوشاب نے اشیع و جلسہ گاہ کی آرائش و ترتیب میں صرف کی۔ مگر مرزا اپنے بستروں پر بے چینی سے کروٹیں بدلتے ہوئے فرار کے حیلے تراشتے

رہے۔ صحیح سویرے مرزاں نمائندے تھاں اور صاحب کے بیٹے پہنچا اور وہاں مناظرہ بند کرنے کی درخواست دی اور بیان کیا کہ بیسیں تقاضی امن کا اندیشہ ہے۔ لہذا مناظرہ بند ہونا چاہئے۔ مورخ ۱۲ ستمبر ساڑھے سات بجے صحیح کو شیران اسلام عالیشان سائبان کے پہنچے میدان مناظرہ میں جلوہ آفروز ہوئے۔ ہزار ہاشمی اشخاص دور راز مقاموں سے جمع ہوئے۔ مرزاں یوں کارگنگ زردو، حواس گم تھے۔ عین وقت پر سب انسپکٹر صاحب پولیس نے جلسہ گاہ میں آ کر مناظرہ روک دیا اور جووم کو منتشر ہونے کا حکم دیا۔ سب انسپکٹر صاحب نے کہا کہ مرزاں ای مناظرہ کرنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے اپنی حفاظت طلب کی ہے۔ اس لئے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ حکیم حافظ چن پیر احمد صاحب و سیٹھ عبدالرسول صاحب میونسل کمشنر نے اہل اسلام کی طرف سے پانچ پانچ ہزار روپیے کی ضمائیں داخل کرنے پر رضامندی ظاہر کی اور مرزاں یوں کو حفظ امن کا یقین دلانے کے لئے ہر ممکن کوشش کی۔ مگر مرزاں ای مناظر جلسہ گاہ سے چلے گئے اور انہوں نے فرار ہی میں اپنی مصلحت دیکھی اور تاگہ پر سوار ہو کر جوک کی طرف چل دیئے۔

رات کو جامع عید گاہ میں اہل اسلام نے شامدار جشن قائم کیا۔ علماء کرام کی بصیرت افروز تقریریں ہوئی۔ شعراء نے مبارکباد کے قصائد پڑھے۔ مرزاں یوں کے اس واضح فرار سے ان کے مذہب کی حقیقت ظاہر ہو گئی۔ والحمد لله علی ذلك!

### چوتھا معزک! مجوکہ

خوشاب سے چالیس میل کے فاصلہ پر دریائے جہلم کے دائیں کنارہ پر مجوکہ آباد ہے۔ سردران مجوکہ کی زمانہ میں علاقہ تحمل کے رو سامیں شمار ہوتے تھے۔ مجوکہ کی آبادی زراعت پیشہ ہے۔ پچیس سال ہوئے ایک غیر مقلد مولوی نے وہاں اپنے چند مقیمین پیدا کئے۔ علیحدہ مسجد تیار کرائی اور احتفاف کو شرک قرار دیا۔ چند سال کے بعد مجوکہ کے غیر مقلدین نے کل جدید لذیذ پر عمل پیرا ہو کر مذہب مرزاںیت قبول کر لیا۔ تحصیل خوشاب میں مجوکہ مرزاں یوں کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ آبادی کا تہائی حصہ مرزاںی ہو چکا ہے۔

فروری ۱۹۳۲ء میں وہاں ایک فیصلہ کن مناظرہ ہوا تھا۔ جس میں مرزاں یوں کو شامدار شکست ہوئی تھی اورے مرزاںی تائب ہوئے تھے۔ مناظرہ کے بعد وہاں مرزاںیت کا سد باب ہو چکا ہے۔ خوشاب سے فرار ہو کر مورخ ۱۳ ستمبر ۱۹۳۲ء کو مرزاں یوں کا قافلہ تاگہ ولاری کے ذریعہ شام کو مجوکہ پہنچا۔ اسلامی وفد سے خلاصی پانے کی خوشی میں مرزاں یوں نے رات آرام سے بسر کی۔ مولوی

محمد سلیم بھی قادیانی سے وہاں پہنچ گیا۔

خوشاپ میں رات کے ایک بجے جشن فتح سے فارغ ہو کر مجاہدین اسلام کا قافلہ بذریعہ کشتی عازم مجوکہ ہوا۔ دریا میں پانی کم تھا۔ اس لئے کشتی کی رفتار متوقفی۔ کشتی میں خاکسار کے ہمراہ مولانا ابوالقاسم محمد حسین صاحب والبوعید مولانا محمد شفیق صاحب خوشاپی، مولوی عبد الرحمن صاحب میانوی، سینہ عبد الرسول صاحب میونپل کمشٹر خوشاپ و دیگر احباب سوار تھے۔ سفر کی دلوار اور عجیب کیفیت بیان کرنے سے قلم عاجز ہے۔ صحیح کی نماز دریا کے کنارے خوشاپ سے دس میل کے فاصلہ پر ادا کی گئی۔ بھر کے گزرنے کے بعد خورشید کی سہری کرنوں کی سوریزی نے پانی میں اپنا عکس ڈال کر کشتی والوں کے صبر و استقامت کا امتحان لینا چاہا۔ ہوا بند تھی۔ گرمی کی شدت ناقابل برداشت تھی۔ دن کے ۱۱ بجے موضع سخنی کے کنارہ پر چند منٹ آرام کیا۔ خدا کے نعل سے جنگل میں کھانے کا انتظام ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد کشتی پر سوار ہو کر چبوڑھانے کی مشق کی۔ مرزا یوسف کے جلد کی کامیابی کا خیال ہمارے لئے دھوپ سے زیادہ تکمیل دہ تھا۔ علماء کرام نے موساً مولانا محمد شفیق صاحب (سرگودھوی) کی گئنے اپنے ہاتھ سے چبوڑھاتے رہے۔ بوقت عصر مووضع جوڑہ کے قریب ایک پرندہ دیکھا گیا۔ جس نے ایک بہت بڑی مجھلی کو دم سے پکڑ کر کنارہ پر پھینک دیا۔ کشتی کے قریب پھینکنے پر پرندہ اڑ گیا۔ مجھلی کو دادا کسی کو مجاہدین اسلام نے کشتی میں رکھ لیا۔ کشتی سے اتر کر نماز مغرب مجوکہ سے دو میل کے فاصلہ پر ادا کی گئی۔ یہ فاصلہ پیدل طے کیا گیا۔ مجوکہ میں مرزا یوسف کا جلسہ ہو رہا تھا۔ مولوی محمد سلیم قادیانی پر جوش بجھے میں تقریر کر رہا تھا۔ مجوکہ کے مرزا یوسف کے مسلمانوں کو مناظرہ کا چیلنج دے رہے تھے۔ ۹ بجے شام نظر ہائے بکیر کے ساتھ مجاہدین اسلام مجوکہ میں وارد ہوئے۔ مرزا یوسف پیچھار کی آواز پست ہو گئی۔ مسلمانوں کے حوصلہ بڑھ گئے۔ اسی وقت مسجد کی چھت پر خاکسار نے تقریر کی۔ مرزا یوسف پیچھار نے اپنی تقریر بند کر دی۔ خاکسار نے مرزا یوسف کو ثابت قدم رہنے کی تائید کی اور ان کے چیلنج کو قبول کر کے مناظرہ پر آمدگی ظاہر کی۔ اہل قصبہ کو کہا کہ صحیح مرزا یوسف کو بھاگنے کا موقع نہ دینا اور انہیں مجبور کرو کہ بغیر مناظرہ کئے یہاں سے ہرگز نہ جائیں۔

مورخہ ۱۵ اگست ۱۹۳۲ء بعد نماز صحیح مسکی رہنماؤ مرزا یوسف، مولانا ابوالقاسم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے بیان کیا کہ ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے

کہ مہدی کے زمانہ میں کسوف و خسوف ہو گا اور وہ چود ہو یہ صدی میں ہو گا۔ ان احادیث کی موجودگی میں مرزا قادیانی کے عاوی تایم کرنے میں کیا عذر ہو سکتا ہے۔ ہر دو نشان مرزا قادیانی کے زمانے میں پورے ہو چکے ہیں اور آج تک کوئی اور مدعی مہدویت ظاہر نہیں ہوا۔ مولانا ابوالقاسم صاحب نے حسب ذیل تحریر لکھ کر رمضان مذکور کو دی اور اسے کہا کہ اس کا جواب ان سے تحریر کرا کر لے آؤ۔

باسمہ سبحانہ!

۱ ..... دارقطنی میں جو روایت خسوف و کسوف کی ہے۔ وہ نبی کریم ﷺ کی حدیث نہیں ہے۔

۲ ..... چود ہو یہ صدی میں مُسْكَن آئے گا اور وہ مہدی ہو گا۔ یہ بھی حدیث نہیں ہے۔  
۳ ..... مرزا نام احمد اپنی کتاب (چشت معرفت حسود و مص) (خران ن ۲۲ ص ۳۸۹) پر لکھتا ہے کہ: "آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ 'کان فی الہند نبیاً اسود اللون اسمه کاهنا' یہ بھی حدیث نہیں ہے۔"

مرزا نام صاحبان اس کا حدیث ہونا ثابت فرمائیں اور کسی حدیث صحیح مرفوع متصل سے بیان کریں۔ یا کسی حدیث کی کتاب مतزم الصحو سے یہ حدیث دکھائیں۔

ابوالقاسم محمد حسین عفی عنہ!

جو کہ ..... ۱۵ ستمبر ۱۹۳۲ء

اس کا جواب جو مرزا نیوں کے طرف سے موصول ہوا۔ وہ بلفظ نقل کیا جاتا ہے۔ اس سے قارئین مرزا نیوں کی حق پسندی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

۱ ..... ماں بہن وغیرہ محترمات ابدیہ کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح جائز ہے۔  
۲ ..... حیوان سے بد فعلی یا امردہ سے بد فعلی کرنے والے پر ضروری نہیں کہ وہ غسل کرے اور اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹا۔

۳ ..... استحراق بالايد (جلق) سے انسان گناہ گار نہیں ہوتا۔ یہ تم عقائد صحابہ صحیحی حدیث کی کسی صحیح کتاب سے بند صحیح و مرفوع سے فرمان نبی کریم ﷺ ثابت کرو۔ ورنہ خدا سے ذرو۔

جب تین مندرجہ امور کا آپ ڈوب دے دیں گے۔ تو آپ کے سوالوں کا اس الزامی جواب کے علاوہ بھی درست دیا جائے گا۔ مولوی فاضل!

قادیانی مولوی فاضلوں کی ذہنیت کا اظہار اس تحریر کے ہر لفظ سے ہوتا ہے۔ جلسہ عام میں یہ تحریر سنائی گئی۔ لوگوں میں اشتعال پیدا ہوا اگر انہیں صبر و سکوت سے کام لینے کی تاکید کی گئی اور مرزا یوں کو جواب تحریر کیا گیا کہ: ”ان ہر سہ مسائل کے جائز کہنے والے کو ہم کافر اور ملعون سمجھتے ہیں۔ اس لئے ہم سے جواز کی سند طلب کرنے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟۔“ مرزا یوں نے اس کے بعد کامل خاموشی اختیار کر لی۔ گاؤں کے باہر درختوں کے سارے میں علمائے اسلام نے مرزا یتیت کو سراسر باطل ثابت کیا اور مجوکہ کے مرزا یوں کو انصاف سے کام لینے کی اور حق قبول کرنے کی دعوت دی۔ دو مرزا یتی طیش میں آ کر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے خاکسار کو کہا کہ بھاگ نہ جانا۔ ہمارے مولوی مناظرہ کے لئے آ رہے ہیں۔ ایک گھنٹہ کے انتظار کے بعد مرزا یتی مبلغین سامان اٹھائے ہوئے کھیتوں کے کنارہ پر نمودار ہوئے۔ محمد سلیم، محمد نذیر، عبداللہ اعجاز، احمد خان وغیرہ ہم کو دیکھ کر مجاهدین اسلام نے سمجھا کہ مناظرہ کرنے کے لئے آ رہے ہیں۔ مگر مرزا یتی مبلغین خاموشی سے سرجھکائے ہوئے موضع نھوکا کی طرف چل دیئے اور آہستہ آہستہ نظروں سے غائب ہو گئے۔

جاء الحق فزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا

ظلفر المسلم هرب المرزا ان المرزا كان كذوبا

اسلامی جلسہ نماز مغرب تک قائم رہا اور رات کو بھی مولانا محمد شفیع صاحب کی ختم نبوت

پر معرکۃ الاراء تقریر ہوئی۔

پانچواں معرکہ! سلانو والی

مجوکہ سے مرزا یوں کا قائلہ نھیتوں کا، ساہیوال سے ہوتا ہوا سلانو والی پہنچا۔ مجاهدین اسلام نے ان کا تعاقب جاری رکھا اور ان کے قدم کسی جگہ جمنے نہ دیئے۔ ساہیوال جاتے ہوئے سیال شریف میں حضرت مخدوم العالم قبلہ حافظ مولوی قمر الدین صاحب سجادہ نشین امام اللہ تعالیٰ برکات ہم کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت مخدوم حزب الانصار کے اس قابل فخر کمانے سے بہت خوش ہوئے اور مجاهدین کی کامیابی کے لئے دعا فرمائی۔

صلح شاہ پور میں سلانو والی ایک نوآباد منڈی ہے۔ مولوی محمد ولپنڈیر صاحب مرزا تی کا لڑکاڈا اکٹھ منظور احمد کے ذریعے سے وہاں مرزا بیت کا کافی اثر پھیل پکا ہے۔ مرزا تی مفروروں نے وہاں پہنچ کر جلسے کے انعقاد کا اعلان کر دیا۔ مقامی مرزا بیوں نے وہاں کی انجمن محمد یہ کو مناظرہ کا چیلنج بھی دے دیا اور اپنے جلسے کا اعلان بھی کر دیا۔ کارکنان انجمن محمد یہ انتہائی پریشانی کے عالم میں اس ناگہانی مصیبت کا اعلان سوچ رہے تھے۔ رات کے دس بجے مجاہدین اسلام بذریعہ لاری وہاں پہنچے اور جاتے ہی شہر میں منادی کرائی گئی کہ مرزا بیوں کا فرض ہے کہ بغیر مناظرہ کئے ہرگز یہاں سے کسی جگہ نہ جائیں۔ مرزا بیوں کی تمام تجویز خاک میں مل گئیں۔ ان کی امیدوں کا سربز باغ پامال ہو گیا۔ ان کی طبیعتیں سرد ہو گئیں۔ دوسرے دن مرزا بیوں سے حسب ذیل خط و کتابت ہوئی۔

### خط و کتابت

بخدمت جناب سیکرٹری صاحب جماعت احمد یہ سلانو والی!

السلام علی من اتبیع الهدی! قاویانی مبلغین ہمارے ساتھ خوشاب میں مناظرہ کے شرائط طے کر کے آخری وقت پر بغیر مناظرہ کئے مجوك کی طرف چلے گئے تھے۔ مجوك میں بھی انہوں نے مناظرہ نہیں کیا۔ بلکہ وہاں جو تمیں سوال ان پر کئے گئے تھے ان کا جواب ہمیں موصول نہیں ہوا۔ اس لئے اگر آپ تحقیق و اظہار حق کے خواہش مند ہوں تو اپنے مبلغین کو ہمارے مجوك کے والے سوالات کا جواب دینے پر آمادہ کریں۔ نیز خوشاب میں طے شدہ شرائط پر سلانو والی مناظرہ کرنے پر تیار کریں۔

امید ہے کہ جناب ہمارا اور اپنا قیمتی وقت فضول خط و کتابت میں ضائع نہ فرمائیں گے۔ ہماری اس تحریر کے جواب میں ہمارے مجوك میں پیش کردہ سوالات کے جوابات اور مناظرہ پر آمادگی کی تحریر اپنے مبلغین سے بھجوادیں گے۔ وما علينا الا البلاغ! ظہور احمد بھوی عقی عنہ ..... ۱۹۳۲ء

اس خط کے جواب میں ڈاکٹر منظور احمد نے مناظرہ پر آمادگی ظاہر کی۔ جس کے جواب میں حسب ذیل خط ہماری طرف سے بھیجا گیا۔

بخدمت جناب سیکرٹری صاحب جماعت احمد یہ سلانو والی!

السلام علی من اتبیع الهدی! مجھے یہ کرخوشی ہوئی کہ آپ اپنے مولویوں کو بھیرہ کی شرائط پر یا خوشاب کی شرطوں پر مناظرہ کرنے کے لئے آمادہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر مناظرہ

ہوا تو ہماری کئی دن کی آرزو پوری ہو گی۔ آپ نے نقل شرائط طلب کی ہے۔ خوشاب میں طے شدہ شرائط کی نقل ارسال خدمت ہے۔ مہربانی کر کے آج ہی وقت اور مقام کا تصفیہ فرمایا کر ممنون فرمائیں۔ نیز جناب نے ہمارے پیش کردہ سوالات کا جواب اپنے مبلغین سے نہیں دلوایا۔ شاید آپ کو علم نہ ہو مجھ کے میں حسب ذیل سوالات بھیجے گئے تھے۔

۱ ..... مہدی کے زمانہ میں کسوف و خسوف کا نشان رمضان میں ہونا حدیث نہیں ہے۔

۲ ..... چودہ ہیں صدی میں مسیح و مہدی پیدا ہو گا۔ حدیث نہیں ہے۔

۳ ..... کان فی الہند نبیا اسود اللون اسمہ کا ہنا! حدیث نہیں ہے۔ مرزائی صاحبان ان کا حدیث ہونا ثابت کریں۔ بسند صحیح مرفوع متصل یا کسی حدیث کی کتاب ملزم الصحة سے دکھائیں۔ مہربانی کر کے ان کے جوابات بھی مناظرہ سے پہلے تحریر کر کے بھجوادیں۔ اس میں صرف چند منٹ صرف ہوں گے۔

ظہور احمد عفی عنہ ..... صدر تبلیغ جماعت اسلامیہ ضلع شاہپور!

از سانوالي ..... ۱۹۳۲ء اگست

اس خط کے جواب میں ڈاکٹر منظور احمد نے خوشاب میں طے شدہ شرائط پر مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا اور لیت ولع سے کام لینا چاہا۔ مجبور ہو کر انہیں یہ آخری خط بھی بھیجا گیا۔  
خدمت جناب سیکرٹری صاحب جماعت احمد یہ سانوالي!

السلام على من اتبع الهدى! آپ نے مناظرہ سے پہلو تھی کر کے افسوس ناک روشن اختیار کر رکھی ہے۔ تحقیق حق کی غرض سے میں خدا اور رسول کا واسطہ دے کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ فضول باقتوں کو چھوڑ کر کل کے دن مناظرہ کا انتظام کریں۔ اگر بھیرہ یا خوشاب میں طے شدہ شرائط سے آپ کو انکار ہو تو پھر وقت اور مقام مقرر فرمائیں خاکسار آپ کے پاس حاضر ہو کر تصفیہ شرائط کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ شاید اس ملاقات کا نتیجہ اچھا نکل آئے۔ جواب جلد دیں! جماعت اسلامیہ کی طرف سے خاکسار اور مولانا محمد شفیع صاحب نمائندے ہوں گے۔ آپ بھی اپنی جماعت کی طرف سے دو نمائندوں کا انتخاب کر کے ان کے احاء سے مطلع فرمائیں۔ کسی تبرے شخص کو بولنے کا حق نہ ہو گا۔

ظہور احمد بگوی ..... مورخ ۱۹۳۲ء اگست

مورخ ۱۹۳۲ء ۱۹۳۲ء ڈاکٹر منظور احمد صاحب کے مکان پر تین گھنٹے بحث و تمحیص کے بعد حسب ذیل شرائط طے ہوئیں

## شرائط مناظرہ

- ..... ۱ مضمون مناظرہ
- ☆ ..... حیات صحیح ناصری علیہ السلام
  - ☆ ..... ختم نبوت بمعنی امکان نبوت
  - ☆ ..... ختم نبوت بمعنی انقطاع نبوت
  - ☆ ..... صداقت حضرت مرزا قادیانی
- ..... ۲ پہلے تیرے مضمون میں مدئی جماعت اسلامیہ حنفیہ ہوگی اور دوسرے اور چوتھے مضمون میں مدئی جماعت احمدیہ ہوگی۔
- ..... ۳ ہر مضمون پر پونے تین گھنٹے وقت ہوگا۔ پہلی تقریر یہ نصف نصف گھنٹہ کی اور باقی سب تقریر یہ پندرہ پندرہ منٹ کی ہوں گی۔ آخری تقریر پندرہ منٹ کی مدئی کی ہوگی۔
- ..... ۴ پہلی اور آخری تقریر مدئی کی ہوگی۔
- ..... ۵ ہر مناظرہ کے دوران میں دس منٹ کا وقفہ ہوگا اور اگر دوران مناظرہ میں نماز کا وقت آجائے تو نصف گھنٹہ۔ لیکن یہ وقت اور اس کے علاوہ جو وقت پر یہ زینٹوں اور مناظروں وغیرہ کی تکرار میں صرف ہوگا۔ وقت مناظرہ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ منہا کر دیا جائے گا اور اس طرح سے مناظرے کا وقت پونے تین گھنٹے پورا کیا جائے گا۔
- ..... ۶ استناد قرآن مجید و احادیث صحیح اور اجماع امت سے ہوگا۔ تحریرات حضرت مرزا قادیانی جماعت احمدیہ پر جھٹ ہوں گی۔
- ..... ۷ دلیل خاص کے مقابلہ میں دلیل خاص پیش کرنی ہوگی اور اس کے بعد اس کی تائید میں دلیل عام بھی پیش کی جائے گی۔
- ..... ۸ فریقین کے مناظر نہایت تہذیب، متانت، شائستگی اور شرافت سے گفتگو کریں گے۔
- ..... ۹ کوئی مناظر دوسرے مناظر کی تقریر کے دوران میں نہ بولے گا۔ ہاں حوالہ مانگ سکتا ہے۔ لیکن دوسرے مناظر کی پیش کردہ باتوں کا جواب وہ اپنے وقت میں ہی میں دے سکتے گا۔ مناظر اور پر یہ زینٹ کے سوا کسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی۔
- ..... ۱۰ حفظ امن وغیرہ کے متعلق جو شرائط ہیں ان کا تصفیہ مقامی ذمہ دار نمائندگان کل صبح کریں گے۔

..... ۱۱ ..... مدعی اپنی آخری تقریر میں کوئی بات ثقیل نہ پیش کر سکے گا۔  
 ..... ۱۲ ..... فریقین کی طرف سے ایک ایک پر یہ نیٹ ہو گا۔ جن کا کام فریقین سے  
 صرف شرائط کی پابندی کرانا ہو گا۔

احقر ملک عبد الرحمن خادم بی اے گجراتی ..... نمائندہ جماعت احمدیہ سلانوالی!  
 محمد سلیم عفی عنہ (مولوی فاضل) ..... نمائندہ جماعت احمدیہ ۱۹۳۲ ربیعہ .....  
 ظہور احمد گوئی کان اللہ لہ، ابوسعید محمد شفیع عفی عنہ  
 نمائندگان جماعت اسلامیہ حنفیہ (سلانوالی)

### کیفیت مناظرہ

مورخ ۱۸، ۱۹، ۲۰ ربیعہ ہر روز مرزا یوں کے ساتھ فیصلہ کن مناظرہ ہوا۔ حق و باطل میں  
 انتیاز پیدا ہو کر رہا۔ آفتاب صداقت کے طلوع سے کذب و افتراء کی تاریکیاں دور ہو کر رہیں۔  
 حیات مسیح علیہ السلام پر مولانا ابوالقاسم محمد حسین صاحب کے دلائل کا کوئی معقول جواب مرزا کی  
 مناظر محمد سلیم نہ دے سکا۔ اجراء نبوت پر ملک عبد الرحمن خادم مدعی تھا۔ اسلامی مناظر مولانا ابوسعید  
 محمد شفیع صاحب نے اس کے دلائل کے پر خپے اڑا دیئے۔ مورخ ۱۹ ربیعہ بعد دو پھر ختم نبوت پر  
 مولانا ابوالقاسم صاحب کے ساتھ محمد سلیم کا مناظرہ ہوا۔ مرزا کی مناظر نے خلط بحث اور خلاف  
 ورزی شرائط سے کام لینا چاہا۔ مرزا کی صدر ملک عبد الرحمن خادم فخش کلامی پر اتر آیا۔ اس نے معزز  
 حاضرین کو غیظ اور گندی گالیاں دیں۔ ملک عباس خان ہیڈ کاشیبل پولیس نے مداخلت کر کے  
 اہن قائم کر دیا۔ ورنہ لوگوں کا مشتعل ہو جانا یقینی تھا۔ ہیڈ کاشیبل صاحب نے ملک عبد الرحمن کو  
 شرافت اور انسانیت کا واسطہ دیا اور اسے بذریعی سے باز رہنے کا مشورہ دیا۔ مورخ ۲۰ ربیعہ کو صبح  
 ۹ بجے دعاوی مرزا پر مولانا ابوالقاسم کے ساتھ ملک عبد الرحمن کا مناظرہ ہوا۔ اس میں مرزا کی مناظر  
 کو شرمناک ہزیست کا سامنا کرنا پڑا۔ مرزا کی مولوی فاضلوں کی علیمت بے نقاب ہو گئی۔ مولانا  
 ابوالقاسم صاحب نے مرزا غلام احمد قادری کی کتاب سے انا مہلکو ابعلاها پڑھا۔ محمد سلیم وغیرہ  
 نے شور چایا کہ لام کو مکسور پڑھنا جائز نہیں۔ اس پر ان کو چیخ دیا گیا کہ اس جگہ ابعلاها جائز ثابت  
 کر دیں۔ مرزا کی یہ سن کر بہوت ہو گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ خادم مرزا کی قرآن مجید کی  
 آیات چیخ نہ پڑھ سکا۔ اس مناظرہ نے مرزا یوں کارہا ہے اور قارخاک میں ملا دیا۔ فریقین کے دلائل  
 اس کتاب میں دوسرا جگہ ہیں۔ قارئین وہاں مرزا یوں کے دلائل کا بودا پن معلوم فرمائیں۔  
 الحمد لله کفواح سلانوالی میں مرزا یتک کا خاتمه ہو گیا اور ان کی ترقی کی رفتار کر گئی۔

## چھٹا معرکہ! سرگودھا

سلانوالی میں مجاہدین اسلام نے مرزا بیویوں کی نقل و حرکت کی نگرانی ثابتیت سعی و اہتمام سے تھی۔ مورخہ ۲۱ ستمبر ۱۹۳۲ء کی صبح کو مرزا تی مبلغین ریلوے اسٹیشن پر پہنچے اور سرگودھا کا نکٹ خرید کر رین پر سوار ہو گئے۔ مجاہدین اسلام بھی اسی ریلن پر سرگودھا کے نکٹ خرید کر روانہ ہوئے راستے میں ہر اسٹیشن پر مرزا بیویوں کی نگرانی کی گئی۔ سرگودھا کے ریلوے اسٹیشن پر مرزا بیویوں نے اپنا سامان اتنا۔ مجاہدین اسلام بھی پلیٹ فارم پر گازی تی رہا، گلی کا انتظار کرتے ہے۔ گازی کے ول دینے پر مجاہدین اسلام بھی پلیٹ فارم سے باہر چلے گئے۔ گازی آبستہ ہستہ چلنے لگی۔ مرزا تی مولوی میدان خالی دیکھ کر دوڑ کے گازی کے پاندوں پر کھڑے ہو گئے۔ ان کا سامان ریلوے پلیٹ فارم سرگودھا پر پڑا رہا۔ مجاہدین اسلام نے بحمد حضرت ولیاں اس منظر کو دیکھا اور کف افسوس ملتے ہوئے شہر سرگودھا کی جامع مسجد میں ڈیرہ لگادیا۔

سرگودھا سے مرزا تی چک نمبر ۹ شاہی تحصیل پھلوال میں گئے اور وہاں مرزا بیت کی علی الاعلان تبلیغ کی۔ عبدالرحمن خادم قادریان چلا گیا اور بقایا قافلہ مورخہ ۲۳ ستمبر ۱۹۳۲ء کو واپس سرگودھا میں وارد ہوا۔ سرگودھا میں ان کے جلسہ کا اعلان بذریعہ اشتیارات ہو چکا تھا۔ اس لئے ان کی واپسی ضروری تھی۔ ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵ تاریخوں میں روزانہ گول پوک میں مسلمانوں کے شاندار جلسے منعقد ہوتے رہے۔ مرزا تی مبلغین کو کھلے میدان میں جلسہ منعقد کرنے کا حوصلہ ہوا۔ ان کے جلسوں میں حاضرین کی تعداد ۲۰، ۲۵، ۲۵ سے زیادہ نہ ہو سکی۔ جماعت اسلامیہ سرگودھا نے انہیں مناظرہ کا چیلنج دیا۔ مگر مرزا بیویوں نے تقریری مناظرہ سے صاف انکار کر دیا۔

انہوں نے نقشِ امن کا اندازہ بھی ظاہر کیا۔ اہل اسلام کی طرف سے حافظ محمد سعید صاحب مستند درس طبیہ دہلی نے پانچ بزار روپیہ کی نقد صفات پیش کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ مگر مرزا بیویوں نے فراری میں اپنی بہتری بھی۔ مرزا تی جانتے تھے کہ سرگودھا کی تعلیم یافتہ پیلک میں مناظرہ کے بعد ان کا تمام اثر و اقتدار زائل ہو جائے گا۔ اس لئے انہیں مناظرہ کرنے کا حوصلہ ہوا۔ علمائے اسلام کی تقریروں نے مسلمانان سرگودھا میں بیداری کی حریت انگیز روح پھونک دی اور سیکڑوں بد مدد براہ راست پڑا گئے۔ الحمد لله علی ذلك!

مورخہ ۲۵ ستمبر کو صبح ۹ بجے سے بارہ بجے تک کمپنی بائیس سرگودھا میں شاندار جشن فتحِ مذیا گیا۔ جس میں شرقا، و معززین کی کشیر تعداد موجود تھی۔ موالانا ابوالقاسم محمد حسین صاحب کی حیات مسح علیہ السلام کے اثبات میں معرکہ الاء تقریر ہوئی۔ خاکسار نے تمام خط و کتابت کا خلاصہ سنایا

کر لوگوں سے فیصلہ طلب کیا۔ تمام حاضرین نے مرا زئیوں کے واسطے فرار اور ان کے مفسد و دجال بونے کا اقرار کیا۔ مرا زئیت مردہ بااد، اسلام زندہ بااد اور اللہ اکبر کے غلغله انداز نعروں کے درمیان جلسہ برخواست ہوا۔

### خط و کتابت کا خلاصہ

**سیکرٹری جماعت مرا زئی کے نام پر اخط!**

بخدمت جنات سیدہ کی صاحب الجمیں الحمد للہ سرگودھا!

السلام علی من اتباع الہدی الجناح کی جماعت کے مبلغین کل سے شہر سرگودھا میں اپنے عقائد کی اشاعت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کی جماعت کے متاز رکن حافظ عبدالعلی صاحب نے مسلمانوں کو اپنے موافق مبلغین کا چیلنج یا تھا۔ آن صبح کے جلسہ میں بھی آپ نے مناظرہ پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ اس لئے قسمی ہے کہ کل صبح بتاریخ ۲۵ ستمبر ۱۹۳۲ء روز اتوار ۸ بجے اپنے مبلغین کو مناظرہ کرنے پر آمادہ کر کے اطلاع دیں۔ مناظرہ کمپنی باغ میں ہونا مناسب ہوگا۔ شرائط جو بھیرہ یا خوشاب میں ٹے ہوئی تھیں ان پر ہی مناظرہ کر لیا جائے۔ تاک تصفیہ شرائط میں وقت ضائع نہ ہو۔ اگر آپ نے دوبارہ تصفیہ شرائط پر زور دیا یا کسی قسم کے حلیے تباش کئے تو مناظرہ سے صریح فرار سمجھا جائے گا۔

مناسب یہ تھا کہ بحالات موجودہ آپ کی جماعت اپنی تفرقہ انداز پالیسی سے بحقیقی۔ لیکن آپ کی جماعتی تبلیغ کا مذکور جواب دینے پر اہل اسلام مجبور ہو چکے ہیں۔ حکیم محمد مظہر اسیکرٹری جماعت اسلامیہ سرگودھا ۲۳ ستمبر ۱۹۳۲ء

### مرا زئیوں کا جواب

**بخدمت جنات سیکرٹری صاحب جماعت اسلامیہ سرگودھا!**

السلام علی من اتباع الہدی! آپ کی چھٹی بتاریخ آن مورخ ۲۴ ستمبر ۱۹۳۲ء کو بوقت ساعت چار بجے شام کے بعد ہمارے آن کے جلسہ کا وقت تھا۔ موصول ہوئی۔ جواباً عرض ہے کہ حنفی عبد الرحمن صاحب کے بیان کے متعلق ہمیں کوئی علم نہیں اور نہ ہی آن تک کسی تقریر میں منظرہ دےئے ہماری طرف سے کوئی چیلنج دیا گیا ہے اور آپ کی یہ چھٹی بھی ہمیں ایسے تھک وقت میں پہنچی ہے کہ جس کے بعد ہمارے جلے کا صرف ایک ہی دن بھوج پروگرام کے باقی رو چاتا ہے۔ جس کا نتیجہ ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ آپ ایسے تھک وقت میں اس قسم کی چھٹی سیچ کر شرائط وغیرہ کی الجھنہوں میں باقی ماندہ وقت صرف کرنے سے مناظرہ سے بچنے کی پیش بندی کر

رہے ہیں۔ لیکن باوجو اس کے ہم آپ کے چیلنج مناظرہ کو سشرط پر منظور کرتے ہیں کہ مناظرہ تحریری ہو۔ جو بعد میں اسی ترتیب سے پبلک کو سنایا جائے۔ سب سے پہلی اور بنیادی شرط اس مناظرہ کی یہ ہوگی کہ مناظرہ تحریری ہو۔ محمد عبد اللہ سیکرٹری انجمن احمدیہ۔۔۔۔۔ سر گودھا!

### دوسرا خط

خدمت جناب سیکرٹری جماعت احمدیہ سر گودھا!

السلام علی من اتبع الهدی! آپ کی چھٹی ہماری تحریر کے جواب میں ۲۳ ستمبر رات کے ۹ بجے موصول ہوئی۔ جناب نے شاید ہماری تحریر کا بغور مطالعہ نہیں کیا۔ شرائط وغیرہ کی الجھنوں سے بچنے کے لئے بھیرہ یا خوشاب میں طے شدہ شرائط پر ہی مناظرہ کرنے پر ہم نے آمادگی ظاہر کی تھی۔ آپ کے مبلغین اور ہمارے علماء کرام وہی ہیں جو بھیرہ میں تھے۔ اس لئے شرائط کے متعلق جو تفصیل ان کا باہمی بھیرہ میں ہوا تھا وہی کافی ہے۔ آپ اپنی چھٹی کے آخر میں شرائط کا تفصیل کرنے کی دعوت دے کر خود نئی الجھنیں پیدا کر رہے ہیں۔ اس طرح مناظرہ سے پہلو تھی کہ ناقابل ہے۔ اگر آپ مناظرہ پر آمادہ ہوں تو آج مقام کپنی باعث ساز ہے آٹھ بجے صبح بھیرہ یا خوشاب والی شرائط پر مناظرہ کرنے کے لئے اپنے علماء کو لا کیں۔ وقت اور مقام کے متعلق اگر کوئی بات بحث طلب ہو تو حامل رقعہ پڑا سید ولایت شاہ صاحب ہماری طرف سے منتار اور رجائز ہیں۔ اگر آپ ایسا نہ کریں تو آپ کی مرضی۔

وما علينا الا البلاغ!

ولایت شاہ لفظم خود۔۔۔۔۔ ۲۵ ستمبر ۱۹۳۲ء

برائے سیکرٹری جماعت اسلامیہ سر گودھا!

خدمت جناب سیکرٹری صاحب جماعت اسلامیہ سر گودھا!

السلام علی من اتبع الهدی! میری شب گذشتہ کے ساز ہے آٹھ بجے تکھی ہوئی چھٹی کا جواب آج صبح ساز ہے آٹھ بجے موصول ہوا۔ جبکہ ہمارے جلسہ کا وقت تھا۔ آپ نے اس میں میرے متعلق شکایت کی ہے کہ میں نے آپ کی تحریر کا بغور مطالعہ نہیں کیا۔ لیکن مجھے تعجب ہے کہ آپ نے میرے خط کو سری نظر سے بھی نہیں دیکھا۔ کیونکہ میں نے اپنی چھٹی میں پہلی اور بنیادی شرط یہ رکھی کہ مناظرہ تحریری ہو۔ جو بعد میں بصورت تقریر پبلک کو سنایا جائے۔ لیکن آپ نے اس ضروری امر کا اپنی چھٹی میں ذکر نہیں کیا اور بغیر اس ضروری امر کو منظور کرنے کے وقت اور مقام کا فیصلہ کرنے تک آپنچھے۔ اگر آپ نے پہلے میرے خط کی طرف توجہ کی نہیں تو میں اب آپ کو کھول کر لکھ دیتا ہوں کہ ہمیں آپ کا چیلنج مناظرہ منظور ہے۔ بلکہ ہم دوہر امناظرہ منظور

کر رہے ہیں۔ ایسی الات میں خواہ مخواہ آپ ہمارے ذمہ غدر کرنا پنے لئے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اگر اس مناظرہ میں آپ کو کوئی شکل یا تکالیف نظر آتی ہے تو ہمارے لئے بھی وہ مشکل مساوی صورت میں موجود ہے۔ باقی شرائط کے متعلق میں اس قدر عرض کر دیتا ہوں کہ آگر آپ کو تحریری و تقریری مناظرہ منظور ہے تو باقی شرائط سلانوں کے مناظرہ والے ہمیں منظور ہیں۔ جو کہ بھیرہ اور خوشاب کے بعد ہوا ہے۔ مناظرین بھی وہی ہیں۔ اس واسطے سلانوں کے مناظرہ والی شرائط کی منظوری میں آپ کو کوئی غدر یا حیلہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

خاکسار! محمد عبد اللہ سیکرٹری الجمن احمدیہ!

سر گودھا بتارن خ ۲۵ ستمبر ۱۹۳۲ء بوقت ساڑھے نوبجے دن

مرزا نیوں کی یہ چھٹی جلسہ عام میں پڑھ کر سنائی گئی۔ مسلمانان سر گودھا نے تحریری مناظرہ اور اس میں وقت کے ضائع ہونے اور مناظرہ کے طوالت کپڑنے کا اندیشہ ظاہر کیا۔ اس لئے مرزا نیوں کو حسب ذیل تحریر پہنچی گئی۔

تیراخٹ

خدمت جناب سیکرٹری صاحب الجمن احمدیہ سر گودھا!

السلام على من اتبع الهدى! شکر ہے کہ جناب نے مناظرہ پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اب دیر نہ فرمائیں فوراً اپنے علماء کو لے کر کمپنی باع پہنچ جائیں۔ ہم بالکل تیار ہیں۔ باقی سلانوں کے شرائط میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا بحث کا دروازہ کھول دے گا۔ ہمیں سلانوں والی تمام شرطیں منظور ہیں۔ کسی قسم کا غدر نہیں۔ آپ بھی تحریری کی نئی قید نہ بڑھائیں۔ اگرچہ وہ شرائط ہمارے لئے نامنصفانہ تھیں۔ مگر ہمیں منظور ہیں۔ ۱۹۳۲ء ستمبر ۲۵

ولادت شاہ بقلوم خود برائے سیکرٹری!

جماعت اسلامیہ..... سر گودھا

مرزا نیوں کا جواب

خدمت جناب سیکرٹری صاحب جماعت اسلامیہ سر گودھا!

السلام على من اتبع الهدى! آپ کی چھٹی موصول ہوئی۔ ہم نے تو اپنے پہلے ہی خط میں آپ کے پہنچ مناظرہ کو منظور کر لیا تھا۔ مگر اس شرط پر کہ مناظرہ تحریری ہو۔ جو بعد میں اسی ترتیب سے پیلک کو نہادیا جائے۔ مساوئے اس کے ہم نے اپنی طرف سے کوئی الجمن مزید شرائط کے متعلق نہیں ڈالی۔ بلکہ وقت کی تسلی اور جلدی تصفیہ کرنے کی خاطر سلانوں والے طے شدہ شرائط

کوہی منظور کر لیا تھا۔ لیکن آپ نے اب تک ہماری بندی و مزوری شرط کو منظور نہیں کیا۔ حالانکہ یہ شرط جانبین کے واسطے یکساں واجب عمل تھی اور اس کے وجوہات بھی عرض کئے جا سکتے ہیں۔ لیکن آپ نہ تو اس کو منظور ہی کر رہے ہیں اور نہ ہی انکار کی وجہ پیش کر سکتے ہیں۔ گویا لفظی آمادگی تک ہی آپ کا جواب محدود ہے۔ لیکن عملی قدم مناظرہ کی آمادگی کا نہ آٹھایا۔ مختصر یہ کہ اگر آپ بواپسی تحریری مناظرہ کی منظوری کا دوسری جواب لکھ بھیجیں تو پھر یہ معاملہ قریباً طے شدہ سمجھا جا سکتا ہے۔ ورنہ دوسرے معنوں میں آپ کا فرار سمجھا جائے گا۔

خاکسار عبداللہ سیکرٹری انجمن احمد یہ!

سرگودھا ۲۵ ستمبر ۱۹۳۲ء

### چوتھا خط

خدمت جناب سیکرٹری صاحب احمد یہ انجمن سرگودھا!

السلام علی من اتبع الهدی! افسوس آپ فضول خط و کتابت میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اب دوسری جواب دیں کہ آپ تقریری مناظرہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ سرگودھا کی پلک فضول چھا بازی یعنی تحریری مناظرہ کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر آپ نے جواب نہ دیا تو آپ کا صریح دین بن فرار سمجھا جائے گا۔ ۱۹۳۲ء ۲۵ ستمبر

والایت شاہ قلم خود برائے سیکرٹری جماعت اسلامیہ سرگودھا!

### پانچواں خط

خدمت جناب سیکرٹری انجمن احمد یہ سرگودھا!

السلام علی من اتبع الهدی! ۱۹۳۱ء اپریل میں مولوی محمد اسماعیل صاحب پروفیسر جامعہ احمدیہ قادیانی نے میرے ساتھ تحریری مناظرہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اخبار فاروق قادیانی کے مدیر کو رسالہ مدرسہ الاسلام بھیرہ میں مطبوعہ مضامین کے جواب لکھنے پر آمادہ کرنے کا ذمہ لیا تھا۔ چنانچہ آٹھ ماہ رسالہ مولوی صاحب مذکور کے نام جاری بھی رہا۔ مگر نتیجہ کچھ نہ لکھا۔ بعد ازاں لمیانی کے ایک مرزاںی پنواری نے بھی اخبار فاروق کے مدیر کو اس پر آمادہ کرنے کا ذمہ لیا۔ چنانچہ دیگر میرے ساتھ تحریری مناظرہ پر اصرار کر رہے ہیں۔ پہلے اپنے مولویوں سے مشورہ کر تجب ہے کہ اب آپ پھر تحریری مناظرہ پر اصرار کر رہے ہیں۔

لیں۔ جو صورت میں نے عرض کی ہے وہ فیصلہ کن ہے۔ اس وقت صرف تقریری مناظرہ ہو جائے۔ سرگودھا کی پبلک حق و باطل کا فیصلہ کر لے گی۔ بعد ازاں آپ اخبار فاروق یا الفضل کے مدیر کو تحریری مناظرہ پر آمادہ کر کے اطلاع دیں۔ آپ کے مضامین رسالہ نبی ﷺ میں بلا معاوضہ شائع ہوا کریں گے۔ بشرطیکہ ان مضامین کے جوابات آپ کی جماعت کا کوئی اخبار کمل شائع کرنے کا ذمہ لے۔ پر چون کی تعداد مقرر کر لیں اور اگر آپ چاہیں تو جلسہ کر کے پبلک میں وہ مضامین سنائے بھی جاسکتے ہیں۔ اس طریقہ سے کثیر التعداد قارئین فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ اس سے بہتر اور کوئی طریقہ تحقیق حق کا نہیں ہو سکتا۔ مگر افسوس ہے کہ آپ نہ تحریری مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ نہ تقریری۔

وما علینا الا البلاغ!

ظہور احمد بھوی ..... مدیر نبی ﷺ اسلام ۲۵ ستمبر ۱۹۳۲ء

### آخری اتمام ججت

خدمت جناب سیکرٹری صاحب جماعت احمدیہ سرگودھا!

السلام علی من اتباع الہدی! آپ کا رقعہ پانچ بجے شام ملا۔ میں نے صرف دو حرفی جواب طلب کیا تھا۔ آپ نے خوش نہما الفاظ کی آڑ لے کر راہ فرار اختیار کیا ہے۔ ہمیں پہلے بھی یقین تھا کہ آپ اپنے علماء کو میدان مناظرہ میں نہ لاسکیں گے۔ حق کے سامنے نہیں کھڑے ہونے کی جرأت نہیں رہی۔ کیا بھیرہ، خوشاب، سلانوالی میں شاندار نگست حاصل کر کے تحریر کا رہو چکے ہیں۔ کیا بھیرہ وغیرہ میں نہیں ہوش نہ تھا۔ ہمیں صرف سرگودھا کی پبلک کی تسلی درکار ہے۔ جس کے لئے تحریری مناظرہ میں تضییع اوقات ہمیں گوار نہیں۔ کتب و رسائل مطبوعہ موجود ہیں۔ ہر شخص مطالعہ کر سکتا ہے۔ اگر تحریری مناظرہ کا طبع کرانا مقصود ہو تو مناظرہ ہر یا کافی ہے۔ افسوس کیا یہی صداقت تھی جس کا پرچار کرنے کے لئے آپ نے اپنے مبلغین کو بلا یا ہے۔ آپ کا فرض تھا کہ میدان میں آ کر اپنی صداقت ثابت کرتے۔ مگر اب آپ کی نگست اور فرار اور مغلوبیت دنیا پر آشکار ہو چکی ہے۔ اب آپ کا آئندہ مسلمانوں کو خطاب کرنے کا کوئی حق نہ ہو گا اور اب آپ کی کسی لغوت تحریر کا جواب نہ دیا جائے گا۔

ولایت شاہ لقلم خود ابرائے سیکرٹری جماعت اسلامیہ سرگودھا

ساتواں معزکہ! چک نمبر ۳ جنو بے

ہماری آخری تحریر کا جواب دے بغیر مرزاںی مبلغین مورخ ۲۵ ستمبر کی شام کو سرگودھا

سے بذریعہ موڑ لاری روانہ ہو گئے۔ مجاہدین اسلام کا قائد بھی ان کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ مرازا یوں نے چک نمبر ۳۶ جنوبی میں جا کر قیام کیا اور وہاں اپنے تبلیغی جلسہ کا اعلان کر دیا۔ ۲۶ ستمبر کو مجاہدین اسلام کے ورود سے مسلمانان چک کے حصے بڑھ گئے اور مرازا یوں کوخت پر یثانی لاحق ہوئی۔ باشندگان وہ نے مجاہدین اسلام سے مشورہ کئے بغیر مرازا یوں کی نامضفانہ شرائط منظور کر کے مناظرہ کا فیصلہ کر لیا۔ مرازا یوں نے سادہ لوح مسلمانوں سے اپنے حسب مشاء شرطیں کر لیں۔ مولوی اال حسین صاحب اختر سابق مبلغ جماعت مرازا یتھے لا ہو را اور مولوی احمد دین صاحب گھر دوی بھی مسلمانان علاقہ کی درخواست پر پہنچ گئے اور اسلامی کمپ میں تازہ لکب سے مرازا یوں کے رہے ہے جو حصے بھی جاتے رہے۔ مگر دیہات کی سادہ لوح آبادی اور حاضرین تعلیم یافتہ کو اے مدد بودگی سے ان کی ڈھارس بندھی رہی۔ حیرت ہے کہ سرگودھا جیسے تعلیم یافتہ شہر میں ان کی بیں گونگی رہیں۔ مگر دیہات میں تقریری مناظرہ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ مرازا یتھے جانتے تھے کہ طبقہ جلاء میں ان کی ذلت و رسائی پوری طرح آشکارانہ ہو گی۔

**شرائط مناظرہ:** جو نمائندگان ہردو جماعت جن کے دستخط یعنی ثبت ہیں فیصل ہوئے۔ جن پر کار بند ہونا ہر ایک جماعت کا فرض ہوگا۔ جو جماعت اس فیصلہ پر کار بند ہو گی وہ لکھت خوردہ بھجی جائے گی۔ مضمایں مناظرہ حسب ذیل ہوں گے۔

۱.....	حیات و ذات مسح ناصری	مدی جماعت حفیہ
۲.....	اجرانے نبوت بعد ازاں حضرت ﷺ	مدی جماعت احمدیہ
۳.....	ختمن نبوت	مدی جماعت حفیہ
۴.....	صداقت مسح موعود	مدی جماعت احمدیہ

ہر ایک مدی کی پہلی و آخری تقریر بوجب پروگرام ہو گی۔ ہر ایک جماعت کی طرف سے ایک ایک اپنا پر یزیدیہ نٹ ہوگا۔ جو انتظام جلسہ کا ذمہ دار ہو گا کہ اختتام جلسہ تک کسی قسم کی کوئی تالی، تفسیر، یانزہ، یا جلوس وغیرہ کسی قسم کی کوئی کارروائی ناجائز نہیں کی جائے گی اور اہل جلسہ خاموشی سے تا اختتام جلسہ، جلسہ گاہ میں بیٹھے رہیں گے اور جلسہ ختم ہونے کے بعد جلسہ گاہ سے خاموشی کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو جلسہ گاہ سے فوراً نکلا جائے گا۔ صداقت مسح موعود کے مناظرہ کے وقت علاوہ اپنے پر یزیدیہ نٹ کے چوبدری منظور حسن و چوبدری خوشی محمد چک نمبر ۳۶ جنوبی کو اس بات کا اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی فریق دوسرے کے مسلکہ پیشوا اور

بزرگ کے حق میں کوئی ناوجہب و توہین آمیز کلمات کہتے توہر دو اشخاص کو اختیار ہو گا کہ اس کی تقریر کوفور اروک دے۔ ہر ایک فریق احادیث صحیح آنحضرت ﷺ والوقال بزرگان سلف مسلمہ فریقین و کتب مرزا قادیانی سے اپنے اپنے دعویٰ و جواب دعویٰ کے ثبوت میں پیش کر سکتے ہیں۔ اگر فریق مخالف حوالہ کتب طلب کرے تو کر سکتا ہے۔ پروگرام حسب ذیل ہو گا۔

مورخہ ۲۷ ستمبر ۱۹۳۲ء حیات و ممات مسیح ناصری ازھائی بجے دوپہر سے شروع ہو کر سماز ہے پانچ بجے شام تک تین گھنٹے۔

مورخہ ۲۷ ستمبر ۱۹۳۲ء اجرائے نبوت بعد از آنحضرت ﷺ آٹھ بجے شام سے گیارہ بجے رات تک تین گھنٹے۔

۲۸ ستمبر ۱۹۳۲ء ختم نبوت آٹھ بجے صبح سے ۱۱ بجے دن تک تین گھنٹے

۲۸ ستمبر ۱۹۳۲ء صداقت مسیح موعود ۲۱ بجے دوپہر سے ۵ بجے شام تک تین گھنٹے۔

دستخط نمائندہ جماعت احمدیہ ..... شاہ محمد چک نمبر ۳۳

دستخط نمائندہ جماعت حفیہ ..... ولید اقبالم خود

تشمیبیہ! ان شرائط میں چار صدر تجویز کئے گئے تھے اور سادہ لوح حفیوں نے صداقت مسیح موعود جیسے الفاظ پر دستخط کر دیئے۔ ہمارے نزدیک حضرت مسیح ابن مریم ناصری علیہ السلام کے سوا اور کوئی مسیح موعود نہیں ہے۔ مسیح موعود کوئی شرعی اصطلاح نہیں۔ استدلالی میں اقوال بزرگان سلف مسلمہ فریقین تسلیم کرنا مسلمانان کی خطرناک شدید غلطی ہے۔ مرزا یوں کو اسی میں فرار کا موقع ملتا ہے۔ عقائد کے بارہ سوائے قرآن و حدیث اور کسی کا قول ہم پر جنت نہیں ہو سکتا۔ غیر معترض اقوال غیر معترض اشخاص کی تصانیف مرزا کی نقل کر کے بحث کو طوالت دینے کے عادی ہیں اور سامعین کو خلط اولہ سے دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لئے مناظرین اسلام کا فرض ہے کہ مرزا یوں کی چالبازی اور دھوکہ دہی سے بچپیں۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ کسی جگہ بھی اسلامی مناظرین کے مشورہ کے بغیر شرائط نہ کیا کریں۔

کیفیت مناظرہ

مورخہ ۲۷ ستمبر ۱۹۳۲ء بعد نماز ظہر ۳ بجے حیات مسیح علیہ السلام پر مولانا ابوالقاسم ساحب کامولوی محمد سلیم قادیانی سے مناظرہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت سے حدیث معراج (مسند امام احمد بن حنبل ص ۳۷۵) کے حوالے سے پیش کی گئی۔ اس حدیث کا کوئی جواب نہ دے

سکنے پر محمد سلیم نے کہا کہ یہ روایت عبد اللہ بن مسعودؓ سے، مردی ہے۔ اس لئے غیر معتبر ہے۔ عبد اللہ بن مسعود غیر معتبر اور جھوٹا اور مفتر کی تھا۔ (نعمود بالله من هذه الھفوات) مسلمانوں کے تمام مجع میں غیظ و غضب کی لہر دوڑ گئی۔ رسول اکرم ﷺ کے جلیل القدر صحابی کی شان میں یہ گستاخی مسلمانوں کے لئے ناقابل برداشت تھی۔ مگر افسوس کہ شرانط کے مطابق مرزاںی صدر نے اپنے مناظر کو اس دریہ وہی سے نہ روکا۔ مسلمانوں کے قلوب مجرور ہو گئے۔ آج تک کسی شیخ کو بھی ایسی تجز ابازی کی جمع عام میں ہمت نہیں ہوئی۔ اہل سنت والجماعت کے فیصلے کے مطابق صحابہ تمام جرح وغیرہ سے پاک و بری اور راوی ہونے کے لحاظ سے ثقہ اور عادل ہیں۔ صحابہ پر جرح وغیرہ کر کے دراصل مرزاںیوں نے تمام احادیث کا انکار کر دیا۔

مورخ ۲۸ ستمبر ۱۹۳۲ء ص ۹ بجے سے بارہ بجے تک مولوی احمد دین صاحب گھر دوی کے ساتھ مولوی محمد نذیر ملتانی کا ۲۴ جراء نبوت پر مناظرہ ہوا۔ مولوی احمد دین صاحب کے ظرافت آمیز بیان سے لوگ بہت محظوظ ہوئے۔ مولوی صاحب نے مرزاںیوں کے دلائل کا نہایت عمدگی سے روکیا۔ جس کا اثر یہ ہوا کہ مرزاںیوں نے دوسرے وقت میں ختم نبوت پر مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا۔

بعد دو پہر ۳ بجے مولانا لال حسین اختر صاحب کا محمد سلیم قادری کے ساتھ دعاوی مرزا پر زبردست مناظرہ ہوا۔ قادری مناظرہ مولانا اختر صاحب کے ۱۳۶ اعتراضات کا آخر وقت تک کوئی جواب نہ دے سکا۔

مرزاںیوں کی اس شاندار ہریت کا تمام علاقہ پر نہایت اچھا اثر ہوا۔ کئی بد مذہب رائے ہو گئے۔ بعد نماز عصر مسجد میں جشن فتح منایا گیا۔

خاکسار اور مولوی لال حسین اختر صاحب کی مرزاںیت شکن تقریروں میں۔ رات کو بھی مولوی عبدالرحمٰن صاحب میانوی کا وعظ ہوا۔ ان تقریروں نے مرزاںیت کے زہر لیے جراائم کے لئے ترقیت کا کام کیا۔

۱۔ صحابہ کرام میں چار حضرات ایسے ہیں۔ جنہیں غبادلہ اربعہ کہا جاتا ہے۔ ان چاروں کی جلالت شان دنیا پر آفتاب کی طرح روشن ہے۔ ان کی وجہ سے دنیا میں حدیث، فسیر اور فقہ کے علوم پھیلے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس، عبد اللہ بن مسعود، عبد اللہ بن عمر، عبد اللہ بن زید رضوان اللہ علیہم۔ ان کا وجود اسلام کے لئے باعث فخر ہے۔ عبد اللہ بن مسعود آنحضرت ﷺ کے خاص خدام میں سے تھے۔ نقشبندی کا دارود ارتقاء تر آپ کی روایات پر ہے۔

رات کے وقت شیخ محمد دین صاحب رئیس سرگودھا نے مرزا نیوں کے پاس جا کر انہیں سرگودھا کی دعوت دی۔ شیخ صاحب نے کہا کہ سرگودھا میں ایک ایسے مناظرہ کی اشید ضرورت ہے تاکہ وہاں کے لوگ حق و باطل میں امتیاز کر سکیں۔ شیخ صاحب نے مبلغ ایک سورہ پیہے قادیانی مناظرین کو بطور سفر خرچ دینا قبول کر لیا۔ مگر مرزا نیوں نے سرگودھا میں مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا اور اسلامی مناظرین کو قادیان میں مناظرہ کرنے کی دعوت دی۔ خاکسار نے یہ دعوت ان کی قبول کر لی اور شرکت و تاریخ کا فیصلہ کرنا چاہا۔ مگر محمد سلیم نے آئیں بائیں شائیں میں ٹال دیا اور کہا کہ اپنے خلیفہ کی منظوری کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔

### آٹھواں معمر کر! مذہر راجحہ

مرزا نیوں کی طرف سے مورخہ ۲۹ ستمبر ۱۹۳۲ء کی تاریخوں میں بمقام چھپنی ریحان جلسہ کرنے کا اعلان مطبوعہ اشتہاروں کے ذریعہ ہو چکا تھا۔ مگر اسلامی مجاہدین کی ہیئت ان کے دلوں پر ایسی مستولی ہوئی کہ چھپنی کا پروگرام منسوخ کر کے واپس سرگودھا کی طرف پہنچ دیئے۔ مورخہ ۲۹ ستمبر کی صبح کو ان کی موڑ سرگودھا کی شرک پر جاتے ہوئے دیکھ کر مجاہدین اسلام حیران رہ گئے۔ بلا خرمجاہدین اسلام بھی موڑ میں سوار ہو کر ان کے تعاقب میں سرگودھا پہنچ۔ سرگودھا میں مرزا ای مبلغین غائب ہو گئے۔ محمد سلیم صاحب اسی روز قادیان پہنچے اور محمد نذیر، احمد خان، عبداللہ اعجاز وغیرہ دوسرا رے روز مذہر راجحہ کی طرف روانہ ہوئے۔

چھپنی ریحان کے مرزا نیوں کے اشتہار کی نقل درج ذیل ہے۔

### از چھپنی تاجہ ریحان

بحوالہ اشتہارات تبلیغی جلسہ واقعہ ۳۰ ستمبر و کیم اکتوبر ۱۹۳۲ء عرض ہے کہ چونکہ بعض امورات ایسے ہیں آگئے ہیں کہ اندر یہ فساد کا نظر آتا ہے اور ہماری برادری کے حالات ناپسندیدہ معلوم ہوئے ہیں۔ اس لئے کوئی جلسہ تبلیغی بمقام چھپنی تاجہ ریحان نہ ہو گا۔ جس صاحب کو مناظرہ کرنے یا اسنتے کا شوق ہو وہ چک نمبر ۲۳ جا سکتا ہے۔ یا تھاری یہ سننا ہوں تو مذہر راجحہ جہاں جلسہ ہو گا۔ کیم اور دوم اکتوبر ۱۹۳۲ء کو جا سکتے ہیں۔ ۲۳ ستمبر ۱۹۳۲ء!

خاکسار حسین خان ریحان لقلم نوود..... از چھپنی تاجہ ریحان!

### مرزا نیوں کی حرکت مذہبی

حزب الانصار کی پہنچے درپیغ فتوحات اور مرزا نیوں کی متواتر ہڑپیخوں سے مرزا نیوں کے گھروں میں سرگودھا سے قادیان تک صف ماتم بچھ گئی۔ دلائل سے غلبہ نہ پا کر مرزا ای اور چھپنے اور

لکھنیہ تھیا روں پر اتر آئے۔ مرزائیان سرگودھا نے پرنندٹ کے پاس جا کر شکایت کی۔ خلیفہ محمود نے اپنی وفاداری کا راگ گا کر اور جہاد حرام قرار دینے کی اجرت طلب کر کے گورنمنٹ سے مدد مانگی۔ ایک ماہ کے دورہ میں کسی جگہ مرزائیوں کا بال تک بیکانہ ہوا۔ مگر مذہر ان جھامیں نقش اُس کا اندیشہ ظاہر کر کے پرنندٹ پولیس کو ضروری کارروائی کرنے پر مجبور کیا۔ پرنندٹ پولیس نے سب اسکرپٹ پولیس متعینہ تھا نہ کو خاکسار کی گرفتاری کے لئے احکام بھیج دیئے۔ میاں خدا بخش صاحب رئیس و نبیر دار جلد مخدوم یہ خبر سن کر بذریعہ موثر سرگودھا پہنچے انہوں نے مجاهدین اسلام کو مذہر راجحا جانے سے روکا اور کہا کہ ہم اپنے علمائے کرام کی تھیں بروادشت نہیں کر سکتے۔ سب اسکرپٹ پولیس افران بالا کے احکام کی تعلیل کے لئے مجبور ہو گا۔ اس لئے مناسب بھی ہے کہ مذہر راجحا کا دورہ ملتوی کیا جائے۔

مجاہدین اسلام نے مجلس شوریٰ مرتب کی قرآن کریم سے تفاؤل کیا گیا تو یہ آیت نکل۔

”الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا و قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمۃ من الله وفضل لم يمسهم سوء واتبعوا رضوانَ الله والله ذو فضل عظيم . انما ذلكم الشيطن يخوف اولياء . فلا تخافوه وخافون ان كنتم مومنین (آل عمران: ۱۷۲ تا ۱۷۳)“

ھی یا یے لوگ ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ ان لوگوں نے تمہارے لئے سامان جمع کیا ہے۔ سوتھم کو ان سے اندیشہ کرنا چاہئے۔ تو اس نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم کو حق تعالیٰ کافی ہے اور وہی سب کام پر درکرنے کے لئے اچھا ہے۔ پس یہ لوگ خدا کے فضل سے نہ ہے ہوئے وامل ہے آئے کہ ان کو کوئی ناگواری درپیش نہیں آئی اور وہ لوگ رضاۓ حق کے تابع رہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ یہ شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ سوتھم ان سے مت ڈرتا اور مجھے ہی سے ڈرنا۔ اگر تم ایمان والے ہو۔

ان آیات کا ایک ایک لفظ مجاهدین اسلام کے لئے مسرت و شادمانی کا پیغام ثابت ہوا۔ ہمیں بندھ گئیں۔ عزم رائخ ہو گیا۔ مورخہ ۲۰ ستمبر ۱۹۴۲ء بعد نماز ظہر سرگودھا سے موڑ پر سوار ہو کر قریباً ۳۰ میل کا سفر کر کے عصر کے وقت مذہر راجحا میں مجاهدین اسلام کا ورود ہوا۔ مرزائیوں کے کمپ میں محلی پڑ گئی۔ لوگ خاکسار کی گرفتاری کے منتظر تھے۔ مسلمانوں کے چہروں پر خوف و ہراس نمایاں تھا۔

## تائید غیبی کاظہور

سب اپکڑ صاحب پولیس کے پاس جو حکم پہنچا تھا۔ اس میں یہ الفاظ لکھے تھے کہ ظہور احمد جو احمدی ہے۔ اس کو نہ راجحا پہنچتے ہی گرفتار کر لیا جائے۔ چونکہ موجودہ زمانے میں مرزاںی فرقہ احمدی کہلاتا ہے۔ اس لئے پولیس کو مرزاںیوں کے کیمپ میں ظہور احمدی کی تلاش رہی۔ کوئی ظہور احمد احمدی وہاں نہ پہنچا۔ اس لئے پولیس اس کی تلاش میں ناکام رہی۔ مرزاںی اپنی تجوادیز میں ناکام رہے اور خادم اسلام کی توہین کاظہور دیکھنے کی حرمت ان کے دل میں ہی رہی اور قرآن کریم کی پیش گوئی پوری ہو کر رہی۔

## مذہ میں مرزاںیت کا استیصال

مورخہ یکم اکتوبر کو بعد نماز ظہر کھلے میدان میں شامدار اسلامی جلسہ منعقد ہوا۔ مولوی عبدالرحمن صاحب میانوی۔ ابوالقاسم مولانا محمد حسین صاحب و مولانا محمد شفیع صاحب کی زبردست معزز کہ آراء تقریروں نے مرزاںیت کی نیخ کرنی کر دی۔ رات کو بھی جلسہ ہوا۔ مذہ کے ذمہ دار حضرات نے حفظ امن کا ذمہ لے کر مرزاںیوں کو مناظرہ کی دعوت دی۔ انہیں ہر طرح اطمینان دلایا گیا۔ ان کی پیش کردہ شرائط بھی تسلیم کر لی گئیں۔ مگر مرزاںیوں کو مناظرہ کا نام لینے کا بھی حوصلہ ہوا۔

مذہ چونکہ مرزاںیوں کا اس ضلع میں آخری مقام تھا۔ اس لئے وفد اسلامی کے اراکین نے بھی اپنے اپنے گھروں کو جاتا چاہا۔ مولانا ابوالقاسم صاحب مذہ راجحا سے ہی رخصت ہو گئے۔ مذہ راجحا سے واپسی پر ایک شب جلد مخدوم میں قیام ہوا۔ وہاں سے سرگودھا پہنچ کر مولانا شفیع صاحب خوشاب چلے گئے۔ خاکسار میں مولوی عبدالرحمن صاحب سرگودھا سے بھلوال پہنچا۔

## معزز کہ نہم! کوٹ مومن

بھلوال میں ناگیا کہ مرزاںی مبلغین کوٹ مومن میں پہنچنے والے ہیں۔ خاکسار بمحض مولوی عبدالرحمن صاحب میانوی تاگنگہ پر سوار ہو کر کوٹ مومن پہنچا۔ ہمارے جانے کے ایک گھنٹہ بعد مولوی محمد نذری وغیرہ مرزاںی مبلغین وہاں پہنچے۔ خاکسار کے ورود کا ذکر سن کر فوراً باہر نکل کر آڑے پر پہنچے۔ سب اسٹنٹ سرجن صاحب انجارج شفا خانہ کوٹ مومن و دیگر حضرات نے انہیں قیام کرنے اور تقریر کرنے کی دعوت دی۔ مگر مرزاںیوں نے وہاں قیام کرنا گوارانہ کیا۔ فوراً تاگنگہ پر سوار ہو کر بھلوال کی طرف جمل دیئے۔

مورخ ۱۷ اکتوبر ۱۹۳۲ء کوٹ مرن میں بعد نماز ظہر جامع شجد میں اسلامی جلسہ منعقد ہوا۔ خاکسار نے ختم نبوت، حیات مسیح علیہ السلام اور دنیاوی پر برسی تقریر کی۔ مولوی عبدالرحمن صاحب میانوی نے بھی وعظ فرمایا۔ مسلمانان کوٹ مورجن پر میرزا یوسف کی واضح فرار کی حقیقت ظاہر ہو گئی۔ الحمد لله علی ذلک!

### دسوال معمر کہ! چک نمبر ۹ شناختی

بھلوال سے مرزا ای مبلغین ریلوے ٹرین پر سوار ہو کر کسی نامعلوم مقام کی طرف چل دیئے۔ خاکسار بھی سوا مہینہ کی غیر حاضری کے بعد بھیرہ پہنچا۔ بھیرہ میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ چک نمبر ۹ شناختی میں مرزا یوسف ترقی پذیر ہے۔ سرگودھا میں مجاہدین اسلام کو دھوکہ دے کر مرزا ای مورخ ۲۲ ستمبر ۱۹۳۲ء، چک نمبر ۹ میں پہنچ چکے۔ ان کی تبلیغ سے چار اشخاص مرزا ای مذہب قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ یہ خبر سن کر خاکسار مورخ آٹھا اکتوبر کو بھیرہ سے روانہ ہو کر دہاں پہنچا۔ دور روز متواتر تقریروں ہوئی۔ مرزا یوسف کا ایک مبلغ دہاں رہتا ہے۔ اس نے یہاری کا بہانہ کر کے گھر سے باہر نکلا گوارانہ کیا۔ الحمد للہ کہ چاروں اشخاص نے مرزا یوسف سے توہی کی اور کئی بد نہیں بڑھ رہا راست پر آگئے اور مرزا یوسف کا اثر اس علاقہ سے جاتا رہا۔

### ضلوع شاہ پور میں مرزا یوسف کا استیصال

الحمد للہ کہ حزب الانصار کے عاجز و درماندہ کارکنوں کی مسائی جیلیہ باراً و ثابت ہوئیں اور ضلع بھر میں مرزا یوسف کے اس بنیظیر تعاقب نے مرزا یوسف کے حوصلے پست کر دیئے۔ حزب الانصار کے اس قابل فخر کارنامہ اور تاریخی حیثیت رکھنے والے اقدام پر تمام ملک میں سسرت کا اظہار کیا گیا۔ اخبارات نے اطلاعات کو نہایت فراخ دلی سے شائع کیا۔ سیکڑوں خطوط مبارک باد کے موصول ہوئے۔ حضرت استاذ العلماء مولانا غلام محمد صاحب گھوٹوی شیخ الجامعہ عباسیہ ریاست بہاولپور کا حسب ذیل توازش نامہ موصول ہوا۔

از بہاولپور... مہر منزل... محلہ گنج ۳۰ ستمبر ۱۹۳۲ء

ایں کاراز تومی آید مردان چنین کنند  
مخطولی جناب مولانا ظہور احمد صاحب دام مجددہم!

السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ!  
مزاج گرامی!

آپ کی مسائی جیلیہ جو طائفہ طاغیہ قادری کے برخلاف آپ نے مبذول فرمائی ہیں۔ اخباروں میں پڑھ کر نہایت خوشی ہوئی۔ بالخصوص جو تعاقب جناب نے اس جماعت کا کیا۔

اور کہیں بھی انہیں اٹھیتاں سے بیٹھنے نہ دیو۔ یہ کام اپنی نظری آپ ہے۔ اس قسم کی کوشش ہی اس جماعت کو نیچا دکھائیتی ہیں۔ الحمد للہ اس کامیابی پر میں جناب کو ولی مبارک با در عرض کرتا ہوں۔  
قبول فرمائے۔

والسلام!

غلام محمد گھولوی..... حال ساکن بہاولپور!

اس قسم کے خطوط علمائے کرام اور رؤسائے عظام کی طرف سے موصول ہوئے۔ ضلع شاہپور سے فارغ ہونے کے بعد حزب الانصار کے کارکنوں نے ضلع سے باہر فتنہ مرزا یت کے انسداد کے لئے کام کرنے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ میسیوں مقامات پر تبلیغ کی گئی اور کئی مناظرے بھی ہو چکے ہیں۔ بعد کی کارروائیوں کا خلاصہ بھی کتاب ہڈ ایں درج کیا جاتا ہے۔

### گیارہواں معمر کہلکتہ

بنگال میں مرزا یتوں کی تبلیغی سرگرمیاں کئی سال سے جاری ہیں۔ ان کی انجمن کا صدر دفتر بمقام کلکتہ پینگ اسٹریٹ میں واقع ہے۔ شہر کلکتہ میں عرصہ سے مرزا یت کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ البرٹ ہال میں ان کے کئی تبلیغی جلسے منعقد ہو چکے ہیں۔ کئی سادہ لوح اشخاص ان کے دام تزویر میں پھنس چکے ہیں۔

خاکسار مورخہ ۱۱ مارچ کو وہاں پہنچا اور ۲۲ مارچ ۱۹۳۳ء کو ناخدا کی مسجد جامع میں ختم نبوت پر تقریر کی۔ مرزا یتوں کے ساتھ چار مرتبہ تبادلہ خیالات کا موقع ملا۔

مولوی فضل کریم مبلغ بنگال کے ساتھ لیکھ رام کی پیش گوئی کے متعلق گفتگو ہوئی۔ فضل کریم کا دعویٰ تھا کہ لیکھ رام کے متعلق مرزا قادریانی کی پیش گوئی پوری ہوئی ہے۔ خاکسار نے مرزا قادریانی کے الہام کے مطابق پیش گوئی کا پورا نہ ہونا ثابت کر دیا۔ پیش گوئی کے الفاظ یہ تھے۔ ”عجل جسد لہ خوار۔ لہ نصب وعداب“ اور مرزا قادریانی کا دعویٰ تھا کہ لیکھ رام پر چھ سال کے اندر خارق عادت عذاب نازل ہو گا۔ جوانانی ہاتھ سے بالا ہو گا اور اپنے اندر الہی بیت رکھتا ہو گا۔ (سراج منیر ص ۱۲، خزانہ حج ۱۲ ص ۱۵) مگر لیکھ رام پر ایسا کوئی عذاب نہیں آیا۔ جس کو خارق عادت انسانی ہاتھ سے بالا اور اپنے اندر الہی بیت رکھنے والا کہا جاسکے۔ سرحد و پنجاب میں سیکڑوں قتل و اقدامات ہوتے رہتے ہیں اور کوئی اپنے واقعات ہیں جن میں قاتلوں کی سراغ رسانی میں پولیس ناکام رہتی ہے۔ آخوندگی کی صورت میں اس قاتل کو کوئی عذاب نہیں آیا۔

صاحب لا جواب ہو کر تشریف لے گئے۔

۲ ..... دولت احمد صاحب پلیور مبلغ جماعت مرزا یہ کے ساتھ حیات سُجع علیہ  
السلام پر ایک گھنٹہ گفتگو ہوئی۔ جس میں پلیور صاحب نیرے پیش کردہ دلائل کا کوئی جواب نہ دے  
سکے اور ان دلائل پر غور کرنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔

۳ ..... مسٹر دوست محمد صاحب گھپ سیکرٹری جماعت مرزا یہ کلکتہ کے ساتھ  
ازھائی گھنٹہ دعاویٰ مرزا کے متعلق گفتگو ہوئی دوست محمد صاحب نے آیت "لو تقول  
علینا" پیش کی۔ خاکسار نے ثابت کیا کہ یہ آیت نبی کریم ﷺ کے لئے خاص ہے۔ نیز  
جو ہنے مدعاووں کے لئے دوسرے مقام پر قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ موت کے بعد فرشتے  
انہیں کہتے ہیں کہ: "الیوم تجزون عذاب الہون" اسی گفتگو کے نتیجے میں چار اشخاص  
مرزا یہ سے تائب ہوئے۔

۴ ..... مسٹر عبدال سبحان صاحب مالک فرم ظہور علی ایڈ کو، کے ساتھ تین گھنٹہ  
دعاویٰ مرزا پر گفتگو ہوئی۔ الحمد للہ کہ صاحب مدوح کی حق پسند طبیعت نے میرے پیش کردہ دلائل  
کی صداقت کو تسلیم کر لیا اور آپ نے مرزا یہ سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔  
علاوہ ازیں خاکسار نے ایک ٹریکٹ "مرزا یہ کی حقیقت" تالیف کیا۔ جس کو ایک  
ہزار کی تعداد میں طبع کر کر حزب الانصار کی شاخ کلکتہ نے منتقبہ کیا۔ اس ٹریکٹ کے انگریزی  
و بنگالی زبان میں ترجمے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔  
بارہوں معز کہ! ممبو (ملک برما)

ملک بر ما میں پنجاب کے مرزا کی ملازمت پیشہ اشخاص کے ذریعہ مرزا یہ کی تبلیغ ہوتی  
رہتی ہے۔ بر ما میں مرزا یہ کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ مگر تبلیغی لحاظ سے ان کی جماعت کو نمایاں  
افتخار حاصل ہو رہا ہے۔ خاکسار کے ساتھ مورخہ ۱۵، ۹ اپریل ۱۹۳۳ء، بمقام محمود مولوی سید  
عبداللطیف مبلغ جماعت مرزا یہ رنگون کا فیصلہ کن مناظرہ ہوا۔ جس میں عبد اللطیف قادریانی قبل  
اختتام مناظرہ کتابیں بغل میں دبا کر بھاگ لئے اور ممبو کے علاقہ میں مرزا یہ کا اثر زائل ہو گیا۔  
شرائط مناظرہ

مقام ممبو، ملک بر ما جامع مسجد ممبو!

ا... موسوع مناظرہ:

الف ..... حیات سُجع علیہ السلام اس میں مدعاً غیر احمدی صاحبان ہوں گے۔

ب ..... ختم نبوت بعد خاتم النبیین ﷺ اس میں مدحی غیر احمدی صاحبان ہوں گے۔

ج ..... صداقت دعاوی مرزا غلام احمد قادریانی اس میں مدحی احمدی ہوں گے۔  
۲ ..... اوقات: مورخہ ۹ اپریل ۱۹۳۳ء صبح ۸ بجے سے گیارہ بجے تک اور بعد وہ پھر ۲ بجے سے ۵ بجے تک مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۳۳ء صبح آٹھ بجے سے لے کر گیارہ بجے تک۔

ہر مناظرہ کے لئے وقت تین گھنٹے ۱۰ مہنٹ ہو گا۔ کل تقریباً سات ہوں گی۔ جن میں سے چار مدحی کی اور تین محیب کی۔ پہلی اور آخری تقریر مدحی کی ہو گی۔

۳ ..... کوئی مناظر اپنی آخری تقریر میں کوئی نئی بات نہ پیش کر سکے گا۔ اگر کوئی بات نئی پیش کی تو فریق ٹانی کو جواب دینے کا موقع دیا جائے گا۔

۴ ..... استدلال صرف قرآن مجید سے ہو گا اور کسی کتاب یا کسی شخص کا قول پیش نہ ہو سکے گا۔ اگر کوئی مناظر سوانع قرآن کے کوئی حوالہ پیش کرے گا تو اس کی شکست سمجھی جائے گی۔

۵ ..... فریقین کے مسلم صدر جلسہ جناب بابو علی محمد صاحب ہوں گے۔ ان کا فرض ہو گا کہ فریقین سے شرائط کی پابندی کرائیں۔

۶ ..... کوئی مناظر ایک دوسرے کے خلاف کوئی خلاف تہذیب لفظ نہ استعمال کرے گا۔

۷ ..... دلائل کی تفہیم کے لئے علوم عربیہ اور لغت عربیہ کا لحاظ رکھا جائے گا اور خاص دلیل کے مقابلہ میں خاص دلیل اور عام دلیل کے مقابلہ میں عام دلیل پیش ہو سکے گی۔

سید محمد لطیف ..... منجانب اجماعت احمدیہ! مجموعہ ۸ اپریل ۱۹۳۳ء

### کیفیت مناظرہ

مورخہ ۹ اپریل ۱۹۳۳ء صبح آٹھ بجے بمقام جامع مسجد مناظرہ کا آغاز ہوا۔ خاکسار نے ۱۳ آیات قرآنیہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت کی۔ مرزاٹی مناظر نے اپنے فرسودہ اعتراضات کو دہرا لیا۔ مگر خاکسار کی جوابی تقریر نے اس کا ناطقہ بند کر دیا۔

بعد نماز ظہر ۳ بجے ختم نبوت پر مناظرہ ہوا۔ خاکسار نے ۲۳ آیات قرآن مجید سے ثابت کیا کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کسی کو عہدہ نبوت نہیں مل سکتا اور کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس مناظرہ میں مرزاٹی مناظر بہوت ہو گیا اور وہ کسی ایک دلیل کا بھی جوب نہ دے سکا۔

مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۳۳ء دعاوی مرزا پرمناظرہ ہوا۔ عبد اللطیف نے مرزا قادریانی کی

صداقت ثابت کرنے کے لئے ایڈی سے لے کر چوٹی تک، زور لگایا۔ مرزا کو بشارت اسمہ احمد کا صداقت ظاہر کیا۔ لثبت فیکم عمر من قبلہ، الایہ اور لو تقول علینہ (الا یہ) کو مدعا بنوت کی صداقت کے لئے معیار ثابت کرنا چاہا۔ خاکسار نے، جوابی تقریر میں مرزا ایمنا مظاہر کے بودے استدلال کی قلعی کھول دی اور چودہ آیات قرآنیہ سے جھوٹے ملہمیوں کی نشانیاں بیان کر کے مرزا کا کاذب ہونا ثابت کر دیا اور پچیس ۱ ایسے مطالبات پیش کئے جن کا جواب مرزا ایمنا مظاہر سے مبنی نہ سکا اور اختتام مظاہر سے قبل میدان مظاہر سے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔

### تیرھواں معرکہ! اینا جاؤں (برما)

مسلمانان گوئی کی درخواست پر خاکسار محبو سے روانہ ہو کر ۱۳ اگرپریل کو گوئی پہنچا۔ گوئی میں مرزا بیت کے ابطال اور ختم نبوت پر اڑھائی گھنٹہ تقریر ہوئی۔ وہاں سے سینئر عبداللطیف صاحب بہلا آف اولاً کمپنی کی دعوت پر اینا جاؤں جانے کا موقع ملا۔ عبداللطیف محبو سے بھاگ کر وہاں پناہ گزیں ہوا تھا۔ اینا جاؤں میں عبداللطیف نے ظاہر کیا کہ مجھے محبو میں فتح و نصرت حاصل ہوئی ہے۔ اس لئے اس کی مزید سرکوبی ضروری بھی گئی۔

مورخہ ۱۵ ستمبر ۱۹۳۳ء سید علی شاہ صاحب رئیس کے مکان پر معززین و شرفاء کی موجودگی میں عبداللطیف قادریانی سے ملاقات ہوئی اور ان سے یوں گفتگو کا آغاز ہوا۔  
خاکسار! ناہے کہ آپ نے یہاں آ کر بیان کیا ہے کہ مجھے محبو میں فتح و نصرت حاصل ہوئی ہے۔

عبداللطیف! انہیں ہرگز نہیں میں نے کسی سے نہیں کہا۔

مولوی محمد ابراہیم صاحب ایلوی! انہیں! تم نے کہا ہے اور تمہارے کہنے کے گواہ موجود ہیں۔  
خاکسار! (مولوی محمد ابراہیم صاحب سے) مولوی صاحب آپ کو غلط بھی ہوئی ہو گئی۔  
عبداللطیف قادریانی شریف آدمی ہیں۔ اس قدر غلط بھائی اور کذب و افتراء کا اظہار ان سے نہیں ہو سکتا۔ محبو اور اینا جاؤں میں صرف ۲۰ میل کا فاصلہ ہے۔ اس قدر سفید جھوٹ کی انہیں کیسے جرأت بوسکتی تھی۔ عبداللطیف قادریانی جیسے باحیاء انسان سے ایسی تو قع نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسے باحیاء ہیں کہ انہوں نے مظاہر سے لا جواب ہو کر دوسرے مرزا بیویوں کی طرح بے حیائی سے کھڑا رہنا پسند نہ کیا اور سید ان سے چلے آئے۔

۱ تمام دلائل کا خلاصہ اس کتاب کے جلد دوم میں درج کیا گیا ہے۔ قارئین وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

عبداللطیف، آپ کچھ بھی کہیں میں نے یہاں آ کر کسی سے اپنی کامیابی کا ذکر نہیں کیا۔ خاکسارا! آپ کر بھی کیسے سکتے تھے۔ آپ کی فطری شرافت ایسی شرمناک کذب بیانی سے مانع تھی۔

تمام حاضرین پر اس گفتگو کا نہایت عمدہ اثر ہوا اور عبداللطیف قادریانی کا رنگ زرد ہو گیا۔ حواس باختہ ہو گئے۔ جن لوگوں کے سامنے انہوں نے لاف زنی کی تھی۔ ان سے آنکھ ملانے کی جرأت نہ ہو سکتی تھی۔ سید علی صاحب رئیس ویسٹہ عبد اللہ صاحب کی تحریک پر اینا جاؤں میں بمقام اولاً ہاں کے ایک مناظرہ قرار پایا۔ جس کے لئے حسب ذیل شرائط طے ہوئیں۔

مناظرہ اینا جاؤں مابین جماعت اسلامیہ و جماعت مرزا یہ  
مورخہ ۱۵ اپریل ۱۹۳۳ء بمقام اولاً ہاں اینا جاؤں۔

### شرائط مناظرہ

۱ ..... مناظرہ کل مورخہ ۱۶ اپریل ۱۹۳۳ء بروز اتوار صبح آنکھ بچے سے پونے بارہ بجے تک ہو گا۔  
۲ ..... موضوع مناظرہ: صداقت دعاوی مرزا غلام احمد قادریانی! اس میں مدعی جماعت مرزا یہ ہو گی۔  
۳ ..... تقسیم اوقات امدادی کی تقریر آخري و پہلی ہو گی۔ اپنی آخری تقریر میں کوئی مناظری بات پیش نہ کر سکے گا۔ اگر وہ پیش کرے تو جواب کے لئے بھی دوسرے مناظر کو وقت دیا جائے گا۔ جو فریق اختتام مناظرہ سے قبل میدان سے چلا جائے گا اس کی نکست سمجھی جائے گی۔ دوران تقریر میں کسی کو بولنے کا حق نہ ہو گا۔ ایک مناظر دوسرے مناظر سے حوالہ طلب کر سکتا ہے اور شرائط کی پابندی کی طرف پر یہ نہ کوتوجہ دلانے کا اسے حق حاصل ہو گا۔ پہلی ہر دو تقریریں پون پون گھنٹہ کی ہوں گی۔ بعد کی دو تقریریں نصف نصف گھنٹہ۔ بعد کی تقریریں پندرہ پندرہ منٹ کی ہوں گی۔ کل نو تقریریں ہوں گی۔

۴ ..... استدال کے متعلق قرآن و حدیث صحیح کے سوا مولوی عبداللطیف قادریانی کا اصرار تھا کہ اقوال بزرگان سلف بھی جنت سمجھے جائیں۔ خاکسار نے کہا کہ اہل سنت کی کتب اصول و عقائد میں سوائے قرآن و حدیث کے عقائد کے بارہ میں اور کسی چیز کا ذکر موجود نہیں۔ عبداللطیف اکیا آپ بزرگوں کو نہیں مانتے؟

خاکسار! ہم تمام اولیاء اللہ کو مانتے ہیں۔ مگر ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے ہرام

میں مقلد تھے جائیں۔ ہم حضرت امام شافعی، امام احمد و امام مالک رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی جلالت شان کے مترف ہیں۔ مگر مسائل و احکام میں ان کے فتوؤں پر عمل پیر انہیں ہوتے۔ اسی طرح خداوندان پیش کیے تھے متوسطین تمام سلاسل کے بزرگوں کو اپنایا ہادی و رہنمای تھے ہیں۔ مگر اپنے طریقہ اور اپنے شیخ کے بتائے ہوئے وظائف و اعمال پر ہی عمل کیا کرتے ہیں۔ ہم اس شخص کو بزرگ تھے ہیں۔ جس کا عقیدہ صحیح ہے۔ مگر آپ ہم سے تسلیم کرنا چاہتے ہیں کہ عقیدہ صحیح وہ ہے جو کسی ایسے شخص کا ہو۔ جس کو بعض افراد امت بزرگ مانیں۔

عبداللطیف! میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید و حدیث صحیح کا وہی مطلب بیان کیا جائے جس کو آج سے پہلے بزرگان دین سمجھا ہو۔

خاکسار! پشم ماروشن و دل ماشد۔ قرآن مجید کی جو آیت بھی پیش کی جائے اس کا وہی ترجمہ صحیح سمجھا جائے گا۔ جو آج سے پہلے کسی بزرگ نے کیا ہو۔

عبداللطیف! میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کا غلط ترجمہ کر کے حاضرین کو دھوکہ دیا کرتے ہیں۔ کیا آپ سے پہلے اور کسی نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا۔

خاکسار! آپ کا ارشاد صحیح ہے۔ الہذا شرائع میں یہ الفاظ لّه دیئے جائیں کہ آج سے پہلے جن بزرگوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ ان میں جوار و لفظ ترجمہ کے لکھے ہوئے ہیں وہ دونوں مناظروں کو آیات پیش کرتے وقت بیان کرنے ہوں گے۔

عبداللطیف! تھے یہ ہرگز منظور نہیں۔ ترجمہ سب نے غلط کیا ہے۔

خاکسار! کیا آپ سے پہلے کسی نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا۔ کیا وجہ ہے کہ اب آپ بزرگان دین سے مُحرف ہو رہے ہیں۔

عبداللطیف! دلفظی جواب دیں۔ اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو اقوال بزرگان ضرور پیش ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ منظور نہ ہو تو میں مناظرہ کرنا نہیں چاہتا۔

خاکسار! آپ جس بزرگ کا قول پیش کرنا چاہتے ہوں ان کے اساء تحریر کردیں نیز جن کتب سے ان بزرگوں کے اقوال نقل ہوں گے وہ بھی تحریر کراؤ۔ ورنہ خوشاب و پکوڑے شاہ کے اقوال پیش کر کے آپ حاضرین کو دھوکا دے سکتے ہیں الہذا مناظرہ سے پہلے دو باتوں کا فیصلہ ہو جانا ضروری ہے۔

۱..... مستند بزرگ کون کون ہیں۔

۲..... کتب معتبر کون کی ہیں۔

عبداللطیف! مجھے لمبی آنکھوں سے نفرت ہے۔ اقوال بزرگان کا لفظ لکھ دینا ہی کافی ہے۔ خاسارا میں آپ کا کوئی عذر باقی نہیں رہنے دوس گا۔ آپ کو اختیار ہے کہ قرآن مجید حدیث صحیح کے علاوہ اپنے دلائل کی تائید میں ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہؓ میں سے کسی صحابی کا فرمان آئندہ مجھتدین میں سے کسی امام کا اجتہاد، اہل سنت کے مفسرین سے کسی مفسر کی تفسیر اور سلاسلِ اربعہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے مشائخ میں سے کسی شیخ کا قول پیش کر سکتے ہیں۔

عبداللطیف! مجھے یہ تحدید گوارنہیں۔ میرے لئے صرف یہ نام کافی نہیں ہیں۔ اقوال بزرگان کا لفظ شرائط میں رہنا چاہئے۔

اس موقع پر سید علی شاہ صاحب رئیس نے فرمایا کہ شرائط کی بحث فی الحال ملتوی رکھی جائے اور میری تسلی و اطمینان کے لئے صداقت مرزا قادیانی پر اس وقت ذیزہ گھنڈ مناظرہ رہے۔ تاکہ احقاق حق ہو سکے۔ خاسار نے اسی وقت مناظرہ پر آمادگی ظاہر کی۔ جناب مرزا احمد گیگ صاحب رئیس و تاجر مگوئی صدر جلسہ قرار پائے۔ پندرہ پندرہ منٹ تقریر کے لئے مقرر ہوئے۔ ذیزہ گھنڈ کی محصر آنکھوں نے حاضرین پر مرزا میں مذہب کی حقیقت کھول دی۔ مرزا احمد گیگ صاحب اپنے غصہ کو ضبط نہ کر سکے۔ انہوں نے عبداللطیف کو کہا کہ اثباتِ دعویٰ کے لئے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو۔ ورنہ ہمارا اور اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ عبداللطیف اپنی ہر تقریر میں اپنے ایک دلیل ہے تو پیش کرو۔ اس کی تائید میں دوسرا دعویٰ اور دوسرے دعوے کی تائید میں تیسرا دعویٰ پیش کرتا گیا۔ خاسار نے دعویٰ کی تائید میں دعاویٰ اور دوسرے دعوے کی تائید میں تیسرا دعویٰ پیش کرتا گیا۔ خاسار نے اس کی تمام تقاریر میں ۲۶ دعاویٰ شمار کئے۔ مگر اپنے کسی دعوے کی تائید ایک دلیل بھی پیش نہ کر سکا۔ بعد ازاں پبلک کے لئے اولاداں میں مناظرہ قرار پایا۔ خاسار نے عبداللطیف کی تمام شرائط تسلیم کر لیں۔ شام کو سید علی شاہ صاحب کو رفعہ بھیجا گیا کہ عبداللطیف کو کل صبح دس بجے اولاداں میں پیش کریں۔ اس کی تمام شرائط منظور ہیں۔ رات کے گیارہ بجے سید علی شاہ صاحب کا رقعہ موصول ہوا۔ جو کہ درج ذیل ہے۔

جناب عبد اللہ صاحب!

السلام عليکم! آپ کا رقعہ موصول ہوا۔ مولوی محمد لطیف صاحب تو رو چکر ہو گئے۔ بڑی خوشی کی بات ہوئی کہ مولانا صاحب یہاں پر تشریف لائے اور ہم سب پر حالات ظاہر ہو گئے۔ میں انشاء اللہ ۹ یا ساڑھے نو بجے حاضر ہوں گا۔ کیونکہ اتوار کے دن مجھے فرصت بہت کم ہوتی ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مولانا کا لیپچر ہو گا۔ جس سے مسلمانوں کو ہدایت ہو جائے گی۔ امید ہے کہ مولوی صاحب یہاں پر دو تین روز تھبہ ہیں گے اور قادیانیوں کے جاں میں پھنسنے سے لوگ بچے

جانیں گے۔ یہ بات مجھے پسند ہوئی جب، مولوی صاحب نے کہا کہ مرزا قادیانی مسلمان بھی ہیں؟۔ پہلے یہ ثابت کرنا ہو گا۔ از حد آداب، آپ کا دعا گوا! سید علی شاہ!

دوسرے دن بمقام اولادی شاندار جلسہ منعقد ہوا۔ جس میں ختم نبوت و صداقت اسلام پر خاکسار کی اڑھائی گھنٹہ تقریر ہوئی۔

### چودھویں معرکہ! کھاناوی ضلع سیالکوٹ

یہ مناظر ۱۳ اپریل ۱۹۳۳ء کو خاکسار کی عدم موجودگی میں ہوا۔ حزب الانصار کی طرف سے مولانا محمد نصیر الدین صاحب بُجوی و مولوی عبد الرحمن صاحب میانوی نے مناظرہ کے جملہ انتظامات کئے۔ کھاناوی کے علاقہ میں مرزا نیوں کی تبلیغی سرگرمیاں زوروں پر تھیں۔ کئی اشخاص صراط مستقیم سے مذبذب ہو چکے تھے۔ مولانا محمد مسعود صاحب البڑی نے صدارت کے فرائض سرانجام دیئے۔ حیات مسیح پر مولانا حافظ محمد شفیع صاحب سکھڑوی کا دل محمد قادیانی کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ دل محمد مسلمانوں کے دلائل کا جواب دینے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مولانا کے زبردست دلائل نے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ دعاویٰ مرزا پر مولانا ابوالقاسم محمد حسین صاحب کا مولوی علی محمد قادیانی کے ساتھ فیصلہ کن مناظرہ ہوا۔ سب اسکے صاحب پولیس و تحصیلدار صاحب انتظام کے لئے جلسہ گاہ میں موجود تھے۔ مولانا نے مبلغ پانچ روپیہ تحصیلدار صاحب کے حوالہ کر دیا اور کہا کہ مرزا ای مناظر رسول اللہ ﷺ کا فرمان کسی صحیح حدیث سے دکھادے کہ مہبدی کے زمانہ میں کسوف و خسوف ہو گا۔ تو یہ انعام اس کے حوالہ کر دیا جائے۔ دل محمد نے دارقطنی سے محمد ابن علی کا قول پیش کیا۔ تحصیلدار صاحب نے دریافت کیا کہ کیا یہ محمد رسول اللہ ﷺ کا قول ہے۔ اس پر مرزا ای مناظر مبہوت ہو گیا۔ مولانا ابوالقاسم صاحب نے مرزا نیوں کے تمام دلائل توڑ کر رکھ دیئے اور مناظرہ کا اقتداء نہیا یت خیر و خوبی کے ساتھ ہوا۔

لکھاناوی میں مولانا ابوسعید محمد شفیع صاحب خوشابی، مولوی محمد اسماعیل صاحب دامانی، مولوی محمد مسعود صاحب البڑوی، مولانا نصیر الدین صاحب بُجوی، مولوی عبد الرحمن صاحب میانوی کی زبردست تقاریر نے مرزا نیت کا خاتمه کر دیا ہے۔ اب اس علاقہ میں مرزا نیوں کا دجل و زور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لکھاناوی کے مناظرہ کا تمام اہتمام و مصارف وغیرہ کا ذمہ چوہدری خدا بخش پتواری نے کیا تھا۔ جس کے لئے جملہ مسلمانان علاقہ کو شکر گزار ہونا چاہئے۔

### پندرہویں معرکہ! میعاوی (تحصیل نارووال)

مورخ ۱۵ اگسٹ ۱۹۳۳ء بمقام میعاوی تحصیل نارووال ضلع سیالکوٹ خاکسار کی

صدارت میں مرزا یوں کے ساتھ شاندار مناظرہ ہوا۔ مرز یوں کی طرف سے مولوی ظہور الحسن و مولوی عبدالغفور مولوی دل محمد نے مناظرہ کیا۔ مولوی غلام رسول آف راجکے بھی ان کی امداد کے لئے وہاں موجود تھا۔ ہرس (۳) مسائل پر دو روز مناظرہ ہوا۔ اسلامی مناظر مولانا حافظ محمد شفیع صاحب سکھڑوی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور مرزاۓ قادریانی کا کاذب و مفتری ہونا ثابت کیا۔ مولوی غلام رسول صاحب مجید موضع گلہ بہاراں نے مسئلہ ختم نبوت پر مرزاۓ مناظر دل محمد کو لا جواب و ساکرت کیا۔ مرزاۓ معلمین کو قادریان میں بے حیائی کی وہ ہٹائی کی تعلیم دی جاتی ہے اور وہ اس فن میں کامل ماہر ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اگر ان میں حیاء کا مادہ موجود ہوتا تو کبھی مناظروں میں شامل نہ ہوتے۔

## برق آسمانی بر خرم من قادریانی

جلد دوم ..... دلائل و برائیں

مناظروں میں جس قدر دلائل فریقین کی طرف سے پیش ہوئے ان کی تفصیل کے لئے مختصر کتاب کافی نہیں ہو سکتی۔ تقاریر کی مکمل یاداشتیں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ چونکہ مناظروں میں دلائل کا تکمیر ہوتا رہا ہے۔ اس لئے تمام دلائل کیجا شائع کئے جاتے ہیں۔ یہ مجموعہ مرزاہیت کے لئے مرزا یوں کی پاکٹ بک کا بہترین جواب ٹابت ہو گا اور منصف مزادع اور سلیم الفطرت انسانوں کے لئے ہدایت و رہنمائی کا باعث ہو گا۔ اس میں تین باب ہیں۔ باب اول دراثبات حیات مسیح علیہ السلام، باب دوم ختم نبوت، باب سوم در ابطال دعاوی مرزاۓ قادریان۔ ہر باب میں اسلامی مناظروں کے دلائل مرزا یوں کے اعتراضات نیز مرزا یوں کے پیش کردہ دلائل اور جو جوابات اسلامی مناظروں نے دئے تھے ان کا خلاصہ درج کیا گیا ہے۔

باب اول ..... حیات مسیح علیہ السلام

پہلی دلیل

اسلامی مناظر: ”وقولهم انا قتلنا المسيح عيسیٰ ابن مریم رسول الله وما قتلواه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفی شک منه مالهم به من علم الاتباع الظن وما قتلواه يقيناً بل رفعه الله اليه و كان الله عزيزاً حكيمـا (نساء: ۱۵۸) ” اور (یہود کے) اس کہنے کی وجہ سے کہل کیا۔ ہم نے مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے کو جو رسول تھا اللہ کا۔ (حالانکہ انہوں نے) نہ ان کو قتل کیا

اور نہ ان کو سولی پر چڑھا لیا۔ لیکن ان کو اشتباه ہو گیا اور جو لوگ ان کے بارہ میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں ہیں۔ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں۔ بجز تجھیں با توں پر عمل کرنے کے اور انہوں نے ان کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ بلکہ ان کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ تعالیٰ ہرے زبردست حکمت والے ہیں۔ ۴۷

اول: ان آیات میں خداوند کریم نے یہود کے عقائد باطلہ کا رد فرماتے ہوئے ان کے زعم قتل مسح کار دفر میا اور قتل مسح کے بجائے رفع مسح کا اثبات کیا۔ رفع اجسام میں حقیقی طور پر اور پر کی طرف انتقال مکانی مراد ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے۔ ”رفع ابوبیہ علی العرش (یوسف: ۱۰۰)“ تیزما ماقتلوہ وما صلبیوہ وما قتلواہ یقیناً میں تینوں ضمیریں منصوب متصل ہیں ان کا مر جمع اسکے ہے۔ جس پر بزم یہود قتل کا وقوع ہوا ہے اور یہ امر واضح ہے کہ قتل کے قابل زندہ انسان ہوتا ہے نہ فقط روح یا جسم۔ پس رفع جس چیز کا ہوا ہے اسکے یعنی وہ زندہ انسان کی روح و جسم میں یہود بذریعہ قتل جدائی کرنا چاہتے تھے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ بحمدہ العصری اٹھائے گئے۔ مرزا نیوں کو یہ تسلیم ہے کہ جس چیز کا رفع ہوا وہ آسمان کی طرف ہوا۔

جیسے مرزا قادیانی (از الادبام ص ۲۶۳، خزانہ ح ۳ ص ۲۳۳) پر لکھتے ہیں کہ: ”صرف کج اور بدیہی طور پر سیاق و سبق قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے فوت ہونے کے بعد ان کی روح آسمان کی طرف اٹھائی گئی۔“ پس جب ہم نے ثابت کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جسم مع الروح ہوا۔ مرزا کی تصدیق و اقرار کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔

مرزا کی مناظر بدل رفعہ اللہ الیہ میں رفع روحانی مراد ہے۔ جیسے خدا تعالیٰ کسی کا رفع کرتے ہیں تو اس سے رفع روحانی مراد ہوتا ہے۔ جیسے ”يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات (المجادلة: ۱۱)“ اور ”فَيُبَيِّنُ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ أَنْ تَرْفَعَ (نسور: ۲۶)“ میں درجات کا رفع مراد ہے۔ کیا ایشوں سمیت مکان اٹھایا جاتا ہے۔ کیا سب ایماندار آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں۔ (السان العرب ج ۵ ص ۲۶۸) میں ہے کہ: ”وَفِي اسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الرَّافِعُ هُوَ الَّذِي يَرْفَعُ الْمُؤْمِنَ بِالْأَسْعَادِ وَأَوْلِيَّهُ بِالْتَّقْرِيبِ“ اس کے سوا اور کوئی معنی خدا تعالیٰ کے نام رافع کے نہیں۔ جبکہ مفہول ذی روح انسان ہوا اور رفع کا فاعل خدا تعالیٰ ہو۔ پس مسح کے لئے بھی رفع روحانی ثابت ہوتا ہے۔

اسلامی مناظر: (تاج العروس: ترجمہ قاموس ج ۱ ص ۱۷۶) میں مذکور ہے کہ: ”امام راغب نے مفردات میں لکھا ہے کہ لفظ رفع جب ایسے اجسام میں مستعمل ہو کہ وہ اجسام زمین پر موجود ہوں تو اس وقت رفع سے مراد زمین سے اٹھا لیتا ہوگا۔ جیسا کہ بنی اسرائیل پر کوہ طور زمین سے اٹھا کر کھڑا کیا گیا۔“ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورُ (البقرة: ۶۲) ”تاکہ وہ شرارت سے باز آ جائیں قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے ”رفع السموات بغير عمد“ (الرعد: ۲) ”کہ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا اور اگر لفظ رفع تعمیرات میں مستعمل ہو تو اس وقت تطویل بناء مراد ہوگی۔ جیسے کہ ”اذيرفع ابراهيم القواعد من البيت“ (البقرة: ۱۲۷) ”اور اگر اس کا متعلق ذکر یاد رجہ ہو تو اس وقت اس سے رفع مرابت مراد ہوگا۔ جیسے ”وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (الم نشرح: ۴) ”اور دوسری جگہ پر ہے۔“ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات (زخرف: ۳۲) ”یعنی بعض کو بعض پر فضیلت۔ اس سے ظاہر ہے کہ جس جگہ لفظ رفع کا مورد اور مفعول جسمانی شے ہو تو اس جگہ یقیناً رفع جسمانی مراد ہو گا اور اگر اس کا مفعول ذکر یاد رجہ یا منزلہ ہو تو اس وقت رفع مرتبہ مراد ہوگا۔ رفع روحانی یا عزت کی موت اس کا پتہ لغت عرب میں نہیں ملتا۔ قرآن مجید یا حدیث نبی کریم ﷺ میں یہ لفظ جب کبھی جسمانیت میں مستعمل ہوا ہے تو بالآخر قرینہ صارف کے اس سے رفع جسمانی مراد لیا گیا ہے۔ آپ کے پیش کردہ نظائر بھی ہمارے مقابل نہیں رفعناہ مکانہ علیاً میں خود مکان علیاً قرینہ ہے۔“ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنَوْا (المجادلة: ۱۱) ”میں خود بلندی درجات کا ذکر ہے۔“ فِي بَيْوَاتِ أَذْنِ اللَّهِ (نور: ۳۶) ” میں بیوت کا لفظ موجود ہے۔ آپ کوئی ایسی آیت دکھائیں جو قرآن سے خالی ہو اور جسم کا رافع اللہ تعالیٰ ہو اور اس سے رفع روحانی مراد ہو۔ آپ قیامت تک کوئی ایسی آیت پیش نہ کر سکیں گے۔ جس سے آپ کا مدد عاثابت ہو۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”ثُمَّ رَفَعْتُ إِلَيْهِ سَدْرَةَ الْمُنْتَهِيِّ“ (صحیح البخاری ج ۱ ص ۵۴۹، باب الاسراء والمعراج ومشکوٰۃ ص ۵۲۷) ”اس میں رفع کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے اور مفعول ذی روح انسان ہے اور اس سے مراد جسمانی رفع ہے۔“

### دوسری دلیل

اسلامی مناظر: ”ما قتلواه يقيناً بل رفعه الله اليه“ میں کلمہ بل لا یا گیا۔ زبان عرب میں لفظ بل جب ثقیل کے بعد آتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مضمون سابق جس کی ثقیل کی گئی ہے۔ اس کے خلاف مضمون بل کے بعد بیان کیا گیا ہے اور اٹھا لیتا قتل کے منافی جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب زندہ مع جسم اٹھا لیتا مراد لیا جائے۔ ورنہ مرتبہ کا بلند کرنا جیسا کہ مرزاں کہتے

پس قتل کے منافی ہر گز نہیں بلکہ قتل فی سبیل اللہ تو بلندی رتبہ کا بہترین ذریعہ ہے اور کسی انبیاء راہ خدا میں قتل ہوئے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ: ”وَيُقْتَلُونَ النَّبِيُّونَ بِغَيْرِ حَقٍّ (آل عمران: ۲۱)“ اور ”قَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ (النَّسَاءُ: ۱۰۵)“ پس قتل ہونا شان نبوت کے خلاف نہیں بلکہ قتل کے ذریعہ مراتب بلند ہوتے ہیں۔ اس آیت میں جو کلمہ بل ہے اس کو کلام عرب میں بل ابطالیہ کہتے ہیں۔ جو صفت مثبتہ اور صفت مظلہ کے درمیان واقع ہوا ہے۔ صفت مظلہ قتل اُسکے اور صفت مثبتہ رفع اُسکے اور بل ابطالیہ میں ضروری ہے کہ صفت مظلہ اور صفت مثبتہ کے درمیان تناقض و ضدیت ہو۔ جیسے قرآن مجید میں ہے۔ ”وَقَالُوا اتَّخَذُ الرَّحْمَنَ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عَبَادُ مَكْرُمُونَ (الْأَنْبِيَاءُ: ۲۶)“ اس جگہ ولدیت اور عبودیت میں تناقض و ضدیت ہے۔ اب اگر رفع اُسکے معنے روحاںی رفع کے لئے جائیں تو مطلق تناقض اور ضدیت نہیں رہتی۔ کیونکہ شہداء یعنی خدا کے رہا میں مقتولین کی روحسی بھی عزت و احترام کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھائی جاتیں ہیں۔ پس قتل اور روحاںی رفع کا جمع ہونا ممکن ہے۔ اس لئے تناقض و ضدیت جب ہی متصور ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھایا جانا اسلام کیا جائے۔ آج تک کسی مناظرہ میں بھی کوئی مرزاںی مناظر اس دلیل کا کوئی جواب پیش نہیں کر سکا۔

### تیری دلیل

اسلامی مناظر: ”مَا قَاتَلُوهُ يَقِينًا بِلْ رَفِعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ“ میں قصر قلب ہے۔ قصر قلب میں بوجو جب تحقیق اہل معانی یہ ضروری ہے کہ ایک صفات دوسرے صفات کو مژوہ نہ ہو۔ تاکہ مخاطب کا اعتقاد بر عکس متكلّم متصور ہو اور یہ بات نہایت صاف طور پر ظاہر ہے کہ جو مقتول بالگاہ خداوندی میں مقرب ہواں کے قتل کے ساتھ رفع روحاںی لازم ہے۔ پس بقاعدہ قصر قلب اس جگہ رفع روحاںی مراد لینا کسی طرح جائز نہیں اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان کی طرف اٹھایا جانا ثابت ہوتا ہے۔ مرزاںی مناظرین نے ہر جگہ اس دلیل کے جواب میں خاموشی سے کام لیا اور کوئی غلط جواب بھی پیش نہ کر سکے۔

### چوتھی دلیل

اسلامی مناظر: قرآن مجید اہل کتاب کے باہمی تازعات کا فیصلہ کرتا ہے۔ حق کی تائید اور باطل کی تردید کرتا ہے۔ وہ تفصیل لکل شنئی ہے۔ یہود و نصاری میں حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کے متعلق اختلاف تھا۔ قرآن کے نزول کا ایک مقصد لیحکم بینہم ہے (آل عمران: ۲۳) قرآن مجید نے اس اختلاف کا فیصلہ فرمادیا ہے۔ یہود یوں کا دعویٰ تھا کہ: ”إِنَّا قَاتَلْنَا

المسيح، "ہم نے مسحِ قتل کر دیا اور عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ مسحِ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ قرآن مجید نے ماقتللوہ یقیناً فرمایا کہ یہود کے عقیدہ کی بطلت ظاہر فرمائی۔ اگر فزاری کا عقیدہ بھی باطل ہوتا تو قرآن مجید میں اس کی واضح تردید ہوتی۔ مگر قرآن مجید نے بل رفعہ اللہ الیہ فرمایا کہ قرآن کے عقیدہ کی تائید کر دی۔ اس سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ بحسرہ العصری آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ مرزا نیوں نے اس دلیل کا بھی کسی مناظرہ میں کوئی جواب نہیں دیا۔ پانچویں دلیل

اسلامی مناظر: رفع اس وقت ہوا کہ جب یہود قتل کرنا چاہتے تھے۔ قتل مسح کی بجائے قرآن سے رفع مسح ثابت ہے۔ اگر رفع کے معنے عزت کی موت یا رفع روحانی لئے جائیں تو یہود پر قرار دیئے جاسکتے ہیں اور معاذ اللہ کلام خدا کی سچائی ثابت نہیں ہوتی۔ موت کا سامان وہی تھا جو یہودیوں نے تیار کر کھا تھا۔ اس سے یہودیوں کا دعویٰ قتل مسح ثابت ہوتا ہے۔ پس رفع سے مراد عزت کی موت لینا کسی طرح جائز نہیں۔

مرزا نی اس کے جواب میں بھی ساکت و صامت رہے۔

۱۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ مسح نے سولی پر جان دے دی۔ (یونا ۹، ۳۰۰) اور اس کے بعد تیرے دن قبر سے جی اٹھا اور اپنے شاگردوں کے سامنے زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ (لوقا ۴۵، ۲۳) قرآن مجید نے مصلبوہ کے ذریعہ واقع صلیب کی نفعی کی۔ ماقتللوہ فرمایا کہ یہودیوں کے دعویٰ کا ابطال کیا اور رفعہ اللہ الیہ فرمایا کہ زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کی تائید فرمائی۔ اسی طرح عیسائیوں کے مسئلہ کفارہ کی بھی تردید فرمائی۔ صلیب دیئے جانے کا انکار کر کے عیسائیوں کے بنیادی مسئلہ کفارہ کو رد فرمایا۔ مگر مرزا نیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی۔ مگر وہ وہاں مرے نہ تھے۔ بلکہ مش مردہ ہو گئے تھے۔ مرزا نیوں کا یہ عقیدہ قرآن و حدیث شہادت پائیں اور اہل کتاب کے عقیدہ کے بھی خلاف ہے۔ مرزا قادری (توضیح المرامص، روحانی خزانہ ج ۳ ص ۱۵) پر لکھتے ہیں کہ "مسلمانوں اور عیسائیوں کا کس قدر اختلاف کے ساتھ یہ خیال ہے کہ حضرت مسح اسی عصری وجود سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔"

۲۔ مرزا نی کہتے ہیں کہ باہل کے مطابق صلیبی موت سے مرنے والا لفظی ہے۔ حالانکہ باہل میں صرف یہ ہے کہ "اگر کسی نے گناہ کیا جس سے اس کا قتل واجب ہے اور وہ مارا جائے اور تو اسے درخت پر لٹکائے تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے۔ بلکہ تو اسی دن اسے گاڑ دے۔ کیونکہ وہ جو پھانسی دیا جاتا ہے وہ خدا کا ملعون ہے۔" (استثناء ۲۱، ۲۲) (بیان حاشیہ اگلے صفحہ پر)

## چھٹی دلیل

اسلامی مناظر: ”قل فمن يملك من الله شيئاً ان أراد ان يهلك المسيح ابن مزيم وامه ومن في الارض جمِيعاً (مائدة: ۱۷)“ ۹ کہ دینے کوں اختیار رکھتا ہے۔ اللہ کے کلام میں اگر چاہے کہ ہلاک کر دے۔ مسیح این مریم کو اور (جیسے کہ ہلاک کر دیا) اس کی ماں کو اور وہ ان تمام لوگوں کو جو کہ زمین میں ہیں۔ ۱۰

عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام خود خدا ہیں۔ اس عقیدہ الوہیت کی تردید کے لئے حضو ﷺ سے کہا گیا ہے کہ آپ ان کو سمجھا و بتھے کہ اگر خدا تمام باشندگان زمین کو اور مسیح علیہ السلام کو مار دے اے تو کون اس کا سچھ بگاڑ سکتا ہے اور جب حضرت مسیح کی والدہ کو موت خدا نے دی تھی تو اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام نے خدا کا کیا بگاڑ لیا تھا۔ مراد یہ ہے کہ اگر آپ خدا ہوتے تو ضرور مقابلہ کرتے۔ اس آیت سے یہ تو یقیناً ثابت ہو گیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو حضرت مسیح علیہ السلام اس وقت ضرور زندہ تھے۔ ورنہ یہ حتمی درست نہیں رہتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی بجائے اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابھی تک خداوند کریم نے حضرت مسیح علیہ السلام کے مارنے کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ اگر حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہو پکے ہوتے تو قرآن مجید میں الوہیت کو باطل ثابت کرنے کے لئے صاف درج ہوتا کہ مسیح کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ مگر اس جگہ ان اراداً گر خدا ارادہ ہلاکت کا کرے کے الفاظ سے حیات مسیح علیہ السلام ثابت ہے۔

مرزاںی مناظر: اسی آیت میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ماں کا بھی ذکر ہے۔ لہذا ماں کو بھی زندہ مانا۔ نیز من فی الارض جمِيعاً کے مطابق مولوی صاحب کے دادا اور والد کو بھی زندہ مانا۔ گویا ابھی تک خدا نے کسی کی ہلاکت کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ آپ کے قول کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کے علاوہ ان کی والدہ اور تمام انسانوں کا زندہ ہونا ثابت ہوتا

(باقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ) اس میں صرف مجرم کا ذکر ہے۔ بے گناہ مصلوب کے لئے لعنی ہونے کا حکم موجود نہیں۔ مرزاںیوں کی تفسیر کے مطابق یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے مسیح علیہ السلام کو لعنی موت مارا ہے۔ مگر مسیح کے ملعون ہونے کے نصاریٰ بھی قائل ہیں۔ (گنتیوں ۱۲، ۱۳) اس میں دونوں گروہ متفق ہیں۔ ان میں اختلاف صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان کی طرف اخھائے جانے کا تھا۔ اس مقدمہ میں قرآن مجید نے نصاریٰ کی تائید کی اور باقی مسائل میں دونوں کے باطل عقائد کی تردیدی کر دی۔ (مؤلف ۱۲)

ہے۔ حالانکہ اس کا غلط ہونا ظاہر ہے۔ نیز حرف شرط ان اس جگہ بمعنے اذ ہے۔ جو فعل مضارع کو ماضی بنادیتا ہے۔

**اسلامی مناظر:** حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ کو بھی زندہ مان لینے سے عقائد اسلامیہ میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ ہمیں ان سے کوئی عداوت نہیں۔ لیکن اس آیت میں قد اہلک امہ فعل مخدوف ہے اس کے نظائر قرآن مجید میں بکثرت ملتے ہیں۔ جیسے کذلک یوحیٰ الیک والی الذین من قبلک (شوری: ۲) میں اوحیٰ فعل مخدوف ہے۔ ورنہ پہلوں کی طرف وہی اس وقت نہیں ہوتی تھی اور وامسحوا برؤسکم وارجلکم (مائہ: ۶) کے درمیان واغسلوا فعل مخدوف ہے۔ فاجمعوا امرکم وشرکاء کم (یونس: ۷۱) میں دراصل وادعوا شرکاء کم یعنی وادعوا فعل مخدوف ہے۔ اوجز المسالک میں اس کی وضاحت موجود ہے۔

من فی الارض جمیعاً کے مطابق تمام باشندگان روئے زمین کو اکٹھا ہاں کرنے کا خدا نے اب تک ارادہ نہیں کیا۔ آپ نے جمیعاً کے لفظ پر غور نہیں کیا۔ ان اگرچہ قد کامنے دے سکتا ہے اور اذ کامنے نہیں دیتا۔ مگر یہ کسی دلیل سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ آیت کا بھی یہ معنی ہے کہ مسیح مر گئے اور ماسیت سارے مر گئے۔ کیونکہ ایک وقت معاشب کا مر جانا کسی تاریخ سے ثابت نہیں۔

### ساقوین دلیل

**اسلامی مناظر:** ”امحمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل (آل عمران: ۱۴۴)“ (نہیں ہیں محمد مگر پیغمبر تحقیق گذرے ہیں۔ پہلے آپ سے کمی پیغمبر۔) ”ما مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل (مائہ: ۷۵)“ (نہیں ہیں مسیح ابن مریم مگر پیغمبر گزرے ہیں آپ سے پہلے کمی پیغمبر۔)

ان آیات میں صرف اسماء کا اختلاف ہے۔ جس طرح پہلی آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ بوقت نزول آیت مصلحت اللہ زندہ تھے۔ اسی طرح دوسری آیت سے بھی ظاہر ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام زندہ تھے۔ ورنہ اگر دوسری آیت سے وفات مسیح ثابت کی جائے تو پہلی آیت کا نزول بھی بعد وفات نبی کریم مصلحت اللہ ماننا پڑے گا۔

**مرزا آئی مناظر:** آیت ”امحمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل (آل عمران: ۱۴۴)“ کے نزول کے وقت نبی کریم مصلحت اللہ زندہ تھے۔ اس لئے آپ کی زندگی ثابت

ہوتی ہے۔ مگر دوسری آیت کے نزول کے وقت مسیح علیہ السلام کو زندہ مانے کی آپ کے پاس کون سی دلیل ہے۔ ان آیات سے مسیح کی وفات ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ الرسل میں الف لام استغراق کا ہے اور خلت کا معنے ہے مر گئے۔ پس اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ نبی کریم ﷺ سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے تھے۔

**اسلامی مناظر:** آپ میری تقریر کو نہیں سمجھتے اور نہ ہی طرز استدلال پر غور کیا ہے۔ میں نے بمعقول ہے عرب بیت یہ بات ثابت کی ہے کہ جیسا کہ (ما محمد الا رسول) آیت کے نزول کے وقت حضور علیہ السلام کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ ایسا ہی ما تصح ابن مریم (لا ای) کے نازل ہونے کے وقت حضرت مسیح علیہ السلام کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ دونوں آیتوں میں صرف اسماء مختلف ہیں۔ خلت کے معنے فوت ہو گئے۔ کرنا اور الف لام کو استغراقی بنانا۔

مرزا قادیانی کی تصریح کے برخلاف ہے۔ مرزا قادیانی نے (جگ مقدس صے، خداۓ حج ۸۹ ص ۸۹) میں اس کے معنے یوں کہے ہیں۔ ”اس سے پہلے رسول بھی آتے رہے۔“ نیز حکیم نور الدین نے جو مرزا یوں میں علم و فضل کے لحاظ سے سب سے افضل تھے۔ انہوں نے عیسائیوں کے مقابلہ میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ”پہلے اس سے بہت رسول آ چکے۔“

(فصل الخطاب ج ۱ ص ۲۵ حاشیہ)

خبر بدر ج ۱۳ نمبر ۲۲، ۱۴ ص ۱۹۱۳ء میں مولوی نور الدین خلیفہ مرزا کا ارشاد ہے کہ ”لفظ جمع کا ہوتا اس سے مراد کلمہ اجتماع نہیں ہو گا۔ جب تک کہ تصریح نہ ہو۔ بلکہ مراد بعض سے ہوتی ہے۔“

### آٹھویں دلیل

**اسلامی مناظر:** ”وَيَكْلِمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَا (آل عمران: ۴۶)،“ خداوند کریم فرماتا ہے کہ مسیح لوگوں سے گہوارہ اور سن کہولت (بڑی عمر میں) کلام کریں گے۔ کلام مجید و فصاحت و بالاغت سے مملو ہے۔ اس میں کوئی بات ایسی درج نہیں جو بے معنے ہو۔ کہولت میں کلام کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ ہمیشہ ہر شخص چھوٹی اور بڑی عمر میں کلام کیا کرتا ہے۔ اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے لئے کوئی خاص فضیلت پائی نہیں جاتی۔ قرآن کریم میں تذکرے سے معلوم ہوتا ہے کہ سن کہولت کا کلام بھی اسی طرح کا خارق عادت ہو گا۔ جس طرح گہوارہ کا کلام تھا۔ ”قَالَوا كَيْفَ نَكْلَمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيبًا (مریم: ۲۹)،“ یہود نے حضرت مسیح کی حالت شیر خوارگی میں کلام کرنا تسلیم نہیں کیا تھا اور حضرت مریم علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم گہوارہ

میں شیر خوار بچے سے میے کلام کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گھوارہ سے جواب دیا تھا۔ ”قال انسی عبد اللہ“ (مریم: ۳۰)، جس طرح کلام مہد بطور اعجاز تھا۔ اسی طرح آخری زمانہ میں آسمان نے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام خرق عادت میں داخل ہو گا۔ جس طرح یہود نے مہد میں بچے کے کلام پر اظہار تجہب کیا تھا۔ اسی طرح زمانہ حال کے قبیلین یہود کہتے ہیں کہ مجھ اتنے سو سال کیے زندہ رہ سکتا ہے اور اتنے سو سال کے بعد نازل ہو کر دنیا میں کیا کام کر سکتا ہے۔ بقول قائلین وفات مجھ ۳۲۳ سال میں واقع صلیبی پیش آیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت مجھ علیہ السلام کا رفع سن کھولت سے پہلے ہوا۔ لہذا اس آیت سے حیات مجھ علیہ السلام ثابت ہے۔ ورنہ مرزائی ان کے بڑھاپے کا کلام بھی دکھائیں۔

**مرزاںی مناظر:** مجع الجمار میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن کھولت گذار بچے ہیں۔ اس لئے آپ کا دعویٰ باطل ہے۔

**اسلامی مناظر:** مجع الجمار کی عبارت پڑھنے میں خیانت کی ہے۔ مجع الجمار میں ہے کہ: ”ويكلم الناس في المهد وكهلا بالوحى والرسالة وإذا نزل من السماء فى صورة ابن ثلث وثلثين“ (مجمع البحار ج ۴ ص ۴۵۸)، اگر آپ کے زندگی کے نزدیک ۳۲۳ سال کی زندگی کھولت کی ہے تو آپ ان کا اعجازی کلام اس عمر میں ثابت کریں۔

نوں دلیل

**اسلامی مناظر:** ”وَانْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْأَلِيُّؤْمَنْ بِهِ قَبْلِ مُوتَهِ (نساء: ۱۵۹)“ اور نہیں ہو گا کوئی اہل کتاب (یہود) میں سے گرامیان لے آئے گا۔ اس (عیسیٰ علیہ السلام) پر پہلے اس (عیسیٰ علیہ السلام) کی موت کے۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ اس آیت کا ترجمہ یوں لکرتے ہیں۔ ”نباشد ہیچ

کس از اہل کتاب الالبتہ ایمان آورد بعیسیٰ پیش از مردن عیسیٰ“  
یہ آیت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر روشن دلیل ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا۔ جب اس وقت کے تمام اہل کتاب ان کی زندگی میں ان پر ایمان لا سکیں گے۔ چونکہ ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو نازل ہوئے ہیں اور نہ سب یہود آپ کی رسالت پر ایمان لا سکیں۔ اس لئے آپ کی وفات بھی واقع نہیں ہوئی۔ کیونکہ اس آیت میں صریح طور پر آپ کی موت

۱۔ مرزآقادیانی کے خلیفہ اول حکیم نور الدین نے اپنی کتاب فصل الخطاب ج ۲ ص ۷۸

حاشیہ میں اس آیت کے بھی بھی معنی کئے ہیں۔

سے پہلے ان امور کا واقع ہونا ضروری ہے۔ لیؤمنن میں ان تاکیدی ہے اور ان تاکید معارض کو استقبال کے ساتھ غاص کر دیتا ہے اور ضیرب اور موتہ ہر دو کام رجع عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں۔ کیونکہ سیاق کلام اسی کو چاہتا ہے۔ اگر صوت کی ضیر کا مردج کتابی کا اقرار کر دیا جائے تو جو ایمان نزع کی حالت میں لا دیا جائے وہ شریعت میں معترض نہیں ہوتا۔ لہذا ہر دو ضمیروں کا مردج عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔

مرزا ای مناظر بیضاوی میں قرأت قبل مجسم کا ذکر ہے۔ جس میں ثابت ہے کہ کتابی کی موت مراد ہے۔ نون تاکید سے ہمیشہ استقبال مرا دلینا جائز نہیں۔ ”والذین جاحدوا فینا لنھد ینهم سبلنا“ (علیبوت ۲۹) کا آپ کیا ترجمہ کریں گے۔ کیا خدا کے راستے میں کوشش کرنے والے کسی آئندہ زمانے میں ہدایت یافتہ نہیں گے۔ نیز قیامت سے پہلے تمام لوگوں کا مسلمان ہو جانا عقلانیقلا ممکن نہیں۔ قرآن مجید میں ہے۔ ”فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الی یوم القيامة (ماٹدہ: ۱۴)“ اس سے ثابت ہے کہ قیامت تک یہود و نصاریٰ باہم دشمن رہیں گے۔ نیز ضمیر موتہ کا مردج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرار دینا صحیح نہیں۔

اسلامی مناظر موتهم والی قرآۃ شاذہ ہے۔ جو قرأت متواثرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ محمد ابن علی کرم اللہ وجہہ نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ جو بھی اہل کتاب ہیں۔ اپنی موت سے پہلے ان کو پورا انکشاف ہو جاتا ہے اور تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی حضرت مسیح علیہ السلام نبی برحق تھے اور وہ زندہ ہیں اور پھر اپنے زمانہ میں نازل ہو کر اسلام کی خدمت کریں گے اور کسی یہودی یا مجوہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ (درمنثورج ۲۲ ص ۲۳) لہذا اس قرأت سے بھی مرزا یوں کام عالی پورا نہیں ہوتا اور آیت والذین جاحدوا (آلیہ) میں الذین حرف موصفات سے ہے۔ جو شخص من شرط ہے اور جزو اہمیشہ شرط سے متاخر ہوتی ہے۔ لہذا نون تاکید کا معنی اپنے محل پر واقع ہے۔ یہودی باہمی عداوت کا ایلی یوم القيمة سے مراوطیل زمانہ ہے۔ ورنہ یہ آیت متعارض ہو گی۔ ”هو الذي

ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظہره علی الدین کله (توبہ: ۲۲)“

مرزا قادیانی (چشمہ معرفت ص ۸۳، خزانہ ترجیح ص ۲۳) پر لکھتے ہیں کہ: ”علامگیر غلبہ اسلام مسیح موعود کے وقت میں ہو گا۔“ نیز ایمان اور عداوت باہمی میں منافات نہیں ہے۔ دونوں باہم جمع ہو سکتے ہیں۔ جیسے مرزا یوں کے دونوں گروہوں لا ہوری و قادریان یوں میں باہمی عداوت موجود ہے۔ مگر مرزا پر دونوں گروہ ایمان رکھتے ہیں۔ تفسیر (ابن کثیر ج ۲ ص ۲۰۱) پر ہے۔ ”وقال ابن جریر حدثني يعقوب حدثنا ابو رجاء عن الحسن وان من اهل الكتاب

الا لیؤم من به قبل موته قال قبل موت عیسیٰ واللہ انه لھی الان عند اللہ  
ولکن اذا نزل امنوا به اجمعون ”ابن رئیس المفسرین حضرت حسن کا یہ نیصل قطعی ہے۔  
**وسیں ولیل**

**اسلامی مناظر:** ”وانہ لعلم للساعة فلا تمرن بها (زخرف: ۶۱)“  
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی علامت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب  
محدث دہلویؒ اس کا ترجیح یوں کرتے ہیں۔ ”مرآئینہ عیسیٰ (علیہ السلام) نشان سنت قیامت  
را پس شبہ میکند در قیامت۔“ ابن کثیر نے اس کے معنے یہ کہے ہیں۔ لہذا اس آیت سے عیسیٰ علیہ  
السلام کا دوبارہ آنا ثابت ہے۔

**مرزا لی مناظر:** (سلیم) اس آیت میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے نہ کسی، حضرت امام  
حسن ابن علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ قرآن قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت حسن جیسا جوانان  
بہشت کا سردار جو ترجمہ کرے اس کے مقابلہ کوئی ترجمہ مقبول نہیں ہو سکتا۔

**اسلامی مناظر:** (مولانا ابو القاسم صاحب) آپ نے مجمع عام میں جھوٹ بولا ہے  
اور حاضرین کو ختم مغالطہ دیا ہے۔ حضرت حسن ابن علی کرم اللہ وجہہ کا قول آپ کبھی دکھانہ سکیں  
گے۔ آپ کے نزدیک جہاں حسن کا لفظ آئے۔ اس سے مراد اگر امام حسن ابن علیؒ ہی ہو سکتے  
ہیں۔ تو سنو ابن کثیر میں حسن سے مروی ہے۔ حدثنا الحسن انه (عیسیٰ) لھی الان  
یعنی حضرت حسن نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ ہیں۔ اب آپ کو حضرت حسن کا فرمان  
تلیم کرنے سے کیا عذر ہو سکتا ہے؟۔

**گیارہویں ولیل**

”وَيَعْلَمُهُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَالْتُّورَاةُ وَالْأَنْجِيلُ (آل عمران: ۴۸)“  
﴿او رسمخانے گا﴾ (خدا) اس (عیسیٰ علیہ السلام) کو کتاب اور حکمت تورات اور انجلیل ﴿﴿﴾  
اس آیت میں خداوند کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الکتاب و الحکمة اور  
التوراة والانجیل سخنانے کا وعدہ کیا ہے۔ انجلیل تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔  
واتینہ الانجیل اس نے انجلیل کا صحیح مطلب و مفہوم سکھلانا ضروری تھا۔ تا ایسا نہ ہو کہ کسی  
آیت کے مفہوم و مطلب کے سمجھنے میں مسیح کو وقت ہو۔ تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی  
نازل شدہ تھی۔ وہ اس نے سکھلانا ضروری ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو گا اور بنی  
اسراءيل کے پاس کتاب تورات تھی۔ مگر وہ غلط معنے کرتے اور یہ حروفون الكلم عن مواضعہ

کے عادی تھے اور نا حق پر جھگڑا کرنے والے تھے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام کو تورات نہ سکھاتا تو یہودی آپ کی کوئی بات تسلیم نہ کرتے اور مسیح علیہ السلام ان سے بحث میں مغلوب ہو جاتے۔ تیرسی چیز جس کا علم حضرت مسیح علیہ السلام کو دیا گیا۔ وہ الکتاب والحكمة ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی یہ لفظ اکھٹا آیا ہے۔ اس سے مراد قرآن اور بیان قرآن یعنی تفسیر قرآن یا تغیریق قرآن وغیرہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خداوند کریم حضرت مسیح علیہ السلام کو قرآن مجید اور اس کی تفسیر کی خود تعلیم دے گا اور وہ اس میں کسی کے شاگرد نہ ہوں گے۔ نبی حضرت مسیح کا نزول قرآن تک زندہ ہونا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ ورنہ اگر نزول قرآن سے پہلے انہیں علم دیا گیا ہو تو مانتا پڑے گا کہ قرآن حضرت مسیح علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید سکھلانا اب اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لا سیں گے اور قرآن مجید پر عمل کریں گے۔

مرزا میتی مناظر: ”اذ خدا الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمة (آل عمران: ۸۱)“ سے ثابت ہے کہ تمام انبیاء کو کتاب و حکمت عطا فی گئی۔ لہذا اس سے قرآن مراد یہنا جائز نہیں۔

۲..... ”فقد اتینا آل ابراهیم الكتاب والحكمة واتیناهم ملکا عظیما (نساء: ۴۰)“ سے ثابت ہے کہ آل ابراهیم کو الکتاب والحكمة دی گئی۔ حالانکہ قرآن صرف مسلمانوں کے لئے ہے۔

۳..... کسی مفسر نے آپ کے معنی کی تائید نہیں کی جائیں میں الکتاب سے مراد الخنزیر ہے۔

اسلامی مناظر: ”اذ خدا الله میثاق النبیین“ میں الکتاب والحكمة کا ذکر نہیں۔ نیز من تبعیضیہ ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر نبی کو کتاب و حکمت کا پکھنہ پر جھ علم دیا گیا ہے۔ ”فقد اتینا آل ابراهیم“ میں آل ابراهیم سے مراد اہل اسلام ہیں۔ کیونکہ ماقبل و ما بعد میں مسلمانوں کا ذکر ہے اور اہل کتاب کے حد کرنے کا بیان ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ ایسے حاسدوں کو جلانے کے لئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آل ابراهیم کو الکتاب والحكمة اور ملک عظیم عطا کیا ہے۔ حضور ﷺ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ اس لئے خداوند کریم نے اہل کتاب کو جلتایا کہ مصلحتہ بھی آل ابراهیم ہیں۔ پھر اس لئے بھی آل ابراهیم کیا کہ حضرت ابراهیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا رب کے والوں میں ایسا رسول پیدا ہے۔

جو ان کو الکتاب والحكمة ساختا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو الکتاب والحكمة دینے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہونے کا ذر فرمایا ہے۔ اس بیت اگلی آیت میں ہے۔ ”فَمِنْهُمْ مَنْ أَمْنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَعْنَاهُ“، یعنی بعض اہل کتاب تو اس الکتاب والحكمة پر ایمان لے آئے ہیں اور بعض خود بھی ایمان نہیں لاتے اور دوسرا لے لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ اگر الکتاب والحكمة سے صحائف سابقہ مراد لئے جائیں تو اہل کتاب تو ان کو مانتے ہیں۔ پھر ان میں روکنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ مرزاۓ قادریان کے خاص مرید مولوی محمد علی لاہوری نے اپنی تفاسیر بیان القرآن حصہ اول ص ۳۵۲ پر اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے۔ ”یہاں آل ابراہیم کو یعنی مسلمانوں کو دو چیزیں دینے کا ذکر کیا۔ کتاب اور حکمت اور ملک عظیم۔“

تفاسیر کے صد بارا لے پیش کئے جائیں۔ آپ تسلیم نہیں کرتے۔ کیا تفاسیر کو صحیح تسلیم کرتے ہو۔ اسی جلاییں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا ذکر موجود ہے۔ افسوس کہ مطلب کی بات لے کر باقی تمام امور کا انکار کر دیتے ہیں۔ تمام تفاسیر میں مفسرین کرام کا حیات صحیح علیہ السلام پر اتفاق ہے۔ مگر آپ ان تفاسیر کو تسلیم نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں الکتاب والحكمة سے قرآن و بیان قرآن مراد ہے۔

### بارھویں دلیل

اسلامی مناظر: ”قال سبحانه وتعالیٰ (لن يستنكف المسيح ان يكون عبد الله) (نساء: ۱۷۲)“، مسیح ہرگز خدا کا بندہ ہونے سے انکار نہیں کرے گا۔ اس آیت میں یستنكف مضارع کا صیغہ ہے۔ اس پر بوجب قواعد عربیت حرفلن ہونے سے اس کے معنی مستقبل کے لئے خاص ہو چکے ہیں۔ یعنی زمانہ آئندہ میں ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب مسیح اپنے عبد اور بندہ ہونے کا اظہار کرے گا۔ اس وقت دنیا میں مسیح کو معبدود قرار دیا جاتا ہے۔ اگر حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے تھے تو قرآن میں اس کا ذکر بصیغہ ماضی ہونا چاہئے تھا۔ یہاں استقبال کے معنوں میں خاص ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آیت کے نزول کے وقت زندہ تھے اور احدیث کے بوجب آخری زمانہ میں نازل ہو کر خدا کی عبودیت کا قرار کریں گے۔

نوٹ! یہ دلیل میعاوی کے مناظر میں مولانا محمد شفیع سلمھروی نے پیش کی تھی۔ مگر مرزاۓ مناظر نے آخری وقت تک اس کا کوئی جواب نہ دیا۔

## تیرھویں دلیل

**اسلامی مناظر:** ”قال سبحانه وتعالیٰ وجیہا فی الدنیا والآخرة و من المقربین (آل عمران: ۴۵)“ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَنَعَمْ بِهِ خَرْت میں ذی وجہت ہیں اور خدا کے مقرب فرشتوں میں داخل ہیں۔ (فتح البیان ج ۲ ص ۲۳۶) اور (تفیریب المعدون ص ۲۷۲) میں اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملکوتی زندگی یعنی آسمان پر زندہ موجود ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ آپ کی چہلی زندگی میں آپ کو سلطنت نہیں تھی۔ اس لئے ماننا پڑے گا کہ آپ زندگی ہی میں بعد نزول صاحب سلطنت ہوں گے۔ قرآن مجید میں مقربین سے مراد فرشتے ہیں۔ حضرت سُبْحَانَ اللَّهِ وَنَعَمْ بِهِ خَرْت اسیل سے ہوئی تھی۔ اس لئے آپ کو ملائکہ سے نسبت حاصل ہے۔

## چودھویں دلیل

**اسلامی مناظر:** ”قال سبحانه وتعالیٰ وَاذَا كَفَّفْتَ بَنْيَ اسْرَائِيلَ عَنْكَ اذْ جَئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ (مائده: ۱۱۰)“ اور جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا۔ جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے۔

خداوند کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات کا ذکر فرماتے ہوئے بنی اسرائیل کے شر سے ان کو محفوظ رکھنے کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ مرزائیوں کی تفسیر کے مطابق یہودیوں نے حضرت سُبْحَانَ اللَّهِ وَنَعَمْ بِهِ خَرْت کیا اور پھانسی پر لٹکا دیا۔ حالانکہ اس جگہ خداوند کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں کے شر دور کرنے کا ذکر فرمارہے ہیں۔ مرزائیوں کے عقائد کے مطابق پھر یہودیوں کو روک کوئی ہوئی۔ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع السی السماء اور یہودیوں کے شر و جھویز سے محفوظ رہنے کی زبردست دلیل ہے۔

نوٹ! یہ دلیل بھی بمقام مہم پیش کی گئی تھی۔ مگر مرزائی مناظر اس کا کوئی جواب نہ دے سکا۔

## پندرھویں دلیل

**اسلامی مناظر:** ”قال سبحانه وتعالیٰ وَمَكْرُوا وَمَكْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ (آل عمران: ۵۴)“ تدبیری انہوں نے اور تدبیر کی اللہ نے اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔

اس آیت میں خداوند کریم نے یہود کی تدبیر (توہین، صلیب و قتل مسیح) کے مقابلہ میں

فرمایا کہ ہم نے بھی تدبیر کی۔ قواعد عربیہ میں یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ جملہ خبر یہ فعلیہ یا اسمیہ بحکم نکرہ ہوتا ہے اور اسی وہی سے جملہ نکرہ کی صفت میں واقع ہوتا ہے۔ ورنہ اگر معرفہ کے حکم میں ہوتا تو نکرہ کی صفت واقع ہونا ممکن نہ تھا۔ نیز باجماع اہل عربیہ جملہ خبر یہ حال واقع ہو سکتا ہے۔ جس کے لئے نکرہ ہونا شرط ہے۔ لہذا جملہ نکرہ، و جملہ نکرہ کا بحکم نکرہ ہونا ثابت ہوا اور قواعد عربیہ میں یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ جب نکرہ کا نکرہ اعادہ کیا جائے تو ثانیہ کے غیر اولیٰ مراد ہوتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی تدبیر ان کی تدبیر کے بالکل مغایر تھی اور یہ مفارقت جب ہی ہو سکتی ہے کہ جب تدبیر الہی سے رفع جسمانی مراد ہو۔ ورنہ تدبیر الہی بقول مرزائیاں بمعنی رفع روحانی یا رفع عزت تدبیر قتل اور صلیب کے بالکل منافی نہیں نیز نکرہ کے معنی تدبیر خفی کے ہیں اور ظاہر ہے کہ قتل اور صلیب یا بقول مرزائیاں صلیب سے اتار لینا کوئی خنی تدبیر نہیں۔ خنی تدبیر سوائے رفع جسمانی کے کچھ نہیں ہو سکتی۔ نیز حق تعالیٰ نے اپنی صفت اس مقام پر خیر الملکرین ذکر فرمائی۔ جس نے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کی تدبیر سب سے بہتر تھی اور صلیب سے اتار لینا یہ کوئی عمدہ تدبیر نہیں۔ اس کو تو یہود بھی کر سکتے تھے۔ حق تعالیٰ کا خیر الملکرین کی صفت کو مقام حمد میں ذکر فرمایا ہے۔ اس طرف مشیر ہے کہ یہ ایک زرالی تدبیر ہے اور ظاہر ہے کہ رفع جسمانی سے زائد اور کوئی زرالی تدبیر نہیں ہو سکتی۔ اگر مرزائیوں، یہودیوں یا عیسائیوں کی طرح مانا جائے تو خدا کی حکمت عملی کا ثبوت نہیں ملتا۔

نوٹ! ممبو (برما) میں یہ دلیل پیش کی گئی تھی۔ مرزائی مناظر بہوت ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔

### سوہبہ میں دلیل

**اسلامی مناظر:** ”من يشاقق الرسول من بعد ماتبيين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قوله ماتولى ونصله جهنم وسأله مصيراً (نساء: ۱۱۵)“ ﴿جو کوئی رسول ﷺ کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس پر ہدایت ظاہر ہو چکی اور مومنوں کے رستے کے سوارستے کی پیروی کرے گا۔ ہم اسے اسی طرف پھیرے رکھیں گے۔ جس طرف وہ پھرا اور اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت بڑی بازگشت ہے۔﴾

”...مني كريمها ﷺ کے طریقہ کی مخالفت کرنے والے گروہ کی ایک علامت سماں کے سوا کسی اور راستے پر چلے گا۔ ایسے لوگوں کا نٹھ کانا جہنم میں بتایا

گیا ہے۔ مرزا قادیانی کو تسلیم ہے کہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ سے لے کر تیرہ سو سال تک کسی شخص نے بھی امت محمدیہ میں سے وفات مسیح کا اقرار نہیں کیا۔ تمام امت محمدیہ کا حیات مسیح پر اجماع رہا ہے۔ جیسا کہ ستر ہوئے دلیل کے ضمن میں ان کی کتب کے حوالوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ پس حیات مسیح کے خلاف عقیدہ رکھنے والے اسی آیت کے مطابق مرزا اور جنتی ہیں۔

**مرزا ایمنا ظر:** ”ابن حزم اور امام مالک وفات مسیح کے قاتل تھے۔ حیات مسیح پر اجماع امت بھی نہیں ہوا۔ یہ دعویٰ باadolیل ہے۔

**اسلامی مناظر:** آپ کا کوئی حق نہیں کہ اس مسئلہ پر اجماع امت سے انکار کریں۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب (التبغ ص ۵۵، خراش ن ۵۵۲) پر اس مسئلے کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اس لئے مرزا قادیانی کے قول کے مقابل میں آپ کا قول معتبر نہیں ہو سکتا۔ نیز ابن حزم حیات مسیح کے قاتل تھے۔ ابن حزم اپنی کتاب (الفصل فی الملل والنحل ن ۳ ص ۱۰۸) میں نزول میں علیہ السلام کا اقرار کرتے ہیں۔ نیز حضرت امام مالک اور تمام مالکی حیات مسیح کے قاتل ہیں۔ حضرت امام مالک کی طرف کوئی قول اگر وفات مسیح کا منقول ہو تو اس کی سند پیش کرو ورنہ ایسی بے دلیل باتوں سے آپ کا مدعى ثابت نہیں ہو سکتا۔

### ستر ہوئے دلیل

اسلامی مناظر: مرزا قادیانی کے حسب دلیل بیانات قبل خور ہیں۔

۱۔ ”قریباً تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احادیث کے رو سے ضرور ایک شخص آنے والا ہے۔ جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ جس قدر طریق متفرقہ کے رو سے احادیث نبویہ اس بارہ میں مدون ہو چکی ہیں۔ ان سب کو یکجا نظر کے ساتھ دیکھنے سے باشبہ اس قدر قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے۔“ (شہادۃ القرآن ص ۲، خراش ن ۲۹۸ ص ۲۹۸)

۲۔ ”مسلمانوں اور عیسائیوں کا اس قدر اختلاف کے ساتھ یہ خیال ہے کہ حضرت مسیح بن مریم اسی غصڑی وجود سے آسمان کی طرف اٹھنے گئے۔“

(ۃ تضییح الامم ص اخراش ن ۲ ص ۵)

۳۔ ”بانجل اور ہماری احادیث اور اخبار کی کتابوں کی رو ۔۔۔ بن نبیوں کا اسی بودن خسری کے ساتھ آسمان پر جانا تصور کیا گیا ہے۔ وہ دونی یہ ایک یونہ جس کا نام مایلیہ اور ادریس بھی ہے۔ دوسرے مسیح بن مریم جن کو میسی اور نبیوں بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں نبیوں کی نسبت عبد قدم اور جدید کے بعض صحیفے بیان کر رہے ہیں کہ وہ دونوں آسمان کی صرف اٹھنے

گئے اور پھر کسی زمانہ میں زمین پر اتریں گے اور تم ان کو آسمان سے آتے دیکھو گے۔ ان ہی کتابوں سے کسی قدر ملتے جلتے الفاظ احادیث نبویہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔“

(توضیح المرام، ۳، خزانہ حجۃ، ص ۵۲)

۳ ..... (تلخ ص ۵۵۲، ۵۵۲، ۵۵۲، ۵۵۲) پر لکھتے ہیں کہ مجھے الہام

کیا گیا کہ: ”ان النزول فی اصل مفهومه حق ولکن ما فهم المسلمين حقیقتہ لان اللہ تعالیٰ اراد اخفاء ه فغلب قضاء ه و مکرہ و ابتلاء علی الافهام فصرف وجوههم عن الحقيقة الروحانية الی الخيالات الجسمانية و كانوا بها من القانعین وبقیی هذا الخبر مكتوماً مستوراً كالحب فی السنبلة قرناً بعد قرن حتى جاء زماننا ..... فكشف الله الحقيقة علينا ..... فاخبرنى ربی ان النزول روحانی لا جسمانی“ نزول اپنے اصل مفہوم میں حق ہے لیکن مسلمانوں نے اس کی مراد کو نہیں سمجھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اخفاء کا ارادہ کیا۔ پس اس کی تدبیر ابتلاء و قضاء فہموں پر غالب رہی۔ اس نے ان کے دلوں کو حقیقت روحانی سے خیالات جسمانی کی طرف پھیر دیا اور وہ اسی پر قائم رہے اور یہ خبر لامبی ہوئی ان کے پاس خوش اناہ کے اندر کی طرح مخفی رہی۔ کئی زمانوں تک حتیٰ کہ ہمارا زمانہ آیا۔ پس اللہ نے ہم پر حقیقت کھویں دی اور مجھے میرے رب نے خبر دی کہ نزول روحانی ہے: جسمانی نہیں۔“

۴ ..... ”هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله“ نیا آیت: جسمانی اور سیاست ملکی تے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیشیں گولی ہے اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف اٹیں گے۔ تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق و انتظام میں پھیل جائے گا۔“ (براہین الحمدیہ حصہ چہارم ص ۵۹۸، خزانہ حجۃ، ص ۵۹۳ حاشیہ در حاشیہ)

۵ ..... ”وَهُوَ زَمَانٌ يَبْحَسِّي آنَّهُ وَالاَّ يَبْحَسِّي کہ جب خدا تعالیٰ مجرمین کے لئے شدت اور ع忿 اور قبر اور رختی کو استعمال میں لائے گا اور حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے۔“ (براہین الحمدیہ حصہ چہارم ص ۵۰۵، خزانہ حجۃ، ص ۲۰۱ حاشیہ در حاشیہ)

۶ ..... ”پھر میں قریباً بارہ برس تک جو ایک زمانہ دراز ہے بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ خدا نے مجھے بڑی شدود میں مسیح موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت مسیلیؑ آمدشانی کے رسمی عقیدہ پر جمارا ہا۔ جب بارہ برس گذر گئے تب وہ وقت آگیا کہ میرے پر

اصل حقیقت کھول دی جائے۔ تب تو اتر سے اس بارہ میں الہامات شروع ہوئے کہ تو ہی مسجح میغود ہے۔” (اعجاز احمدی ص ۷، نزائن ج ۱۹ ص ۱۱۳)

مندرجہ بالا عبارتوں پر غور کرنے سے حسب ذیل نتائج واضح ہوتے ہیں۔

الف ..... نبی کریم ﷺ کے زمانہ سے لے کر مرزا کے زمانے تک تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ یہ رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کا یہ عقیدہ اسی احادیث کی بناء پر تھا۔ جنہیں تو اتر کا درجہ حاصل تھا۔ باطل اور اخبار سے بھی اس عقیدہ کی تائید ہوتی ہے۔ (ملاحظہ ہونبر ۲۰، ۲۱)

ب ..... حیات مسجح علیہ السلام کا عقیدہ خداوند کریم مسلمانوں کے دلوں میں مستحکم کیا۔ کیونکہ اس کا ارادہ اخفاء کا تھا۔ اس کی قضاء اور تبدیل گالب رہی۔ اس نے ان کے دلوں کو حقیقت روحانی کی طرف سے پھیر کر رفع جسمانی کی طرف کر دیا اور مرزا قادریانی کے زمانہ تک یہ حقیقت خوش کے اندر دانہ کی طرح مخفی رہی۔ پھر مرزا قادریانی کو الہام کے ذریعہ وفات مسجح کی حقیقت سے مطلع کیا گیا۔ (ملاحظہ ہونبر ۲۱)

ج ..... مرزا قادریانی بھی ملجم ہونے کے بعد بارہ سال تک یعنی ۵۲ سال کی عمر تک مسلمانوں کے عقیدہ کے پابند رہے۔ بلکہ قرآن مجید کی آیات سے بھی سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور مرزا قادریانی تو حیات مسجح علیہ السلام کا استدلال قرآن سے دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے۔ پھر ۵۲ سال کی عمر میں ان کو تو اتر سے الہام ہوا۔ جس کی بناء پر انہوں نے عقیدہ تبدیل کر لیا۔

لہذا ثابت ہوا کہ قرآن و حدیث آثار صحابہ اقوال سلف صالحین اجماع امت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت ہوتی ہے۔ اسی لئے تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہا، مرزا قادریانی ابھی قرآن حدیث و آثار صحابہ اقوال سلف صالحین اور اجماع امت کے ماتحت اسی عقیدہ کے پابند رہے۔ عالم قرآن ہو کر بھی انہیں قرآن سے بھی نہیں عقیدہ صحیح معلوم ہوا۔ لہذا مرزا نیوں کا کوئی حق نہیں کہ وفات مسجح علیہ السلام پر کوئی آیت کوئی حدیث یا کوئی قول پیش کریں۔ مرزا قادریانی کو اقرار ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ صرف اپنے الہام کی بناء پر تبدیل کیا ہے۔ اس کے سوا تبدیلی عقیدہ کسی اور چیز پر مبنی نہیں ہے اور مرزا قادریانی کا الہام ان کے مریدوں کے لئے جنت ہو سکتا ہے۔ مگر مسلمانوں کے لئے ان کا الہام جنت نہیں۔ جو آیات

---

۱۔ مولوی نور الدین قادریانی بھی جب قرآن اور حدیث پر عامل تھے۔ ان کا عقیدہ حیات مسجح کا تھا۔ (ملاحظہ فصل الخطاب حصہ دوم ص ۷۲)

مرزاں کیا کرتے ہیں۔ یہ پہلے بھی موجود تھیں۔ اگر ان کا تعلق کسی قسم کے وفات مسح علیہ السلام سے ہوتا تو مرزا قادیانی ارجمن علم القرآن کا الہام پا کر قرآن مجید کی آیات کو حیات مسح علیہ السلام کے لئے بطور دلیل پیش نہ کرنے۔

مرزا قادیانی مناظر: آپ کے لئے مرزا قادیانی کی عبارتوں کا پیش کرنا مفید نہیں ہو سکتا۔

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ پہلے میں مسلمانوں کے رسمی عقیدہ کا پابند تھا۔ آپ کا یہ عقیدہ الہام سے پہلے تھا۔ الہام کے بعد وہ عقیدہ منسوخ ہو گیا۔ نبی کریم ﷺ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن جب وہی آگئی تو بیت اللہ طرف پڑھنے لگے۔ اسی طرح مرزا قادیانی بھی الہام کے پابند تھے۔ مرزا قادیانی الہام کے بعد بھی جو بارہ برس تک حیات مسح کو مانتے رہے ہیں۔ یہ سمجھ کی غلطی تھی اور ملہم الہام کو سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہے۔ برائین احمدیہ دعویٰ نبوت سے پہلے کی ہے۔ اس کے بعد مرزا قادیانی کو الہام ہوا۔

اسلامی مناظر: آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ قرآن و حدیث آثار صحابہ اقوال سلف صالحین اور اجماع امت کی موجودگی میں مرزا قادیانی حیات مسح علیہ السلام کے قائل رہے اور ان کے ذریعہ انہیں وفات مسح کا علم نہ ہو۔ کا۔ پس میرا مقصود یہی ہے۔ شکر ہے کہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ مرزا قادیانی کے عقیدہ کی تبدیلی قرآن و حدیث کی بناء پر نہیں۔ بلکہ الہام کی بناء پر ہوئی۔ پس مابہ الزراع امر صرف یہی رہا کہ مرزا قادیانی دعویٰ الہام میں سچ تھے یا کاذب، نبی کریم ﷺ کامل و مکمل شریعت لے کر آئے تھے۔ آپ نے سابقہ شرائع کو منسوخ کر دیا۔ سابقہ شریعون میں نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی تھی۔ ”فول وجهك شطر المسجد الحرام (البقرة: ۱۴۴)“ کی آیت نازل ہونے سابقہ احکام منسوخ ہو گئے۔ آپ نے یہ مثال دے کر ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی سابقہ شریعت محمد یہ سے ثابت تھا۔ وہ ان کے الہام سے بدل گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا شخص عقا کدو اخبار میں بھی ہوتا ہے کہ حضرت مسح علیہ السلام پہلے زندہ تھے اور مرزا قادیانی پر الہام کے وقت فوت ہو گئے تھے۔ تیسرا امر یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی وہ نمازوں میں بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا درست تھیں۔ اسی طرح آپ کو ماننا پڑے گا کہ مرزا قادیانی کا عقیدہ الہام سے پہلے صحیح تھا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود تھے۔ اس کے بعد اگر ان کی وفات ہوئی ہو تو اس کا بارہ شوت آپ کے ذمہ ہے۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا عملیات میں سے ہے۔ عقاد میں سے نہیں۔ ان میں تبدیلی

ہو سکتی ہے۔ نیز مرزا قادیانی کے نزدیک ”دیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ مشرکانہ ہے۔“

( واضح ابلاع ص ۱۵، خزانہ ج ۱۸ ص ۲۳۵ ملخصاً)

مگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شرک نہ تھا۔ لہذا یہ مثال بالکل بے محل ہے۔ برائین احمد یہ کی تصنیف کے وقت بقول خود مرزا قادیانی ”خدا کے نزدیک رسول تھے۔“

(ایام اصلح ص ۵۷، خزانہ ج ۱۳ ص ۳۰۹)

مرزا قادیانی کا اپنا قول ہے کہ وہ انبیاء کی اپنی ہستی کچھ نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ اس طرح بالکل خدا کے تصرف ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک گل انسان کے تصرف میں ہوتی ہے..... انبیاء نہیں بولتے جب تک خدا ان کو نہ بولائے اور کوئی کام نہیں کرتے جب تک خدا ان سے نہ کرائے ..... ان سے وہ طاقت سلب کی جاتی ہے۔ جس سے خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی انسان کرتا ہے۔ وہ خدا کے ہاتھ میں ایسے ہوتے ہیں جیسے مردہ۔ (ریویو)

اس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی نے جو کچھ برائین احمد یہ میں لکھا تھا وہ خدا کی مرضی کے مطابق تھا۔ اس میں اجتہادی نظری کا اثر نہیں ہو سکتا نیز برائین احمد یہ کی تصنیف سے پہلے مرزا قادیانی کو الہام ہوا تھا۔ ”الرحمٌ عالم القرآن یعنی خدا نے تمام علوم قرآن کا علم انہیں عطا کیا تھا۔ وہ بقول خود مؤلف نے ملجم و مامور ہو کر بغرض اصلاح تالیف کی۔“

(اشتہار برائین احمد یہ ملحق آئینہ کمالات اسلام، خزانہ ج ۱۵ آخر میں)

پھر یہ کتاب بقول مرزا قادیانی ”آنحضرت ﷺ کے دربار میں پیش ہو کر منظور ہوئی اور اس کا نام عالم رویا میں قطبی رکھا گیا۔ اس مناسبت سے کہ یہ کتاب قطب ستارے کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم ہے۔“ (اتھی ملخچا حاشیہ برائین احمد یہ ص ۲۳۹، ۲۴۰، خزانہ ج ۱۳ ص ۲۵۵)

نیز بقول مرزا قادیانی نے انہیں کتاب تفسیر دی تھی۔

پس مرزا قادیانی نے بقول مرزا ایکاں خدا سے علم قرآن یکھ کر حضرت علیؑ سے کتاب تفسیر لے کر ملجم، مامور اور رسول اللہ ہو کر برائین احمد یہ کو تالیف کیا اور بعد تالیف یہ کتاب آنحضرت ﷺ کے دربار میں پیش ہو کر منظور ہو چکی۔ اس کا نام قطبی رکھا گیا۔ کیونکہ اس میں مندرجہ مسائل ایسے تھے جو قطبی ستارے کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم تھے۔ پس تعجب ہے کہ حیات مسیح علیہ السلام جیسا مشرکانہ عقیدہ اس میں کیسے باقی رہا اور اس مشرکانہ عقیدہ کی تائید میں قرآن مجید سے آیات بھی نقل ہوئیں اور وہ آیات (جواب مرزا ای وفات مسیح پر پیش کرتے ہیں) مرزا قادیانی کی نگاہ سے غائب رہیں۔

مرزا نیوں کے لئے دور استے ہیں۔ یا تو تسلیم کر لیں کہ مرزا قادیانی اپنے دعاوی الہام علم قرآن وغیرہ میں کا ذکر تھے۔ یا حیات مسیح علیہ السلام کا عقیدہ قرآن مجید کے درو سے صحیح تسلیم کر لیں۔ کیونکہ اس عقیدہ پر قرآن اور آنحضرت ﷺ کی تصدیق حاصل ہو چکی ہے اور وہ اسماء اسی کتاب میں درج ہے۔ جو بوجب الہام قطبی ستارے کی طرح ہے۔

مرزا قادیانی بارہ سال تک بقول خود مشرک رہے۔ حالانکہ لکھتے ہیں کہ ”یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ جب کہ ان انبیاء کے آنے کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کے احکام پر چلاویں۔“ تو گویا خدا کے احکام کو عملدرآمد میں لانے والے ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر وہ خود ہی خلاف ورزی کریں تو وہ عملدرآمد کرنے والے نہ رہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں ہو کہ نبی نہ رہے۔ وہ خدا تعالیٰ کے مظہر اور اس کے افعال و اقوال کے مظہر ہوتے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ان کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔ (ربیویو)

آپ کا یہ کہنا کہ مرزا قادیانی رسمی عقیدہ کے طور پر حیات مسیح علیہ السلام کے قائل رہے۔ یہ بھی دو وجہ سے باطل ہے۔ اول اس لئے کہ مرزا قادیانی نے براہین میں اپنا یہ عقیدہ ایک الہام کے ضمن میں بیان کیا ہے اور اس الہام کا مفاد یہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیاسی حیثیت سے ان منکروں کی سرکوبی کے لئے دوبارہ تشریف لا دیں گے۔ دوم اس لئے کہ مرزا قادیانی نے رسمی عقیدہ کے طور لکھ دیا تو جب یہ کتاب بقول مرزا قادیانی آنحضرت کے دربار میں قبولیت حاصل کر رہی تھی۔ کیا اس وقت یہ تمام بیانات جن میں حضرت مسیح کی حیات اور فتح آسمانی اور نزول ثانی مرقوم تھے۔ ان کا اخراج عمل میں آیا تھا اور ان بیانات کی موجودگی میں یہ کتاب آنحضرت ﷺ سے تصدیق حاصل کر چکی ہے؟

### اٹھارویں دلیل

اسلامی مناظر: ”قال سبحانه وتعالیٰ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبيان لهم الذي اختلفوا فيه (النحل: ٦٤)“ اور ہم نے اتاری آپ پر کتاب اسی واسطے کے کھول کر سائیں ان کو کہ جس میں بھگڑ رہے ہیں۔

”وانزلنا اليك الذكر لتبيان للناس ما ننزل اليهم (النحل: ٤٤)“ اتارا ہم نے آپ کی طرف قرآن تا کہ آپ بیان کر دیں لوگوں کو جو کچھ نازل کیا گیا ان کی طرف۔ خداوند تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو دنیا میں اس لئے بھیجا تا کہ ہر گمراہی و بدعت کا قلع قمع فرمادیں۔ قرآن مجید کی آیات کے مطالب واضح کر کے سمجھائیں۔ اس لئے ناممکن تھا کہ نبی کریم ﷺ کوئی

ایسی بات فرماتے۔ جس سے کسی قسم کی غلط فہمی یا گمراہی پھیلنے کا خطرہ ہو سکتا۔ نبی رحیم ﷺ کو قرآن مجید میں مومنین کے لئے حرجیں علیکم اور روف و رحیم فرمایا گیا ہے۔

حضور ﷺ اپنی امت پر رفق و شفیق تھے اور ”علمک مالم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیماً (نساء: ۱۱۳)“ کی آیت حضور ﷺ کے وسعت علم پر دال ہے۔ نبی کریم ﷺ نے صد ہا احادیث میں فرمایا کہ مسیح ابن مریم نازل ہو گا۔ احادیث میں مسیح ابن مریم عیسیٰ بن مریم یا ابن مریم تین الفاظ موجود ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ایک دفعہ بھی غلام احمد ابن چراغ نبی نہیں فرمایا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے تو کیا وجہ ہے کہ کسی ضعیف سے ضعیف حدیث بلکہ کسی موضوع حدیث میں بھی کسی صحابی کا یہ سوال کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ نزول مسیح سے کیا امراء ہے۔ منقول نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو دین کے معاملہ میں بہت محتاط تھے کیا وجہ ہے کہ تمام عمر سنتے رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں نازل ہوں گے اور کسی موقع پر انہیں اس کی حقیقت معلوم کرنے کا اشتیاق پیدا نہ ہواں سے ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ اور تمام صحابہ کرام کا عقیدہ یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہی آخری زمانہ میں تشریف لا نہیں گے۔ دین ایک معمہ نہیں ہے۔ نبی کریم ﷺ نے امت کے سامنے معنے پیش نہیں کئے۔ بلکہ کھول کر تمام مسائل بیان فرمائے ہیں۔

نوٹ! کسی مرزاںی مناظر نے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔

### انیسویں دلیل

**اسلامی مناظر:** علم معانی کا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ لا الاستعارۃ فی الاعلام اعلام میں استعارہ نہیں ہوتا۔ لفظ مسیح علم (Proper noun) ہے بوجب علم معانی اس سے استعارہ مراد لینا کسی طرح جائز نہیں آنحضرت ﷺ نے احادیث میں مسیح ابن مریم عیسیٰ ابن مریم یا ابن مریم کے آنے کی خبر دی ہے۔ الہذا مسیح بن مریم سے کسی دوسرے شخص کو مراد لینا جائز نہیں۔ غلام احمد ابن چراغ نبی بی مراد نہیں ہو سکتا۔ مختصر المعانی میں ہے۔ ”لا تكون الاستعارۃ علمًا من انہنَا تقتضی ادخال المشبه فی جنس المشبه بہ لا اذا تضمن العلم نوع وصفیته اس کے حاشیہ دوستی میں ہے۔ المتضمن نوع وصفیة هو ان یکون مدلوله مشهورا بوصف بحیث متى اطلق ذلك العلم فهم منه ذلك الوصف فلما كان العلم المذکور بهذه الحالة جعل كانه موضوع لذات المستلزمة“

## بیسیوں دلیل

”عن الحسن قال قال رسول الله عليه وسلم لليهود ان عيسى لم يمتحنوا و انه راجع اليكم قبل يوم القيمة“

(ابن کثیر ج ۲ ص ۳۰۰، تحت آیت انی متوفیک و ابن جریر ج ۲ ص ۲۸۹، تحت آیت انی متوفیک)  
روایت ہے کہ حضرت حسنؓ سے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے یہودیوں سے کہ تحقیق عیسیٰ  
علیہ السلام مر نہیں ہیں اور وہ ضرور قیامت سے پہلے تمہاری طرف آنے والے ہیں۔  
مناظر مرزائی: یہ حدیث معتبر نہیں مرسل ہے۔

اسلامی مناظر: ابن کثیر اور ابن جریر جیسے جلیل القدر مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے اور  
اس پر جرج نہیں کی کہ تہذیب العہذیب میں ہے کہ مرسلات حسن سب صحیح ہیں۔

## اکیسوں دلیل

اسلامی مناظر: ”عن البربیع قال النبی ﷺ الستم تعلمون ان ربنا  
حی لا یموت و ان عیسیٰ یأتی علیه الفناء (ابن جریر ج ۲ ص ۱۶۳، تحت آیة  
الکرسی و ابن ابی حاتم)“ (حضرت ربیعؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے (نجان کے  
عیسائیوں) سے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب زندہ ہے۔ وہ مرے گا نہیں اور عیسیٰ علیہ  
السلام پر موت آئے گی۔)

نجان کے عیسائی حضور علیہ السلام سے مدینہ پاک میں مناظرہ کو آئے تھے تو  
حضور ﷺ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کی تردید میں بیان فرمایا تھا کہ خدا تو زندہ ہے۔ مگر  
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فنا آئے گی۔ تو پھر کیسے خدا ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی زندہ ہیں  
اور پھر مریں گے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہوتے تو نبی کریم ﷺ الوہیت مسیح کے ابطال  
کے لئے مر جانے کا ذکر فرماتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ تھے اور  
مردود میں داخل نہ تھے۔

## مرزائی مناظر: یہ حدیث مرسل ہے اور قابل جحت نہیں

اسلامی مناظر: اس حدیث کا ناقابل استناد یا ناقابل جحت ہونا کسی دلیل سے ثابت  
کرو۔ ورنہ صرف آپ کے کہنے سے ایسی حدیث جس کو مفسرین نے صد ہا احادیث میں سند صحیح  
کے ساتھ درج کیا ہے۔ وہ مجرور نہیں ہو سکتی۔

اسلامی مناظر: ”قال سبحانہ و تعالیٰ اذ قال الله ياعیسی انى متوفیک و رافعک الیی ومطھرک من الذین کفروا و جاصل الدین اتبعوك فوق الذین کفروا الی یوم القيامة (آل عمران: ۵۵)“ ترجمہ: (از حضرت شاہ عبدالقدار صاحب دہلوی) جس وقت کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ میں تجھ کو بھرلوں گا اور انھالوں گا اپنی طرف اور پاک کروں گا کافروں سے اور جنہوں نے تیری پیری وی کی انتیں ان پر جنہوں نے انکار کیا فوقیت دینے والا ہوں قیامت کے دن تک۔

یہ آیت اس بات پر زبردست اور محکم دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ بحسرہ العصری آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ کیونکہ آیت میں لفظ عیسیٰ مراد ہے۔ نہ فقط جسم اور نہ تنی فقط روح بلکہ جسم مع الروح یعنی زندہ عیسیٰ۔ ہر چہار غمیروں کے خطاب کے مناطب وہی ایک عیسیٰ زندہ بعینہ ہے۔ کیونکہ غمیر خطاب معرفہ ہے اور بوجہ تقدیم عطف و تاخیر بطا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ چاروں واقعات (تو فی، رفع، تطمیر، غلبۃ العین) قیمت سے پہلے پہلے بعینہ حضرت عیسیٰ زندہ کے ساتھ ہو جائیں گے اور صیغہ اسم فاعل آئندہ کے لئے بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے: ”وَالْجَاعِلُونَ مَاعِلِيهَا صَعِيدًا جَرَزاً (کھف: ۸)،“ یعنی ہم یقیناً اسے جو اس (زمیں) پر ہے، ہمارا میدان سبزہ سے خالی بنانے والے ہیں۔“ اور مرزا قادیانی کو بھی اس آیت قادیانی اس الہام کے بعد بھی زندہ رہے اور مرزا قادیانی نے (براہین احمد یہ ص ۵۱۹، خزانہ اص ۲۲۰) حلال نکہ مرزا قادیانی کا تحریم ہوا تھا۔ (براہین احمد یہ ص ۵۱۹، خزانہ اص ۲۲۰) حالانکہ مرزا قادیانی اس الہام کے بعد بھی زندہ رہے اور مرزا قادیانی نے (براہین احمد یہ ص ۵۱۹، خزانہ اص ۲۲۰) کے حاشیہ پر اس کا ترجمہ لکھا ہے: ”اے عیسیٰ میں تجھ کو پوری نعمت دوں گا اور اپنی طرف اٹھالوں گا۔“ اور دوسری جگہ اسی (براہین احمد یہ ص ۵۵۷، خزانہ اص ۲۶۵) میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں: ”اے عیسیٰ میں تجھ کو کامل اجر بخشوں گا۔“

امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ توفی کی تین نوع ہیں۔ ایک موت۔ دوسرا نوم۔ تیسرا اصلاح ای السماء یعنی آسمان پر اٹھانا۔ اس جگہ پر آسمان پر اٹھانا مراد ہے۔ توفی کے حقیقی معنے ایک چیز کو پورا پورا لینا۔ اخذ الشئی و افیا استیفاء شی یا اتمام شے ہے جس جگہ بھی موت کے معنے لئے گئے ہیں۔ وہ بطور کنایہ کے ہیں۔ قرآن میں جس جگہ بھی توفی کا لفظ موت کے معنوں میں آیا ہے وہاں قرینہ موجود ہے۔ توفی ایک جنس ہے۔ لہذا اس کے تعلیم اور ازالہ و ہم کے لئے کسی قرینہ کی حاجت ہوگی۔ (سلم العلوم) اور پہلی دلیل کے ضمن

میں ہم ثابت کرچکے ہیں کہ دل رفعہ اللہ الیہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کارفع جسمانی ہوا۔ اس جگہ خداوند کریم نے فتح توفی کا ذکر فرمایا ہے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر (کبیر ج ۸ ص ۲۷) پر فرماتے ہیں: ”ان التوفی اخذ الشیء و افیا ولما علم اللہ تعالیٰ ان الناس من يخطر بباله ان الذی رفعه اللہ تعالیٰ هو روحه ولا جسده وذکر هذا الكلام ليدل على انه عليه الصلوة والسلام رفع بتمامه الى السماء وبروحه وبجسده“

\* یعنی توفی کے معنے کسی شے کو بجمعیع اجزاء لے لینے کے ہیں۔ چونکہ حق تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بعض لوگوں (جیسے مرزاں یوں کو) یہ سوس پیش آئے گا کہ حق تعالیٰ نے صرف روح کو اٹھایا اور بدن کو نہیں۔ اس لئے متوفیک فرمایا۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ بروحہ و بجسده آسمان پر اٹھائے گئے۔ \*

آگے چل کر امام مددوح اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ شبہ کیا جائے تو جب توفی اور رفع جسمانی کا ایک ہی مصدقہ ہے اور دونوں شئی واحدهیں۔ تو رافعک کا ذکر کرنا تکرار ہو گا۔ جواب یہ ہے کہ توفی ایک جنس کا مرتبہ ہے۔ تاوق تکیہ اس کے ساتھ کوئی قید مختص نہ کی جائے۔ اس وقت تک اس کی مراد نہیں معلوم ہو سکتی۔ اس لئے غور کیا گیا کہ وہ کون سی قید ہے کہ جو اس جنس سے ساتھ مختص ہو سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ قبض روح مع الارسال اور قبض روح مع الاماک اور اصعادالی السماء، اذل کا نام نہیں ہے اور ثانی کا نام موت ہے اور ثالث کا نام رفع جسمانی ہے۔ چونکہ تینوں نوع اسی ایک جنس توفی کے تحت میں درج تھیں۔ اس لئے ایک نوع متعین کرنے کے لئے لفظ رافعک آیت قرآنی میں اضافہ کیا گیا۔ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ توفی کی کون سی نوع مراد ہے۔ اگر توفی سے مراد نہیں جائے تو اس کے معنے یہ ہو سکتے ہیں کہ اسے عیسیٰ ہم تھیں سلا دیں گے اور آسمان کی طرف اٹھائیں گے۔ جیسا کہ تفسیر معالم المتریل اور درمنثور میں ہے کہ بوقت رفع حضرت عیسیٰ علیہ السلام حالت نیند ہیں تھے۔ حامد زخیری نے (اساس البانہ جلد دوم ص ۳۰۴) مطبوعہ مصر اور تاج العروس شرح قاموس (ج ۲۰ ص ۳۰۱) پر ہے کہ توفی سے مراد موت یعنی مجازی ہے۔ ومن المجاز ادركته الوفاة اور معنی مجازی مراد لیما وہاں جائز ہے۔ جہاں حقیقت معدز رہو۔ مجازی طرف جب ہی رجوع کیا جاتا ہے کہ جب معنی حقیقی کا ارادہ ناجائز اور ممتنع ہو جائے ورنہ جب تک حقیقت پر عمل ملن ہو گا۔ اس وقت تک مجازی طرف برگز رجوع نہیں کیا جائے گا۔ (سلم العلوم) شرع عقائد نفسی میں ہے النصوص تحمل على ظواهرها و صرف النصوص عن

ظواہرہا الحاد ہر ظاہر نص سے باکسی دلیل قطعی کے عوام کی توجہ جائز اور تراجم ہے۔ بلکہ احادیث اور زندقہ بے۔ لہذا اس آیت میں توفی کے حقیقی معنے لئے جائیں۔ وہ موت کے معنے میں اس جگہ یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔

پس اس آیت سے ثابت ہوا ہے کہ خداوند کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وحّمہ العصری زندہ آسمان پر انعامیاً اور قرآن میں رفع التوفی سے ان کے رفع انسانی و ظاہر فرمایا۔ مرزا ایمن مناظر: مرزا قادریانی نے براہین میں متوفیک کے جو معنے کئے ہیں وہ مامور و مرسل ہونے اور وفات مسح کے الہام سے پہلے کے ہیں۔ لہذا آپ نہیں ہمارے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔

۲..... مرزا قادریانی نے (ازالہ اوبام ص ۹۱۹، خزانہ ح ۲۲ ص ۶۰۳) میں اعلان کیا تھا کہ اللہ فاعل ہو اور مفعول ہی روح ہو۔ باب تفعیل ہو اور وہاں نوم کا قرینہ موجود ہو تو جو شخص لفظ توفی سے موت کے سوا کوئی اور معنی قرآن یا لغت عربی سے ثابت کر دے گا۔ اس کا یہ بذار پیغمبر نقد انعام دیا جائے گا۔ اس پیغمبر کوئی سال گذر چکے ہیں۔ آن تک یہ کسی کو یہ انعام حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ آپ میں بھی بہت ہے تو یہ انعام حاصل کر لیں۔

۳..... رئیس المفسرین حضرت عبد اللہ ابن عباس نے متوفیک کے معنے متفقیک کئے ہیں۔ دیکھو تعلیقات بخاری۔ پس حضرت عبد اللہ ابن عباس کے مقابله میں سی کی تغیر معتبر نہیں ہو سکتی۔ رسول ﷺ نے ان کے لئے دعائی تھی اور صحیح بن ریز اسی انتہب ہے۔ اس میں یہ قول موجود ہے۔

۴..... بعض مفسرین مثلاً ابن کثیر و فتح الہیان وغیرہ نے بحث آیہ متوفیک میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین گھنٹے یا سات گھنٹہ مرنے تھے۔

اسلامی مناظر: پہلے یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ براہین احمد یا ان تصنیف کے وقت مرزا قادریانی ملہمہ مامور اور مجدد ہونے کے مدعا تھے اور الرحمن علیم القرآن کا انہیں الہام ہو چکا تھا۔ مگر آپ کی اطمینان کے لئے (سراج منیہ ص ۲۲، خزانہ ح ۲۲ ص ۶۰۳ حاشیہ) اک حوالہ دیا جاتا ہے۔ وہ ان منیر لکھتے وقت مرزا قادریانی مدعا رسالت اور حضرت مسح علیہ السلام کی دفات کے قائل تھے۔ حاشیہ مذکور پر اس الہام یا عیسیٰ ای متوفیک کے متعلق لکھتے ہیں کہ الہام کے یہ معنے ہیں کہ ”میں تجھے ایں ڈیل اور اختی موقوں سے بجاوں گا۔“ پس ثابت ہوا کہ متوفیک کے معنے موت سے بچانے تھے۔ پس مرزا نیوں کا کوئی حق نہیں کہ آس جگہ توفی کے معنی موت مردیں۔

۲۔ (مولانا ابوالقاسم نہجیں صاحب نے جواب دیا کہ) سالہا سال سے میں مرزا نے قادیانی، اس تحدی کو توڑنے کے لئے آمادہ ہوں۔ مرزا یوں کو چیلنج دئے گئے مرزا محمد کو رجسٹری کر کے خطا لکھا ہے۔ احდل میں مکتوب مفتوق شائع کیا۔

رسالہؐ ساسلام میں اتمام محنت کے لئے کھلا چیلنج دیا۔ ہر مناظرہ میں اعلان کیا جاتا ہے۔ مگر مرزا ای جاقوں میں موت کا سنا ناطاری ہے۔ اسی جانب سے کوئی آواز نہیں آتی۔ ہر مناظرہ میں لدکا رکھ کر کیا جاتا ہے کہ اگر تم پیغام بتو تحدی کرنے والے کے طف و خیفرہ مرزا محمود کی سند نہماں دنگی و نیابت حاصل کر کے بعد تصفیہ شرائط میرے ساتھ فیصلہ کرو۔ مگر لیا وجہ ہے کہ طوطے کی طرف ہر جگہ ایک ہی سبق رہنا آپ نے اپنا شعار بنایا ہے۔ عوام الناس کے سامنے اس چیلنج کا ہے کہ کر کے ان کو مقاومت دینا آپ کا شیوه ہو چکا ہے۔ مرزا یکو امر دیداں بنو۔ اگر کچھ شرم ہو جیا ہے تو اس چیلنج کا کبھی نام نہ ہو۔ یا اگر بہت ہے تو یہ سے تھا آخری فیصلہ کرو۔

نوٹ! مناظروں میں اسی جگہ مولانا ابوالقاسم کے چیلنج کو قبول کرنے کی مرزا یوں کو بہت نہ ہوئی۔ اشتہار بھی طبع کر اکر تمام پنجاب میں تقسیم کئے گئے۔ ۱۹۳۲ء کے جلسہ قادیان پر کئی سو اشتہار تقسیم ہوئے۔ مگر مرزا ای ساکت و صامت ہیں۔

۳۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس حضرت عیسیٰ ملیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں۔ (طبقات ابن سعد ان ۸۵) پر حضرت عبد اللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ: "ان الله رفعه بجسده وانه حى الان وسيرجع الى الدنيا فيكون فيها ملكا ثم يموت كما يموت الناس" ۴۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ملیہ السلام کو جسم کے ساتھ اٹھایا اور وہ یقیناً زندہ ہیں اور دنیا پر بچھ آئیں گے اور اس میں باادشا ہی کریں گے۔ پھر عام آدمیوں کی طرف وفات پائیں گے۔

ایسی ہی تجھے روایت تفسیر (روزنامہ عائلہ نصیح ۱۵۱، تفسیر ابن السعو، ج ۲ ص ۲۶۳ تفسیر فتح البیان ج ۲ ص ۲۹۲) پر موجود ہے۔

پھر سر ایوس کا فرض ہے کہ اسی افسوس زین کی تفسیر کے مطابق حضرت عیسیٰ ملیہ السلام کی حیات میں قتل ہو جائیں۔ ممکنہ، ان تفسیر حضرت ابن عباس سے ثابت نہیں۔ حافظ ابن حجر الرشید نے اس قول (بہد ۳ ص ۲۹۰) پر نقش کیا ہے۔ اس میں حضرت ابن عباس سے روایت کریں۔ اسے دراویز کہ: میں بن طحبہ جس کی نسبت (میران ایجاد ۱ ج ۵ ص ۱۶۳) میں اور (تجذیب ابن زید ۱ ج ۲۳)، میں ضعیف الحدیث لکھا ہے۔ نیز ضعیف الحدیث اور منکر الحدیث

ہونے کے علاوہ حضرت ابن عباسؓ سے اس کا سامع بھی ثابت نہیں۔ اس نے حضرت ابن عباسؓ کو دیکھا بھی نہیں۔ پس یہ روایات صحیح کے مقابلہ میں پیش نہیں ہو سکتی۔

بخاری کے اصح الکتب ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کتاب کی حدیث مرفو عنہا یہ صحیح اور قابل اعتماد ہیں۔ اس پر اجماع ہے۔ مگر تعلیقات اور موقوفات کے متعلق یہ اجماع نہیں ہے۔ یہ روایت تعلیقات میں سے ہے۔ پس یہ اس اجماع سے خارج ہے۔ حافظ ابن الصلاح کے (مقدمہ علم الحدیث ص ۳۰) میں اس امر کی تصریح موجود ہے۔

۲..... مفسرین کرام نے تردید کی غرض سے عیسائیوں کا یہ قول نقل کیا ہے۔ جیسے تفسیر (فتح البیان ج ۲ ص ۲۳۶) پر اس قول کے بعد درج ہے۔ وفیه ضعف اور تفسیر (ابن کثیر ج ۲ ص ۳۹) پر ہے: ”والنصاری یزعمون ان الله تعالیٰ توفاه سبع ساعات ثم احیاء“، یعنی نصاری کا یہ گمان ہے کہ حق تعالیٰ نے سات گھنٹہ (مسکح کو) مردہ رکھا اور پھر زندہ کر کے آسمان پر اٹھالیا اور تفسیر (روح الانعانی ج ۳ ص ۱۵۸) پر اس قول کے متعلق ہے کہ: ”انها من زعم النصاری“، یہ نصاری کے گمان میں ہے اور ما هو الا افتراء وبهتان عظیم اور یہ افتراء اور بہتان عظیم ہے۔ مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ:

”والصحيح كما قاله القرطبي ان الله تعالى رفعه من غير وفاة ولا نوم وهو اختيار الطبرى والرواية الصحيحة عن ابن عباس“ (روح المعلاني ج ۳ ص ۱۵۸)، اور امام القرطبی فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر موت اور زندگی کے زندہ آٹھالیا اور عبد اللہ بن عباس کا صحیح قول ہی کی ہے۔

قابل غور یہ امر ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے تھے۔ قتل کا سامان تیار تھا۔ اس وقت خداوند کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تسلی کے لئے ان سے توفی و رفع کا وعدہ فرمایا۔ اب اگر توفی کے معنی موت کے لئے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ یہودی مارنے کے درپے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا سے انجام کی۔ خدا نے بھی فرمایا کہ میں تمہیں مارنے والا ہوں۔ بتاؤ اس میں کوئی تسلی ہے؟ اور قرآن میں اس جگہ موت کے معنی کرنے سے کلام میں کوئی خوبی پیدا ہوتی ہے؟ جبکہ محافظ حقیقی بھی مارنے پر آمادہ ہو چکا ہو تو حضرت مسیح علیہ السلام کے لئے تسلی و اطمینان کا کونسا موقع ہو سکتا تھا؟۔ پس اس جگہ موت کے معنی لینا قواعد عربیت سیاق و سبق قرآن اور انعکس کی قید کے ہوتے ہوئے لینا کسی طرح جائز نہیں۔

نیز قرآن میں توفی کے ساتھ رفع کا ذکر ہے اور آیت بل رفعہ اللہ الیہ کے مطابق رفع قتل صلیبی کے وقت ہوا۔ اگر اس جگہ توفی کے معنی موت کے لئے جائیں تو یہ رد کا قول اننا قتلنا المسیح سے ثابت ہوتا ہے۔ موت کا سامان اس وقت وہی تھا جو یہودیوں نے تیار کر کھا تھا اور اگر سوائے قتل کے موت کا اور ذریعہ تسلیم کیا جائے تب بھی مانا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل صلیبی کے وقت فوت ہوئے تھے۔ اس سے کشمیر کی زندگی کا قصہ باطل ثابت ہوتا ہے۔ مرزا ای حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل صلیبی کے بعد کشمیر میں ۷۸ سال زندہ رہنے کے قائل ہیں۔ لہذا ان کے عقیدہ کے مطابق بھی اس جگہ توفی کے معنے موت کے نہیں لئے جاسکتے۔

### تینوں میں دلیل

اسلامی مناظر: ”قال سبحانه تعالیٰ و كنت عليهم شهيداً مادمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم (مائده: ۱۱۷)“ (میں اس پر نگہبان رہا۔ جب تک ان میں رہا پھر جب تو نے مجھ کو اٹھالیا تو پھر تو ہی ان پر مطلع رہا۔)

یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن امت کے بارہ میں سوال ہو گا تو یہ ارشاد فرمائیں گے کہ جب تک میں زندہ رہا۔ اس وقت تو میں نگہبان رہا اور جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھالیا اس وقت آپ ہی نگہبان تھے۔ اس میں لفظ توفیتني کا ترجمہ حضرت شیخ سعدیؒ نے ”مرا گرفتی“ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے ”بر گرفتی مرا“ کیا ہے۔ تفسیر (فتح البیان ج ۹۲ ص ۶۰) میں اس کا معنی ”فلما رفعتني الى السماء“ کیا گیا ہے۔ (روح العالمی ج ۲۰ ص ۶۰) پر مذکور ہے: ”فلما توفيتني“ ای قبضتني بالرفع الى السماء تفسیر (خازن ج اصل ۵۳۲) پر مرقوم ہے: ”فلما توفيتني“ یعنی فلما رفعتني فالمراد به وفاة الرفع لا الموت!

پس اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر جانا ثابت ہے۔

مرزا ای مناظر: اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے بھی فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کہوں گا: ”فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم (صحیح بخاری)“ میں آنحضرت ﷺ نے اپنے لئے بھی حضرت مسیح کی طرف توفیتی کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جس طرح نبی کریم ﷺ کی توفی ہوئی اسی طرح مسیح علیہ السلام کی بھی ہوئی۔ رفع آسمانی مراد لینا کسی طرح جائز نہیں۔

۲..... آیت سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھے نصاریٰ کا عقیدہ بگز نے کا علم نہیں۔ بلکہ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ ورنہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب نلط ہو گا۔ کیونکہ بعد نزول وہ نصاریٰ کے عقیدہ سے مطلع ہو چکے ہوں گے۔

نیز اسی آیت سے ثابت ہے کہ حضرت مسیح کی زندگی میں عیسائی نہیں بگزے۔ پس اب وجود تیثیس کے ہوتے ہوئے ماننا پڑتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہیں۔

۳..... آیت میں مسیح کی دوزندگیوں کا ذکر ہے۔ ایک مادمت فیهم اور ایک بعد توفی جس کے متعلق فرمائیں گے کہ کنت انت الرقیب علیہم! تیسری کسی زندگی کا اس آیت میں ذکر نہیں۔ پس اس آیت کے مطابق جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے اپنے حواریوں میں موجود ہے۔ آسمان کی زندگی کا کوئی شوت نہیں ملتا۔

اسلامی مناظر: توفی کی بحث بائیسوں دلیل کے ضمن میں ہو چکی ہے۔ اس آیت سے توفیقی سے مراد ”جبکہ تو نے مجھے مار دیا“ لیتا از روئے تو اعد عربیت جائز نہیں۔ صحیح بخاری کی جو حدیث آپ نے پیش کی ہے اس میں بنی کریم ﷺ نے اپنے قول کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور نہیں فرمایا ”فاقول ماقال العبد الصالح“ بلکہ ”فاقول کما مقال“ فرمایا۔ کیونکہ عبارت اولیٰ کا مطلب تو یہ ہے کہ میں وہی ہوں گا جو حضرت عیسیٰ کہیں گے اور عبارت ثانیہ کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی مانند کہوں گا۔ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ بنی کریم ﷺ کی توفی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کے بالکل مغایر ہے۔ کیونکہ یہ مسئلہ مسلم ہے کہ مشہد اور مشہدہ بہ مغایر ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ بنی کریم ﷺ کی توفی بذریعہ موت ہوئی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی قطعاً یقیناً رفع جسمانی اور اصعاد الی السماء کے ذریعہ سے ہوئی چاہئے۔

قرآن کریم میں ہے: ”اَنَا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا كَمَا اَرْسَلْنَا إِلَيْ فِرْعَوْنَ رَسُولًا (ال默罕مند: ۱۵)“ یعنی ہم نے تمہاری طرف رسول شاہد بھیجا۔ جیسا کہ فرعون کی طرف رسول بھیجا گیا تھا۔ اب مرا زیبوں کے قول کے مطابق بنی کریم ﷺ کی رسالت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت ایک جیسی ہوئی چاہئے۔ کیونکہ ان کے نزد یہی مشہد اور مشہدہ میں مشارکت تام ہوئی چاہئے۔ حالانکہ رسول ﷺ کی رسالت عامہ اور مویٰ علیہ السلام رسالت خاصہ ہے۔

۲..... آیت میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصاریٰ کے بگز نے سے لاعلمی کا اظہار کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال

اشاعت تثییث کا نہ ہوگا۔ بلکہ تعلیم تثییث کے متعلق پوچھ جائے گا کہ انت قلت للناس! کیا تم نے اس کی تعلیم دی تھی؟ تم ہو یا کوئی اور؟ اس کا جواب آپ نفی میں دیں گے۔ علم کے متعلق کوئی سوال ہی مذکور نہیں۔ مرزا قادریانی نے (کشی نوح ص ۶۰، خزانہ نج ۱۹، ص ۵۶ مخصوص حاشیہ) پر تسلیم کیا ہے کہ ”حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی ہی میں (قیام کشمیر کے دوران میں) حواریوں میں تثییث کا عقیدہ رائج ہو گیا تھا۔“ مرزا ملاحظہ کریں۔ (چشمہ معرفت ص ۲۵۳، خزانہ نج ۲۳ ص ۲۲۶، تحدہ گلڑی ص ۱۲، خزانہ نج ۱۴ ص ۳۳) لہذا آپ کا یہ کہنا کہ حضرت مسیح کی زندگی میں یہ عقیدہ نہیں پھیلا۔ مرزا قادریانی کی تصریح کے خلاف ہے اور آیت قرآن نے آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا۔ نیز مرزا قادریانی (آنکہ کلامات اسلام ص ۲۶۸، خزانہ نج ۵ ص ایضاً حاشیہ) میں تسلیم کرتے ہیں کہ ”نصاریٰ کی اہتمی کا حال آسمان پر بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو عدم ہے۔“ پس کذب بیانی کا الزام بہوجب تعلیم مرزا یہ بھی عائد ہو سکتا ہے۔

۳ ..... ”مادمت فیهم فلما توفیقتنی“ میں فاجو تعقیب مع الترکیب کے لئے وہ ترتیب کافاً نکدہ دیتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مادمت فیهم معاً بعد توفی ہوئی۔ پس بہوجب عقیدہ مرزا یہ فتنہ صلیبی کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی۔ مگر مرزا قادریانی فتنہ صلیبی کے بعد کشمیر میں ۷۸ سال کی زندگی کے قائل ہیں۔ نیز انت قلت للناس میں لام تبلیغ کے لئے ہے۔ للناس سے مراد حواری ہیں۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تمام عمر حواریوں میں رہنا ضروری ہے۔ مگر مرزا ای اس کے برکت مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روپوش ہو کر کشمیر چلے گئے اور وہاں ۷۸ سال زندہ رہ کر فوت ہوئے۔ پس آپ جہاں سے ۷۸ سال زندگی ثابت کریں گے ویں سے آسان کی زندگی بھی ہم ثابت کر دیں گے۔ جس طرح آپ ایک تیسری زندگی کے قائل ہیں اسی طرح ہم بھی ہیں۔ اس سے ماننا پڑتا ہے کہ اس جگہ توفیقتنی سے موت کے معنے لینا کسی طرح جائز نہیں۔

نوٹ: مولانا ابوالقاسم کے اس الزامی جواب کا کوئی معقول یا غیر معقول جواب کسی مناظرہ میں کسی مرزا ای مناظر نہیں دیا۔

### چوبیسویں دلیل

اسلامی مناظرہ: ”قال سبحانہ تعالیٰ هو الذی ارسّل رسوله بالهدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ (توبہ: ۳۳)“ ﴿خدا وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول ہدایت دے کر بھیجا۔ تا کہ تمام مذاہب پر دین حق کو غالب کرے۔﴾

اس آیت میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کا ارشاد ہے۔ کیونکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے عہد میں اسلام ہی اسلام ہوگا۔ اوسے مذاہب کا نشان تک نہ ہوگا۔ مرزا قادیانی (براہین احمد یہ حصہ چہارم ص ۳۹۸ حاشیہ در حاشیہ، خواجہ ان ح ص ۵۹۳) پر اس کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔

**مرزا ایمنا ظر:** یہ آیت مرزا قادیانی کے حق میں پیشیں گئی تھی۔ مرزا قادیانی کے ذریعہ دنیا کے تمام مذاہب پر اسلام کی فویت ظاہر ہوئی۔ دلائل و برائین اسلام کی صداقت میں جو مرزا قادیانی نے لکھے ہیں ان کے ذریعہ غلبہ اسلام کو ہوا۔

**اسلامی مناظر:** مرزا قادیانی کے ذریعہ جو کچھ اسلام کی فویت دنیا پر ظاہر ہوئی اس کی حقیقت ظاہر کرنے کا موقع نہیں۔ آپ کی یہ تفسیر مرزا قادیانی کی تفسیر کے خلاف ہے۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ: ”یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیشیں گئی ہے۔ (حوالہ بالا)“ بتائیے مرزا قادیانی کو سیاست ملکی میں کونسا غالبہ حاصل ہوا۔ تمام عمر انگریزوں کی غلامی پر فخر و نازکرتے رہے۔ اس لئے یہ پیشیں گئی مرزا قادیانی پر چسپاں نہیں ہو سکتی۔

### چھیسویں دلیل

**اسلامی مناظر:** ”قال سبحانه و تعالیٰ عسى ربکم ان یرحمک و ان عدتم عدنا (بنی اسرائیل: ۸)“ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے لئے پیشیں گئی موجود ہے۔ یعنی ایک وقت آئے گا جب کہ مغلوق خدا ظلم و گمراہی کی انتہا کو پہنچ جائے گی۔ اس وقت کے لئے مرزا قادیانی (براہین احمد یہ جلد چہارم ص ۵۰۵، خواجہ ان ح ص ۶۰ حاشیہ) پر اس آیت کے تحت میں لکھتے ہیں: ”وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدائے تعالیٰ مجرمین کے لئے شدت اور عنف اور قہر اور سختی کو استعمال میں لائے گا اور حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے۔“

**مرزا ایمنا ظر:** یہ پیشیں گئی بھی مرزا قادیانی کے ظہور سے پوری ہو چکی ہے۔

**اسلامی مناظر:** مرزا قادیانی کی تصریح کے مطابق مسیح موعود کی جلالیت کے ساتھ آنا ضروری ہے اور اس کے ذریعہ دنیا میں شدت، عنف، قہر و سختی کا ہونا ضروری ہے۔ مگر مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میں جمالی رنگ میں آیا ہوں۔ پس مرزا قادیانی اس کے مصدق نہیں ہو سکتے۔

## چھیسویں دلیل

امام احمد نے اپنی (محدث حجر بن عاصی میں اور ابو داؤد حجر بن عاصی میں باب نزوح الدجال) اور ابن حجر یونس نے حدیث نقل کی ہے جس کے متعلق (فتح الباری ج ۲ ص ۳۵۷) میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کی اسناد سب صحیح ہیں۔ وہ ہے:

عن أبي هريرة قال النبي ﷺ :

”الأنبياء أخوة العلة أمهاتهم شتى ودينهن واحدونا نحن أولى الناس  
بعيسى بن مریم لأنه لم يكن نبی بیني وبينه وأنه نازل فإذا رأيتموه  
فأعروفوا رجل مربوع الى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصاران كأن راسه  
يقطر و ان لم يصب به بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية  
ويدعوا الناس الى الاسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام ويهلك  
الله في زمانه المسيح الدجال وتقع الامانة على الارض حتى ترتع الاسود مع  
الابل والنمار مع البقر والذباب مع الفنم ويلاعب الصبيان بالحيات  
لاتضرهم فيمكث اربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون“

﴿نَبِيٌّ كَرِيمٌ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء علائی بھائی ہیں۔ ماںیں ان کی مختلف  
ہیں۔ دین (اصول) سب کا ایک ہے اور میں اور عیسیٰ بہت ہی قریب ہیں۔ کیونکہ میرے اور ان  
کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا اور وہ ضرور قیامت کے دن نازل ہوں گے۔ میانہ قد ہوں گے۔ سرخی  
اور سفیدی کے ماہین ہوں گے اور ان پر دورنگی ہوئے کپڑے ہوں گے۔ گویا ان کے سر سے پانی  
ٹپک رہا ہے۔ اگرچہ کسی قسم کی تری نہیں کچھی ہے۔ صلیب کو توڑیں گے اور جزیہ کو اٹھادیں گے اور  
سب کو اسلام کی طرف بلا میں گے اور حق تعالیٰ ان کے زمانہ میں تمام ملتوں کو منسوخ فرمائیں گے۔  
پھر روئے زمین پر امن ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ شیر اونٹوں کے ساتھ اور چیتے گائے نیل کے ساتھ اور  
بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ چڑنے لگیں گے اور بچے سانپوں کے ساتھ کھینڈنے لگیں گے اور حضرت  
عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال نہبریں گے اور اس کے بعد وفات پائیں گے اور مسلمان ان کے  
جنازہ کی نماز پڑھیں گے۔﴾

## ستائیسویں دلیل

اسلامی مناظر: (مکملۃ ثریف ص ۲۸۰، باب زوال عیسیٰ علیہ السلام) میں ایک حدیث ہے  
کہ رسول ﷺ نے فرمایا کہ: ”ینزل عیسیٰ بن مریم الی الارض فیتزوج ویولد

لہ ویمکث خمساً واربعین سنتہ ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا  
وعیسیٰ بن مریم فی قبر واحد بیس ابی بکر و عمر،<sup>ؑ</sup> (حضرت عیسیٰ بن مریم زمین پر  
اتریں گے اور نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی اور پیتا لیس سال دنیا میں رہیں گے۔ پھر فوت  
ہوں گے۔ پس میرے پاس میرے مقبرے میں دفن ہوں گے۔ پس میں اور عیسیٰ بن مریم ایک ہی  
قبر سے اٹھیں گے۔ درمیان میں ابی بکر اور عمر کے۔<sup>ؑ</sup>

اس حدیث میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے  
اور جب کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص لا ہور جائے گا تو اس وقت وہ شخص لا ہور میں وارد شدہ سمجھا نہیں  
جاتا۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر موجود نہیں ہیں اور آخری زمانہ میں  
زمین پر نازل ہوں گے اور کئی سال دنیا میں رہ کرفوت ہوں گے۔ دنیا میں رہ کر نکاح کریں گے۔  
صاحب اولاد ہوں گے۔ بعد وفات آنحضرت ﷺ کے روضہ اقدس میں دفن کئے جائیں گے۔ ثم  
یموت کے لفظ سے ظاہر ہے کہ ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔

(ترمذی ج ۲۴ ص ۳۰۲ باب ماجاء فی فضل النبی ﷺ میں ابو مودود سے روایت ہے کہ: ”وَقَدْ  
بَقِيَ فِي الْبَيْتِ مَوْضِعُ قَبْرٍ“ یعنی روضہ نبوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ایک قبر کی  
جگہ باقی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ فی قبری سے موضع قبر یعنی مقبرہ مراد ہے۔

مرزا ای مناظر: یہ حدیث صحیح نہیں۔ کیونکہ کون بے غیرت مسلمان ہے جو حضور نبی  
کریم ﷺ کا روضہ کھو دکر آپ کی غشی مبارک کونہا کر کے حضرت عیسیٰ کو دفن کرے گا۔ قبر بمعنے مقبرہ  
کسی لغت سے ثابت نہیں۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہؓ نے رؤیا میں صرف تین چاندوں کو روضہ میں  
دفن ہوتے دیکھا۔ (موطا امام مالک) وہاں تین قبریں موجود ہیں۔ چوتھے چاند کا وہاں دفن ہونا  
اس رؤیا کے خلاف ہوگا۔ علامہ عینی نے لکھا ہے یہ دفن فی الارض المقدسة اس سے ثابت  
ہوا کہ علامہ عینی کے نزد یک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں دفن ہوں گے۔ الی الارض کا  
لفظ آسمان سے اتر نے کو سلزام نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں بعلم بعوری نسبت وارد ہے: ”ولَا كَه  
أَخْلَدَ الْأَرْضَ (الاعراف: ۱۷۶)“ کیا وہ بھی زمین پر نہ تھا۔

اسلامی مناظر: یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی صحت کی تصدیق مرزا قادری بھی کر چکے  
ہیں۔ (ضییر انجام آنکھ مص ۵۳، بخاری ج ۱۱ ص ۳۳۷) کے حاشیہ پر اس حدیث کے ایک جملہ میتزوج  
ویولد لہ کو اپنے اوپر چپاں کرتے ہیں اور اس سے مراد محمدی یہ گم سے نکاح اور اس کے لئے  
سے اولاد حاصل ہونا مراد لیتے ہیں اور اپنے صحیح موعد ہونے کا اسے ایک نشان قرار دیتے ہیں۔

اس لئے مرزا بیوں کا کوئی حق نہیں کہ اس حدیث کی صحت پر اقتراض کریں۔

قبر بمعنے مقبرہ (مکلوۃ شریف ص ۳۸۰) ملا علی قاری کی (مرقات ج ۱۰ ص ۲۳۳) کے حوالہ میں درج ہے۔ نیز مرزا قادیانی نے بھی ان معنوں کو تسلیم کیا ہے۔ لکھتے ہیں: ”مملکن ہے کہ کوئی مثل مسح ایسا بھی آجائے جو آنحضرت ﷺ کے روضہ کے پاس مدفن ہو۔“ (ازالہ اوابام ص ۳۵۲، خزانہ ج ۳ ص ۳۵۲ عاشیر) اس حوالہ سے قبر بمعنے روضہ (مقبرہ) بھی مانا گیا ہے اور پاس دفن ہونا بھی مانا گیا ہے۔

ینزل الی الارض ! کے بجائے ”اخلد الی الارض (اعراف: ۱۷۶)،“ پیش کرنا بھل ہے۔ اخلد الی الارض میں تو اخلد خود موجود ہے کہ وہ شخص پہلے ہی زمین پر موجود تھا۔ اسی طرح علامہ عینی کا لکھنا بھی ہمارے خلاف نہیں۔ کیا روضہ نبویہ ارض مقدس نہیں؟ حضرت عائشہؓ کو جو تین چاند دکھائے گئے تھے۔ اس کے مطابق تین چاند ابو بکرؓ، عمرؓ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روضہ مبارک میں مدفن ہوں گے۔ نبی کریم ﷺ کے چاندنہ تھے۔ سورج تھے۔ جس کی ضیاء سے یہ چاند روشن ہوں گے۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہؓ کی زندگی میں صرف تین قبریں تیار ہونے والی تھیں۔ اس لئے صرف تین چاند آپ کو دکھائی دیئے۔ چوتھے چاند حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ان کی زندگی میں نازل ہوئے اور نہ ہی دفن ہوئے۔ اس لئے روایا میں وہ آپ کو نہ دکھائے گئے۔

### امثال میسیوس و دلیل

”عن عبد الله ابن سلام يدفن عيسى ابن مريم مع رسول الله ﷺ“  
وصاحبیہ فیکون قبره رابعاً (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۰۹، درمنثور ج ۲ ص ۲۴۶)  
ومثله في التاريخ الكبير للبخاري ج ۱ ص ۲۶۳ ثم قال مكتوب في التوراة صفة محمد ﷺ  
وعيسى بن مريم يدفن معه، ترمذی ج ۲ ص ۲۰۲ باب فضل النبي ﷺ“  
”عبد الله ابن سلام“ سے روایت ہے کہ عیسیٰ ابن مريم رسول ﷺ اور آپؐ کے دونوں صحابیوں کے ساتھ دفن ہوں گے اور ان کی قبر چوتھی ہوگی۔ نیز فرمایا کہ توریت میں محمد ﷺ کی صفت درج ہے کہ عیسیٰ ابن مريم ان کے ساتھ دفن ہوں گے۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر روضہ اقدس میں چوتھی ہوگی۔

### انتیسوں دلیل

”عن عائشه قالت قلت يا رسول الله ﷺ انى ارى ان اعيش بعدك“

فتاؤن لیسی ان ادفن <sup>لی</sup> جنیک فنال انی لک بذالک الموضع مافیه الا موضع  
قدی و قبر ابی بکر و عمر و عیسی ابن مریم (امتدج، ص ۵۷ مذکوب کنز العمال،  
ابن عساکر ج ۲۰، ص ۱۵۴، کنز العمال ج ۱۴، ص ۶۲ حدیث ۳۹۷۲۸) ”حضرت عائشہ  
نے (مرض موت) میں عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں تو مجھا پس پہلو میں دفن  
ہونے کی اجازت عطا فرمائی۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ تیرے لئے اس موضع میں جگہ نہیں ہے۔  
اس میں صرف میری قبر، ابو بکر، عمر اور عیسیٰ بن مریم کی قبر کی جگہ ہے۔“  
**اتیسوں دلیل**

”عن ابا هریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ کیف انتم اذا نزل ابن  
مریم من السماء فیکم واماکم منکم (كتاب الاسماء والصفات للبيهقي ص ۴۲۴)“  
حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ کیا حال ہو گا تمہارا کہ جب عیسیٰ بن مریم آسمان سے تم میں  
نازل ہوں گے اور حالانکہ تمہارا امام تم میں سے موجود ہو گا۔“

یعنی اوہر دجال ہو گا اور ہر امام مہدی جماعت کو لے کر کھڑے ہوں گے۔ لہائی تیار ہو گی  
اور اس طرف زوال مسح ہو گا تو یہ ایک عجیب کیفیت ہو گی۔ مرزاقادیانی نے امامکم منکم کو ابن مریم پر  
معطوف بنا کر یوں معنی کیا ہے کہ جب ابن مریم اترے گا اور تمہارا امام جو تم میں سے ہو گا اس طرح  
ترجمہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ عیسیٰ بن مریم مسلمانوں میں سے پیدا ہو گا۔ مگر معطوف اور  
عطف علیہ دو انگل گل ہوتے ہیں۔ تو معنے صحیح یوں ہے کہ عیسیٰ بن مریم بھی اتریں گے۔ اب اگر  
اتر نے کامیٹے بقول مرزاقادیانی پیدا ہوتا ہے تو مرزاقادیانی سے پہلے امام مہدی کا پیدا ہونا ضروری  
ہو گا۔ مگر مرزاقادیانی امام بھی تو وہی بنتے ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ عطف فسیر ہے۔ غلط ہے۔ کیونکہ عربی  
میں عطف فسیری عطف بیان کو کہتے ہیں۔ وہاں صرف عطف وہیں ہوتا اور فسیر کے لئے کبھی  
نہیں آئی۔ پس ثابت ہوا کہ محض خیالی فسیر سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ یہ جملہ حالیہ ہے۔ اس کا  
ترجمہ جو اور پرکھا گیا ہے وہی صحیح ہے۔ حضرت مسح بن مریم ناصرہ علیہ السلام ہی نازل ہوں گے۔  
**اتیسوں دلیل**

اجماع امت سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ امت محمدیہ کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ  
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحدہ الحصر ہی آسمان پر زندہ اٹھائے گئے۔ اب تک زندہ ہیں اور آخری  
زمانہ میں زمین پر نازل ہوں گے۔

(تفسیر بحر الجمیل ج ۲ ص ۵۶)، زیر آیت اذقال اللہ یعیسیٰ انی متوفیک) پر ہے: ”قال

ابن عطیہ واجماعت الامۃ علی ماتضمنه الحدیث المتواتر ان عیسیٰ فی السمااء حیی وانہ ینزل فی آخر الزمان ”﴿تَعْلَمَ أَمْتَ كَا اس پر ابہام ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بمسجدہ العصری آسمان پر زندہ موجود ہیں اور قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ جیسا کہ حدیث متواترہ کے مطابق سے معلوم ہوتا ہے۔﴾

علامہ آلوی (تفہیر روح المعانی ج ۳۲ ص ۳۲۲) تحت آیت خاتم النبیین پر اس سوال کے جواب میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ختم نبوت کے بعد کیسے تشریف لاسکتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

”لَا يُقْدِحُ ذَلِكَ مَا جَمَعَتِ الْأَمَةُ وَاشْتَهَرَتِ فِيهِ الْأَخْبَارُ وَلَعْلَهَا بُلْغَتْ مِبْلَغُ التَّوَاتِرِ الْمَعْنُوِيِّ وَنَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ عَلَى قَوْلِ وَوْجَبِ الْإِيمَانِ بِهِ وَكُفُرِ مُنْكَرِهِ كَالْفَلَّا سَفَةً مِنْ نَزْوَلِ عِيسَى عَلِيِّهِ السَّلَامُ آخِرُ الزَّمَانِ لَأَنَّهُ كَانَ نَبِيًّا قَبْلَ تَحْلِيَ نَبِيَّنَا ﷺ بِالنَّبِيَّةِ فِي هَذِهِ النَّشَأَةِ“

حضرت امام اعظم (قداً کبرص ۹، ۸) میں فرماتے ہیں: ”ونزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء حق کائن“ (شرح عقائد نافی ص ۱۷۳) میں ہے: ”ونزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء ..... فهو حق“.

اہل سنت والجماعت کے زدیک دین کے چار مأخذ ہیں۔ کتاب، سنت، اجماع امت اور قیاس آئمہ مجتہدین۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج تک امت محمدیہ کا اس پر ابہام چلا آ رہا ہے۔

### تیسیویں دلیل

”عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَ تَهْلِكَ أَمَةً أَنْفَى أَوْلَاهَا وَعِيسَى ابْنُ مَرِيمٍ فِي آخِرِهَا وَالْمَهْدِيُّ فِي أَوْسِطِهَا (احمد ج ۶ ص ۲۶۶ کنز العمال ج ۱۴ ص ۲۶۶، حدیث نمبر ۳۸۶۷۱، ابو نعیم الحاوی للفتاوی ج ۲ ص ۶۴)“ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ وہ امت ہرگز ہلاک نہ ہوگی جس کے اول میں میں موجود ہوں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ بن مریم کے درمیان مهدی۔﴾ اس حدیث میں اس امت کے تین محافظ الگ الگ بیان کئے گئے ہیں۔ اول تو خود حضور نبی کریم ﷺ۔ دوم عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرا امام مهدی علیہ الرضوان جو پہلے دو کے درمیان آئیں گے۔ اب اگر ایک کو دوسرا سے میں داخل کریں۔ جیسا کہ مرزائی از روئے بروز کرتے ہیں تو تین ہستیاں الگ الگ نہیں رہ سکتیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

زندہ ہیں اور آخری زمانہ میں اس امت کی نفاذت کریں گے۔  
پیشیسوں دلیل

”عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ فعند ذلك ينزل أخي

عيسي بن مریم من السماء (کنز العمال ج ۱۴ ص ۶۱۹ حدیث نمبر ۲۹۷۲۶)“

اس حدیث میں آسمان سے نزول صاف طور پر مذکور ہے۔

چوتھیسوں دلیل

”عن أبي هريرة قال قال رسول الله ليهلا عيسى ابن مریم بفتح الروحاء حاجاً أو مقتمراً أو يثنينهما (مسلم شریف ج ۱ ص ۴۰۸ باب جواز التمعن في الحج و القرآن)“ (صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فِي روحَاتِ حجٍّ يَا عَمْرَه يَا دُونُوْنَ كَأَحْرَامٍ بَانِدَحِيْسَ كَيْ.)“

اس حدیث میں صحیح ابن مریم علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ حج کریں گے نقیٰ مسح (مرزا) نے تمام عمر حج نہیں کیا۔

پیشیسوں دلیل

”عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ والذى نفسى بيذهليوش肯 ان ينزل فيكم ابن مریم حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها (بخاری ج ۱ ص ۴۹ باب نزول عیسیٰ ابن مریم و مسلم ج ۱ ص ۸۷، ۸۸ باب نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام حاکماً بشرعیۃ نبینا)“ (حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ تم بے اللہ پاک کی بہت جلد ابن مریم منصف حاکم ہو کر تم میں اتریں گے۔ پھر وہ عیسائیت کی صلیب کو توڑ دیں گے اور خزر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو موقوف کریں گے اور مال بکثرت لوگوں کو دیں گے۔ یہاں تک کہ کوئی اسے قول نہیں کرے گا۔ لوگ ایسے مستغفی اور عابد ہوں گے کہ ایک سجدہ ان کو ساری دنیا کے مال و متناء سے اچھا معلوم ہو گا۔)

یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحاح میں روایت کی ہے۔ اس میں ابن مریم علیہ السلام کے جو نشان بیان کئے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک نشان بھی مسح کا ذب (مرزا قادریانی) میں پایا نہیں جاتا۔

## چھتیسویں دلیل

”عن جابر قال قال رسول الله ﷺ ينزل عيسى ابن مريم فيقول اميرهم المهدى تعال هل بنا فيقول الاولان بعضكم على بعض امراء (الحاوى للفتنى ج ۲ ص ۴۴)“ حضرت جابر سے روایت ہے کہ مسیح اُن مريم نازل ہوں گے تو لوگوں کا امیر انہیں نماز پڑھانے کے لئے کہے گا۔ پس وہ انکار کریں گے اور فرمائیں گے کہ تم میں سے بعض بعض کے امام ہیں۔“

اس حدیث سے ثابت ہے کہ امامکم منکم اور امیرهم سے مراد امام مهدی علیہ الرضوان ہیں اور امام مهدی کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔

## سینتیسویں دلیل

”عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ يوشك من عاش منكم ان يلقى عيسى ابن مريم اماماً مهدياً حكماً عدلاً (مسند امام احمد ج ۲ ص ۱۱)“ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ عیسیٰ ابن مريم سے ملاقات کرے گا۔ جو امام ہو گا ہدایت یافتہ منصف اور عادل ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ کیونکہ باتفاق محمد شیر آپ اس وقت تک زندہ تھے۔

## اڑتیسویں دلیل

”عن ابى هريرة مرفوعاً ليهبطن ابن مريم حكماً عدلاً (درمنثور ج ۲ ص ۴۵، زیراً مت وان من أهل الكتاب الـ ليؤمن به، مستدرك للحاكم ج ۳ ص ۴۹، حديث نمبر ۴۲۱۸، باب هبوط عيسى قتل عليه السلام وقتل الدجال)،“ یعنی نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ابن مريم حکم اور عدل ہو کر اترے گا۔ اس جگہ ہبوط کا الفاظ ہے۔ نزول کا الفاظ نہیں۔ اس میں مرازیوں کی کوئی تاویل نہیں چلتی۔ درجہ یہ ثابت کریں کہ ہبوط بمعنے والا درجہ ہے۔

## انتالیسویں دلیل

مرزا قادریانی نے اپنی تصانیف (سرمه چشم آریہ ص ۲۹۳، ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۹۲، خزانہ ج ۲ ص ۲۷، ۲۳۳، ۲۳۹، ۲۳۲، کشف الغطاء ص ۲۶، حاشیہ، خزانہ ج ۱۳ ص ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، خزانہ ج ۱۵ ص ایضاً، تریاق القلوب ص ۵۰، خزانہ ج ۱۵ ص ۲۲۸، چشمہ تکی ص ۳، خزانہ ج ۲۰ ص ۳۳۹) پر انجلی

برنباں کی تصدیق کی۔ ہے اور اس کے حوالے دیئے ہیں۔ مرزا قادیانی کی اس مصدقہ انجل شریف کے فصل ۲۱۵ میں فتنہ صلیبی کا حال اس طرح درج کیا ہے:

”اور جگہ سپاہی یہودا کے ساتھ اس جگہ کے نزدیک پہنچ جس جگہ یسوع تھا۔ یسوع نے ایک بھاری جماعت کا نزدیک آنا سن۔ تب اس لئے وہ ذر کر گھر چلا گیا اور گیاروں شاگرد سور ہے تھے۔ پس جبکہ اللہ نے اپنے بنہ کو خطرہ میں دیکھا، اپنے سفیروں، جبراٹل اور میخائیل، رفائل اور اوائل کو حکم دیا کہ یسوع کو دنیا سے لے لیوں۔ تب پاک فرشتے آئے اور یسوع کو دکن کی طرف دکھائی دینے والی کھڑکی سے لے لیا۔ پس وہ اس کو اٹھا لے گئے اور تیرے آسمان میں ان فرشتوں کی صحبت میں رکھ دیا جو کہ اب تک اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے۔“

نیز اس انجل کے فصل نمبر ۲۱۶ و ۲۱۷ میں ہے۔ یہودا الخریوطی کا مسیح علیہ السلام کا ہم شکل بن جانے اور پھانسی دیئے جانے کا ذکر ہے۔

چالیسویں دلیل

اسلامی مناظر: ”عن عبد الله ابن مسعود قال لما كان ليلة اسرى  
برسول الله ﷺ لقي ابراهيم و موسى و عيسى فتبذاكروا الساعة فبدؤا  
باب ابراهيم فساء لوه عنها فلم يكن عنده منها علم ثم سئالوا موسى فلم يكن  
عنده منها علم فردو الحديث الى عيسى ابن مريم فقال قد عهد الى فيما دون  
وجبتها فاما وجبتها فلا يعلمها الا الله فذكر خروج الدجال قال فانزل فاقتله  
(ابن ماجہ ص ۲۹۹ باب فتنۃ الدجال و خروج عیسیٰ بن مريم)“

﴿حضرت عبد الله ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ شبِ معراج کو نبی کریم ﷺ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ قیامت کا تذکرہ ہوا۔ حضرت ابراہیمؓ نے اعلیٰ ظاہر کی تب حضرت موسیٰ سے دریافت کیا گیا۔ انہوں نے بھی لا علیٰ ظاہر کی۔ پھر بات حضرت عیسیٰ ابن مريم پر آئی۔ انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے ظہور کا صحیح علم اللہ کو ہی ہے۔ پھر دجال کے خروج کا ذکر کیا اور کہا کہ میں اتر کر اسے قتل کروں گا۔﴾

اس حدیث میں اس کوسل یا مینگ کا ذکر کیا گیا ہے جو شبِ معراج کو چار اولوالعزم انبیاء ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام و محمد ﷺ میں ہوئی۔ اس آیاتی چار کوسل کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں زمین پر اتر کر دجال کو قتل کریں گے جس مسیح کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ وہی آخری زمانہ میں قاتل دجال ہے۔ اب اگر

مرزاںی ثابت کر دیں کہ اس وقت مرزا قادیانی آسمان پر موجود تھے تو ہم قائل ہو جائیں گے۔ درستہ اس حدیث سے وزروش کی طرح آسمان پر مسح این مریم علیہ السلام کی زندگی اور آخری زمانہ میں زمین پر نزول ثابت ہے۔

مرزاںی مناظر: یہ ابن مسعود کا قول ہے۔ حدیث نہیں ہے۔ ابن مسعود نے ہرگز نہیں کہا کہ میں یہ ذکر رسول اللہ ﷺ سے سناتے ہیں۔ پس یہ حدیث قابل جست نہیں۔

اسلامی مناظر: یہ حدیث مرفوع اور صحیح ہے۔ صحابی نے واقعہ معراج کا ذکر کیا ہے۔ معراج میں وہ ہمراہ نہ تھا۔ یقیناً اس نے جو کچھ بھی نبی کریم ﷺ سے سناتے ہیں بیان کیا ہو گا۔ مگر آپ کاشک مٹانے کے لئے (مندابام احمد حفص ۳۷۵) سے یہ حدیث پیش کی جاتی ہے۔ مندابام احمد بن حنبل میں یہ حدیث اس طرح درج ہے: ”عن ابن مسعود عن رسول الله ﷺ قال قال يحيى عبد الله ابن مسعود نبى كرم ﷺ سے سن۔

مرزاںی مناظر: (محمد سلیم بمقام چک نمبر ۳۵) یہ حدیث عبد اللہ ابن مسعود کا بکواس ہے۔ وہ غیر معتبر راوی ہے۔ ہم اس کی روایت کو نہیں مانتے۔ (معاذ اللہ)

نوٹ: حاضرین کی طرف سے چیم لعنت و ملامت پر محمد سلیم نے یہ الفاظ واپس لئے۔

### ضروری گزارش

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے صد ہالاکل ہیں جن میں سے ان چالیس کا انتخاب درج کیا گیا ہے۔ ان میں سے حسب ذیل ہالاکل مناظروں میں پیش ہوئے:

- ۱..... بھیرہ سلانووالی چک نمبر ۳ جنوبی میں ہالاکل نمبر: ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱۰
- ۲..... بمقام ہمیو لک برہماں ہالاکل نمبر: ۲۱، ۲۰، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱۵، ۱۳
- ۳..... لکھانووالی و میعاوی میں ہالاکل نمبر: ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱۵، ۱۳
- ۴..... باقی ہالاکل از الشبهات کے لئے زائد درج کئے گئے ہیں۔ اگرچہ یہ ہالاکل کسی مناظرہ میں پیش نہیں ہو سکے۔ مگر ان سے حیات مسح علیہ السلام کے اثبات میں مدد ملتی ہے۔ مناظرہ کے بعد وارثگ وقت میں زیادہ ہالاکل پیش نہیں ہو سکے۔ مثلاً ہالاکل نمبر: ۲۸، ۲۷، ۲۶

..... ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۰، ۲۹